

# جدید فقہی مباحث

## جدید تجارتی شکلیں

ترتیب

مولانا مجاهد الاسلام قاسمی مدظلہ

جلد ۱۵

بیان

ادارة القرآن والعلوم الإسلامية

گوشن اقبال کراچی فون 34965877

جملہ حقوق محفوظ ہیں

**Islamic Fiqh Academy (India)**

**مجمع الفقہ الاسلامی (الھنڈ)**

اجازت حاصلہ مطبوعات اسلامی فتاویٰ کی

محترم فیض اشرف نور نعیم اشرف نور سلمہم اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

دعاۓ عافیت دارین اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دینی و علمی خدمات کو قبول فرمائے اور دینی و دنیاوی ترقیات سے نوازیں، آمین۔

اسلامی فتاویٰ کی جملہ مطبوعات کی پاکستان میں اشاعت و طباعت و تقسیم کے لیے آپ کے ادارے "ادارۃ القرآن و العلوم

الاسلامیہ" کو اجازت دی جاتی ہے، اور پاکستان میں یعنی صرف آپ کے ادارے کو حاصل رہے گا۔ تمام پر سان احوال کو میر اسلام

پیشوادیں۔

صدر اسلامی فتاویٰ کی

فیض اشرف نور

باہتمام

ادارۃ القرآن گشناں اقبال

ماشر

کراچی، فون: 021-34965877

اشاعت

۲۰۰۹ء

ڈسٹری بیوٹرز

☆ مکتبۃ القرآن، بنوری ٹاؤن کراچی 021-34856701

مرکز القرآن اردو بازار کراچی 021-32624608

ملنے کے پتے

☆ ادارۂ اشاعت اردو بازار کراچی 021-32631861

☆ بیت العلوم تابصرہ ذی الرانی (ناڑی) 021-32630744

☆ مکتبہ رحمانیہ ایہود 021-35032020

☆ مکتبہ شعبہ یہودیہ کوئٹہ 021-35031565

☆ مکتبہ عارفۃ القرآن دار العلوم 6-6 کوئٹہ 021-2668657

☆ ادارۂ اشاعت اردو بازار کراچی 042-37353255


☆ بیت العلوم تابصرہ ذی الرانی (ناڑی) 042-37352483

☆ مکتبہ رحمانیہ ایہود 042-37334228

☆ مکتبہ شعبہ یہودیہ کوئٹہ 021-35031565

☆ مکتبہ عارفۃ القرآن دار العلوم 6-6 کوئٹہ 021-2668657

جی ۱۸، ڈائیکن ۳، احمدیہ، ۱/۸-H اسلام آباد



## چند تاثرات برائے اسلامی فقہ اکیڈمی

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسني ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
صدر آل انڈیا مسلم پرنل لا بورڈ

”اسلامک فقہ اکیڈمی ہند،“ ایک ایسا ادارہ اور تنظیم ہے جس پر ہندوستانی مسلمانوں ..... بالخصوص علماء اور دینی غیرت و فکر رکھنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو فخر اور فخر سے زیادہ خدا کا شکر کرنے کا حق حاصل ہے، یہ ایک خالص تعمیری و فکری، علمی اور فقہی تنظیم اور اجتماعیت ہے جس میں ملک کے ممتاز، صحیح العقیدہ و صحیح الفکر اور وسیع العلم علماء اور کارکن شامل ہیں۔“

## مفتي اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثمانی مدظلہ العالی

صدردار العلوم کراچی

”مجھے بے انتہا سرت بھی ہے اور کسی قدر حسرت بھی، سرت اس بات کی کہ ہندوستان کے علماء کرام نے وہ عظیم الشان کام شروع کیا ہے جس کی پورے عالم کو اور اقلیت والے ملکوں کو شدید ضرورت ہے۔ اور حسرت یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے کے باوجود منظم اور بڑے پیمانہ پر یہ کام شروع نہیں کر سکے..... فقہ اکیڈمی نے بڑا ہم قدم اٹھایا ہے، مدت سے اس کا انتظار تھا،“

## چند تاثرات

### شیخ الاسلام جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

نائب رئیس مجمع الفقه الاسلامی جدہ

مولانا مجاہد الاسلام قائدی دامت برکاتہم سے بیراغا سبب انسان تعارف ایک طویل مدت سے ہے۔ لیکن میں ان کو ایک فقیر ایک عالم کی حیثیت سے جانتا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک شخصی جو ہر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بھی وہیعت کر رکھا ہے۔ آج اس محفل میں شرکت کرنے کے بعد ہندوستان کے ملائے اور علم فضل کے پیغمبر حضرات سے ملاقات کر کے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس آئینہ کی کو قائم کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اس کارنامے کو قبول فرمائے اور اس کے اغراض و مقاصد کو اپنی رحاء کے مطابق پورا کرنے کی توثیق مطاقرما ہے۔

اس موقع پر اس آئینہ کی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس آئینہ کی قائم جناب نبی کریم ﷺ کے ایک ارشاد کی قابل ہے۔ وہ ارشاد میں جمیں طبرانی میں ایک روایت ہے جسے خلاصہ شیعی نے مجمع الزوادری میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ!

”اذا جاءَ فَا اهْرَلِيْسْ فِيهِ اهْرُوْلَانِيْ فِيمَا دَأْتَ اهْرُنَافِيْهِ“

یا رسول اللہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال آجائے، ایسا قصیر سامنے آجائے جس کے پارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو تو اس صورت حال میں آپ ﷺ کی کسی بھی کس بات کا حکم دیتے ہیں ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہئے۔ حضرت نبی کریم صرور عالم نے ارشاد فرمایا:

”شَوَّرُوا الْفَقِهَاءِ الْعَابِدِينَ وَلَا تَمْضِوا فِيهِ بُوَايِ خَاصِّ“

کہ ایسے موقع پر فقیہاء عابدین سے مشورہ کرو، اور اس میں انفرادی رائے کو نافذ نہ کرو، بعض انفرادی فتویٰ کو بعض انفرادی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنے کی بجائے فقیہاء عابدین سے مشورہ کرو، اور اس مشورہ کے نتیجے میں جس مقام پر پہنچو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم صحبو، یہ ہے وہ ارشاد جس کے ذریعہ نبی کریم صرور عالم ﷺ نے قیام قیامت تک پیدا ہونے والے تمام نئے سائل کا حل ہمارے لئے تجویز فرمایا اور وہ یہ کہ آخری وقت میں جب کہ اجتماع مطلق کا تصور تقریباً متفق ہو گیا ہے اس دور میں نئے سائل کو حل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ فقیہاء عابدین کو جمع کیا ہے۔ مگر اس میں نبی کریم ﷺ نے دو صفتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کو جمع کیا جائے وہ تقدیمی اللہ ہی رکھتے والے ہوں۔ دوسری کی وجہ سے مسجد ﷺ نے دو صفتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جن کو جمع کیا جائے وہ تقدیمی اللہ ہی رکھتے والے ہوں۔ دوسری کی وجہ سے مسجد ﷺ نے دو صفتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ جن کو جمع کیا جائے وہ فقیہاء عابدین کو کہ وہ فقیہاء بعض فلسفی حکم کے نہ ہوں، جو نظریاتی طور پر فقیر ہوں، نظریاتی طور پر اسلام کے احکام کو جانتے ہوں، جو بعض علم رکھتے ہوں، لیکن اس علم پر خود مل پچانے ہوں۔ اس علم کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہے ہوں، اور اس علم کو اپنی زندگی کا مستحبہ متصوہ ہے ہیا اسے مشورہ کرنے کا کوئی حاصل نہیں، اس لئے کہ دوسری صفت ایک فلسفی اور فلکشہ نہیں کیا کہ شخص بعض فلسفہ کے خود پر اس کو اپنائے، اس کے حکم بیان کر دے اور پھر بھی اس کا ماہر کہلاتے۔ بلکہ یہ ایک مثل ہے۔ ایک پیغام ہے۔ ایک دعوت ہے۔ جب تک اس پر عمل صحیح طور پر نہیں ہوگا، اس وقت تک دن کی صحیح بحاجت حاصل نہیں ہو سکتی۔


# جدید تجارتی شکلیں

## فهرست مقالات

۱۔	افتتاحیہ	قاضی مجاهد الاسلام قاسمی	۷
۲۔	سوالنامہ	مفتی محمد فہیم اختر ندوی	۹
۳۔	تئنجیص	مفتی محمد فہیم اختر ندوی	۱۱
۴۔	مقالات بابت جدید تجارتی شکلیں :		۲۱
۵۔	۱۔ مولانا بربان الدین سنبھلی	۲۲	
۶۔	۲۔ مولانا زیر احمد قاسمی	۲۵	
۷۔	۳۔ مولانا عبد اللہ اسعدی	۲۹	
۸۔	۴۔ مولانا محمد رضوان القاسمی	۳۶	
۹۔	۵۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	۴۰	
۱۰۔	۶۔ مولانا محبوب علی وجیہی	۵۱	
۱۱۔	۷۔ مفتی جنید عالم ندوی قاسمی	۵۳	
۱۲۔	۸۔ مولانا حبیح الدین بڑودوی	۶۵	
۱۳۔	۹۔ مولانا محمد حنفی	۷۳	
۱۴۔	۱۰۔ مولانا شمس پیرزادہ	۹۱	
۱۵۔	۱۱۔ مولانا اختر امام عادل	۹۶	
۱۶۔	۱۲۔ مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی	۱۰۵	
۱۷۔	۱۳۔ مفتی انور علی عظیمی	۱۱۱	
۱۸۔	۱۴۔ مولانا خورشید احمد عظیمی	۱۱۶	
۱۹۔	۱۵۔ مولانا نسیم احمد قاسمی	۱۲۳	
۲۰۔	۱۶۔ مولانا محمد زید مظاہر ندوی	۱۳۶	
۲۱۔	۱۷۔ مفتی جسیل احمد نذری	۱۳۸	

۱۸- مولانا مجیب الغفار سعد عظیمی ..... ۱۵۶
۱۹- مولانا ظفر عالم ندوی ..... ۱۶۵
۲۰- مولانا ارشد فاروقی قاسمی ..... ۱۷۱
۲۱- مفتی شبیر احمد مراد آبادی ..... ۱۷۳
۲۲- مولانا ابو بکر قاسمی در بھنگ ..... ۱۸۲
۲۳- مولانا عبداللہ منظہری ..... ۲۰۱
۲۴- مولانا عبداللہ جو لم ..... ۲۱۰
۲۵- مفتی اسماعیل بھر کو دروی ..... ۲۱۷
۲۶- مفتی شکیل احمد سینتا پوری ..... ۲۲۰
۲۷- مولانا اشتیاق احمد عظیمی ..... ۲۲۳
۲۸- مفتی عبدالجلیل قاسمی ..... ۲۳۲
۲۹- مولانا عزیز اختر قاسمی ..... ۲۳۹
۳۰- مفتی عبد الرحیم قاسمی ..... ۲۵۵
۳۱- مولانا احمد دیلوی ..... ۲۵۷
۳۲- مولانا ابو سفیان مفتاحی ..... ۲۶۳
۳۳- ڈاکٹر عبدالعزیم اصلاحی ..... ۲۷۰
۳۴- مولانا قاری ظفر الاسلام عظیمی ..... ۲۷۱
۳۵- مولانا سلطان احمد اصلاحی ..... ۲۸۳
۳۶- مولانا عبد القوم پالپوری ..... ۲۸۲
۳۷- مولانا ابو الحسن علی ..... ۲۹۰
۳۸- مولانا عبد الرحمن پالپوری ..... ۲۹۷
۳۹- مولانا ارشاد قاسمی ..... ۳۰۰
۴۰- مولانا عبد الرشید قاسمی ..... ۳۱۵
۴۱- مولانا شناہ البھدی قاسمی ..... ۳۲۷
۴۲- مولانا احمد حسن ..... ۳۲۰
۴۳- مولانا وحید الدین ..... ۳۲۲
۴۴- مولانا ابراہیم گنجیا ..... ۳۲۳

۳۲۷ .....	۳۵- مولانا منظور احمد قاسمی
۳۵۱ .....	۳۶- مولانا عبدالطفیف
۳۵۳ .....	۳۷- مولانا ابو جندل قاسمی
۳۶۳ .....	۳۸- مولانا ابراہیم بن محمد بڑودوی
۳۶۵ .....	۳۹- مفتی عزیز الرحمن بجنوری
۳۶۷ .....	۴۰- مولانا اخلاق الرحمن قاسمی
۳۷۳ .....	۴۱- مولانا اقبال قاسمی
۳۸۵ .....	۴۲- مولانا تنور احمد قاسمی
۳۹۰ .....	۴۳- مولانا خلیل احمد قاسمی
۳۹۲ .....	۴۴- مولانا اختر قاسمی
۳۹۵ .....	۴۵- مولانا احمد نادر القاسمی
۴۰۷ .....	۴۶- مولانا محمد ارشد قاسمی
۴۱۷ .....	۴۷- مولانا محمد شاہد قاسمی
۴۲۳ .....	تباویز باہت جدید تجارتی شکلیں





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ابتداء سیہ

تجارت، لین دین اور باہمی معاملہ کی مختلف صورتیں رائج رہی ہیں؛ بہت سے عقود اور معاملات بیادی طور پر قدیم زمانہ میں بھی رائج تھے اور عہدِ جدید میں ان کی ترقی یا فتوح صورتیں رائج ہو گئیں ہیں، کہیں جو پہلے مطلق تھا ب مقتدیے ہو گیا ہے اور کچھ جو پہلے مقتدی تھا ب مطلق ہو گیا ہے، آج کے دور میں زیادہ فائدہ کی طلب مقصود ہوتی ہے، معاملات میں عدل و قسط کی رعایت کم سے کم یا معدوم ہے، اور غر اور دھوکہ عام ہے، شذہنوں میں خدا کا تصور ہے نہ آخرت کی جواب وہی کی فکر، اس لئے تجارت کے رائج طریقوں میں صرف مادی اور لفظ مطلوب رہ گیا ہے، ایسے نازک موقع پر ایک مسلمان کے لئے بہت سی دشواریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تجارت کی دنیا میں جلاوطن نہیں ہو سکتا اور نہ مجرمات اور ظلم کا مرکب ہو سکتا ہے، اس لئے وہ صحیح احکام شرعی کو جاننے کے لئے بے چین ہے۔

علماء و فقهاء اسلام نے عبادات میں اصل حرمت اور حضر کو قرار دیا ہے، اور معاملات میں حل و باحت کو، یعنی معاملہ اور عقد کی ہر وہ صورت جائز ہوگی جو نصوص میں کتاب و حدت اور قواعد شرع سے متعارض نہ ہو، عام طور پر ہمارے فقهاء نے معاملات میں سہولت کو پیش نظر رکھا ہے، اور مسائل اجتہاد میں دفع حرج اور دفع ضرر کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امام مجتہد کے قول سے دوسرے امام مجتہد کے قول کی طرف رجوع کو جائز قرار دیا ہے۔

اس طرح کے تجارتی مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا خریدی ہوئی شی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کیا جاسکتا ہے یا نہیں اور اس کا منافع حاصل کرنا جائز ہو گا یا نہیں؟ آج قبضہ کے عنوان سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مثلاً صرف کے وہ تمام عقود جن میں تقاضہ بد لین کا مجلس واحد میں ہونا ضروری ہے، کیا چیک، ڈرافٹ، کریڈٹ کارڈ یا دوسری سندات مالی کو قبضہ تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی کو فوری قبضہ تسلیم کیا جائے یا نہیں؟ میں الاقوامی تجارت میں جو آج زیادہ تر فون، فیکس اور ای میل کے ذریعہ انجام پار ہے ہیں، کروڑ ہا کروڑ روپے کے معاملات اور لین دین طے ہو جاتے ہیں جب کہ ہر دو فریق ہزارہا میل کی دوڑی پر ہے، اسی طرح ایک ملک کا تاجر دوسرے ملک میں LC (سند اعتماد) کھلوا کر روا بار کرتا ہے، دوسرے ملک کا تاجر مال کا شپمنٹ (Shipment) کرتا ہے اور قبل اس کے کہ مال خریدار تک پہنچے خریدار محسوس کرتے ہوئے کہ بازار میں

تیزی آچکی ہے اگر میں ابھی اس مال کو فروخت کروں تو مجھے زیادہ لفڑی ملے گا، اس لئے وہ اس مال کو اپنے قبضہ میں آنے سے پہلے ہی جبکہ مال راستہ میں ہے فروخت کروتا ہے، تجارت کی یہ صورتیں کئی سوالات کھڑا کرتی ہیں۔

- ۱- اتحاد مجلس کی صورتیں کیا ہیں؟ نیکس اور ای میل کی صورت میں باائع اور خریدار کی مجلس متحد قرار پائے گی اور وہ ایجاد و قبول جس میں اتحاد مجلس ضروری ہے اس صورت میں اس ضروری شرط کے پورا ہونے کی کیا صورت ہے؟
- ۲- اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ قبضہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور اشیا، کی نوعیت کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیا قبضہ کی نوعیت بھی مختلف ہو جائے گی، چیک یا ذرا فافت پر قبضہ اصل نقد پر قبضہ تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟
- ۳- اس مسئلہ میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ شی جو خریداری گئی ہے درمیان میں صاف ہو جائے تو اصل باائع پر اس کی صفائح ہو گی یا درمیان والے اس خریدار پر صفائح ہو گی جس نے اس کو تیری پارٹی کے ہاتھ فروخت کیا ہے، یا اس تیری پارٹی کو اس نقصان کو بھگتنا پڑے گا، پس بیع مالم یقین کے ذمیل میں رئی مالم یضمون کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایسا تو نہیں کہ کوئی شخص ایسی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے جس کے صاف ہو جانے کی صورت میں اس کے خسارہ اور نقصان کو اسے نہ بھگتنا پڑے۔

مشہور قاعدة فقهیہ "الخرج بالضمان" اور "الغنم بالغرم" کا تناقض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے صاف ہو جانے کی صورت میں اس کے نقصان کا ذمہ دار نہیں تو اس سے حاصل ہونے والے فائدہ کا بھی ذمہ دار نہیں۔ یا اور اس طرح کے کئی وہ سوالات ہیں جن کا حل عبد حاضر کے بہت سے تجارتی مسائل، مشکلات اور دشواریوں کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ای لئے مجمع الفقه الاسلامی الہند نے اس اصولی مسئلہ کو تو یہ فقہی سمینار میں موضوع بحث بنایا کہ بیع قبل القبض کا کیا حکم ہے، اور اس کے ذمیل میں جو دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا حل ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ علماء نے اس پر بہت باریک بینی کے ساتھ اپنی بحثیں تیار کیں اور شجیدہ مذاکرہ کے بعد تجویز طے کیں جن کی حیثیت اصولی ہے، اور اس طرح کے تجارتی احکام و مسائل کو حل کرنے میں مفید و معادن ہیں۔ آج جب ہم اس مباحث کے مجموعہ کو شائع کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے بہت زیادہ شکر انذاری کا جذبہ اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اس کی توفیق عطا فرمائی، جو لوگ علمی کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی بحث علمی اور مباحثات و مذاکرات کی تصحیح و ترتیب کتنا مشکل کام ہے۔ میں اکیڈمی میں کام کرنے والے اپنے رفقاء کے لئے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے بہت خاموشی اور شجیدہ محنت کے ذریعہ اس اہم کام کو انجام دیا۔ جزاہم اللہ أحسن الجزاء، و تقبل اللہ منهم ومن العلماء الباحثين۔

قاشی جبارہ الاسلام قاسمی

سکریٹری جنرل

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنے کی ممانعت کے بارے میں رسول ﷺ سے مختلف احادیث مردی ہیں، ان میں سے بعض مطلق ہیں، بعض مقید۔ احادیث و روایات کے اختلاف کی بنیاد پر بعث قبل القبض کے مختلف مسائل میں فقہاء مجتہدین میں اختلاف بھی ہوا جن کی تفصیل کتب فقہ اور شروح حدیث میں موجود ہے، لیکن جمہور فقہاء فی الجملہ بعث قبل القبض کے ناجائز ہونے پر متفق ہیں، اور ہر دو رحاضر میں خرید و فروخت کی ایسی بہت سی شکلیں مروج ہیں جن کے بارے میں بعث قبل القبض کے دائرے میں شامل ہونے کا شہر پیدا ہوتا ہے، اس لئے بعث قبل القبض کی حقیقت، احکام اور اس سے وابستہ جدید مسائل و معاملات کے بارے میں درج ذیل سوالات پیش نہیں کیے گئے:

- ۱۔ شرع اسلامی کے اعتبار سے بعث قبل القبض جائز ہے یا ناجائز؟ اور ناجائز ہے تو اس کا شمار بائن بال میں ہے یا بائن فاسد میں یا بائن مکروہ میں؟
- ۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت کیا ہے، کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین کر دی ہے یا اسے لوگوں کے عرف و عادت پر چھوڑ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استعمال اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے۔
- ۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق ہوگا یا دونوں میں قبضہ کی ایک ہی صورت ہوگی؟
- ۴۔ بعث قبل القبض کی نبی سے متعلق احادیث معلول بالعلة ہیں یا نہیں، اگر معلول بالعلة ہیں تو علت نبی کیا ہے؟

۵۔ بعث قبل القبض کی ممانعت عام ہے یا اس میں کچھ استثناءات اور تخصیصات بھی ہیں، اس بابت مختلف ائمہ کی آراء اور آنکے وجود و دلائل تحریر کئے جائیں۔

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار نمبر (۲) کو روانہ کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار نمبر (۲) کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر درمیان میں مال ہلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آتی ہے نہ خریدار نمبر (۲) پر، بلکہ یہ اسی شخص (خریدار نمبر (۱)) کا نقصان قرار پاتا ہے، اس صورت معاملہ میں اگر فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص

کا اس مال پر حسی قبضہ نہیں ہوا لیکن وہ مال خریدار نمبر (۲) تک پہنچنے سے پہلے اس کے ضمان میں رہا، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے "ربح مالم یضمون" (ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) حاصل کیا، بلکہ اس نے مال مضمون پر نفع حاصل کیا ہے، سوال یہ ہے کہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے کی طرف سے قبضہ حسی نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسرا شخص کے ہاتھ اس فروختی کو ناجائز قرار دیا جائے گا یا ضمان کو قبضہ حسی کا قائم مقام سمجھ کر اس خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا۔

وہ صورت جس میں میں الاقوامی تجارت میں شینگ (جہاز پر مال چڑھانے) کے بعد اصل باائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دیتا ہے اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا بلکہ تیرا خریدار ضامن ہوتا ہے، کیا یہ صورت شرعاً جائز ہوگی؟



روايت ہے کہ تجا  
دیا گیا ہے، اسی  
کے عمل دخل کو لوگوا

القبض هو ال

ك معنى "تمكّن" ،

برىء بالعرف  
إلى أشياء ملحوظة

حمل على العر

عاء، لهذا اس كو

جوع فيه إلى ا  
طرف رجوع كرنا

ورفوعي مسائل كا  
مل كوقفه تصور كي  
نا يه سب قبضه هي  
ف كے نزدیک  
غير منقولہ میں تخلی  
اس بیان ہوئی ہر

# تلخیص مقالات

مفتی محمد فہیم اختر ندوی

مفہوم میں داخل قبضہ حقیقی اور قبضہ حکمی کے وسیع دائرہ میں ہی  
دور کے عرف و رواج اور ہر شیء کے حسب حال قبضہ کی نوعیت  
۳۔ ممانعت کی علت :

تمام مقالہ نگار حضرات اس بات پر متفق ہیں  
یہ، چند مقالات میں امام مالک کی صرف ایک روایت یہ  
متعدد حضرات نے مالک اربعہ میں اس ممان  
کا ذکر کیا ہے جو حسب ذیل ہے:

☆ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس کی علت  
جواب مذکور ہے "الا تراهم يتبايعون  
☆ حضرت ابو هریرہؓ نے بھی اسے ربانی قرار دیا  
فقال ما فعلت فقال أبو هريرة ، أحل  
بيع الطعام حتى يستوفى۔ (صحیح مسلم)  
☆ مالکی کے نزدیک علت ممانعت ربا و سود ہے  
گیا ہے (الفقه علی المذاہب الاربعۃ)۔  
☆ احتفاف کے نزدیک اس کی علت غرہ ہے، فتح  
اعتبار الہلاک۔

☆ شوافع اور حنابلہ نے بھی غرہ کو ہی ممانعت کی  
ابو حمّاق شیرازی رقمطراز ہیں:  
ولأن ملکه عليه غير مستقر . لأن  
حاجة فلم يجز .  
اور ابن قدامة لکھتے ہیں:  
ما يتوجه فيه غرر الانفس اخ بهلا  
من الضرر ، وما لا يتوجه فيه ذلك الغرر ، إن  
☆ بعض حضرات نے ایک مزید علت "رجح ما  
کا بھی ذکر کیا ہے۔

مولانا خورشید احمد عظیمی صاحب نے فتح  
علت بتایا ہے، اور مولانا عبداللہ اسعدی صاحب نے

بسم اللہ الرحمن الرحيم

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت۔

کے موضوع پر موصول ہونے والے ۵۲ مقالات

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کے بارے میں رسول  
احادیث مروی ہیں، بعض احادیث میں بعض مخصوص سامانوں کا نام لے کر قبضہ  
گیا ہے، جب کہ دیگر احادیث میں یہ حکم ممانعت کسی سامان کی صراحت کے با  
مجہدین کے درمیان قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مختلف سائل میں اختلا  
سوالات یہاں اٹھائے گئے تھے، مقالہ نگار حضرات علماء گرام نے ان پر تفصیل  
متعدد نکات کے تعلق سے ان کی آراء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چند نکات کو  
ان سوالات سے متعلق مقالہ نگار حضرات کے جوابات بالترتیب درج کئے جائے۔

### ۱۔ بیع قبل القبض کی حیثیت :

تقریباً تمام حضرات نے کتب فتنہ کی مختلف جزئیات کے حوالہ سے  
اسے فاسد بتایا ہے، بعض حضرات کا رجحان جواز کی جانب بھی ہے، چنانچہ:  
۱۔ جناب شمس پیرزادہ صاحب نے موجودہ کاروباری طریقوں میں  
اندیشہ ہونے کے برابر ہے اور یائع کی طرف سے ضمانت بھی ہے  
۲۔ مولانا مازیزیر قاسمی صاحب کا خیال ہے کہ فساد کا حکم محض قضاۓ ہے، لم  
صحت اور انداز و لزوم ہی کا فتویٰ دیانتہ دیا جانا چاہئے۔

۳۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا شکیل احمد سنتاپوری کی را  
فقہ بنیل کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔

### ۲۔ قبضہ کی حقیقت :

تمام مقالہ نگار حضرات کا خیال ہے کہ قرآن و سنت میں قبضہ کی کوئی  
احادیث میں قبضہ کی مختلف کیفیات کا ذکر ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر کی ایک روایہ

## ۵۔ ممانعت عام یا مخصوص :

بیع قبل القبض کی ممانعت کے سلسلہ میں جواہادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے الفاظ میں باہم فرق ہے اور اسی فرق کی بیانات پر فقہاء کی آراء میں اختلاف ہوا ہے، چنانچہ بعض فقہاء کے نزدیک یہ ممانعت تمام اشیاء میں عام ہے، جبکہ دیگر فقہاء نے حکم ممانعت کو مختلف اشیاء کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔

فقہاء کی آراء ذکر کرنے سے پہلے بعض وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں جن میں مختلف الفاظ میں قبضے سے خرید و فروخت کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ:

إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه (بخاري)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ:

من اشتري طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه (منداحمد)۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ ہیں:

من اشتري طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (مسلم)

حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ:

قلت يا رسول الله ، إنى اشتري بيوغا فما يحل لى منها وما يحرم علىي؟ قال: فإذا اشتريت فلا تبعه حتى تقبضه (منداحمد)۔

اور حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ:

إن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رجالهم (ابوداؤد)  
انہیں صحابہ کرامؓ سے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کچھ اور روایات بھی مروی ہیں، مذکورہ روایات میں کہیں قید کے ساتھ ممانعت اور کہیں علی الاطلاق ممانعت کے پیش نظر فقہاء مجتہدین کی آراء میں اختلاف ہوا ہے، فقہاء کی آراء ذیل میں درج کی جا رہی ہیں:

☆ حکم ممانعت عام ہے، کسی بھی سامان کو قبضے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یہ رائے حضرت امام شافعی، امام محمد بن حسن شیعیانی اور امام زفری ہے۔

لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا لا ياذن البائع ولا بغير إذنه لا قبل أداء الشمن ولا بعده (شرح المہذب)۔

ابن عقیل کی ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی ایک قول یہی ہے۔

ان حضرات نے بیاناتی طور پر حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زید بن ثابت کی ان روایات کو پیش نظر رکھا ہے، جن میں مطلق خریدی ہوئی اشیاء کو قبضے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، مسلم نے حضرت عبد اللہ بن

عباسؑ کی روایت میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے "وَاحْسِبْ كُلَّ شَيْءٍ مُّثُلًّا" یعنی میرا خیال ہے کہ دوسری اشیاء کا بھی یہی حکم ہے۔  
 یہ ممانعت صرف اشیاء خوردن و نوش کے ساتھ خاص ہے، دوسری اشیاء قبضہ سے پہلے فروخت کی جاسکتی ہیں،  
 یہ رائے حضرت امام احمد بن حنبل کی ہے۔

ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

**نقل عن أَحْمَدَ أَنَّ الْمَطْعُومَ لَا يَجُوزُ بَعْدَهُ قَبْضٌ سَوَاءٌ كَانَ مَكْلَلاً أَوْ مُوَزَّوْنَا أَوْ لَمْ  
 يَكُنْ (المَغْنِي).**

ان کا متدل حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ  
 کی وہ روایات ہیں جن میں صراحت ہے کہ یہ ممانعت خوردنی اشیاء کی باہت تھی۔

☆ مالکیہ کے نزدیک یہ ممانعت صرف خوردنی اشیاء جو ناپ کر، تول کر، یا گن کر خریدی گئی ہوں، کے ساتھ  
 مخصوص ہے، چنانچہ اگر خوردنی اشیاء بھی بلا تعمیں مقدار، مجموعہ (جزافا) خریدی گئی ہوں تو ان کو بھی قبضہ سے پہلے  
 فروخت کیا جاسکتا ہے۔

ابن قدامہ حنبلی امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں:

**فَبَانَهُ قَالَ: هَا بَيعُ مِنَ الطَّعَامِ مَكَابِلَةً أَوْ مَوازِنَةً لَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ قَبْضٌ، وَمَا بَيعَ مَجَازَةً أَوْ  
 بَيعُ مِنْ غَيْرِ الطَّعَامِ مَكَابِلَةً أَوْ مَوازِنَةً جَازَ بَعْدَهُ قَبْضٌ (المَغْنِي).**

مالکیہ کے پیش نظر وہی روایات ہیں جن میں ممانعت صرف طعام کے ساتھ مخصوص بیان ہوئی ہے، ناپ تول  
 کر خریدی ہوئی اشیاء ہی میں ممانعت مخصوص کرنے کی دلیل غالباً مسنداً حضرت عبد اللہ بن عمر کی وہ روایت ہے،  
 جس میں ناپ تول کر خریدی ہوئی اشیاء کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، مالکیہ کے نزدیک بلا کیل و  
 وزن خرید و فروخت کی صورت میں نفس عقد ہی سے ہبھ خریدار کے خاتم میں آجائی ہے اور تصرف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔  
 صالح عبد اسماعیل الابی لکھتے ہیں:

**بِخَلَافِ الْجَزَافِ وَهُوَ بَيعُ الشَّيْءِ بِلَا كِيلٍ وَلَا وزَنٍ وَلَا عَدْدٍ، فَإِنْ بَيعَهُ قَبْضٌ جَائزٌ  
 عَلَى الْمَشْهُودِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ بِالْعَقْدِ وَلَذَا لَوْ تَلفَ قَبْضُهُ كَانَ ضَمَانَهُ مِنَ الْمُشْتَرِيِّ (الثُّرُدَانِ).**

☆ احناف کے نزدیک حکم ممانعت صرف اشیاء منتقل کے ساتھ مخصوص ہے، جو اشیاء منتقل نہیں کی جاسکتی ہیں،  
 جیسے زمین و مکان وغیرہ، ان کی فروختگی قبضہ سے پہلے جائز ہے، یہ رائے امام ابو حیانہ اور امام ابو یوسف کی ہے۔

احناف کے پیش نظر گرچہ وہی روایات ہیں جن میں حکم ممانعت عام ہے، لیکن انہوں نے روایات کے  
 الفاظ کے بجائے مقصد پر زکاہ رکھی ہے کہ اصل مقصد غرر سے بچانا ہے، اموال غیر منتقولہ میں یہ اندیشہ نہیں کہ جو اگلی سے  
 پہلے وہ چیز ضائع ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ اگر اموال غیر منتقولہ میں بھی یہ اندیشہ پیدا ہو جائے، مثلاً زمین و مکان دریا  
 کے کنارے واقع ہوں اور سیلا بکی زد میں آجائے کا خطرہ ہو، یا صحرائی علاقہ میں ریت میں ڈھک جانے کا اندیشہ ہو تو

ایسی صورت میں مکان و زمین کو بھی قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں ہے۔

قبضہ سے پہلے زمین کی فروختگی کا جواز حضرت عثمانؓ سے عملًا ثابت بھی ہے۔

پس قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مسئلہ میں سب سے زیادہ تینگی حضرات شافع کے یہاں ہے اور اس کے برعکس سب سے زیادہ وسعت مالکیہ و خاتمه کے نزدیک ہے، احتجاف نے علمت کی بنا پر نص میں تخصیص کا راستہ اختیار کرتے ہوئے غیر منقول میں جواز اور منقولہ اشیاء میں عدم جواز کی رائے اپنائی ہے۔

☆ ابن حزم کے نزدیک یہ ممانعت صرف گندم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ طعام سے مراد ان کے نزدیک صرف گندم ہی ہے۔

☆ عثمان ابتدی سے مطلقاً جواز کی رائے منقول ہے، ابن حزم نے عطا کی بھی یہی رائے نقل کی ہے، لیکن یہ ایک قول شاذ و غیر معتربر ہے۔

هذا قول مردود بالسنة والحجۃ المجمعۃ علی الطعام (تمامہ فتنہ اہل بیت)۔

## ۶۔ فیکٹری سے خریداری کے بعد قبضہ سے پہلے فروختگی:

فیکٹری سے مال کی خریداری کے بعد اسے قبضہ میں لئے بغیر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے فیکٹری ہی سے اپنی صفائت پر مال تسلی کرائی جائے تو مال پر قبضہ حکی نہ پائے جانے کی وجہ سے اس فروختگی کو ناجائز قرار دیا جائے گا، یا صفائت کو قبضہ حکی کا قائم مقام سمجھتے ہوئے حکم جواز دیا جائے گا، اس بابت شرکاے گرامی کی آراء میں اختلاف ہے۔

بیشتر حضرات علماء کرام نے اس صورت معاملہ کو جائز قرار دیا ہے، مجاز یہ حضرات میں سے اکثریت کی رائے میں خریدار اول کے صفائت کو قبضہ حکی کا قائم مقام، باائع کو خریدار کا وکیل قرار دیتے ہوئے باائع کے تصرف کو خریدار کے لئے قبضہ حکمی اور صفائت کو قبضہ حکمی مان کر اس صورت معاملہ میں جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، یہ استدلال درج ذیل حضرات کا ہے:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱۔ جناب مولانا ناز بیہر احمد قادری | ۲۔ جناب مولانا اشتیاق احمد اعظمی  |
| ۳۔ جناب مفتی انور علی              | ۴۔ جناب مولانا شاہین جمالی        |
| ۵۔ جناب مفتی شکلیل احمد سیتاپوری   | ۶۔ جناب مولانا سمیع اللہ قادری    |
| ۷۔ جناب مولانا منظور عالم قادری    | ۸۔ جناب مولانا اختر امام عادل     |
| ۹۔ جناب مولانا احمد دیلوی          | ۱۰۔ جناب مولانا شمسا داہم ناوار   |
| ۱۱۔ جناب مولانا ایوب سبیلی         | ۱۲۔ جناب مولانا شاہد قادری        |
| ۱۳۔ جناب مولانا قمر الزماں ندوی    | ۱۴۔ جناب مولانا نور عالم قادری    |
| ۱۵۔ جناب مولانا مسعود احمد         | ۱۶۔ جناب مولانا خورشید احمد اعظمی |
| ۱۷۔ جناب مولانا شاہد احمد اعظمی    |                                   |

- ۱۹۔ جناب مولانا مجیب الغفار اسعد عظیمی  
 ۲۰۔ جناب مولانا ابو الحسن علی<sup>۲۰</sup>  
 ۲۱۔ جناب مولانا ابو بکر قاسی  
 ۲۲۔ جناب مولانا ظفر عالم ندوی<sup>۲۱</sup>  
 ۲۳۔ جناب مولانا عبد العظیم اصلاحی<sup>۲۲</sup>  
 ۲۴۔ جناب مولانا عبد الرحیم اصلحی<sup>۲۳</sup>  
 ۲۵۔ جناب مولانا عبد الرحیم اصلحی<sup>۲۴</sup>  
 ۲۶۔ جناب مولانا جمیل احمد ندیری<sup>۲۵</sup>  
 ۲۷۔ جناب مولانا ارشاد قاسی<sup>۲۶</sup>  
 ۲۸۔ جناب مولانا شہزاد اکرم<sup>۲۷</sup>  
 ۲۹۔ جناب مولانا اقبال احمد<sup>۲۸</sup>  
 ۳۰۔ جناب مولانا ابرار احمد خاں ندوی<sup>۲۹</sup>  
 ۳۱۔ جناب مولانا قمر عالم<sup>۳۰</sup>  
 ۳۲۔ جناب مولانا شہزاد اکرم<sup>۳۱</sup>

☆ درج ذیل حضرات نے اس مسئلہ میں ملک مالکی کو اختیار کرتے ہوئے فتویٰ جواز دینے کی رائے دی ہے:

- ۱۔ جناب مولانا اخلاق الرحمن قاسی<sup>۱</sup>  
 ۲۔ جناب مولانا عزیز رضا ختر قاسی<sup>۲</sup>  
 ۳۔ جناب مولانا عبد الرشید<sup>۳</sup>  
 ۴۔ جناب مولانا طاہر مظاہری<sup>۴</sup>

☆ درج ذیل علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر فیکٹری میں خریدار کا مال علاحدہ کر دیا جائے یا اس پر نشان وغیرہ لگا کر کسی طرح ممیز کر دیا جائے تاکہ تخلیہ کی کوئی صورت پائی جاسکے تو یہ صورت معاملہ درست ہو جائے گی:

- ۱۔ جناب مولانا نسیم احمد قاسی<sup>۱</sup>  
 ۲۔ جناب مولانا ابو جندل قاسی<sup>۲</sup>

☆ مولانا نعیم اختر قاسی کی رائے میں رسید پر قبضہ کے بعد فروختگی درست ہے۔

☆ دوسری رائے عدم جواز کی ہے، اس رائے کے قائلین کا استدلال ہے کہ ضمان کا وجود قبضہ پر موقوف ہوتا ہے، اس لئے قبضہ سے پہلے ضمان درست نہیں، نیز نقصان کا ضامن ہو جانا قبضہ کے تحقق کے لئے کافی نہیں ہے، لہذا چونکہ قبضہ حصی موجود نہیں، یہ صورت معاملہ ناجائز ہو گی۔

- ۱۔ جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی<sup>۱</sup>  
 ۲۔ جناب مولانا عبد الملطیف پالنپوری<sup>۲</sup>  
 ۳۔ جناب مولانا ابو سفیان مفتاحی<sup>۳</sup>  
 ۴۔ جناب مولانا عبد الرحمن پالنپوری<sup>۴</sup>  
 ۵۔ جناب مولانا محمد زید ندوی<sup>۵</sup>

☆ مولانا برہان الدین سنجھی صاحب کی رائے میں قبضہ سے پہلے فروختگی کی ممانعت کی وجہ صرف "ریح مالم یضم من" نہیں بلکہ انفصال خود کا احتمال، غرر، ملک غیر کی بیع بغیر اجازت مالک، بھی ہیں، لہذا ایک وجہ کے ارتقاء سے

حکم ممانعت ختم نہیں ہوگا۔

### ے۔ ایک سامان پر قبضہ سے پہلے متعدد خرید و فروخت:

میں الاقوامی تجارت میں جہاز پر مال چڑھانے کے بعد فروخت کنندہ کی ذمہ داری ختم ہو کر خریدار کی ضمانت میں مال آ جاتا ہے، اور مال جہاز پر سمندر میں ہوتے ہوئے پہلا خریدار دوسرا یہ شخص کے ہاتھ سے فروخت کر کے اپنی ضمانت سے فارغ ہو جاتا ہے، اس صورت مسئلہ کی بابت بھی مقالہ نگار علماء کرام کی آراء میں اختلاف ہوا ہے، کچھ حضرات نے جواز کی رائے دی ہے جبکہ بیشتر حضرات نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے پہلی خریداری اور دوسری خریداری کے احکام میں فرق بھی کیا ہے، یہ مختلف نقطہ ہائے نظر اور ان کے مت Dellات درج ذیل ہیں:

☆ عدم جواز کی رائے اپنانے والے علمائے کرام کے نزدیک یہ صورت مسئلہ قبضہ سے پہلے فروختگی اور فروخت کنندہ کی جانب سے عدم ضمانت کی وجہ سے ناجائز ہے۔

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ۱۔ جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی | ۲۔ جناب مولانا اخور شید احمد اعظمی |
| ۳۔ جناب مولانا ابو الحسن            | ۴۔ جناب مولانا برہان الدین سنیجلی  |
| ۵۔ جناب مولانا ابو سفیان مقنای      | ۶۔ جناب مولانا عبد القوم پالنپوری  |
| ۷۔ جناب مولانا احمد دیلوی           | ۸۔ جناب مولانا ابراہیم بن محمد     |
| ۹۔ جناب مولانا عبد الرشید           | ۱۰۔ جناب مولانا شمسداد احمد        |
| ۱۱۔ جناب مولانا قمر عالم            | ۱۲۔ جناب مولانا ابرار خاں ندوی     |
| ۱۳۔ جناب مولانا ظفر عالم ندوی       | ۱۴۔ جناب مولانا ارشاد قاسمی        |
| ۱۵۔ جناب مولانا شمشاد احمد          | ۱۶۔ جناب مولانا احمد اصلانی        |
| ۱۷۔ جناب مولانا نور قاسمی           | ۱۸۔ جناب مولانا عبد الرحمن         |
| ۱۹۔ جناب مولانا عبد الرحمن          | ۲۰۔ جناب مولانا عبد الرحیم         |
| ۲۱۔ جناب مولانا عبد الرحیم          | ۲۲۔ جناب مولانا عبد الرحیم         |
| ۲۳۔ جناب مولانا عبد الرحیم          | ۲۴۔ جناب مولانا عبد الرحیم         |
| ۲۵۔ جناب مولانا عبد الرحیم          | ۲۶۔ جناب مولانا عبد الرحیم         |

☆ دوسری رائے جواز کی ہے، اس رائے کے قائلین میں سے درج ذیل حضرات کے نزدیک خریدار اول، اسی طرح دوسرے خریدار کا قبضہ حکمی بھی پایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ضمانت بھی، اس لئے یہ صورت درست ہے۔

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ۱۔ جناب مولانا عبد الرحمن        | ۲۔ جناب مولانا عبد اللہ اسعدی  |
| ۳۔ جناب مولانا سلطان احمد اصلانی | ۴۔ جناب مولانا سعیج اللہ قاسمی |
| ۵۔ جناب مولانا نور قاسمی         |                                |

۸۔ جناب مولانا ظفر الاسلام

۷۔ جناب مولانا نعیم رشید قاسمی

۹۔ جناب مولانا شکلیل احمد سیتاپوری

مندرجہ ذیل حضرات کے نزدیک جہاز کا عملہ خریدار کے اجر کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اجر کا قبضہ مستاجر کا قبضہ ہوگا، اسی طرح جب دوسری خریداری عمل میں آتی ہے تو عملہ دوسرے خریدار کا اجر ہو جاتا ہے اور قبضہ حکمی دوسرے خریدار کو حاصل ہو جاتا ہے، اس بیان پر یہ صورت مسئلہ درست ہے۔

۱۔ جناب مولانا نعیم احمد قاسمی

۲۔ جناب مولانا ابو بکر قاسمی

۳۔ جناب مولانا عزیز رائز

۴۔ جناب مولانا ایوب سبیلی

درج ذیل حضرات نے موجودہ حالت میں مسلک مالکی پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ جواز دینے جانے کی رائے دی ہے:

۱۔ جناب مولانا اخلاق الرحمن قاسمی

۲۔ جناب مولانا شاہد قاسمی

۱۔ جناب مولانا محمد زید صاحب

۲۔ جناب مولانا اقبال قاسمی

۳۔ جناب مولانا مجبا بد الاسلام

ڈاکٹر عبدالعزیم اصلاحی صاحب اور مولانا نعیم اختر قاسمی نے بالترتیب دستاویز اور رسید پر قبضہ کے بعد اس صورت کو بکراہت جائز اور درست بتایا ہے۔

تمیری رائے ان علمائے کرام کی ہے جنہوں نے اس صورت مسئلہ میں پہلی خریداری کو تو درست قرار دیا ہے کہ جہاز پر مال چڑھانے سے خریدار اول کا قبضہ حکمی پایا گیا اور مال اس کی ضمانت میں بھی آگیا، لیکن اب جبکہ مال مندرجہ میں ہے خریدار اول اس مال کی حوالگی پر قادر نہیں ہے، نیز دوسرے خریدار تک مال کی وصولی تک وہ مال کی ضمانت بھی نہیں لے رہا ہے، اس لئے مال کی وصولیابی سے پہلے خریدار اول کے لئے اس کی فروختگی جائز نہیں ہوگی۔

۱۔ جناب مولانا اشتیاق احمد قاسمی

۲۔ جناب مولانا حنفی ملی

۱۔ جناب مولانا اشتیاق احمد قاسمی

۲۔ جناب مولانا شاہین جمالی

درج ذیل تین علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ چونکہ خریدار اول کا مال پر قبضہ حکمی پایا گیا، لہذا اور دوسرے شخص کے ہاتھ مال فروخت تو کر سکتا ہے، لیکن وصولی سے پہلے اگر مال ضائع ہو جائے تو اس کا ضمان خریدار اول ہی پر ہوگا، خریدار ثانی کا اس مال پر نہ تو قبضہ پایا گیا ہے اور نہ ہی خریدار اول کی جانب سے حمل و نقل یا تخلیہ وغیرہ کوئی عمل صادر ہوا ہے، لہذا اگر چہ زبانی معابده بھی ہو جائے اس مال کو خریدار ثانی کے ضمان میں داخل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

۱۔ جناب مولانا زیر احمد قاسمی

۲۔ جناب مولانا تنویر عالم قاسمی

۳۔ جناب مولانا منظور احمد قاسمی

## مقالات

# بابت جدید تجارتی شکلیں

## قبضہ سے پہلے بیع کی شرعی حیثیت

مولانا برہان الدین سنبلی

۱۔ یہ شکل ناجائز ہے اور یہ بیع فاسد ہوگی (جیسا کہ بدائع وغیرہ کی عبارتوں سے مستفاد ہوتا ہے، عبارتیں آگے آرہی ہیں)۔

۲۔ قبضہ کے بارے میں کتب فقہ کے اندر جو تعریفیں اور شکلیں ملتی ہیں ان سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ قبضہ کا مدار عرف پر ہے، جس چیز کے قبضہ کا جو عرف ہے اس چیز کیلئے شرعاً بھی وہی عمل "قبضہ" کہلاتے گا، چنانچہ بدائع الصنائع (۱۲۸/۵) کی عبارت "معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع الموانع عرفاً و عادةً حقيقةً" سے یہی مستفاد ہوتا ہے، نیز درمختار اور اس کی شرح رالمختار (۱۲۳، ۲۲۳) کے مطالعہ سے "قبضہ" کی بہت سی صورتیں سامنے آتی ہیں، اسی طرح باب "بيع الفاسد" ، "جس المبيع لقبض الشمن" کے مطالعہ سے بھی، اسی میں ایک عبارت یہ ہے: هل التخلية قبض؟ صح في الخانية أنها قبض و طحن البائع الحنطة بأمر المشترى قبض ..... لو أمر البائع بذبح الشاة (المشتراة فذبحها) فيصير المشترى قابضا اقتضاء (شامی ۱۲۶/۳)۔

قبض کی ایک شکل کا ذکر سوال (۷) کے ذیل میں آرہا ہے۔

۳۔ اس سوال کا جواب مذکورہ بالاسوال (۲) کے جواب سے نکل آتا ہے۔

۴۔ بیع قبل القبض کی ممانعت کی کئی وجہیں شراح حدیث و فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتی ہیں، (۱) غرر (۲) انفاسخ عقد کا احتمال (۳) ملک غیر کی بیع، بغیر اجازت مالک۔

اس پر حسب ذیل کتب کی یہ عبارتیں دال ہیں:

أن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك (غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع) ..... والغرر المنهى عنه غرر انفساخ العقد و الحديث معلول به (ای معلول بغیر انفساخ العقد فيما قبل القبض بهلاک المعقود عليه) ... اشتماله على ربح مالم يضمن ..... و الربح على ما لم يضمن منهی عنه شرعاً (بدایہ ثالث من حاشیہ ۵۸-۵۹)۔

والنھی یوجب فساد المنهی عنہ و لانہ بیع فیه غرر الانفساخ بھلاک المعقود علیہ  
لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل الأول فينفسخ الثاني (بدائع ۱۸۰/۵)۔

ہدایۃ شرح ہدایۃ للعنینی میں ہے: ”علی اعتبار الہلاک“ ہلاک المبیع قبل القبض فتبین أنه  
باع ملک الغیر بغیر إذنه و ذلك مفسد العقد (۱۳۷/۳)۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت اکثر فقهاء کے نزدیک عام ہے، البته امام ابوحنیفہ و ابو یوسفؓ کے نزدیک غیر  
منتقل اشیاء (جائیداد، زمین) اس سے مستثنی ہیں، اور امام مالک کے نزدیک صرف غلہ کی بیع قبل القبض ممنوع ہے، ابیہ  
کی جائز ہے، اور امام احمد کے یہاں تمام مکمل، موزون اور محدود چیزوں کا یہی حکم ہے۔

جیسا کہ حسب ذیل کتب میں ہے:

ہدایۃ: یجوز بیع العقار قبل القبض عند أبي حنیفة و أبي یوسف و قال محمد لا یجوز  
(۵۸/۲)۔

علامہ عینی نے اس پر اضافہ کیا ہے: و به قال الشافعی و زفر و أحمد و أبو حنیفة أولاً (الثباتی ۳  
(۱۳۷/۴)۔

فتح القدیر: قال مالک یجوز جمیع التصرفات من بیع و غيره قبل القبض إلا فی طعام  
(۲۶۲/۵)۔

وقال أحمد و إن كان المبیع مکیلا أو موزونا أو معدودا لم یجز بیعه قبل القبض و فی  
غیره یجوز (عینی شرح ہدایۃ ۳/۷ طبع نوکشور لکھنؤ)۔

مذکورہ بالا کتب میں ان اقوال کے دلائل بھی مذکور ہیں، تطویل سے بھنٹنے کیلئے یہاں ذکر نہیں کئے جا رہے  
ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ممانعت (بیع قبل القبض) کی وجہ، حدیث رسولؐ ہے، چونکہ بعض روایات میں صرف طعام کا  
ذکر ہے اس لئے امام مالک ممانعت کو اسی کے ساتھ مختص کرتے ہیں، لیکن دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات  
حدیث میں (بالخصوص حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت میں، اور ان کا فتوی بھی یہی ہے) ”بیع مالم بلقبض“، ”عام آیا  
ہے، اسلئے ممانعت عام ہے، جو ائمہ عقار کا استثناء کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”قبل القبض“، ”بیع کی ممانعت“ کا سبب بیع  
کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے، جس سے بیع اول ہی فتح ہو جائے گی (اور نیچہ بیع ثانی بھی) لیکن عقار میں یہ خطرہ نادر  
ہے۔

جبھوں نے اس ممانعت کو مکمل، موزون اور معدود کے ساتھ مخصوص رکھا ہے انہوں نے، طعام، والی روایت پر  
قیاس کیا ہے۔

۶۔ دوسرے شخص کے ہاتھ بیع کو تا جائز قرار دیا جائے گا، کیونکہ بیع قبل القبض کی ممانعت کی وجہ تھا ”ریح مالم  
یضمِن“، نہیں ہے (تفصیل اور گذر چکی ہے) بلکہ اس کی کئی وجہوں ہیں، مشہور قاعدة ہے کہ ”کئی وجہوں میں سے صرف

ایک وجہ کے مرتفع ہو جانے سے حکم مرتفع نہیں ہوتا" (جب تک تمام وجوہ مرتفع نہ ہوں حکم برقرار رہتا ہے) بلکہ بلاک بیع، سے تو اس احتمال کا وقوع ہو گیا جس کی وجہ سے یہ عقد (بیع ثانی) ممنوع کیا گیا تھا، مقام غور ہے کہ جس وجہ کا احتمال موجب فساد تھا تو اس کا وقوع موجب فساد کیوں نہ ہو گا؟

ہاں! درمختار اور اس کی شرح درمختار کی ایک عبارت "منه (من القبض) مالو اشتري (هنا و دفع قارورة یزنه فيها فوزنه فيها بحضرۃ المشتری فهو قبض و کذا بعیته فی الاصح و کذا کل موزون إذا دفع له الوعاء فکاله او وزنه فيها بأمره" (۳۲/۳) سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جہاز جس پر سامان لا دا گیا ہے (بعد میں سامان بلاک ہو گیا) مشتری نے اسے مہیا کیا تھا تو اس صورت میں 'بیع' پر مشتری کا قبضہ ہو گیا، لہذا اس کا بیع ثانی کرنا شرعاً درست ہوا، لیکن چونکہ باعث ثانی کے قبضہ (یعنی مشتری اول کے قبضہ) میں ہی وہ سامان بلاک ہو گیا، لہذا اس کا ذمہ دار مشتری اول ہی ہوا، مشتری ثانی یا فیکشہ ذمہ دار نہ ہو گی۔

۷۔ تیرے شخص کے ہاتھ بیع (تیری بیع) تو بلاشبہ اور غالباً بلا اختلاف ناجائز ہو گی، بلکہ منعقد ہی نہ ہو گی، دوسری بیع یا دوسرے شخص کے ہاتھ بیع (قبل القبض) کا حکم تو اپنے فصیل مذکور ہی ہو چکا ہے کہ ناجائز ہے، باوجود اس کے اگر بیع کی تو یہ بیع فاسد ہو گی جس کے دلائل اور گذر چکے ہیں، مزید ایک عبارت درمختار کی پیش کی جاتی ہے، جس سے اس بیع کا فاسد ہونا ہی مغہوم ہوتا ہے: ولو اشتري ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعده قال الإمام الفضلي إن كان قبل القبض والرؤبة كان فسخا وإن لم يقل البائع نعم ... وإن قال بعده لى اى كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا (۳۲/۳)۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا زیر احمد قاسمی

عنوان بالا کے تحت سوالوں کے جوابات علی الترتیب حسب ذیل ہیں:

۱۔ کسی میع پر قبضہ کئے بغیر اس میں ہبہ، صدقہ، اجارہ اور بیع وغیرہ جیسا کوئی بھی تمثیلی تصرف کرنا شرعاً ناجائز ہے، گوہ عاقد ثانی جو مشتری اول ہے سابق شراء صحیح کے سبب اس میع کا مالک ہو چکا ہے، مگر قبل القبض اس کیلئے وہ بیع غیر مقدر اتسلیم ہے، اسلئے اس کا یہ دوسرا تصرف بیع وغیرہ تصرف فاسد کہلاتے گا "لغوات شرط من شرائط الصحة". باطل نہیں ہوگا، لوجود شرائط انعقاد العقد من الأهلية وال محلية.

۲۔ لا يشترط القبض بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع المواقع عرفاً وعادةً وحقيقة (بدائع ۱۳۸۵، پاکستان) قوله (بلامانع) بأن يكون مفرزاً غير مشغول بحق غيره، وفي الملتقط ولو باع داراً وسلمها إلى المشترى وله فيها متعاع قليل أو كثير لا يكون تسلি�ماً حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضاً وفيها زرع (شامی ۳۳/۲، بيروت).

مذکورہ بالفقیہی نصوص سے واضح ہے کہ قبضہ کے تحقق کیلئے ہاتھ میں لینا کوئی ضروری شرط نہیں صرف میع و مشتری کے درمیان تخلیہ اور تمام موانع کو اس طرح اٹھاونا کافی ہے جس کے بعد ہاتھ میں لینے سے کوئی چیز، یا کوئی شخص اسے روک نہ سکے، اگر بلہ ہاتھ میں لئے کسی خاص قسم کے استیلاء اور عمل و دخل اور عہد و معاہدہ کے سبب وہ شی مشتری کے خیال میں داخل ہو جاتی ہے، چنانچہ بلا کست میع کے بعد بوجہ معاہدہ اس کا خیال مشتری پر لازم آتا ہے، اور عرفاً، عادةً اس طرح کے داخل فی الخیال ہونے کو قبضہ سمجھا جاتا ہے تو "الثابت بالعرف كالثابت بالنص" کے مذکورے شرعاً قبضہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

۳۔ اشیاء مبعید، خواہ منقول ہوں، یا غیر منقول و دونوں میں اس طرح کا تخلیہ کہ وہ حق غیر میں مشغول بھی نہیں ہوں اور بلا تکلف بلا کسی کی مدد و تعاون کے اس پر قبضہ بالبراجم ممکن ہو جائے تو بس شرعاً قبضہ کا تحقق ہو جائے گا۔

لو باع داراً وسلمها إلى المشترى وفيها متعاع لا يكون تسليماً حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضاً وفيها زرع (شامی ۳۳/۲) ولو اشتري طيراً و فرساً في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلا عون كان قبضاً، وتمامه في البحر و حاصله أن التخلية قبض حکماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة (ایضاً)۔

۴۔ بیع قبل القبض کی نسبت سے متعلق احادیث معلوم بالعمل ہیں، اور وہ عمل غرر و خطر ہے، کیونکہ اگر منبع ہلاک ہوگئی تو پہلا ہی عقد بیع فتح ہو جائے گا اور نتیجتاً اس پہنچی دوسرا عقد بھی فتح ہو جائی، اس طرح قبل القبض بیع ثانی ہجب ہو گی تو مشتری ثانی کیلئے غرر بھی، وگا اور اس کی ملکیت متعدد ہیں القرار والزوال بھی ہو گی۔

علامہ کاسانی لکھتے ہیں: فلا يصح بيعه قبل القبض قد نبهى رسول الله ﷺ عن بيع ما لم يقبض ... لأنّه بيع فيه غرر الانفاسخ بخلاف المعقود عليه وقد نبهى عنه الخ (بدائع ۱۸۰/۵)۔

۵۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی چیز پر کسی شخص کی ملکیت کا ثبوت مخالف عقود و تصرفات اور متعدد اسہابہ کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے، مثلاً بیع، شراء، بدیع، صدقہ، قرض، نکاح، نفع، وصیت و راثت وغیرہ، یہ سارے ہی کے سارے اسباب ملک ہیں، اب اگر سوال کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ مخصوص عقد بیع و شراء کے ذریعہ جو چیز کسی کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے، اس کی بیع قبل القبض، یا اس میں دیگر تمکنی تعریف بھی، مثلاً بدیع، ہبہ قرض، رہن وغیرہ جو شرعاً قبل القبض ممنوع ہیں تو یہ ممانعت عام ہے، یا اس میں استثناء تصرفات بھی ہیں؟ تو اس کا جواب بہتر ہو سکتا ہے کہ یہ ممانعت خاص ہے اشیاء منقولہ کے ساتھ عند اشخاص، باقی غیر منقولہ میں یہ سارے تصرفات قبل القبض بھی جائز ہیں اور ممانعت سے مستثنی ہیں، لعدم امکان الغرر۔

لیکن امام محمد، زفر اور امام شافعی علیہم الرحمۃ اس ممانعت کو عام ہی رکھتے ہیں، چونکہ احادیث ثابت ہیں "امم يقين، مطلق دعام ہے، اس مسئلے سے متعلق فریقین کے تفصیلی دلائل اور جوابات کیلئے دیکھا جائے (بدائع ۱۸۱/۵) اور دیگر کتب متداویہ۔

پھر حضرات شیخین تو صرف معقود عليه کے منقول وغیر منقول ہونے پر نظر رکھتے ہوئے حکم ممانعت میں تخصیص پیدا کرتے ہیں، جب کہ امام محمد علیہ الرحمۃ تصرف ثانی کی نوعیت پر بعض وقت نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معقود عليه، خواہ منقول ہو، یا غیر منقول اگر قبل القبض ایے تصرفات کئے جائیں جو "لاتتم بدون القبض" کے قبل سے ہوں، مثلاً ہبہ، صدقہ، قرض، رہن وغیرہ تو پھر یہ سارے تصرفات تمکنی جائز ہوں گے اور یہ حکم ممانعت سے مستثنی ہیں ہوں، تخصیصات کیلئے دیکھا جائے (شایع ۱۶۲، ۱۶۳)۔

لیکن اگر سوال کا مقصد اس سے وسیع تر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر متناسبات کی حدیں اور تعدا اور اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تصرفات قبل القبض کی ممانعت اور اس کے اندر استثناء تخصیص میں کبھی اسباب ملک کے تنوع و اختلاف کو دخل ہوتا ہے، تو کبھی خود تصرف کی نوعیت کو اور کبھی عرض و معقود عليه کی نوعیت کو، کافی المستقول وغیر المستقول جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) مثلاً اسباب ملک میں سے بعض عقد معاوضہ ہلاکت عرض کے وقت قابل فتح و انفاسخ ہوتے ہیں، جیسے بیع و شراء ہے، اس عقد کے ذریعہ جو عاقدین عرضین کے مالک بنتے ہیں ان عرض پر قبل القبض تصرف کی ممانعت اور ان میں استثناء تخصیص کی تخصیصات، مع اختلاف انہی اختلاف اور مع دلائل ابھی اوپر مذکور ہوا ہے کہ حضرات

شیخین سارے تصرفات کو (نفع، ہبہ، بدیہ، صدق، رہن، قرض وغیرہ) کو ناجائز کہتے ہیں، استثناء صرف غیر مقتولہ کا کرتے ہیں، جبکہ امام زفر اور امام شافعی غیر مقتولہ کا بھی استثناء نہیں کرتے، ہاں امام محمد حکم ممانعت سے ان تصرفات کا ضرور استثناء کرتے ہیں جو بیرون القبض تام ہی نہیں ہوا کرتا، کما مر (ایضاً)۔

(ب) بعض اسباب ملک ایسے عقد معاوضہ ہوتے ہیں جو بلاکت عوض کے باوجود فتح و انفصال کو قبول نہیں کیا کرتے، مثلاً نکاح، خلع، حق علی المال، صلح علن دم الحمد، ان عقود میں عورت مہر کی، شوہر بدل خلع کا، مولی بدل حق کا، اور مقتول کا وارث بدل صلح کا مالک بننا کرتا ہے، اور یہ ایسے عقود ہیں کہ بلاکت عوض (مہر، بدل خلع، بدل حق، بدل صلح) کے باوجود فتح نہیں ہدا کرتے، اب یہ سارے عوض اگر از قبیل اعیان ہوں نہ کہ ازاد یون، تو ان عوضوں پر قبضہ کے بغیر سارے تصرفات تمثیلیں (نفع، ہبہ، صدق، قرض، رہن وغیرہ) جائز ہیں، گو انعقاد تصرف اور صحیح تصرف ہی کی حد تک، نہ کہ انفاذ و نزدوم تصرف کی حد تک، گو یہ اس صورت میں یہ بھی تصرفات بااتفاق ابی یوسف و محمد حکم ممانعت سے مستثنی ہیں۔

(ج) اسی طرح بعض سبب ملک ایسے ہوتے ہیں جو عقد معاوضہ کے قبیل سے نہیں بلکہ مالک اول کی نیابت و خلافت کے طور پر اس کا کوئی مالک بن جاتا ہے، جیسے ارث وصیت، کہ وارث تیابہ و خلاف علن المورث ترک میں سے بقدر حق شرعی مال کا مالک ہو جاتا ہے، اور موصی لہ بقدر وصیت موصی کے مال موصی بہ کا مالک ہو جاتا ہے، اب یہ وارث و موصی لہ اپنے میراث اور مال موصی بہ میں قبل القبض سارا تصرف کر سکتا ہے "لأن معنى الغرر لا ينقر فيه لأن الوارث خلف الميت في ملك الموروث الخ (بدائع ۱۸۱/۵)"

ثق الف دب میں درج تفصیلات کے دلائل دیکھیے جائیں (شامی ۱۶۲/۳-۱۶۳/۲ میں)۔

(د) اسی طرح بعض تصرفات جو قبل القبض کئے جاتے ہیں وہ خود تصرف ہی ناقابل فتح ہوتے ہیں، مثلاً اعتماق و تدبیر وغیرہ، ایسے تصرفات بھی بااتفاق علماء احتجاف حکم ممانعت سے مستثنی ہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی علام کا مالک بنے، خواہ اس عقد کے ذریعہ جو قابل فتح ہوتے ہیں (نفع و شرا)، یا اس عقد کے ذریعہ جو قابل فتح ہی نہیں ہوا کرتے (مثلاً نکاح، خلع وغیرہ) تمام صورتوں میں قبل القبض اس علام کے اندر مالک کا تصرف اعتماق و تدبیر جائز ہی ہو جاتا ہے، (شامی ایضاً) واضح ہو کہ تصرفات قبل القبض کی اجازت و ممانعت کے متعلق ائمہ احتجاف کے علاوہ دیگر حضرات ائمہ رحمہم اللہ کے مذهب و ملک کی تفصیلات کی تھیں کوئی تحقیق اور علم نہیں، واللہ اعلم۔

۶۔ حرم الربوا، الخراج بالضمان، اور "العنم بالغرم"، جیسے نصوص قطعیہ و شرعیہ اور تو اعد فہریہ کی روشنی میں سیرا ایک عرصہ سے یہی خیال ہے کہ دراصل شریعت اسلامیہ ان منافع و فوائد کو جائز نہیں کہتی جو بلاکسی ادنی رہک کے اور کسی بھی نقصان کی کوئی ذمہ داری قبول کئے بغیر حاصل کئے جائیں۔

بعد القبض میمع سے منافع حاصل کرنا اسی لئے شرعاً جائز ہوتا ہے کہ وہ میمع مشتری کے خان میں داخل ہو جاتی ہے، گو یا قبضہ کر کے وہ مشتری قابض ایک رہک لے لیتا ہے، اسی طرح بظاہر قبضہ حسی نہ ہو، مگر بالغ مشتری کے درمیان یہ معاهده ہو جائے کہ میمع کے حمل و نقل اور ارسال کے بعد وہ مشتری کے خان میں داخل بھی جائے گی تو یہ مشتری

مال کی بلاکت کے نقصان کا رسک لے لیتا ہے تو اسے حکماً مقبولہ ہی کہنا چاہئے، کیونکہ اصل مقصد قبضہ ہی کا وہی دخول فی الشمان ہی ہے، جو بیع کے ارسال و تخلیہ اور حمل و نقل کے بعد اس معاملہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

اسلئے ایسی صورت میں اس کی بیع و شراء کو بعد القبض ہی قرار دینا چاہئے اور منافع کو جائز ہی ہونا چاہئے، کیونکہ یہ ربح مال مضمون ہو گا نہ کہ ربح المضمون۔

اس کے علاوہ عرصہ سے میرا یہ بھی خیال ہے کہ بیع غیر مقبولہ کی بیع و شراء کا حکم جو فساد عقد سے بیان کیا جاتا ہے، یہ حکم محض قضاء ہے جو کسی بھی سبب سے باہمی نزاع کے ”مرافعہ الی القاضی“ کے نتیجے میں اس بیع غیر مقبولہ کے متعلق قاضی شریعت کا حکم و فیصلہ ہو گا۔

لیکن اگر بیع قبل القبض کے باوجود عاقدین میں کوئی نزاع نہیں ہوادنوں اپنی اپنی جگہ معاملہ کی اس نوعیت پر راضی و مطمئن رہے اور بالآخر اپنے اپنے حق تک پہنچ گئے تو ایسے معاملہ کے جواز و صحبت اور تنفاذ و لزوم ہی کا فتویٰ دیانتہ دیا جانا چاہئے۔

ساتھ ہی ساتھ کتب فقہ میں جو عموماً احکام قضاء ہی پر مشتمل ہیں جب بعض عقود کے متعلق بعض صورتوں میں اولاً فساد، پھر وجوہ فساد کے زوال کے بعد صحبت و جواز کا حکم لگاتے ہوئے یوں بھی لکھا ہو التا ہے کہ ”انعقد فاسدا و انقلب جائز“، تو اس سے بھی ہمارے خیال کی تائید ہو رہی ہے۔

بہر حال مذکورہ بالاقرآن و شواہد پر ہماری رائے یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بذریعہ فون و فلکس، یا بالمشاهدہ کسی فیکٹری سے مال کی خریداری کرے اور یہ معاملہ ہو جائے، جب فیکٹری مال کے نقل و حمل اور روانگی کا کام انجام دیدے گی تو اس کے بعد وہ مال مشتری کے خیان میں داخل سمجھا جائے گا، پھر اس کے بعد وہی مال برآہ راست فیکٹری سے خریدار (۱) کے پاس بھجواتا ہے تو اس معاملہ کو بھی جائز اور خریدار (۱) کے منافع کو بھی حلال ہونا چاہئے، کیونکہ مال کی روانگی کے بعد ہی وہ خریدار (۱) کے خیان میں داخل ہو گیا اور بجائے خریدار (۱) کے خریدار (۲) کے پاس اس کے پتے اور راستے سے بھیجا یہ فیکٹری کا عمل من جانب خریدار (۱) تو کیا یا تمہارا ہوا۔

بین الاقوامی تجارت کا معروف اصول و ضابطہ، یا تاجریوں کے درمیان مشرود طمعاعہ یہی ہو کہ جہاز پر مال چڑھادیئے کے بعد وہ مال بالائے کے قبضہ و خیان سے نکل کر مشتری کے قبضہ و خیان میں داخل سمجھا جائے گا، تو یہ مال حکماً خریدار اول کا مقبولہ بن گیا، اس کا کسی دوسرے خریدار کے ہاتھ فروخت کرنا تو صحیح ہو گا، لیکن مال سمندر ہی میں اگر ضائع ہو جائے تو اسے خریدار (۱) ہی کے خیان میں ہلاک شدہ سمجھا جائے گا۔

خریدار (۲) کے خیان میں داخل مانے کی کوئی وجہ اور بنیاد نہیں، اگر زبانی معاملہ کو تسلیم بھی کر لیا جائے، تاہم اس معاملہ کے بعد خریدار (۱) کی طرف سے مال کے حمل و نقل تخلیہ ورفع موائع وغیرہ کے قبیل کا کوئی عمل صادر نہیں ہوا ہے، اس طرح اس مال کو جہاز کے اندر رہتے ہوئے خریدار (۲) کے خیان میں داخل کرنا جائز نہیں ہو گا۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محمد عبید اللہ اسعدی۔ باندہ

۱۔ شرع اسلامی کی رو سے خرید کر دہ چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرنا منع ہے، اور یہ ممانعت "بعنفاسد" کے درجہ کی ہے، نہ کہ بعین باطل، اگرچہ بعض حضرات کی صراحت یا الفاظ اس انداز سے ضرور ہیں (در مختار مع الشامی ۱۳۸/۵)۔

امام محمد نے اس کے متعلق فرمایا ہے: ان هذا مردود لا يجوز (المبسوط ۵/۱۵)۔ لیکن ترجیح فساد کو ہے، لا يجوز وغيره جیسے الفاظ کے مفہوم میں وسعت ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: والظاهر الثاني (أى الفساد) لأن علة الفساد الغرر كما مع وجود ركى البيع وكثيرا ما يطلق الباطل على الفساد (شامی ۱۳۸/۵-۱۳۹) فساد کی وجہ یہ ہے کہ علت غرر اور دھوکہ ہے جس کی وجہ سے فساد کا ہی حکم لگا کرتا ہے یعنی عموماً، فتح القدری میں بھی فساد کا ذکر ہے (۱۳۷/۶) پھر یہ کہ اس ممانعت کی بنیادی وجہ احادیث میں وارد ہونے والی نہیں ممانعت ہے جو کہ حنفیہ کے اصول کی رو سے فساد کا ہی فائدہ دیتی ہے بطلان کا نہیں، امام محمد نے بھی (الجامع الصغير ۳۳۵) میں "فالبيع فاسد" فرمایا ہے۔

۲۔ یوں تو اس بابت وارد ہونے والی روایات میں ممانعت مختلف لفظ و انداز میں آئی ہے (فتح القدری ۱۳۶/۶، اعلاء السنن ۱۳۲/۲۳۳-۲۳۲، نیل الاوطار۔الجزء الخامس) لیکن بظاہر روایات میں قبضہ کی حقیقت و صورت کی کوئی تعین نہیں آئی ہے، اس سے نیز فقہاء محققین کی تصریح و تفصیل سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں توسع ہے اور عرف و معاملہ کا اعتبار ہوگا، اور اس بنا پر موقع محل اور اشیاء کے اختلاف و فرق کی وجہ سے قبضہ کی صورت و حقیقت میں بھی فرق ہوگا، اس سلسلہ کی بعض روایات میں آنے والی تفصیل بھی صورت قبضہ کے مختلف ہونے کو بتاتی ہے، مثلاً یہ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ خرید و فروخت کی جگہ سے منتقل کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جائے بغیر خریدار اول کو اس کا فروخت کرنا منع ہے (ابن حبان والحاکم وغیرہ، اعلاء ۱۳۲/۲۳۳) اور بعض روایات میں دو مرتبہ کی ناپ و تول کے بغیر فروخت کی ممانعت آئی ہے جس میں ایک ناپ و تول تو پہلے بیچنے والے کی طرف سے ہوگی اور دوسرا خریدار کی طرف سے، اور خریدار کی تول و ناپ کو قبضہ کی حیثیت دی گئی ہے اور اس کے بغیر اس کے حق میں فروخت کی ممانعت کو بھی (قبضہ سے

پہلے فروخت) کے قبیل و باب سے قرار دیا گیا ہے، گویا نہ کی خرید کے بعد اس پر قبضہ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کو دکان اور جائے خرید سے ہٹا کر اپنے ٹھکانہ پر یا ہاتھ میں لے لیا جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ فروخت کنندہ کی ناپ و تول کے بعد خریدار خود ناپ و تول کرے تو یہ ناپ و تول قبضہ ہے۔ (اعلام لسفن ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۲) یہ ز پرائع و شامی وغیرہ میں بھی اس قسم کی بات آئی ہے)۔

بہر حال اس بابت توسع بحث میں آتا ہے اور اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے، لیکن ضرورت اصولی تحدید کی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں نئی نئی شکلوں کا حکم معلوم کیا جاسکے اور مردوج قدیم و جدید شکلوں کا اس کا ان شکلوں پر انطباق ظاہر ہو سکے۔

قبضہ کا ایک ہی دو شکلوں میں منحصر ہوتا، یا ایک ہی دو شکلوں میں اس کا معترض ہونا بلکہ اس میں توسع، ظاہریہ مذاہب اربعہ کا اتفاقی حکم ہے، جیسا کہ قدیم محققین فقہاء براہب سے صراحت ملتی ہے، مثلاً:

فَقَدْ حَفِظَ كَيْ أَيْكَ مُعْتَرِّ كِتَابٍ "النَّفْ فِي الْفَتاوِيَ" مِنْ آتَى هُنَّا: وَالْتَّبَضُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجَهٖ: أَحَدُهَا قِبْضُ الْكَرْمِ وَالدَّارِ وَمَالِهِ غُلْقٌ وَبَابٌ فِيمَا لَمْ يَسْلِمِ الْبَاعِنُ السَّفَاتِ إِلَى الْمُشْتَرِي أَوْ يَقْبِضُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَاعِنِ فَلِيَسْ بِقِبْضٍ، وَإِذَا كَانَ فِي وَسْطِ الْكَرْمِ وَالدَّارِ وَقَالَ الْبَاعِنُ سَلَمْتُ إِلَيْكَ فَلَا يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى قِبْضِ الْمَفْتَاحِ.

والثانی قبض الأرض فما لم یدخل فيها او یمر على حد من حدودها ویراد فلا یكون قبضا، فإذا دخل فيها ومر على حد من حدودها فيكون قبضا عند ذلك.

والثالث قبض الحيوان وهو أن يكون في موضع يصل إليه بيده أو إلى لجامه أو مقوده فيكون قبضا.

والرابع قبض الكبلى فإن اكتاله المشترى في وعائه أو كاله البائع في وعائه بمحضر منه أو من وكيله فيكون قبضا، ولو دفع الوعاء إلى البائع فكاله فيه بغير محضر منه يكون قبضا في قول أبي حنيفة وأصحابه ولا يكون قبضا في قول الشافعى ومالك....

والخامس قبض العروض وهو أن يسلمها إلى المشترى بحيث تناولها يد المشترى وخلی بينها وبينها من غير حاجز ومانع (النف في الفتاوى ۳۸۰-۳۸۲)۔

یعنی قبضہ کی پانچ صورتیں ہیں: ایک تو باغ و مکان وغیرہ جس کا باقاعدہ دروازہ ہواں پر قبضہ، تو اگر کنجی دیدی جائے یا یہ خریدار مالک و بائع کی اجازت سے تصرف کرنے لگے تو قبضہ ہو گیا، یا یہ کہ خریدار مکان و باغ کے اندر موجود ہوا اور بائع کہ میں نے سپرد کر دیا تو بھی کافی ہے۔

دوسرے عام زمین پر قبضہ، اس کے لئے زمین پر ہو نہیں اور غیرہ ضروری ہے۔ تیسرا جاؤر پر قبضہ، اس کی صورت یہ ہے کہ جانور ایسی جگہ وائیے حال میں ہو کہ خریدار اس کو کام میں لاسکے۔ جو تھہ ناپ و تول کی چیز کہ اگر خریدار

یا اس کے وکیل کے سامنے فروخت کنندہ نہ تولا تو قبضہ ہو گیا، اور اگر غیر موجودگی میں لیکن خریدار کے تحیلے وغیرہ میں تو نہ تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک قبضہ ہو گیا۔ اور پانچویں سامان (برتن وغیرہ) پر قبضہ کی صورت یہ ہے کہ اس کو خریدار کے پرورد کر دیا جائے یا اس کو تصرف کا پورا موقع دے دیا جائے۔

ابن عبد البر مالکی کی کتاب ”الکافی“ میں جو کہ فقہ مالکی کی معتمد کتابوں میں ہے، نیز امام رافعی شافعی کی ”شرح الوجيز“ میں، اور حنبلہ کی المغنى میں بھی اسی انداز میں تفصیل آئی ہے۔ (الکافی ۲/۶۱، اعلاء السنن ۱۳/۲۳۱، حوالہ شرح الوجيز ۸/۳۲۹ و ۳۳۸، المغنى ۲/۲۰۷)

جیسے کہ اس بابت یہ بات بھی آئی ہے: القبض قبضان، قبض حکم و قبض رقبة (قبض حقيقی) فقبض الحکم مثالہ آن یشتري عبداً ثم يقتله او یفقار عینه او یكسر رجله و نحو هذا، فقد صار قابضاً للعبد بهذه الجنایة، وقبض الرقبة ما ذكرنا في الوجوه الخمسة (التف في الفتاوى ص ۳۸۲) اور اسر الرائق میں تصرف قولی وحیی قبض قولی وقبض فعلی کا تذکرہ آیا ہے (البحر الرائق)۔

نہف کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قبض کی دو صورتیں ہیں: قبضہ حکمی اور قبضہ حقیقی۔ قبضہ حکمی کی مثال تو یہ ہے کہ ایک غلام خریدا اور پھر اس کو نقصان پہنچا دیا یا مثلاً اس کو قتل کر دیا، یا ہاتھوپیر، آنکھ وغیرہ کو نقصان پہنچا دیا، تو اس کی وجہ سے خریدار کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور قبضہ حقیقی وہ ہے جس کی پارچ شکلیں چھپے ذکر کی جا چکی ہیں۔ ”الفقه الاسلامی“ میں ائمہ ثالثہ کا مذہب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے (الفقه الاسلامی ۲/۲۰۷)۔

اسی لئے ہر فقهہ و مذاہب کی جزئیات جو کہ قبض کے بیان میں آئی ہیں مختلف انداز کی ملتی ہیں، اور ان میں مختلف شکلوں کو قبضہ کے تحت اور قبضہ کے حکم میں یا مفید قبضہ مانا گیا ہے، فقة حنفی میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی (ملاحظہ ہو: المغنى، فتاویٰ خانیہ، شامی وغیرہ)۔

اب ان تصریحات و جزئیات اور تفصیلات کو ملاحظہ کر کر اصولی تحدید کی جائے گی، تو اس بابت فقة حنفی کے مشہور محقق و ترجمان علامہ کاسانی کا یہ بیان ملتا ہے جس پر اعتماد بھی کیا گیا ہے:

التسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی، وهو أن يخلی البائع بين المبيع وبين المشتری برفع الحال بینهما على وجه یتمكن المشتری من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتری قابضاً له وكذا تسلیم الشمن من المشتری إلى البائع (البدائع ۵/۲۲۲)۔

حنفیہ کے نزدیک قبضہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جانے کے بعد فروخت کنندہ، خریدار اور خرید کردہ چیز کے درمیان یوں آزادی کر دے کہ خریدار کے لئے حسب خواہش و ضرورت خرید کردہ چیز میں ہر قسم کا تصرف، استفادہ و انتفاع ممکن ہو جائے اور باائع کی طرف سے کوئی روک و رکاوٹ باقی نہ رہ جائے۔

یا اصل و بنیادی بات ہے باقی جزئیات اور ”التف“ کا بیان اس کی صورتوں کی وضاحت و بیان ہے، جس

میں عرف کے مطابق اضافہ کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ مذکورہ صورتیں عرف و معاملہ پر بھی جنی ہیں، مثلاً آج کل بعض معاملات بالخصوص زمین کے معاملات میں کاغذی اندران، اور اس کی سرکاری کارروائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لہذا اس کو بھی کافی سمجھا جائے گا، ویسے تو زمین کے معاملہ میں یوں بھی فتوحی کے اندر وسعت ہے، اور فروخت کردہ سامان کے نقصان و خمان کا خریدار کی طرف منتقل ہو جانا خاص شکلوں میں۔

قبضہ کی بابت اختلاف کے باوجود جو تفصیلات محققین نہادہب نے ذکر کی ہیں جیسا کہ مذکورہ آتا ہے، اخفر ان سے یہ سمجھا ہے کہ خرید و فروخت میں قبضہ ہر حال مطلوب ہے اور خریدار کے تصرف کے لئے ضروری ہے اور ہر چیز میں ضروری ہے، اختلاف اصل میں اس بابت ہوا ہے کہ قبضہ کا مظہوم مختلف اشیاء و صورتوں کے اعتبار سے کیا ہے، مثلاً یہ کہ آیاز میں وغیرہ محتوا لات میں بھی قبضہ بایں معنی ضروری ہے کہ خریدار استعمال و انتفاع شروع کر دے یا یہ کہ بائع کی طرف سے اس کو موقع حاصل ہو جائے، کتب نہادہب کی جزئیات اس توافق واتفاق کے ساتھ مذکورہ جزوی دفعہ اختلاف کو بتاتے ہیں۔

البته فقہاء احناف نے اس کے ساتھ یہ بحث کی ہے کہ ایک نفس قبضہ ہے اور ایک قبضہ تام، تجیکہ جوڑ کر کیا گیا اس سے نفس قبضہ حاصل ہوتا ہے، لیکن قبضہ تام کے حاصل ہونے میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی اہمیت یہ ہے کہ بالخصوص خرید و فروخت پر اس کا اثر پڑے گا، بعض حضرات ناپ و توں والی چیزوں میں ناپ و توں کے بغیر قبضہ تام کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان اشیاء کی خرید و فروخت منع ہے، اگرچہ ایک بڑی جماعت اصل قبضہ اور نفس تخلیہ کو دوسرا اشیاء کی طرح اس میں بھی کافی مانتی ہے (المبداع ۵/۲۲۲)۔

جو لوگ قبضہ تام کو الگ مانتے ہیں ان کے نزدیک اس کے حصول کے مختلف ذرائع ہیں، مثلاً (۱) اختلاف کہ مشتری (خریدار) خرید کرده شے کو تلف و خانع کر رے یا نقصان پہنچا دے، (۲) خرید کرده شے فروخت کرنہ کہ طرف سے خریدار کو بطور امانت وغیرہ دیدی جائے، (۳) جو شخص خرید کر دے شے کو کچھ نقصان پہنچاے خریدار اس سے غمان لے لے، (۴) سابق قبضہ یعنی خریدے لے سے پہلے شے کا خریدار کے پاس موجودہ و ناپشت طبقہ جلت ایسی ہو کہ اس پر خمان لازم آتا ہو، (۵) اور تخلیہ بھی، اگرچہ ہر جگہ نہ ہو (الفقہ الاسلامی ۲/۲۸۱۸، ۳/۲۲۲)۔

اور اس شخص میں پھر یہ تخلیہ بھی آتی ہے کہ خریدار کے حق میں فروخت کی اجازت و محنت کے لئے مال کا خریدار کے شمان میں آجانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے باوجود ممانعت رہتی ہے، اس لئے کہ خمان تو نفس تخلیہ و نفس قبضہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بداع وغیرہ میں بھی آیا ہے: وَإِنْ بَاعَ مُكَابِلَةً أَوْ مُوازِنَةً فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَخَلَى فَلَا خِلَافٌ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ يَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَاعِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشَتَّرِي حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ التَّحْلِيةِ قَبْلَ الْكِيلِ وَالْوَزْنِ يَهْلِكُ عَلَى الْمُشَتَّرِي وَكَذَلِكَ لَا خِلَافٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحْوِرُ لِلْمُشَتَّرِي بَعْدَ وَالْأَنْتَفَاعِ بِهِ قَبْلِ الْكِيلِ وَالْوَزْنِ (بداع ۵/۲۲۳)۔

سوال نمبر (۲) کے جواب کے تحت جو تفصیل آتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ اشیاء کے فرق کی وجہ سے قبضہ کی

نوعیت بھی بدل جاتی ہے، اگرچہ اصولی طور پر "تخیلہ" بنیادی چیز ہے اور اصل قبضہ ہے، پھر بھی منقولات میں نقل مکانی وغیرہ جیسی صورتیں مطلوب اور معتبر ہوتی ہیں، جبکہ غیر منقول اشیاء میں نفس تخلیہ ہی کافی ہے، یا یہ کہ مکان و دکان کی کنجی کا مل جانا وغیرہ۔

۴۔ اکثر حضرات کا میلان و رحیان اس بات کی طرف ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے نہیں و ممانعت معلوم ہے، اگرچہ فتحہ احتجاف کی ایک جماعت یا ایک بڑی جماعت اس کی قائل نہیں، جن حضرات نے تخلیہ کو ہی مکمل قبضہ اور قبضہ تمام کی حیثیت ہر شی میں دیدی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم تعبدی ہے، جیسا کہ بدائع میں لفظ کیا ہے اور دوسرے حضرات نے بھی ذکر کیا ہے۔

اور اکثر حضرات کے نزدیک اس نہیں کی علت "غرا نفخ" ہے، یار نجع مالم یضمون۔ "غرا نفخ" کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ میں لینے سے پہلے کسی وقت بھی خرید کردہ سامان کے خیال کا اندر یا اندیشہ نہیں ہوتا اسی لئے اس کا استثناء ہے۔ اور یار نجع مالم یضمون کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خریدار کے خدا میں نہیں آتی کہ وہ ضائع ہو تو خریدار کا نقصان مانا جائے اس کا لفظ یہ نادرست نہیں ہے۔ ایک علت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نقل کی گئی ہے کہ ایسی خرید و فروخت میں ربا اور سود کا پہلو پایا جاتا ہے (اعلام، اسنن ۲۲۵، ۱۲ وغیرہ)۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ خریدار نے جبکہ مال خرید کر اس کی قیمت ادا کر دی اور مال کو قبضہ میں نہیں لیا، اور نجع دیا اور نجع کر لفظ کمایا تو معاملہ کا حاصل نقدہ بمقابلہ نقدہ ہنا، خریدار نمبر (۱) نے جیب سے نقدہ دیا اور پھر خریدار نمبر (۲) سے نقدہ ہی بڑھا کر حاصل کیا، ورمیان میں مال کو واسطہ نہیں بنایا کہ اس پر قبضہ کرتا پھر فروخت کرتا۔

اس علت کو علماء مشوکانی نے ترجیح دی ہے جیسا کہ اعلاء اسنن میں مذکور ہے اور صاحب اعلاء نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور احرقر کی رائے میں بھی یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ غرا نفخ والی بات درجہ کمادر میں ہے اور خدا نفس تخلیہ کی وجہ سے مان لیا جاتا ہے، نیز صاحب اعلاء اسنن نے ذکر کیا ہے کہ انتقال کی شرط تمام قبضہ کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ قبضہ عرفًا معلوم ہے اور یہ بات محتمل ہے، اس لئے معلوم کو مدار و معتبر مانا جائے گا، غرا نفخ درج مالم یضمون کی علت امام صاحب وغیرہ نے نیز عموماً فتحہ، نے مانی ہے، اور بھروسی طور پر ان سب کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ علت ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ صاحب اعلاء نے سب کا تذکرہ کیا ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت میں محل ممانعت کیا ہے، اختلاف ہے، ایک جماعت جس میں امام شافعی و امام محمد شامل ہیں، مطلقاً منع کرتی ہے یعنی ہر چیز میں، اور بقیہ سب کے یہاں تفصیل و تخصیص ہے، مختصر بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حق میں تو یہ ممانعت اتفاقی واجماعی ہے، بقیے میں اختلاف اور توسع ہے، کم از کم انہیں ملاشہ امام ابو حییفہ و امام مالک و امام احمد کے نزدیک، اگرچہ باہم ان کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ امام ابو حییفہ یہ ممانعت تمام منقولات کے حق میں مانتے ہیں اور غیر منقول کو مستثنی مانتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ روایات میں

کھانے پینے کی چیز کا تذکرہ زیادہ ہے، امام ابوحنیفہ نے اسی کی تتفقح منقول سے لی ہے، اور غیر منقول کے حق میں حضرت عثمان کے فعل سے جھٹ پکڑتے ہیں کہ انہوں نے ایک زمین خرید کر بغیر قبضہ حصی فروخت کی تھی (اعلاء السنن ۲۲۹، ۲۲۷، ۱۳)۔

۶۔ کسی فیکشہ سے مال خرید کر دوسرے کو فروخت کرنا اور دوسری فروخت سے قبل اس کو فیکشہ سے نہ کھانا و مقام کی طرف منتقل نہ کرتا، یا یہ کہ قبضہ کی ظاہری کوئی شکل اختیار نہ کرتا، اس میں دو شکلیں تھکتی ہیں:

ایک تو یہ کہ فیکشہ سے مال خرید لیا، یعنی معاملہ طے کیا، قیمت دیدی، اور مال ابھی فیکشہ اور اس کے گودام میں ہے، کہ دوسرے شخص سے خریدنے کا معاملہ مکمل کیا، اور اس معاملہ کو مکمل کر کے فیکشہ کو آرڈر دیا کہ میرا خرید کردہ مال قلاں جگہ، فلاں شخص کو پہنچایا جائے، تو یہ معاملہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا ہے جو درست معلوم نہیں ہوتا، خواہ کوئی چیز ہو، اس لئے کہ تخلیہ اور قبضہ کسی طرح کا نہیں پایا گیا۔ الایہ کہ خریدار اول کے معاملہ کے بعد فیکشہ نے اس کے خرید کردہ مال کو گودام میں ایک طرف کر دیا ہو، یا یہ کہ نشان وغیرہ لگا کر ممتاز کر دیا ہو تو یہ تخلیہ ہو گیا جو کہ کافی سمجھا گیا ہے۔

دوسری شکل یہ ہے کہ فیکشہ سے مال خریدنے والے نے پہلے معاملہ خریدار نمبر (۲) سے کیا، پھر فیکشہ کو آرڈر دیا مال کی خرید وار سال کا، تو اس میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا معاملہ تو نہیں، البتہ معدوم کی بیع وغیرہ کی خرابیاں پیدا ہوں گی، ضرورت کی وجہ سے توجیہ کر لیں تو مال جب روانہ ہو گا اور سوال میں نہ کو تفصیل کے مطابق کہ درمیانی وقفہ میں صیاری کی ذمہ داری خریدار نمبر (۱) کی ہے تو قبضہ مان لیا جائے گا، اور یہ معاملہ درست ہو گا، جبکہ نہ کوہہ صورت میں نقل مکانی بھی پایا جا رہا ہے جس کی قبضہ میں اہمیت ہے۔

۷۔ آج کل شکلیں بہت رانج ہو گئی ہیں اور ان کا تعامل ہے۔

الف۔ جن صورتوں میں عرف و معاملہ فروخت کنندہ نمبر (۱) کی طرف سے خمان خریدار نمبر (۱) کی طرف منتقل مان لیا جاتا ہے، جبکہ مال فیکشہ و فروخت کنندہ کے نہ کھانا سے روانہ ہو چکا ہو، ان صورتوں میں یہ معاملہ درست ہے کہ خریدار نمبر (۱) اس سامان کو تیرے کے ہاتھ فروخت کر دے، یہ فروخت بعد القبض ہو گی اس لئے کہ تخلیہ اور خمان پایا جا رہا ہے۔ (امداد الفتاویٰ کے بعض مندرجات سے اس کی گنجائش متربع ہے، ۱۳۵/۳، ۱۳۶)۔

ب۔ اور اس دوسری فروخت میں اگر خریدار نمبر (۱) مال کے راست میں رہنے کے باوجود خمان سے بری ہو جاتا ہے اور خمان خریدار نمبر (۲) کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کو تصرفات کے تمام مذاقح حاصل ہوتے ہیں تو یہ بھی درست معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ تخلیہ اور خمان دونوں پائے گئے اور قبضہ کی اصل حقیقت خمان ہے۔

ج۔ نقہا، عصر کی تحریرات میں بعض رہنمائیاں اور صراحتیں ملتی ہیں جو کہ مروج معاملات میں کافی و کار آمد ہوں گی، مثلاً:

۱۔ خریدار نمبر (۱) جبکہ کسی بینک کو ہاسٹے بنائے اور وہ بینک اپنی شاخوں کے واسطے سے مال کے نقل وار سال و ایصال کا کام لے اور کرے تو قبضہ پالیا گیا، اور اس صورت میں بھی خریدار کی طرف سے اگلی فروخت


درست ہے۔

۲۔ خریدار نمبر (۱) کی طرف سے نقل و حمل کی کسی کمپنی کی تعین پائی جائے تو جب مال اس کمپنی کے پرداز کیا جائے گا تو بھی اس کا قبضہ مان لیا جائے گا۔

۳۔ خرید کردہ مال کی آمد ووصولیابی کے جملہ اخراجات (کرایہ وغیرہ) اگر بد مدد خریدار نمبر (۱) ہے تو مال کی روائی کے بعد قبضہ معتبر ہے خواہ نقل و حمل کا ذریعہ اس نے متعین کیا ہو یا نہیں (حسن الفتاویٰ ۶/ ۵۲۵-۵۲۶)۔

ایسی صورتوں کے فلکدان کی صورت میں مال کے خریدار (۱) کے قبضہ میں آنے سے پہلے فروخت کے معاملہ کو معاملہ تج نہ مان کر وعدہ بیع قرار دے لیا جائے، اور مال آنے پر بیع ہو جس میں اختیار ہے گا تو درست ہے، بعض معاملات میں ایسی توجیہ مشورہ حسن الفتاویٰ وامداد الفتاویٰ وغیرہ میں آیا ہے۔

قبضہ کی مذکورہ بالصورتوں میں غلہ وغیرہ تاپی و توپی جانے والی چیزوں کا معاملہ اہم ہے، کہ خریدار نمبر (۱) کی طرف سے اگلی فروخت صرف تخلیہ و نمان کی بنیاد پر درست نہیں ہے بلکہ تاپ و توپ مطلوب ہے جس کے بغیر قبضہ تام نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو بھی بیع درست نہیں، البتہ ایسی چیزوں کے حق میں دوسری گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، مثلاً یہ کہ ناپ و توپ کا لزوم اس وقت ہو گا جبکہ پہلی فروخت اس بنیاد پر ہو، اور اگر وہ بورے کی بنیاد پر ہو کہ اتنے بورے مال اور اتنی دیگن وغیرہ اور مال بورے کا بورا رکھا ہوا اٹھا کر دیا جائے تو یہ پابندی نہ ہو گی۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

محمد رضوان القاسمی

ا۔ قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنے کی ممانعت مختلف احادیث سے ثابت ہے، بعض ان میں سے مطلق ہیں، مثلاً:

عن حکیم بن حرام قال: قلت يا رسول الله ﷺ اني ابتاع هذه البوع فما يحل لى منها وما يحرم علىي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيع شيئاً حتى تقبضه، هذا إسناد حسن متصل (السنن الکبریٰ للبیحقی: ۳۱۳/۵، وکذا فی مصنف ابن أبي شیبۃ: ۳۲۶/۴)۔

اور ان میں سے بعض طعام یعنی خوردنی اشیاء کے ساتھ مقید ہیں، مثلاً:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يقبضه (بخاری مع فتح الباری: ۳۳۹/۲، نیزو کیجئے، مجمع الزوائد: ۹۸/۲)۔

اہن عمر سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اشیاء خوردنی خریدے، وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے۔

یہ دو حدیثیں بطور مثال کے پیش کی گئی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن کی بحیاد پر فقیہاء مجتہدین میں اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن جمہور فقیہاء فی الجملہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے تابع نہ ہونے پر متفق ہیں (شرح المہذب: ۲۶۲/۹، بدایۃ المحبہ: ۱۳۲/۲، الروض المریع: ۲۲۳، المغثی: ۸۸/۲، البحر الرائق: ۱۱۶/۴، بدائع الصنائع: ۱۸۰/۵، البہای مع الفتح: ۲/۵۱۰، برازی مع البہای: ۳/۳۹۶)۔

غور کرنے سے پہلے چلتا ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت بیع فاسد ہے، اسلئے کہ رکن بیع اور محل بیع میں کوئی خلل نہیں ہے، البتہ غر اور جو کہ ہے، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں:

و في المواهب و قدس بيع المنقول قبل قبضه انتهي ، و نفي الصحة بتحملهما .....  
أى يتحمل البطلان والفساد والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغر كما مر مع وجود ركنس العقد  
(رواہ محدث رحمہ اللہ علیہ: ۱۸۲/۲)

۲۔ تمام و بستان فقہ کی کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرع اسلامی میں کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین نہیں کی ہے، بلکہ اسے لوگوں کے عرف و عادت پر چھوڑ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استعمال اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے گا، وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے گا (بدائع الصنائع ۱۳۸/۵، ۲۲۲، المغني ۹۰/۳، الشرح الكبير بهامش حاشیہ الدسوی ۱۳۵/۳، شرح المہذب ۲۷۵/۹)۔

۳۔ اشیاء معمولہ اور غیر معمولہ میں قبضہ کی یکساں صورت نہ ہوگی، بلکہ تمام مکتبہ فکر کے فقهاء اس بات پر متفق ہیں کہ اشیاء غیر معمولہ میں تو تخلیہ کو قبضہ کا درجہ حاصل ہوگا، البتہ اشیاء معمولہ میں قدرے اختلاف ہے، انہے مثلاً شیعی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اشیاء معمولہ میں قبضہ کا درجہ دار و مدار لوگوں کا عرف و رواج ہے، لیعنی جن اشیاء میں جس کی قیمت کو عوام قبضہ تصور کریں وہ شرعاً بھی قبضہ ثابت کیا جائے گا، اور جس کو قبضہ نہ مانیں وہ قبضہ متصور نہ ہوگا، چنانچہ علامہ درودیہ مالکی فرماتے ہیں:

فَبِضْعِ الْعَقَارِ وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا... التَّخْلِيَةُ وَفَبِضْعِ غَيْرِهِ أَى غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ عَرَوَضٍ وَأَنْعَامٍ وَدَوَابٍ بِالْعَرْفِ الْجَارِيِّ بَيْنَ النَّاسِ (الشرح الكبير بهامش حاشیہ الدسوی ۱۳۵/۳)۔

۴۔ تقاریبی زمین اور جوز میں سے متصل ہوں، ان میں تخلیہ کے ذریعہ قبضہ ہوگا اور عقارات کے علاوہ مثلاً سامان، جانور اور چوپائے میں قبضہ اس عرف کے مطابق ہوگا جو لوگوں میں جاری ہو۔  
یہی کچھی اقسام تزویی نے لکھا ہے (شرح المہذب ۲۷۵/۹)۔

اس سلسلہ میں اختلاف کا کہنا ہے کہ اشیاء معمولہ اور غیر معمولہ دونوں میں تخلیہ کو قبضہ گردانا جائے گا، البتہ بعض کے احوال کے اعتبار سے تخلیہ کی نوعیت میں فرق ہوگا، چنانچہ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

وَحَاصِلَهُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ فَبِضْعٌ حَكْمًا لَوْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كَلْفَةٍ لَكِنْ ذَلِكَ يَعِي خَلْفَ بِحَسْبِ حَالِ الْمُبَيِّعِ (رِدَّ الْمُخْتَارِ ۲۷/۲۸-۲۸، نیز ملاحظہ ہو: الفقہ الاسلامی و ادلة ۳۱۸/۳-۳۱۹)۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تخلیہ کو حکما اس وقت قبضہ تصور کیا جائے گا جبکہ بغیر شقت کے اس پر تصرف کرنا ممکن ہو، لیکن قبضہ کی نوعیت میں بعض کی حالت کے اعتبار سے بدلتی رہے گی۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے متعلق جواہادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تقریباً تمام ہی فقہاء اور شراح حدیث کا اتفاق ہے کہ یہ احادیث معلوم بالعلة ہیں، چنانچہ علامہ برہان الدین مرغینی فرماتے ہیں:  
وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِعِلْمٍ عَمَلاً بِدَلَالَلِ الْجَوَازِ (ہدایۃ مع الفتن ۵۱۳/۶)۔

فقہاء احناف نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہاں پر میمع کے بلاک ہونے کی صورت میں بیع کے فتح ہونے کا غرر اور دھوکہ ہے، چنانچہ علامہ عبدالحیی لکھنؤی فرماتے ہیں:

لَأَنَّ النَّهْيَ مَعْلُولٌ بِغَرَرِ اِنْفَسَاخِ الْعَقْدِ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ (التعليق لمحمد ۱۹۹/۳، نیز و یکھے: مجمع

الأنہر ۲، فتح القدر ۵۱۳/۶)۔

۵۔ بعض فقہاء کے یہاں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت بالکل عام ہے، جب کہ دوسرے فقہاء اس میں استثناءات اور تخفیفات کے قائل ہیں، ذیل میں انہی کی آراء اور ان کے وجہ و دلائل قلمبند کئے جاتے ہیں:

### شافعی نقطہ نظر:

یہ ہے کہ بیع قبل القبض کی نہیں بالکل عام ہے، اس میں کوئی استثناء اور تخصیص نہیں، خواہ بیع منقولی اشیاء ہو، یا غیر منقولی، چنانچہ علامہ نووی فرماتے ہیں:

أما الأحكام فمدحنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولاً لا ياذن البائع ولا بغير إذنه لا قبل أداء الشمن ولا بعده (شرح المهدب ۲۶۳/۹-۲۶۵)۔

ان «حضراتِ بیانیادی» دلیل حضرت حکیم بن حزام کی روایت ہے جس میں آپ ﷺ نے حضرت حکیم بن حزام سے فرمایا تھا کہ ”بیجیج کسی چیز کو قبضہ کئے بغیر فروخت نہ کرو“ (دیکھئے: السنن الکبریٰ ۵/۳۱۳، بخاری مع افتتاح ۳۳۹، مجمع الزوائد ۲/۹۸)۔

### حنفی نقطہ نظر:

یہ ہے کہ منقول اشیاء کو بغیر قبضہ کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ غیر منقول، مثلاً زمین، گھر وغیرہ کو بغیر قبضہ کئے ہوئے بھی فروخت کر سکتے ہیں (دیکھئے: البحر الرائق ۶/۱۱۶، مختصر الطحاوی ۹۲، إرشاد الساری ۳/۴۵)۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ ممانعت کی اصل علت غرر اور دھوکہ ہے، وہ اس طرح کہ ہلاک ہونے کی صورت میں عقد کے فتح ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ غرر صرف منقولی اشیاء میں متوقع ہے، نہ کہ غیر منقولی میں، اسلئے کہ غیر منقولی شی میں ہلاک ہونے کا اندیشہ بہت کم ہے (دیکھئے: الفقہ الاسلامی و اولتہ ۲/۲۷، البحر الرائق ۶/۱۱۶، فتح القدر ۵۱۳/۶) چنانچہ اگر عقار وغیرہ کے اندر بھی ہلاک ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں بھی قبل القبض فروخت کرنا جائز ہو گا، مثلاً دوز میں یا گھر وغیرہ جو دریا وغیرہ کے کنارے پر واقع ہو اور اس کے دریا میں ضم ہو جانے کا خدشہ ہو (تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح القدر ۵۱۳/۶)۔

### ماکلی نقطہ نظر:

اس سلسلہ میں یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت صرف خوردنی اشیاء کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ان کو کیل یا وزن کے ساتھ فروخت کیا جائے، اور خوردنی اشیاء کے علاوہ یا خوردنی اشیاء کو ”تھوک“ فروخت کیا جائے تو ان میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، (دیکھئے: بدایۃ الحجتہد ۲/۱۳۳، المغنی ۳/۸۸، الفقہ الاسلامی و اولتہ ۲/۲۷) ان لوگوں نے ان احادیث کو اپنا مسئلہ بنایا ہے، جن میں قبضہ سے پہلے طعام کی بیع کو منع کیا گیا ہے۔

### حنبلی نقطہ نظر:

یہ ہے کہ خوردنی اشیاء جو کیل، وزن یا عدد سے فروخت کی جاتی ہیں، ان میں قبل القبض اصرف کرنا درست

نہیں ہے، ان کے علاوہ تمام اشیاء قبل القبض فروخت کی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر خوردنی اشیاء جو مجاز فہ، یعنی بلا کیل و وزن پہنچنی ہوں، ان کو بھی قبل القبض فروخت کرنا درست ہے، چنانچہ ابن قدامہ نقل فرماتے ہیں:


قال ابن عبد البر : الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام (المغني ۲/۸۸).

ان کا استدلال حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، ابو ہریرہؓ اور جابرؓ کی روایات سے ہے، جن میں صراحت موجود ہے کہ ممانعت خوردنی اشیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسند احمد میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت یوں منقول ہے:

من اشتري طعاماً بکيل أو وزن فلا يبعده حتى يقبضه (مسند احمد).

۶۔ اگر کوئی شخص فیکٹری وغیرہ سے مال خرید کر اس پر قبضہ کئے بغیر دوسرے خریدار کے ہاتھوں اس شرط پر فروخت کر دیتا ہے کہ اگر درمیان میں مال ہلاک ہو جائے تو اس کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر عائد ہوگی اور نہ خریدار (۲) پر، بلکہ یہ میرا (خریدار (۱) کا) نقصان قرار پائے گا، ایسا معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا، اسلئے کہ یہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت میں داخل ہے، جہاں تک ضمان کے قبول کرنے کا تعلق ہے، تو یہ قبضہ کے پائے جانے کے لئے کافی نہیں۔

۷۔ ہین الاقوامی تجارت میں شپنگ کی جو صورت راجح ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جہاز پر مال چڑھا دینے کے بعد اصل باائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے صائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے، تیرے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے، اور مال کے صائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا، بلکہ تیرا شخص ضامن ہوتا ہے، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ یہ "بیع قبل القبض" کے قبیل سے ہے۔ واللہ اعلم



# قبضہ کی حقیقت اور قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فقہ اسلامی کی روشنی میں

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں مناسب ہو گا کہ فقہاء کے اقوال و مذاہب سے پہلے ایک نظر ان روایات پر ڈال لی جائے جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، اس سلسلہ کی روایات عام طور پر کتب حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبد اللہ، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہم سے نقل کی گئی ہیں، الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ ان صحابہ سے اسی مضمون کی متعدد روایتیں منقول ہیں، یہاں چند روایات ذکر کی جاتی ہیں، جن کے الفاظ کو مختلف مکاتب فقہ نے اپنے پیش نظر کھا ہے:

(۱) عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے:

ان رسول اللہ ﷺ نبھی ان بیع الرجل طعاماً حتی یستوفیه ، قلت لا بن عباس : کیف  
ذلک ؟ قال : ذلک درهم بدرهم والطعام مرحا (بخاری ۲۸۶/۱)۔

رسول ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی کھانے کی چیز وصول کرنے سے پہلے فروخت کر دے،  
میں نے عبد اللہ بن عباس سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ درهم سے درہم کی فروخت ہے اور کھانا ادھار رہا؟

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمر سے مردی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

من اشتري طعاماً بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه (مندادہ ۲/۱۱۱)۔  
جو کیل یا وزن سے کھانا خرید کرے وہ قبضہ میں لئے بغیر اس کو فروخت نہ کرے۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ نے آپ ﷺ کا ارشاد ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يكتله (مسلم ۵/۲)۔  
جو کھانا خریدے وہ پیمائہ سے ناپے بغیر فروخت نہ کرے۔

(۴) حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں:

کان رسول اللہ ﷺ يقول : إذا ابتعدت طعاماً فلا تبعه حتى یستوفي (مسلم ۶/۲)۔  
رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانا خرید کر وہ وصول کرنے سے پہلے فروخت نہ کرو۔

حضرت حکیم بن حزام سے منقول ہے:

فَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِي اشْتَرَيْتُ بِبَيْوَاعَ فِيمَا يَحْلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ : فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَلَا تَبْعَدْ حَتَّى تَقْبَضَهُ (مسند احمد ۳۰۲/۳۰۲).

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں خرید فروخت کے بعض معاملات کرتا ہوں، تو میرے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ فرمایا: جب خرید کرو تو قبضہ کے بغیر فروخت نہ کرو۔  
فقہاء کی آراء:

ان احادیث کی روشنی میں فی الجملہ کسی چیز پر قبضہ سے پہلے ہی اس کو فروخت کرنے کے ناجائز و نادرست ہونے پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اور کہا جاسکتا ہے کہ تفصیلات میں اختلاف سے قطع نظر اصولی طور پر یہ ایک اجماعی رائے ہے، ابن حزم نے عطاء کا اختلاف نقل کیا ہے کہ وہ قبضہ سے پہلے خرید فروخت کو مطلقًا جائز تصور کرتے تھے (المحلی ۵۲۰/۸) عثمان الحنفی سے بھی ایسا ہی منقول ہے (شرح نووی علی مسلم ۲/۸). لیکن بقول نووی یہ ایک قول شاذ و غیر معتبر ہے (حوالہ سابق)۔ البته تفصیلات اور احادیث کے مصدق کی بابت فقہاء کی رائیں مختلف ہیں۔  
شوافع:

فقہاء شوافع کے نزدیک کوئی شےٰ جو خرید کی گئی ہو جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کو فروخت کرنا درست نہیں، مال منقول ہو یا غیر منقول، خوردنی شےٰ ہو یا کچھ اور، فروخت کنندہ کی اجازت سے تصرف کرے یا بلا اجازت اور قیمت کی ادائیگی کے بعد کرے یا اس سے پہلے ہی، بہر صورت یہ جائز نہیں۔

لَا يَحُوزُ بَيْعَ الْمَبْيَعِ قَبْلَ قَبْضَهِ عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولًا، لَا يَأْذِنُ الْبَاعِ لَا بَغْيَرْ إِذْنِهِ، لَا قَبْلَ أَدَاءِ الشَّمْنِ وَلَا بَعْدَهُ (شرح المہذب ۹/۲۶۲).

قبضہ سے پہلے بیع کو فروخت کرنا جائز نہیں، مال منقول ہو یا غیر منقول، نہ فروخت کنندہ کی اجازت سے اور نہ بلا اجازت، نہ قیمت کی ادائیگی سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔

امام محمد کی بھی وہی رائے ہے جو امام شافعی کی ہے (مختصر الطیاوی ۸۲/۸۲).

فقہاء شوافع نے بنیادی طور پر حضرت حکیم بن حزام کی روایت کو پیش نظر رکھا ہے جس میں مطلق خریدی ہوئی اشیاء کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضور نے تو کھانے کی اشیاء کو قبضہ سے پہلے یچھے سے منع فرمایا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری اشیاء کا بھی یہی حکم ہوگا، وأحَسِبَ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (مسلم ۲۵/۵) خود امام شافعی نے "كتاب الام" میں عبد اللہ بن عباس ہی کے قول کو اپنے متدل کی حیثیت سے ذکر کیا ہے (كتاب الام ۳/۲۹).

حنابلہ:

حنابلہ کے نزدیک غیر خوردنی اشیاء میں قبضہ سے پہلے فروختگی جائز ہے، پھر خوردنی اشیاء میں حنابلہ کے

یہاں یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ جو چیزیں تول کر، ناپ کر اور گن کر فروخت کی جاتی ہیں ان میں قبضہ کے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں، دوسری اشیاء کی بابت امام احمد سے مختلف اقوال منقول ہیں، اور کون سا قول صحیح تر ہے؟ اس بابت بھی اختلاف ہے، ابن عبد البر کا بیان ہے کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ کسی بھی خوردانی شے کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں (المغنى ۸۸/۲)۔

حضرت عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور جابر کی روایات میں صراحت موجود ہے کہ یہ ممانعت خوردانی اشیاء کی بابت تھی، اور امام احمد کا وہ قول کہ تابی و تولی جانے والی اشیاء ہی میں قبضہ ضروری ہوگا، غالباً عبد اللہ بن عمر کی اس روایت پر مبنی ہے جو مسند احمد میں ان الفاظ میں منقول ہے:

من اشتري طعاماً بکيل او وزن فلا يبعده حتى يقبضه (مسند احمد ۱۱۱/۲)۔

جس نے ناپ یا تول کے ذریعہ کھانا خرید کیا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے۔

### مالکیہ:

مالکیہ کے یہاں اس مسئلہ میں حسب ذیل تفصیل ہے:

(الف) غیر خوردانی اشیاء قبضہ کے بغیر بھی فروخت کی جاسکتی ہیں۔

(ب) خوردانی اشیاء، اگر پیلانے سے خریدنے کی گئی ہوں بلکہ بلا تعین مقدار مجموعہ (جز افاف) خریدی گئی ہوں تو ان کو بھی قبضہ سے پہلے فروخت کیا جاسکتا ہے، یہی مالکیہ کے یہاں قول مشہور ہے، کیونکہ ایسی بیع پر مالکیہ کے نزدیک عقد کے ساتھ ہی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔

(ج) جو خوردانی اشیاء ناپ کر، تول کر یا گن کر خرید کی گئی ہوں اور اموال ربویہ میں سے نہ ہوں یعنی اس لائق نہ ہوں کہ اس کا ذخیرہ کیا جاسکے، قبضہ سے پہلے ان کی بیع کے بارے میں امام مالک کے دونوں طرح کے قول ہیں، لیکن قول مشہور کے مطابق ان کو بھی قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں۔

(د) جو خوردانی اشیاء اموال ربویہ کے قبیل سے ہوں، قبضہ سے پہلے ان کو فروخت کرنا درست نہیں

(و) کیجئے: بدایۃ البجهد ۲/۱۱۳، الشتر الدانی ۳۱۹، المدونۃ الکبری ۳/۱۶۶)۔

مالکیہ نے ان روایات کو پیش نظر رکھا ہے جن میں قبضہ سے پہلے طعام کی بیع کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کی روایت ایک جگہ مطلق نہ کوہ ہو اور دوسری جگہ اس کے ساتھ کوئی قید لگائی ہو تو مطلق کو مقید پر محول کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلق روایت میں بھی یہی قید ملحوظ ہے، اور ناپ تول کر خریدی ہوئی اشیاء میں ہی اس بیع کی ممانعت کی وجہ غالباً مسند احمد کی وہی روایت ہے جس کا ذکر ہوا کہ عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے کہ "اگر کسی شخص نے ناپ کر کوئی چیز خرید کی ہو تو اس کو قبضہ کے بغیر فروخت نہ کرے" (مسند احمد ۱۱۱/۲)۔

### حنفیہ:

حنفیہ کے نزدیک غیر منقول اشیاء جیسے زمین و مکان وغیرہ قبضہ سے پہلے فروخت کی جاسکتی ہیں، منقول

اشیاء بقضہ سے پہلے فروخت نہیں کی جاسکتیں (البحر الرائق ۱۱۶/۶) امام ابو یوسف کار جان ابتداء اسی رائے کی طرف تھا جو امام شافعی کی ہے، مگر پھر انہوں نے امام صاحب کی رائے کی طرف رجوع کر لیا (مختصر الطحاوی ۸۲/۶)۔

حنفی نے روایات کے الفاظ کے بجائے مقصد پر نگاہ رکھی ہے کہ اصل مقصد غرر سے بچانا ہے، اموال غیر منقولہ میں یہ اندیشہ نہیں کہ حوالگی سے پہلے وہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جائے لیکن اموال منقولہ میں اس کا احتمال موجود ہے، اس لئے اموال منقولہ کی بقضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، اور اموال غیر منقولہ میں بقضہ سے پہلے بھی فروخت درست ہوگی (فتح القدر ۲/۵۱۳) یہی وجہ ہے کہ اگر زمین و مکان بھی ایسی جگہ میں واقع ہو جہاں ضیاع کا خطرہ موجود ہو مثلاً مکان دریا کے کنارے واقع ہو اور اس کا سیااب کی زد میں آجانا بعید از قیاس نہ ہو، یا وہ صحرائی علاقے میں واقع ہو اور ریت سے ڈھک جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں زمین و مکان پر بھی بقضہ کے بعد ہی اس کو فروخت کرنا جائز ہوگا (البحر الرائق ۱۱۶/۶)۔

**غرض اس مسئلہ میں سب سے زیادہ وسعت مالکیہ اور حنابلہ کی رائے میں ہے اور سب سے زیادہ تنگی شوافعی کی رائے میں، اور حنفیہ کی رائے ان دونوں کے درمیان ہے۔**

### ممانعت کی علت:

فقہاء کی آراء کو سامنے رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بقضہ سے پہلے فروختگی کی ممانعت کی جو روایات ہیں تمام ہی فقہاء کے نزدیک علت پر مبنی ہیں، البتہ خود اس علت کی تعریف میں فقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہے، یوں تو اہل علم نے اس کی متعدد علتوں کا ذکر کیا ہے (بامش عنون المعبود ۹/۳۸۵) لیکن اصل میں فقہاء نے دو چیزوں کو علت قرار دیا ہے: غرر اور ربا۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی علت غرر ہے یعنی جب تک بیع پر بقضہ نہ ہو جائے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید اس پر بقضہ حاصل ہی نہ ہو پائے اور اس طرح بیع خریدار کو حوالہ نہ کی جاسکے، چنانچہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں، والحمد لله معلول بہ (ہدایہ معراج ۲/۵۱۳) اور داما دا فندی کا بیان ہے۔

الغرر المنهي عنه غرر الانفساخ العقد والحديث معلول به (مجموع الأئمہ ۲/۹۷)

جس غرر کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کے ثوث جانے کا خطرہ در پیش ہو اور حدیث اسی علت سے متعلق ہے۔

حنابلہ کے نزدیک بھی اصل علت غرر ہی ہے، چنانچہ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں:

ما يتصوهم فيه غرر الانفساخ بخلاف المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزاً من الضرر وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع فجاز العقد عليه (المغني ۹۲/۳)۔

جس معاملہ میں بیع کے ضائع کے ہو جانے کی وجہ سے معاملہ کے ثوث جانے کا اندیشہ موجود ہو تو غرر سے بچتے ہوئے اس پر دوسرے معاملہ کی بنیاد رکھنا درست نہیں، اور جس میں غرر کا اندیشہ نہیں اس میں مانع موجود نہیں، اس لئے اس پر عقد جائز ہے۔

فقطہا، شوافع کے یہاں بھی ممانعت کی اصل علت غرر ہی ہے، علامہ ابو اسماعیل شیرازی قبضہ سے پہلے خرید فروخت کی ممانعت پر دشمنی ذاتی ہوئے لکھتے ہیں  
ولان ملکہ علیہ غیر مستفر لانہ ریما هلک فانفسح العقد و ذلك غرر من غير حاجة فلم  
يجز (شرح المہذب ۲۶۲۹)

اس لئے کہ اس پر اس کی ملکیت قدش سے مخنوظ نہیں ہے، کیونکہ بعد نہیں کمیع نمائع ہو جائے اور عالمہ فیض  
ہو جائے کی اوبہت آجائے، اور یہ غرر ہے جو بلا حاجت ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔  
اس طرح حالانکہ حنفی، شوافع اور حنابلہ کی آراء میں خاص اختلاف ہے لیکن اس بارے میں کہی متفق ہیں  
کہ اس کی علت غرر ہے، البتہ شوافع اور حنابلہ نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر اس علت کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے  
اور حناف نے علت کی بنابر انص میں تجھیس کا استاختیار کیا ہے۔

مالکیہ کے تزویک ممانعت کی اصل علت سود کے امکانی راستے کو بند کرنا ہے، اور اہل علم کے لئے یہ امر محتاج  
انکھار نہیں کہ سد ذرائع اور عقود ربویہ کے باب میں مالکیہ کے یہاں اختیارات بے سے زیادہ ہے، تاہم اس کی طرف  
حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت میں بھی واضح اشارہ موجود ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اس کی  
ممانعت کیوں ہے؟ تو فرمایا:

ذلک الدارهم بدر اهم والطعم من حا (بخاری ۱۸۷۲)۔

یہ درہ حم پہ مقابلہ درہ حم ہے اور کہا نا اور ہمارہ بہ۔

یعنی اگر ”الف“ ”بے“ سے ایک بزار میں یہاں خرید کیا اور قبضہ کئے بغیر ”ج“ سے بارہ سوروپنے میں  
فروخت کر دیا تو گویا اس نے ایک بزار دے کر بارہ سوروپنے حاصل کیے اور درمیان میں گیوں کا واسطہ بھی نہ ہوا، سو  
اس طرح گویا اس نے بالا بڑھ سود حاصل کیا۔ اس لئے گویا اس حدیث کا معلوم ہونا انہی قبیعین کے درمیان متفق  
ملیا اہم ہے۔

قبضہ سے پہلے خرید فروخت بیع فاسد ہے:

بیع کے باطل و فاسد ہونے کا سبب یہ ہے کہ اگر ایجاد و قبول ایے شخص نے کیا ہو جو اس کا اہل نہ ہو یا  
معاملہ کی اساس (بیع) ایسی چیز کو بنایا ہو جو شریعت کی نگاہ میں مال نہ ہو تو بیع باطل ہے ورنہ فاسد، اس اصول پر اگر کسی  
حال مال کی بیع قبضہ سے پہلے کی جائے تو یہ باطل نہ ہوگی اور نہ مکروہ ہی ہوگی، کیونکہ بیع مکروہ میں کراہت کسی خارجی  
ہصف جیسے وقت یا مقام کی وجہ سے آتی ہے، بلکہ بیع فاسد ہوگی، شامی کے یہاں اس کی صراحة موجود ہے، در مختار میں  
ہے:

ز فسد بیع المنقول قبل قبضہ و نفي الصحة يتحملهما (در مختار ۱۸۲/۳)

مال منقول کی بیع قبضہ سے پہلے فاسد ہو جائے گی، اور بیع کے صحیح ہونے کی نظری باطل ہونے کا بھی احتمال

رکھتی ہے اور فاسد ہونے کا بھی۔

اس پر شامی کا بیان ہے:

ای بتحمل البطلان والفساد والظاهر هو الثاني لأن علة الفساد الغر كما مر مع وجود رکنی العقد (ردا الحجرا ۱۸۲/۲)۔

یعنی بطلان اور فساد دونوں کا اس لفظ میں احتمال ہے اور بظاہر فاسد ہونا مراد ہے، اس لئے کہ (جیسا کہ مذکور ہوا) فساد کی علت غر ہے اور ایجاد و قبول پایا جا رہا ہے۔

اس لئے یہ "بعض فاسد" ہے، اور بقشہ کے بعد خریدار کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، "بعض فاسد" کے سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اگر بعض میں فساد حق شرع کی بناء پر پیدا ہوا ہو اور وہ کسی کارگناہ پر مشتمل ہو تو یہ بہر حال باعث گناہ ہے، اگر نزاع کے اندر یہ سے ہو اور عمل نزاع نہ پیدا ہو تو گو قضاء بعض فاسد ہو گی لیکن دینانہ درست و صحیح ہو جائے گی، اس سلسلہ میں مولانا نور شاہ کشمیری کی تحریر چشم کشائے:

إِنْ مِنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدَةُ مَا لَوْ أَتَى بِهَا أَحَدٌ جَازَتْ دِيَانَةُ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً قَضَاءً وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَسَادَ قَدْ يَكُونُ لِحَقِّ الشَّرْعِ، بَأَنْ اشْتَمِلَ الْعَقْدُ عَلَى مَأْثَمٍ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَقَدْ يَكُونُ الْفَسَادُ لِمُخَافَةِ التَّنَازُعِ، وَلَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ أَخْرَى بِوْجَبِ الْإِثْمِ فَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَقُعْ فِيهِ التَّنَازُعُ جَازَ عِنْدَى دِيَانَةٍ وَإِنْ بَقِيَ فَاسِدًا قَضَاءً لَا رَفَعَ عَلَى الْفَسَادِ وَهِيَ الْمُنَازِعَةُ، وَيَدِلُّ عَلَيْهِ مَسَانِدُهُمْ فِي بَابِ الْمُضَارَّةِ وَالشَّرِّكَةِ فَإِنَّهَا رَبِّما تَكُونُ فَاسِدَةً مَعَ أَنَّ الرِّبَحَ يَكُونُ طَيِّبًا، وَرَاجِعٌ "الْهُدَايَا" وَنَبِهِ الْحَافِظُ أَبْنَ تِيمِيَّةَ فِي رِسَالَتِهِ عَلَى أَنَّ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَا يَقُعُ فِيهِ النَّزَاعُ فَتَكُونُ تِلْكَ جَائزَةً، فَإِذَا أَدْخَلْتَهَا فِي الْفَقْهِ وَجَدْتَهَا مَحْظُورَةً لِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامَ الْفَقْهِ تَكُونُ مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ وَالدِّيَانَاتِ فِيهَا قَلِيلَةٌ وَإِنَّمَا يَصْارُ إِلَى قَضَاءٍ بَعْدَ النَّزَاعِ فَإِذَا لَمْ يَقُعْ النَّزَاعُ وَلَمْ يُرْفَعْ الْأَمْرُ إِلَى الْفَاقِيْهِ نَزَلَ حَكْمُ الدِّيَانَةِ لَا مَحَالَةَ فِي بَقِيَّ الْجُوازِ (فيض الباري ۲۵۸/۳)۔

بعض کے بعض فاسد معاملات وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو کرہی لے تو دینانہ جائز ہے گو قضاۓ فاسد ہے، اور وہ اس لئے کہ فساد کبھی حق شرع کی بناء پر ہوتا ہے، بایس طور کے انجام دیا گیا معاملہ کسی گناہ کو شامل ہو تو یہ کسی حال میں جائز نہیں، اور کبھی معاملہ اندر یہ نزاع کے تحت فاسد ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور باعث گناہ نہیں ہوتا تو اگر اس میں نزاع کی صورت نہ پیدا ہو تو میرے نزدیک یہ معاملہ دینانہ جائز ہے گرچہ یہ قضاۓ فاسد ہی رہے گا، کیونکہ نزاع جو عالم فساد تھی وہ موجود نہیں، اور اس کی دلیل مضاربہ و شرکت کے ابواب کے مسائل ہیں کہ بعض اوقات یہ معاملات فاسد ہوتے ہیں لیکن نفع حلال ہوتا ہے، اس سلسلہ میں "ہدایہ" سے مراجعت کی جاسکتی ہے، نیز حافظ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ میں اس پر متفقہ فرمایا ہے کہ جس بعض میں نزاع نہ پیدا ہو، وہ جائز ہو گی، اگر تم اس کو باب فقه میں داخل کرو گے تو ناجائز پاؤ گے، کیونکہ فقه کے اکثر احکام قضاۓ کے باب سے ہوتے ہیں، اور دیانت کے مسائل اس میں کم ہوتے ہیں، قضاۓ کی طرف

اسی وقت رجوع کیا جاتا ہے کہ نزاع پیدا ہو گئی ہو، لہذا اگر نزاع پیدا نہیں ہوئی اور معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو لامحالہ دیانت کا حکم جاری ہو گا اور جواز باقی رہے گا۔

اس لئے یہ امر بھی غور طلب ہے کہ ”قبضہ سے پہلے خرید و فروخت“ کی ممانعت از قبیل حق شرع ہے یا حق عباد، اور یہ صرف قضاء فاسد ہے یا دیانت بھی؟ راقم الحروف کا خیال ہے کہ اس کی ممانعت حق عبد کی بناء پر ہے نہ کہ حق شرع کی بناء پر، اور اس کا فساد دیانت ہے نہ کہ قضاء۔

### قبضہ کے مفہوم میں عرف کا دخل:

حقیقت یہ ہے کہ احادیث میں قبضہ کا کوئی متعین و محدود مصدقہ بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ خود احادیث میں قبضہ کی مختلف کیفیات کی طرف اشارہ موجود ہے، مثلاً حضرت عبد اللہ بن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ تمیں حکم دیا جاتا تھا کہ مقام خریداری سے منتقل کئے بغیر دوبارہ اس کو فروخت نہ کریں، يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتغناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (مؤطراً أمما مالك ۲۶۳) حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب تک تجارت خرید و مال کو اپنے کجاوے میں منتقل نہ کر لیں فروخت نہ کریں، حتى يحوزها التجار إلى رجالهم (۳۹۲/۲) حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ناپ تول کو قبضہ قرار دیا گیا ہے: فلا يبعه حتى يكتاله (مسلم ۲/۵)۔ ظاہر ہے کہ ناپ تول، سامان کو اس کی جگہ سے ہٹانا، اور سامان کو اپنی دوکان یا سواری میں منتقل کرنے کے مفہوم و مصدقہ میں خاص افرق ہے اور جن الفاظ کی شریعت نے تحدید نہ کی ہوان کی بابت اصول ہے کہ ”عرف“ ہی سے ان کی مراد متعین ہو گی، سیوٹی کا بیان ہے:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشُّرُعُ مُطْلِقاً وَلَا ضَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْلُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ وَمُثْلُوهُ  
بِالْحَرْزِ فِي السُّرْقَةِ وَالتَّفْرِقِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ (الأشباه والنظائر للسيوطى ۱۹۶/۱۹۶).

شریعت میں جو لفظ مطلق وارد ہوا ہو اور اس کی بابت نہ شریعت میں ضابطہ مقرر ہو اور نہ لغت میں، تو اس میں عرف کی طرف لوٹا یا جائے گا، چوری کے مسئلہ میں حرزاً (حفاظت)، بیع میں تفرق نیز قبضہ سے فقہاء نے اس کی مثال دی ہے۔

ایسی لئے فقہاء متفق اللسان ہیں کہ قبضہ کا مصدقہ لغت اور اشیاء کی نوعیت کے لحاظ سے ہو گا، علامہ علاء الدین کاسانی کہتے ہیں:

وَلَا يُشْرِطُ الْقَبْضُ بِالْبَرَاجِمِ لَأَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِنُ وَالتَّخْلِي وَارْتِفَاعُ الْمَوَاعِدِ  
عِرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً (بدائع الصنائع ۲۲۳/۵).

انگلیوں سے قبضہ شرط نہیں ہے، اس لئے کہ قبضہ کے معنی ”تمکن“ و ”تخلي“، اور عرف و عادت اور حقیقت کے اعتبار سے موافع کے ختم ہو جانے کے ہیں۔

علامہ ابوالبرکات در دریر قمطر از ہیں:

وَقْبَضُ الْعَقَارِ .. بِالتَّخْلِيَةِ .. وَقْبَضُ غَيْرِهِ .. .. بِالْعُرْفِ الْجَارِيِّ بَيْنَ النَّاسِ (الشَّرْحُ الْكَبِيرُ عَلَى بَامْشِ الدَّسْوِيِّ ۱۲۵/۳)۔

غیر منقول اموال میں قبضہ تخلیہ کے ذریعہ اور دوسری اشیاء میں لوگوں کے عرف و رواج کے مطابق ہوگا۔

امام نووی کا بیان ہے:

لَانَ الْقَبْضُ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَطْلَقَهُ فَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ ، وَالْعُرْفُ فِي مَا يَنْقُلُ النَّفْلُ وَفِي مَا لَا يَنْقُلُ التَّخْلِيَةُ (شرح المهد ب ۲۴۵/۹)۔

شریعت میں قبضہ کا ذکر ہے اور مطلق ہے لہذا اس کو عرف پر محول کیا جائے گا، اور عرف منقولہ اموال میں یہ ہے کہ نقل قبضہ ہے، اور غیر منقولہ اموال میں تخلیہ۔

فقہاء حنابلہ میں ابن قدامہ لکھتے ہیں:

لَانَ الْقَبْضُ مُطْلَقٌ فِي الشَّرْعِ فَيَجِبُ الرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالْإِحْرَازِ وَالتَّفْرِقِ (المُغْنِي ۹۰/۳)۔

کیونکہ قبضہ شریعت میں مطلق ہے، لہذا اس میں عرف کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، جیسے احرار، تفرق۔

اس لئے قبضہ کے سلسلہ میں یہ متفق علیہ ہے کہ قبضہ دراصل "تخلیہ" یعنی مالک اور اس شے کے درمیان کوئی مانع تصرف امر کو باقی نہ رکھنے کا نام ہے، اور یہ ہر دور کے عرف اور ہر عہد کے رواج اور طور و طریق ہی سے متعین ہو سکتا ہے۔

قبضہ میں سامان کی نوعیت کا لحاظ:

جیسے قبضہ میں ہر عہد کے عرف کا اعتبار ہے، اسی طرح ہر شے کا قبضہ اسی کے لحاظ سے ہوگا، شامی کے الفاظ ہیں: يختلف بحسب المبيع (ردا المختار ۳۸/۳)۔

ای لئے فقہاء کے یہاں مختلف صورتوں میں الگ الگ کیفیات کو قبضہ قرار دیا گیا ہے، مثلاً چند صورتیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ بیچ فاسد میں قبضہ کے لئے اس شے کو اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے، مخفی تخلیہ یعنی موائع کا ہٹاؤ دینا کافی نہیں، المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية ب يريد باليد (ابحر الرائق ۱۹۷/۲)۔

۲۔ کبھی خریدار کے تھیلے میں اس کی اجازت سے فروخت کردہ شے کا رکھ دینا قبضہ کے حکم میں ہے، چاہے ایسا کرتے وقت خریدار موجود نہ ہو، لو اشتري مکيلا معينا ودفع المشتري الى البائع ظرفها وامرها ان يكيله في ظرف فعل البائع والمشتري غائب صح (ابحر الرائق ۱۶۸/۶)۔

۳۔ کبھی قبضہ کا اطلاق کسی شے اور اس کے درمیان موائع تصرف کے ختم کر دینے سے تسلیم کیا

جاتا ہے، مثلاً کسی شخص کے پاس بطور امانت یا عاریت سامان موجود تھا، صاحب امانت اور صاحب عاریت نے اسی شخص سے وہ چیز فروخت کر دی تو جب بھی یہ اس سامان کے پاس آ جائیں، قبضہ کی تکمیل ہو جائے گی، اب اگر اس کے بعد وہ سامان ضائع ہو جائے تو خریدار کی ملکیت سے ضائع ہو گا۔

بصیر المشتری قابضًا بالتخلية فإذا هلك بذلك من مال المشتري  
(البحر الرائق ۸۰ ر ۶)۔

خریدار تخلیہ کی وجہ سے قبضہ کرنے والا متصور ہو گا، لہذا اگر اس کے بعد بیع ضائع ہو جائے تو یہ خریدار کے مال میں سے متصور ہو گا۔

قاضی خان لکھتے ہیں:

أجمعوا على أن البيع بالتخلية في الجائز تكون قبضًا (فتاویٰ قاضی خان ۲۷۲/۲)۔

اس پر اجماع ہے کہ بیع صحیح میں تخلیہ قبضہ ہے۔

عالیکمیری نے بھی یہی بات لفظ کی ہے، تاہم لکھا ہے کہ صاحب اجتناس نے "تخلیہ" کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی ہے کہ خریدار کو اس پر قبضہ کرنے کو کہدے، ان يقول خلیت بینک وبين المبيع فاقضه (فتاویٰ ہندیہ ۹/۳) نیز خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے کہ بیع اگر دری پر بھی واقع ہو پھر بھی "تخلیہ" قبضہ کے لئے کافی ہو گا، ان بالتخلية يقع القبض وإن كان المعقود عليه وبعد عنها (خلاصۃ الفتاویٰ ۸۹/۳) یہی رائے عربی دبتان فقهہ کے مشہور شارح ابن قدامہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ قبضہ کے لئے تخلیہ اور بیع کا ممتاز و مشخص ہونا کافی ہے، إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التعمير (فتاویٰ ہندیہ ۱۰/۳)۔

۲۔ کبھی فقہا نے مکان کی کنجی حوالہ کر دینے کو قبضہ کے لئے کافی تصور کیا ہے، گو وہ خود اس مکان تک نہ گیا ہو، ولو باع الدار وسلم المفتاح قبض المفتاح ولم يذهب الى الدار يكون قابضًا (فتاویٰ قاضی خان ۲۷۹/۲)۔

عالیکمیری میں ہے:

وقبض المفتاح قبض الدار إذا تهيأ له فتحها بلا كلفة (فتاویٰ ہندیہ ۱۰/۳)۔

اگر کنجی سے بلا تکلف مکان کھولا جا سکتا ہو تو کنجی پر قبضہ مکان پر قبضہ کے حکم میں ہے۔

۵۔ کبھی سامان میں خریدار کا تصرف قبضہ کے حکم میں ہوتا ہے، مثلاً خریدار کے حکم سے فروخت کنندہ نے فروخت کئے ہوئے گیوں کو پیس دیا، تو گیوں پر قبضہ ہو گیا، واذا أمر المشترى للبائع بطبع الحنطة فطح صار قابضًا (فتاویٰ ہندیہ ۱۲/۳)۔

۶۔ بیع میں خریدار کے حکم سے کوئی اور شخص تصرف کرے تو یہ بھی قبضہ کے لئے کافی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ باندھی پر قبضہ سے پہلے اس کا نکاح کر دے اور ناک اس سے ڈھنی کر لے، تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ نکاح

بجائے خود اس کی طرف سے قبضہ سمجھا جائے گا، اور بعض حضرات کے نزدیک "وٹی" کے بعد قبضہ محقق ہو گا، و من اشتری جاریہ ول مقبضہا حتی زوجہا فو طبیہا فالنکا جانز (ہدایہ ۸۶/۲) اس سے معلوم ہوا کہ خریدار کے دل کا تصرف خود خریدار کا تصرف سمجھا جائے گا۔

۷۔ بعض صورتوں میں ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینے پر قبضہ کا اطلاق ہوتا ہے، و ان کا نام.. فقبض المبيع نفلہ (المغنى ۲/۱۱۱)۔

### ایک لفظی نزاع :

بہر حال فقہاء حنفیہ کے یہاں "قبضہ" تخلیہ سے عبارت ہے، البتہ اس کی کیفیت مختلف اشیاء کے لحاظ سے علاحدہ ہو سکتی ہے، خواہ اموال منقولہ ہوں یا غیر منقولہ (ردا الحجرا ۲۸/۳)۔ مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اموال غیر منقولہ میں تو قبضہ "تخلیہ" کے ذریعہ وجود میں آتا ہے اور دوسری اشیاء میں ان کے حسب حالات، چنانچہ امام نووی نے لکڑی و غلہ جات وغیرہ میں منتقلی اور درہم و دینار میں ہاتھ یا کپڑے وغیرہ میں لے لینے کو قبضہ قرار دیا ہے (شرح المہد ب ۲۷۶/۹) حنابلہ نے ان کے علاوہ ناپی، توپی اور شمارگی جانے والی اشیاء میں خریدار کے ناپ، توپ اور شمارگی کو بھی قبضہ شمار کیا ہے (الرض المراعی ۲۲۳) مالکیہ نے بھی منقولہ اشیاء میں حسب عرف و رواج قبضہ کا مفہوم معین کیا ہے (الشرح الکبیر علی ہامش الدسوی ۳۵/۳)۔

تاہم میرے خیال میں یہ کوئی جو ہری اختلاف نہیں بلکہ حنفیہ نے "تخلیہ" کے مفہوم میں وسعت پیدا کی ہے اور تخلیہ حقیقی و حکمی کی دو صورتیں کر کے استیلاء کی تمام صورتوں کو اس میں سمیت لیا ہے، اور دوسرے فقہاء نے "تخلیہ" کو تخلیہ حقیقی تک محدود کر کے اس کا دائرہ نسبتاً تک رکھا ہے اور اس کے مقابلہ میں قبضہ کی دوسری کیفیات معین کی ہیں، اگر تخلیہ حکمی کی کیفیات شامی وغیرہ کتب احتفاف میں دیکھی جائیں اور اموال منقولہ میں قبضہ کی تفصیلات دوسرے فقہاء کی کتابوں میں، تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو گا۔ حاصل یہی ہے کہ قبضہ کے مفہوم میں ہر عہد کا عرف و رواج بھی ملحوظ ہے اور شے مقبوض کی نوعیت بھی۔

### خلاصہ بحث:

پس قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی بایت تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ

- ۱۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مسئلہ میں موجودہ حالات میں فقہ مالکی یا فقہ حنبلی کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فاسد ہے اور قبضہ کے بعد خریدی ہوئی شے پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔

- ۳۔ قبضہ کا مصدقہ نہ کتاب و سنت میں معین ہے اور نہ فقہاء نے اس کا کوئی قطعی مفہوم مقرر کیا ہے بلکہ ہر دور کے عرف اور خرید کی اشیاء کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔

۳۔ ”قبضہ سے پہلے خرید و فروخت“ کی ممانعت ”غیر“ کی بنابر ہے، غرر کش سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، غرر بیس سے فاسد نہیں ہوتا۔

۴۔ جو غرر باعث نزاع بن جائے وہ کثیر ہے، اور جو باعث نزاع نہ ہو اور عرف میں مردوج ہو وہ بیس ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے بیع فاسد ہوتی ہے نہ کہ باطل۔

۶۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا فساد حق عبد کی بنابر ہے نہ کہ حق شرع کی بنابر، اس لئے اس کا فاسد ہونا دیانتہ ہے نہ کہ تقفأۃ۔


۷۔ فیکٹری سے خریدے ہوئے مال کو منتقل کئے یا کوئی ایسا عمل کئے بغیر جو حسی طور پر قبضہ کہلاتے دوسرے سے فروخت کر دینا ”بیع قبل القبض“ میں داخل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، ”نقصان کا ضامن ہو جانا“، قبضہ کے تحقیق کے لئے کافی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص قبضہ کے بغیر اپنے اوپر ضمان کی ذمہ داری قبول بھی کر لے تو اس کا اعتبار نہیں، علامہ شامی کا بیان ہے:

اشترى بقرة مريضة و خلاها فى منزل البائع فانلا إن هلكت فمنى وماتت فمن البائع  
لعدم القبض (ردا المختار ۲۸۷)۔

بیمار گائے خریدی اور یہ کہہ کر فروخت کنندہ کے گھر میں چھوڑ دی کہ ہلاک ہو جائے تو میری ہلاک ہوئی اور گائے مرگی تو یہ بائع کے مال میں سے ہلاکت متصور ہو گی کیونکہ قبضہ نہیں پایا گیا۔

اس لئے محض ہلاکت مال کا ضامن ہو جانا قبضہ نہیں۔

۸۔ میں الاقوامی تجارت میں شپنگ کے ذریعہ خرید و فروخت کی طرف جواشارہ کیا گیا ہے، اس میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت بھی ہے اور ”ربيع المضمون“، بھی، اس لئے یہ صورت بھی جائز نہیں۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محبوب علی وجہی

۱۔ منقولات میں قبضہ سے پہلے بیع فاسد ہے، اس لئے کہ منقولات میں قبضہ شرط ہے بیع کی حقیقت نہیں ہے۔

۲۔ قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ مشتری کا مبیع پر تصرف و قبضہ ہو جائے خواہ حقیقی ہو یا حکمی، بظاہر شریعت نے قبضہ کی کوئی خاص صورت معین نہیں کی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مبیع کی نوعیتوں میں فرق ہے، اس کے لئے کوئی صورت معین نہیں کی جاسکتی، اس لئے قبضہ کی صورتیں بھی الگ الگ ہیں، زمین بوروں اور بکسوں میں نہیں بھری جاسکتی، اس کا قبضہ یہ ہے کہ بالع مشتری کا اس میں قتل لگوادے، اپنا سامان اگر اس میں ہوتونکال لے، اس لئے شریعت مطہرہ نے نہ اس کی کوئی خاص صورت معین کی اور نہ کوئی ایک طریقہ مقرر فرمایا بلکہ عرف کے مطابق ایسا عمل جو مشتری کے اس پر غلبہ کو بتائے اور مشتری کو مبیع میں تصرف کرنے میں کوئی مانع پیش نہ آئے بلکہ آزادانہ طور سے مشتری اس میں حسب منشاء تصرف کر سکے اور بالع کے اموال سے اس کو امتیاز حاصل ہو جائے اسی کو قبضہ مان لیا ہے۔

۳۔ منقول چیزوں میں قبضہ کا طور طریقہ غیر منقول سے جدا ہے، دونوں کی نوعیت ایک نہیں ہے۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی احادیث معلوم ہیں، بعض چیزوں میں ربا یا شہر کے داخل ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، اور بعض چیزوں میں غرراً اور دھوکہ سے مشتری کو بچانا مقصود ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے بیع کی ممانعت عام نہیں ہے اسی لئے ائمہ مجتہدین اور اکابر علماء کا اس میں اختلاف ہے، بدایۃ الجہد میں علامہ اندلسی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

اما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته و أما  
الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه و أما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط  
في مبيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار واما الشافعى فان القبض  
عنده شرط في كل مبيع و به قال الثورى . او رأى في ذلك اسی میں ہے: وقال أبو عبيدة و إسحاق كل شيء  
لا يكتال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه فيحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال الأول في  
الطعام الربوي فقط، الثاني في الطعام بإطلاق، الثالث في الطعام المكيل والموزون، الرابع في  
كل شيء ينقل ، الخامس في كل شيء، السادس في المكيل والموزون، السابع في المكيل


والموzon والمعدود .

اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں قبضہ شرط نہیں ہے بلکہ مستثنیات بھی ہیں، اس کے دلائل یہ ہیں: لا يحل  
بيع و سلف ولا ربح في مال مضمون ولا بيع مال ليس عندك ، اور عبد الله بن عمرؓ سے روایت ہے: أن  
رسول الله ﷺ قال من اتبع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه .

اس سے معلوم ہوا کہ جو میع مشرٹی کی ضمان میں داخل نہیں ہوا اس کو فروخت کر کے نفع کمانا جائز نہیں، جب  
اس کی ضمان میں داخل ہو جائے تب اس کا قبضہ اور اس کا تصرف صحیح ہو گا، مگر یہ ابو عینیفؓ کے نزدیک صرف منقولات  
میں ہے، اور غیر منقولات میں ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے اس لئے حکماً مشرٹی کی ضمان اور قبضہ میں مان لیا جاتا ہے،  
کیونکہ قبضہ حسی بھی ہوتا ہے اور حکمی بھی، امام صاحب کے نزدیک قبضہ کے لئے تخلیہ کافی ہے، جیسا کہ درختار میں ہے: ثم  
التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمنى من القبض او رد المحتار میں ہے: ولو اشتري حنطة في بيت و  
دفع البائع المفتاح إلية وقال خليت بينك وبينها فهو قبض -

۶۔ میں نے یہ تحریر کیا ہے کہ قبضہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) حکمی، ضمان میں میع کا داخل ہونا قبضہ حکمی  
کے اندر داخل ہے اس لئے خریدار نمبر (۲) کے ہاتھ میع حکماً قبضہ ہو جانے کی وجہ سے صحیح ہے، جیسے باائع میع کو ایک کوٹھری  
میں رکھ کر مشرٹی سے کہہ کر میں نے میع کو کوٹھری میں رکھ کر بند کر دیا اور میں نے میع اور تمہارے درمیان تخلیہ کر دیا تو  
مشرٹی کا حکماً قبضہ ہو جائے گا۔

۷۔ جب ضمان کو ہم نے حکماً قبضہ تسلیم کر لیا تو پہلے باائع نے مال جہاز پر چڑھا دیا اور مال جہاز پر چڑھانے کے  
بعد یہ مشرٹی جس کا مال ہے اس کا ضامن ہو گیا تو حکماً اس مال پر اس کا قبضہ ہو گیا، اور جب اس کا قبضہ ہو گیا تو اس کے  
فروخت کرنے کا بھی حق اس کو حاصل ہو گیا، اور جب اس نے دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تو اس کی ضمان سے  
نکل کر اس کی ضمان میں داخل ہو گیا، اور ضمان میں داخل ہونے کے ساتھ قبضہ بھی حکماً تسلیم کر لیا گیا، لہذا یہ بیع درست  
ہو گئی اور یہ صورت شرعاً درست ہو گئی۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے احکام

مفتی جنید عالم ندوی قاسمی

پھلواری شریف پٹنا

### قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شرعی حکم:

تقریباً تمام فقہاء کرام قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو کسی نہ کسی درجہ میں ناجائز کہتے ہیں۔ البتہ یہ بعث فاسد ہے یا باطل اس سلسلہ میں حکم شرعی بیان کرنے سے قبل یہ وضاحت ضروری ہے کہ حفظیہ کے علاوہ جمہور فقہاء بعث باطل اور بعث فاسد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک بعث تک صحیح نہ ہواں وقت تک بعث کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے کتابوں میں اس خاص مسئلہ میں جمہور کا مسلک بیان کرتے ہوئے ”ولا بجز“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیۃ میں ہے:

و عند الجمهور وهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل في الجملة. هو مالم يترتب أثره عليه، فلم يشمر ولم تحصل به فائدته من حصول الملك.. (یہی جمہور الفقہاء المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ) انه لا فرق بين البيع الفاسد والبيع الباطل، فهما متراծان، لأن كلا من البيع الفاسد والباطل وقع على خلاف ما طلبہ الشارع، ولذلك لم يعتبره، ولم يترتب عليه الاثر الذي رتبه على البيع الصحيح من حصول الملك وحل الانفاق (الموسوعۃ الفقہیۃ ۵۲، ۵۲/۹)۔

البتہ فقہاء احناف بعث فاسد اور بعث باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بعث باطل وہ بعث ہے جو نہ اصلاً مشروع ہوا ورنہ ہی وصفاً۔ اور بعث فاسد وہ بعث ہے جو اصلاً مشروع ہو لیکن وصفاً مشروع نہ ہو۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ بعث کے اركان (ایجاد و قبول) میں کوئی خلل ہو مثلاً: عاقدین میں ایجاد و قبول کی الہیت نہ ہو۔ جیسے کوئی مجنون یا کوئی لا یعقل بچہ ایجاد و قبول کر لے تو یہاں پر بعث کے اركان ایجاد و قبول ہی میں خلل ہے۔ یا محل یعنی میج میں کوئی خلل ہو، مثلاً: بیع مردار یا خزری یا خون یا شراب ہو تو دونوں صورتوں میں بعث باطل ہے۔ اور وصف سے مراد یہ ہے کہ بعث کے رکن اور محل کے علاوہ کسی دوسری چیز میں خلل ہو، مثلاً: شراب کے عوض میں کوئی چیز خریدی جائے، تو یہاں پر شمن میں خلل ہے۔ یا بیع غیر مقدور انتظام ہو۔ یا کوئی ایسی شرط لگادی جائے جو مقتضاۓ عقد کے خلاف ہو تو ان صورتوں میں بعث فاسد ہو گی نہ کہ باطل۔

فقہاء احناف نے بعث باطل اور بعث فاسد کے درمیان فرق کرنے کے لئے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ... جب عوضین میں سے کوئی ایک کسی بھی دین سماوی میں مال نہ ہو تو اس کی بعث باطل ہے خواہ وہ بیع ہو یا نہ، لہذا مردار، خون اور آزاد شخص کی بعث باطل ہے۔ اس لئے کہ یہ اشیاء کسی بھی دین سماوی میں مال نہیں ہیں۔ اور اگر عوضین

میں سے کوئی ایک کسی دین سماوی میں مال ہے اور کسی میں نہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کو بیع بناتے ہیں تو اس کی بیع باطل ہے، اور اگر تم بناتے ہیں تو اس کی بیع فاسد ہے۔ مثلاً: اگر شراب کو درہم و دنائیر یادو پے پیے کے عوض میں فروخت کرتے ہیں تو اس کی صورت میں شراب کا بیع ہوتا تعین ہو جائے گا اور اس کی بیع باطل ہو گی، اور اگر شراب کے عوض میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی بیع فاسد ہو گی۔

"وَكُلَّ مَا أُورْثَ حَلَالٌ فِي رَكْنِ الْبَيعِ فَهُوَ مِطْلُ وَمَا أُورْثَهُ فِي غَيْرِهِ فَمَفْدُدٌ... (در مختار) (وقوله في ركن البيع) هو الإيجاب والقبول بان كان من مجنون او صبي لا يعقل... او في محله يعني المبيع فان الخلل فيه مبطل بان كان المبيع ميتة او دما او حرا او حمرا كما في ط عن البدائع (قوله وما أورثه في غيره) اي في غير الركن و كذا في غير المحل و ذلك بان كان في الشمن بان يكون حمرا مثلا او بان كان من جهة كونه غير مقدور التسليم او فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة فاسدا لا باطل لسلامة ركته و محله عن الخلل... و به ظهر أن الوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل (تبية) في شرح مسكن ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل ان أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل سواء كان مبيعا أو ثمنا فيبيع الميتة والدم والحر باطل و كذا البيع به وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض ان يمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد فيبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد وإن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل فيبيع الخمر بالدرارهم أو الدرارهم بالخمر باطل" (رواية رقم ۱۰۰ رواية رقم ۳۷۴).

ذکورہ بالتفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمیور فقہاء کے نزدیک قبضہ سے قبل بیع ناجائز ہے۔ بیع صحیح کے احکام و اثرات (ملکیت و انتخاع) اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ البتہ فقہاء احتلاف کے نزدیک چونکہ نہ تو بیع کے ارکان میں کوئی خلل ہے اور نہ ہی مجمع میں، بلکہ یہ خلل خارج میں ہے، اس لئے یہ بیع فاسد ہوئی نہ کہ باطل۔ بیع باطل میں سرے سے بیع ہوتی ہی نہیں۔ بیع کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ قبضہ کی وجہ سے نہ تو فروخت کرنے والا شخص کا مالک ہوتا ہے اور نہ خریدار بیع کا۔ البتہ بیع فاسد میں قبضہ کی وجہ سے بالغ شمن کا اور مشتری مجمع کا مالک ہو جاتا ہے۔ لہذا قبضہ سے پہلے خریدار بیع کے بعد مجمع کا مالک ہو جائے گا اور اس کے لئے دوسروں سے فروخت کرنا جائز ہو گا۔

### قبضہ سے پہلے خریدار بیع کے متعلق فقہاء کے اقوال:

قبضہ سے قبل کن اشیاء کی بیع جائز ہے اور کن اشیاء کی ناجائز؟ اور عدم جواز کا حکم عام ہے یا خاص؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں جو درج ذیل ہیں:

### ۱۔ متفق علیہ قول :

اس پر تقریباً تمام فقہاء متفق ہیں کہ طعام کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ الموسوعہ میں شرح کبیر کے حوالہ سے ابن المند رکا یہ قول نقل کیا ہے کہ طعام کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے۔

اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔

ویقول ابن المنذر: اجمع اہل العلم علی ان من اشتری طعاما فليس له أنس بیعه حتى  
یستوفیه (الموسوعۃ القمیۃ ۹/۱۳)۔

ابن علام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی میں البتی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر چیز کی بیع قبل قبضہ سے قبل جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ البتی کے نزدیک طعام کی بیع بھی قبضہ سے قبل جائز ہے۔ البتی کے اس قول کے متعلق علام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ قول احادیث نبویہ اور متفق علیہ دلائل کی روشنی میں مردود ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حرمت والی حدیث "البتی" تک نہیں ہے تو چیز تھی۔ اس جیسے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ولم اعلم بین اهل العلم خلافا، إلا ما حکى عن البتی أنه قال: لا بأس بیع كل شئ قبل قبضه، وقال ابن عبد البر: وهذا قول مردود بالسنة والحنجة المجمعة علی الطعام، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إلیه (المغنی ۲/۱۲)۔

خلاصہ یہ ہے کہ طعام کی بیع قبل قبضہ سے قبل ناجائز ہے۔ اس میں سوائے ایک مردود اور تاقابل اتنا قول کے کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ طعام کے علاوہ دیگر اشیاء کی خرید و فروخت قبل قبضہ سے قبل جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## ۲۔ شوافع کا مسئلہ :

اس مسئلہ میں شوافع کا مسئلہ یہ ہے کہ قبضہ سے قبل کسی چیز کی بیع جائز نہیں ہے، خواہ وہ منتقل ہو یا غیر منتقل اور اگرچہ باائع کی اجازت دینے اور ثم پر قبضہ کر لینے کے بعد ہو۔ امام شافعی "کتاب الام" میں تحریر فرماتے ہیں: (قال الشافعی) وبهدانأخذ فمن اتباع شيئاً كاتناها كان فليس له أنس بیعه حتى یقبضه" (کتاب الام ۲۰/۳) تحفہ الحجاج میں ہے: "ولا یصح بیع المبیع قبل قبضه" اس کی شرح "شرح منهاج" میں ہے: "(قوله ولا یصح بیع المبیع) قال فی شرح الروض ای والمعنى وإن أذن البائع وقبض الشمن" (تحفۃ الحجاج مع شرح منهاج ۳۰۱/۳)۔

## شوافع کے دلائل:

شوافع کے دلائل وہ روایات ہیں جن میں مطلقاً قبضہ سے قبل بیع کی بیع کو منوع قرار دیا گیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حکیم ابن حرام کی روایت ہے: وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ میں چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ ان میں سے کوئی چیز میرے لئے حلال ہے اور کون سی چیز حرام، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "بَا ابْنَ أخْيَ! إِذَا اشْتَرَتْ مِنْهَا بِبَعْدِ فَلَاتَبِعْهُ حَتَّى تَقْبَضَهُ" یعنی جب تم کوئی چیز خریدو تو اس پر قبضہ کرنے سے قبل فروخت نہ کرو (مصنف عبد الرزاق ۳۹/۸)۔

حکیم بن حرام علی کی روایت زائی شریف میں ہے کہ: حضور اکرم ﷺ نے غیر موجود ہئے کی بیع سے منع فرمادیا

ہے (نائلی ۲۲۵/۲)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جوچیز اپنے خان میں نہ ہواں سے نفع حاصل کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ روایت نائلی اور ترمذی میں ہے۔

شوافع فرماتے ہیں کہ بیع پر قبضہ سے قبل بیع کرنा "بیع مالیس عندک" اور "ربح مالم یضمون" ہے جس کی ممانعت احادیث میں آتی ہے۔

شوافع کی ایک دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس کا وہ قول بھی ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں لعقل کیا ہے۔ عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں: اما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله (بخاری ۱/۲۸۶)۔ یعنی حضور ﷺ نے طعام کی بیع قبضہ سے قبل کو منع فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو طعام ہی کے مثل سمجھتا ہوں۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس طعام کی طرح ہر چیز کی بیع کو قبضہ سے قبل ناجائز سمجھتے تھے۔

شوافع کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قبضہ سے قبل بیع پر مشتری کی ملکیت کمزور ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بیع قبضہ سے قبل ہلاک ہو جائے تو بیع ختم ہو جائے گی۔ اور جب ملکیت کمزور ہے تو اس کی بیع جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ در حقیقت غیر مملوک کی بیع ہوگی جس کی ممانعت احادیث میں موجود ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر قبضہ سے قبل بیع کو جائز قرار دیتے ہیں تو شے واحد پر دو شخصوں کا خان لازم آتا ہے۔ ایک تو باائع اول خامن ہے، اور دوسرا مشتری اول، مشتری ثانی کے لئے خامن ہو گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔

وعله ضعف الملک لانفساخہ بتلفه كما مر و قبل اجتماع الصمانين على شيء واحد  
إذ لو صاح لضمنه المشترى ايضا للثانى قبل قبضه فيكون مضمونا له و عليه (تحفۃ الکائن ۳۰۱ راج ۲۰۳)۔

### ۳۔ مالکیہ کا مسلک:

مالکیہ کے نزدیک صرف طعام کی بیع قبضہ سے قبل جائز نہیں ہے۔ خواہ طعام ربوبی ہو جیسے گیہوں، یا غیر ربوبی ہو جیسے پھل۔ طعام کے علاوہ و مگر تمام اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہے۔ مالکیہ کے نزدیک طعام کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہے۔ اس کے لئے بھی دو شرطیں ہیں:

طعام کسی چیز کے عوض میں لیا گیا ہو۔ مثلاً اجرہ یا شراء یا صلح کے ذریعہ حاصل ہو۔ ایسی صورت میں طعام کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہے۔ اگر بغیر کسی عوض کے حاصل ہو، مثلاً: ہبہ یا اوراثت میں ملا ہو تو ایسی صورت میں قبضہ سے قبل بھی طعام کی بیع جائز ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تاپ کر کر یا قول کر کے طعام کو حاصل کیا ہو۔ اس صورت میں قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں ہے، خواہ وہ دوسروں کو کیل کر کے فروخت کرے یا اندازہ سے۔ اگر کیل یا وزن یا گن کر کے طعام حاصل نہیں کیا بلکہ اندازہ سے حاصل کیا تو ایسی صورت میں قبضہ سے قبل بھی اس کی بیع جائز ہے، خواہ وہ دوسروں کو کیل کر کے

فروخت کرے یا اندازہ سے۔ الموسوعۃ النجفیہ میں مذهب المالکیہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

ومذهب المالکیۃ ان المحرم المفسد للبيع، هو بيع الطعام دون غيره من جميع الاشياء قبل قبضه سواءً أكان الطعام ربوبا كالقمح أم غير ربوي كالتحفاج عندهم، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه... لكنهم شرطوا فساد هذا النوع من البيع شرطين:

الف: أن يكون الطعام مأخوذاً بطريق المعاوضة اى في مقابلة شيء باجرة أو شراء أو صلح أو إرش جنائية..... أو غير ذلك من المعاوضات، فهذا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه.

اما لو صار إليه الطعام بهبة أو ميراث مما ليس أخذه بعوض فيجوز بيعه قبل قبضه.  
ب: وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد فيشتريه بكيل ويبيعه قبل قبضه سواءً باعه جزافاً أم على الكيل أما لو اشتراه جزافاً ثم باعه قبل قبضه فيكون بيعه جائزًا سواءً أباعه جزافاً أم على الكيل (الموسوعۃ النجفیہ ۹/۱۲۶).

### مالكیہ کے دلائل:

ان کے دلائل وہ تمام روایات ہیں جن میں صراحةً طعام کی بیع قبضے سے قبل منوع قرار دی گئی ہے۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بعض روایات میں قبل قبضے اور بعض روایات میں قبل ان يستوفیہ کا جملہ آیا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ”طعام“ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ طعام کے مساوا کی بیع قبضے سے قبل جائز ہے، ورنہ تخصیص کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ قبضے سے پہلے خرید و فروخت والی روایات بعض تو مطلق ہیں اور بعض مقید۔ شوافع نے مقید کو مطلق پر محول کیا ہے اور مالکیہ نے مطلق کو مقید پر۔ شوافع اور مالکیہ کے ماہین اختلاف کی اصل وجہ یہی معلوم ہوتی ہے۔

### ۲۔ حنابلہ کا مسلک:

اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل سے متعدد روایتیں منتقل ہیں۔ ان میں سے دو مشہور روایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

- ۱۔ کسی چیز کی بھی بیع قبضے سے قبل جائز نہیں ہے۔ اس روایت کو ابن عقیل نے اختیار کیا ہے۔
- ۲۔ صرف طعام کی بیع قبضے سے قبل جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء کی بیع قبضے سے قبل جائز ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے اس روایت کو اظہر الروایتین قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قدامہ المغنى میں امام احمد ابن حنبل کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروایتین... وعن احمد رواية أخرى:  
لا يجوز بيع شيء قبل قبضه اختيارها ابن عقیل (المغنی ۳/۱۲۷).

## حاتمہ کے دلائل:

امام احمد بن حنبل کا ایک قول شوافع کے مطابق ہے، اور ایک قول مالکیہ کے مطابق ہے۔ لہذا ان کے دلائل بھی وہی ہوں گے جو شوافع اور مالکیہ کے ہیں۔

## احناف کا مسلک:

اس مسئلہ میں احناف کے مابین اختلاف ہے۔ امام محمد اور ایک قول کے مطابق امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل جائز نہیں ہے، خواہ وہ منقولی ہوں یا غیر منقولی۔ منقولی اشیاء کی طرح زمین و جاندار کی بیع بھی قبضہ سے قبل جائز نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور راجح قول کے مطابق امام ابو یوسف یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ غیر منقولی اشیاء مثلاً زمین کی بیع قبضہ سے قبل بھی جائز ہے۔

## امام محمدؐ کے دلائل:

اس سلسلہ میں امام محمدؐ کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

الف: قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت سے متعلق روایات مطلق اور عام ہیں۔ ان میں منقولی اور غیر منقولی تمام اشیاء شامل ہیں۔ نیز غیر مضمون اشیاء سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت احادیث میں آئی ہے۔ اور منقول اشیاء کی طرح زمین و جاندار بھی قبضہ سے قبل غیر مضمون ہیں۔ مشتری کے ضمان میں زمین نہیں آئی ہے، لہذا مشتری کے لئے اس سے اتفاق جائز نہیں ہوگا۔

ب: عین شے کی ملکیت عقد کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور اس میں تصرف کی ملکیت قبضہ کے ذریعہ اور عقد کے ذریعہ عین کی ملکیت حاصل ہونے میں عقار اور منقول دونوں برابر ہیں۔ لہذا قبضہ کے ذریعہ تصرف کی ملکیت حاصل ہونے میں بھی عقار اور منقول دونوں برابر ہوں گے۔

ج: بیع کے جواز کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیع مقدمہ و راستہ مسلم ہو۔ بالغ بیع کو مشتری کے حوالہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اور جب غیر منقولی اشیاء، قبضہ میں نہ ہوں تو بالغ ان کو مشتری کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اس لئے وہ شے نہ تو اس کے قبضہ میں ہے اور نہ ہی اس کے نائب کے قبضہ میں۔ اگر نائب کے قبضہ میں ہوتی تو بھی مشتری کے حوالہ کر سکتا تھا۔ جہاں تک بالغ اول کے قبضہ کا سوال ہے تو وہ مشتری اول کا نائب نہیں ہے۔

## شیخین کے دلائل:

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسفؐ کے دلائل یہ ہیں کہ بیع کے ارکان ایجاد و قبول بھی صحیح ہیں، اس لئے کہ اپنے اہل عاقل، بالغ کی طرف سے صادر ہوئے ہیں اور ایجاد و قبول کا محل بھی صحیح ہے، اس لئے کہ وہ مال ملوك ہے۔ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ قبضہ سے قبل بھی بیع صحیح ہو۔ البتہ منقول اور عقار دونوں میں فرق یہ ہے کہ منقول اشیاء میں قبضہ سے

قبل یہ اندیشہ ہے کہ مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے نفع ختم ہو جائے اور مشتری کو مبیع نہیں سکے اس طرح مشتری کو دھوکہ ہو گا۔ اور روایات میں دھوکہ کی بیع سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسا غرر و دھوکہ ہے جس سے احتراز ممکن ہے۔ جہاں تک غیر منقول اشیاء کی بات ہے تو ان میں اس طرح کے دھوکہ کا امکان کم ہے۔ ان میں مبیع کے ہلاک ہونے کا اندیشہ شاذ و نادر ہے جس کا اعتبار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے یہ صراحة نے کہ اگر زمین ایسی جگہ میں ہو جہاں پر ضائع اور بر باد ہونے کا اندیشہ غالب ہو، مثلاً دریا اور سمندر کا کنارہ ہو، پانی یا ریت کے غالب آجائے کی وجہ سے زمین کے بر باد ہونے کا اندیشہ ہوتوا لیسی جگہ میں زمین یا دیگر عقار کی بیع بھی قبضہ سے قبل جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ اندیشہ کہ بیع کے بعد کوئی مستحق شخص نکل آئے تو اس کی وجہ سے بھی بیع ختم ہو جائے گی اور مشتری کو دھوکہ ہو گا تو یہ اندیشہ قبضہ کے بعد بھی ہے۔ اس طرح کے غرر اور دھوکہ سے بچا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ عقار کی بیع قبضہ سے قبل بھی جائز ہے۔ اس کی مزید دلیل یہ ہے کہ شفیع کو قبضہ سے قبل بھی حق شفعت حاصل ہے اور وہ بدل وے کر خریدی ہوئی جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ جب وہ بدل دے کر مبیع کو لے لے گا تو مشتری کا حق ختم ہو جائے گا۔ اگر عقار پر قبضہ سے قبل بدل کے ذریعہ اس کے مالک بنانے کا احتمال نہ ہوتا تو شفیع کو قبضہ سے قبل حق شفعت حاصل نہیں ہوتا۔

شیخین کے مسلک پر یہ ادھار ہوتا ہے کہ ممانعت والی روایات تو مطلق اور عام ہیں۔ ان میں منقول اور غیر منقول کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اور آپ قیاس کے ذریعہ یہ فرق کر رہے ہیں جو صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایات عام خص منہ البعض ہیں۔ اس لئے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں قبضہ سے قبل بھی تصرف صحیح ہے۔ مثلاً مٹن یا مہر یا بدل صلح یا بدل خلع۔ ان میں بالاتفاق قبضہ سے قبل تصرف جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک دو روایات جو عام خص منہ البعض ہوں ان کی تخصیص قیاس کے ذریعہ بھی جائز ہے۔

### دیگر فقہاء کے دلائل کے جوابات:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں فقہاء کرام کے جو دلائل ہیں ان کے جوابات شیخین کی جانب سے دیے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

امام مالک کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ روایات میں طعام کی تخصیص ہے۔ لہذا اطعام کے علاوہ دیگر اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہو گی ورنہ اس تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شے کی تخصیص مساوا کی نظر نہیں کرتی ہے۔ احناف کے نزدیک نصوص میں مقہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ طعام والی روایات کے مقابلہ میں دوسری روایات بھی ہیں جو عام ہیں، جن کا ذکر شوافع کے دلائل کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ جہاں تک ان عام روایات کا تعلق ہے جن سے شوافع، حنابلہ اور امام محمد نے استدلال کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ وہ روایات معلوم بالعمل ہیں غرر کے ساتھ، جن جگہوں پر قبضہ سے قبل بیع کرنے میں ایسا غرر اور دھوکہ لازم آئے جس سے احتراز ممکن ہوتا وہاں پر قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں ہو گی اور جہاں پر اس طرح کا غرر شاذ و نادر ہو یا احتراز ناممکن ہو وہاں پر بیع جائز ہو گی۔ جیسا کہ مٹن، مہر، اسی طرح بدل صلح، بدل خلع، اور میراث میں قبضہ سے قبل تصرف جائز ہے۔ اس لئے کہ ان میں غرر اور

دھوکہ کا امکان نہیں ہے۔ اگر شمن یا مہر بدل صلح اور بدل خلع متین ہوں تو بھی ان کے ہلاک ہونے کے بعد بعث ختم نہیں ہوگی بلکہ ان کی قیمت واجب الادا ہوگی۔

جہاں تک امام محمدؐ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ قبضہ کے بعد بیع مشتری کے خمان میں آتی ہے۔ اسی طرح قبضہ کے بعد وہ بیع کو مشتری کے حوالہ کر سکتا ہے، اس سے قبل نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیع میں تصرف کی اجازت حاصل ہونے کے لئے ملکیت شرط ہے نہ کہ خمان۔ اگر ملکیت ثابت ہے تو تصرف کی اجازت ہے گرچہ وہ شے خمان میں نہ آؤے۔ جیسا کہ شے موبہب پر قبضہ کر لینے کے بعد موہب کو اس میں تصرف کی اجازت ہے حالانکہ وہ شے اس کے خمان میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح مشتری کے حوالہ کرنے پر قدرت دوسروں کے ذریعہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا کوئی روکاوت پیدا نہ کرے (احناف کے مسلک اور ان کے دلائل کی تفصیل کے لئے دیکھئے: بنایہ معہدایہ ۲، ۵۰۹، ۵۱۰، تفسیر الحقاقي ۲، ۸۱، ۸۲، مبسوط للمرتضی ۱۰، ۸۷)۔

### قول راجح:

تمام دلائل پر غور کرنے کے بعد شخین یعنی امام ابوحنیفہ و امام ابویوسف کا قول راجح اور اقرب الی الفقه معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ شخین کے دلائل اور دیگر فقہاء کرام کے دلائل کے جوابات سے واضح ہے۔

### ایک ضابطہ:

کن چیزوں میں قبضہ سے قبل تصرف جائز ہے اور کن چیزوں میں جائز نہیں؟ اس سلسلہ میں فقہاء احناف اور فقہاء حنابلہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ:

ہر وہ عوض جو کسی عقد کے ذریعہ حاصل ہو قبضہ سے قبل اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں عقد ختم ہو جائے تو اس عوض میں قبضہ سے قبل تصرف جائز نہیں ہے۔ جیسے بیع یا اجرت جبکہ وہ متین ہو۔ اور اگر قبضہ سے قبل اس کے فوت ہونے سے عقد ختم نہ ہو تو اس میں تصرف قبضہ سے قبل بھی جائز ہے۔ جیسے مہر کی رقم، یا بدل خلع، یا عتق علی مال ہے۔

وفی الإيضاح كمل عوض ملك بعقد يفسخ العقد فيه بحالكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه كالبيع والأجرة إذا كانت عيناً وبديل الصلح إذا كان معيناً وما لا يفسخ العقد بهلاكه فالصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبديل الخلع والعتق على مال وبديل الصلح" (بنایہ ۵۰۸، المغني ۱۲۸، ۲)۔

حنفیہ میں امام محمدؐ نے اس سلسلہ میں ایک دوسرا ضابطہ بیان کیا ہے کہ:

ہر وہ تصرف جو قبضہ کے بغیر تام و مکمل نہ ہو تو اس میں قبضہ سے قبل بھی تصرف جائز درست ہے۔ مثلاً ہبہ، صدقہ، رہن اور قرض ہے۔ اگر مشتری بیع پر قبضہ سے قبل ہی اس کو ہبہ کر دے یا رہن رکھدے یا کسی کو قرض دیدے یا صدقہ کر دے تو یہ جائز ہو گا۔ اس لئے کہ یہ عقود بغیر قبضہ کے مکمل نہیں ہوتے۔ جب موہب لے قبضہ کرے گا تو وہ واہب کا (خریدار کا) نائب ہو گا۔ اس حیثیت سے وہ اولاً واہب کے لئے قبضہ کرے گا پھر اپنے لئے۔ اسی صورت میں مشتری کا

تصرف در حقیقت قبضہ کے بعد سمجھا جائے گا۔

اور ہر وہ تصرف جو قبضہ کے بغیر بھی مکمل ہو جائے اس میں قبضے قبل تصرف جائز نہیں ہے، مثلاً بیع یا اجارہ ہے۔ ان میں قبضے قبل تصرف اس لئے جائز نہیں ہے کہ مشتری ثانی کا قبضہ مشتری اول کا قبضہ نہیں سمجھا جائے گا۔ کیونکہ یہ تصرف قبضہ پر موقوف نہیں ہے۔ اب جب مشتری اول فروخت کر رہا ہے تو گویا کہ قبضے سے پہلے میع میں تصرف کر رہا ہے جو جائز نہیں ہے۔

ثم قال محمد کل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائز لأنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه... لأن الهبة لما كانت لا تم إلا بالقبض صار الموهوب له نائبا عن الواهب وهو المشترى الذى وله البيع قبل قبضه ثم يصير قابضا لنفسه فتم الهبة بعد القبض بخلاف التصرف الذى يتم قبل القبض كالبيع مثلاً فإنه لا يجوز لأنه إذا قبضه المشترى الثانى لا يمكن قابضا عن الأول لعدم توقف البيع على القبض فيلزم منه تملك البيع قبل قبضه وهو لا يصح (شامی ۱۶۲، ۱۶۳)۔

**کیا قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث معلول بالعملہ ہیں؟**

اوپر کے بیان سے یہ واضح ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث معلول بالعملہ ہیں۔ اس لئے کہ بعض چیزوں میں قبضہ سے قبل تصرف کی اجازت خود روایات سے ثابت ہے۔ مثلاً ثمن میں قبضہ سے قبل تصرف کی اجازت ہے۔ اسی طرح مہر، بدل خلع اور بدل صلح میں قبضہ سے قبل تصرف کی اجازت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ نہیں والی روایات عام نہیں ہیں بلکہ نہیں کی ایک عملت ہے۔ اور وہ عملت غرر اور دھوکہ ہے۔ جہاں قبضہ سے قبل بیع کرنے میں یا اندیشہ ہو کہ بیع کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں بیع ختم ہو جائے گی اور بیع مشتری ثانی کو نہیں مل سکے گی وہاں قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں ہوگی۔ اور جہاں غرر اور دھوکہ کا اندیشہ نہ ہو وہاں بلاشبہ قبضے قبل بھی بیع جائز ہوگی اس لئے کہ صحت بیع کی جو شرطیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالتفصیل سے واضح ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

”والغدر المنهی عنه غرر انفاسخ العقد والحدث معلول به عملاً بدلائل الجواز“

صاحبہ نایا اس کے تحت لکھتے ہیں:

(والحدث) ای الحدیث المذکور (معلول به) ای بغیر انفاسخ العقد فيما قبل القبض بہلاک المعقود علیہ فیکون مخصوصاً بالمتقول، الا ترى أنه يحظر الإعتاق قبل القبض والوصية قبله (عملاً بدلائل الجواز) ای جواز البيع من الكتاب والسنة والإجماع (بنای شرح مذاہیہ ۵۰۹/۶)۔

تبیین الحقائق میں ہے: ومارواه معلول بغیر انفاسخ العقد بالہلاک قبل

القبض... والدليل على أنه معلوم به أن التصرف في الثمن قبل القبض جائز لأنه لا غرر فيه وكذلك التصرف في المهر ونحوه جائز قبل القبض لما أمن منه والفقه فيه أن المطلق للتصرف وهو الملك قد وجد لكن الاحتراز عن الغرر واجب ما يمكن و ذلك فيما يتصور فيه الغرر (تبسيط العقائص ٨٠/٢).

### شرع اسلامی میں قبضہ کی حقیقت:

مالکیہ، شافعیہ اور حنبلہ کے نزدیک قبضہ کی شرعاً کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے متصور ہے اور یہ عرف و عادت پر محول ہے۔ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کا استیلاء اور عمل فعل لوگوں کے عرف میں قبضہ متصور ہو وہی اس کے حق میں قبضہ مانا جائے گا۔ اگر کلی اور روزنی اشیاء ہوں تو ان کا قبضہ کیل اور وزن کے ذریعہ ہوگا۔ اگر دراہم و دنانیر اور روپے پیسے ہوں تو ان کا قبضہ با تھہ میں لینے سے ہوگا۔ اور اگر کپڑا ہو تو اس کا قبضہ اس کی جگہ سے منتقل کر دینے سے ہوگا۔ اگر منقولی اشیاء ہوں تو ان کا قبضہ ان کی جگہ سے منتقل کر دینے سے ہوگا۔ اور اگر غیر منقولی اشیاء ہوں تو ان کا قبضہ تخلیہ کے ذریعہ ہوگا۔ یعنی مشتری اور میمع کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

"وَقْبَضَ كُلَّ شَيْءٍ بِحِسْبِهِ فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مُوزُونًا بَيْعَ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا فَقَبْضُهُ بِكِيلِهِ وَوَزْنِهِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي... وَإِنْ كَانَ الْمَبْيعُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَقَبْضُهَا بِالْيَدِ وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا بِالْيَدِ فَقَبْضُهَا نَقْلُهَا وَإِنْ كَانَ حِيوانًا فَقَبْضُهُ تَمْثِيلَهُ مِنْ مَكَانِهِ وَإِنْ كَانَ مَمَالِيْعًا لَا يَنْقُلُ وَيَحْوَلُ فَقَبْضُهُ التَّخْلِيَّةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَشْتَرِيهِ لَا حَائلَ دُونَهِ... وَلَانَ الْقَبْضُ مُطْلَقٌ فِي الْشَّرْعِ، فَيَجُبُ الرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالا حِرَازُ وَالتَّفْرِقُ، وَالْعَادَةُ فِي قَبْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا ذُكِرَ نَاهِيًّا (المغني ١٢٦، ١٢٥، ٣/٢).

احناف کے نزدیک اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ میمع اور مشتری کے درمیان ایسا تخلیہ جس سے قبضہ پر قدرت ہو جائے اور کوئی چیز مانع اور حائل نہ ہو، یہ تخلیہ قبضہ سمجھا جائے گا۔ درختار میں ہے: ثُمَّ التَّسْلِيمُ يَكُونُ بِالْتَّخْلِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَبْضِ بِلَا مَانِعٍ وَ حَائلٍ (درختار)۔

علامہ شامی نے درختار کی عبارت "علی وجه یتمکن من القبض" کے تحت تفصیلی بحث کی ہے کہ تخلیہ بھی حکما قبضہ ہے اور ہر چیز کا تخلیہ اس کے حساب سے ہے، مثلاً اگر کسی گھر میں گیہوں وغیرہ ہے تو اس کا تخلیہ یہ ہے کہ کنجی مشتری کے حوالہ کر دی جائے اور وہ بغیر کسی کلفت و پریشانی کے مکان کھولنے پر قادر ہو۔ اگر مکان ہے تو اس کا تخلیہ اور قبضہ یہ ہے کہ اس کے بند کرنے پر مشتری قادر ہو جائے۔ اگر جانور ہے تو اس کا تخلیہ اور قبضہ یہ ہے کہ چراگاہ میں جانور دکھا دیا جائے اور اس کی جانب اشارہ کر دیا جائے۔ اگر کپڑا ہے تو اتنا قریب ہو کہ مشتری جب با تھا اس کی جانب بڑھائے تو ہاتھ کپڑے تک پہنچ جائے۔

علامہ شامی اس کی پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے الحرمائق کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: "وَحَاصِلَهُ أَنِ التَّخْلِيَّةُ قَبْضٌ حَكْمًا أَوْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كَلْفَةٍ لَكِنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحِسْبِ حَالِ الْمَبْيعِ فَفِي نَحْوِ

حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن تكون في البلد فيما يظهر وفي نحو بقر في مرجعى لكونه بحث برى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب لكونه بحث لو مدعى تصل إليه قبض (رداختر ٢٣/٢).

صاحب بداع علامہ کاسانی قبض کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

إن معنى القبض هو التمكين والتخلية وارتفاع الموضع عرفاً أو عادةً حقيقة (داع الصناع ١٣٨/٥).

علامہ کاسانی اور علامہ شامی نے قبضہ اور اس کے ذیل میں تخلیہ کی بحث کرتے ہوئے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قبضہ کی شرعاً کوئی تعین و تحدید نہیں ہے بلکہ ہر شے کا قبضہ اس کے حساب سے ہے، اور یہ عرف و عادت پر محمول ہے۔ جہاں جس عمل دخل کو قبضہ سمجھا جاتا ہو وہاں وہ عمل دخل اس کے حق میں قبضہ سمجھا جائے گا۔ احناف اور انہمہ مثلاش کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی خاص فرق نہیں معلوم ہوتا ہے... رقم المعرف کے خیال میں بھی ہر چیز کے قبضہ کو عرف و عادت پر محمول کرنا چاہئے۔ جس جگہ جس عمل، دخل کو قبضہ تصور کیا جاتا ہو اس عمل دخل کو اس کے حق میں قبضہ تسلیم ہرنا چاہئے۔

**اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں فرق:**

مذکورہ بالتفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اختبار سے فرق ہے۔ دونوں کے قبضہ کی ایک ہی صورت نہیں پہلو ہو گی۔

**فیکثری سے خرید کردہ مال کو قبضہ سے قبل فروخت کرنا:**

فقہاء کرام کی تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے قبل بیع کی بیع اس لئے جائز نہیں ہے کہ وہ خریداروں کے خان میں نہیں آئی، اگر بیع خریدار کے خان میں آجائے تو پھر اس کی بیع جائز ہے۔ گویا کہ فقہاء نے خان کو حصی قبضہ کے قائم مقام قرار دیا ہے، الموسوعہ میں طعام کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہے، اس پر اہل علم کا اجماع نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ "قالوا: ولو دخل في ضمان المشترى جاز بيعه والتصرف فيه كما جاز ذلك بعد قبضه" (الموسوعة الفقهية ٩/٦٢).

یعنی فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر طعام مشتری کے خان میں داخل ہو جائے تو اس کی بیع اور اس میں تصرف جائز ہے جیسا کہ قبضہ کے بعد جائز ہے۔

امام مالک طعام کی بیع کو قبضہ سے قبل اس وقت جائز قرار دیتے ہیں جب کہ وہ کیل یا وزن کر کے یا گن کر نہ لیا گیا ہو بلکہ اندازہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محض عقد ہی سے مشتری کے خان میں آ گیا۔ لہذا حکماً مقبول ہونے کی وجہ سے اس کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہے۔

والتقييد عند المالكية بغير الحزادف، لا خراج ما بيع جراها بغير كيل ولا عدد ولا وزن

من الطعام فإنه يجوز بيعه قبل قبضه لـ دخول في ضمان المشتري لمجرد العقد فهو مقبول حكماً (الموسوعة الفقهية ١٣٠/٩).

اس سے معلوم ہوا کہ فقہاء کے نزدیک بیع کا ضمان میں داخل ہونا قبضہ کے حکم میں ہے، نیز فقہاء احناف امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسف کے نزدیک عقار کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہے۔ یہ حضرات قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی شکی سے متعلق روایات کو معلوم بالعلة قرار دیتے ہیں۔ جب امام محمدؓ کی جانب سے ان پر اعتراض ہوا کہ عقار بھی قبضہ سے قبل مشتری کے ضمان میں داخل نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ دیا کہ بیع میں تصرف کی اجازت ملکیت میں آجائے کے بعد ہو جاتی ہے۔ ضمان میں داخل ہونا شرط نہیں ہے، اور محض عقد ہی سے ملکیت میں آجائی ہے۔ منقول اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز عملت غرر کی بنیاد پر ہے جو عقار میں موجود نہیں ہے، کتب فقہ حنفی کی تفصیلات کے مطابق جس جگہ غرر اور دھوکہ سے امان ہو وہاں پر قبضہ سے قبل بیع جائز ہے۔

"وَمَا يَقُولُونَ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقِبْضِ فَلَا شَرْطٌ ثُبُوتُ الْمُلْكِ بِالشُّرْفِ فِي الْمَحْلِ أَصْلُ الْمُلْكِ دُونَ الضَّمَانِ بِدَلِيلٍ جُوازُ التَّصْرِيفِ فِي الْمَوْهُوبِ بَعْدَ الْقِبْضِ" (المبسوط المسرحي ۱۰/۱۰).

اس مختصری وضاحت کے بعد سوال نامہ میں مذکور سوال کا جواب یہ ہے کہ فیکنری سے مال خریدنے والا شخص اگر اپنا مال الگ کر لیتا ہے۔ پھر وہیں سے دوسروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو یہ بلاشبہ بیع بعد القبض ہے جائز ہے، احرار کو قبضہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر اپنا مال الگ کرائے بغیر دوسروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو سوال میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ باائع اور مشتری کے معاملہ کے مطابق وہ مال مشتری کے ضمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور ہلاک ہونے کی صورت میں نہ تو باائع اول اس کا ضامن ہوتا ہے اور نہ مشتری ثانی، بلکہ مشتری اول اس کا ضامن ہوتا ہے۔ نیز یہاں پر غرر و دھوکہ بھی نہیں ہے، لہذا ضمان کو حکماً قبضہ تسلیم کرتے ہوئے اور دھوکہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کی خرید و فروخت جائز ہونی چاہئے۔ میری رائے میں یہ صورت جائز ہے۔

**جہاز پر مال چڑھاویئے کے بعد مشتری کا دوسرا کے ہاتھ فروخت کرنا:**

جب معاملہ بیع مکمل ہو جانے کے بعد مال جہاز پر چڑھاویا گیا اور مال مشتری کے ضمان میں داخل ہو گیا۔ باائع ہونے پر باائع پر کوئی تاو ان نہیں بلکہ مشتری کا نقصان ہو گا۔ تو اسی صورت میں مشتری کا سند رکے اندر ہی جہاز پر دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنا شرعاً جائز و درست ہو گا۔ مال کو اس کی جگہ سے منتقل کر کے جہاز پر چڑھاویانا اور اس کا مشتری کے ضمان میں داخل ہو جانا اس کے قبضہ کی دلیل ہے، یہ بیع بعد القبض سمجھی جائے گی۔ اسی طرح مشتری ثانی بھی دوسروں کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ خریداری کے بعد وہ مال اس کے ضمان میں داخل ہو گیا۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مفہومی محی الدین بڑو دوی

### بیع قبل القبض از قبیل فاسد ہے یا باطل؟

باطل وہ ہے جو نہ اصلاح درست ہو اور نہ وصفاً، اور فاسد وہ ہے جو وصفاً درست نہ ہو۔ ہر وہ چیز جس سے رکن بیع میں خلل آتا ہو وہ باطل ہے اور جس شی سے رکن بیع کے سوا دوسرا طرح خلل آتا ہو وہ فاسد ہے، جیسے تسلیم و تسلم میں خلل آتا ہو جو بیع کی وجہ سے واجب ہو گئے ہیں، یا بیع سے انتفاع مقصود میں خلل آتا ہو تو ایسی شی مفسد بیع ہے، یا اس خلاف مقتضی عقد شرط سے خالی نہیں ہے اسلئے خلل واقع ہو تو ایسی بیع بھی فاسد ہے۔

والباطل هو ما لا يكون صحيحاً أصلاً ووصفاً والفاسد هو ما لا يصح وصفاً وكل ما اورث حلال في ركن البيع فهو باطل وما اورث غيره كالتسليم والتسلم الواجبين به والانتفاع المقصود منه و عدم الاطلاق عن شرط لا يقتضيه وغير ذلك فهو مفسد (عنایت علی الہادیۃ بهامش فتح القدر ۲۳/۶)۔

یہ الگ بات ہے کہ فقہاء کرام کے یہاں فاسد کا لفظ اصطلاحی باطل اور فاسد دونوں پر بولا جاتا ہے، جہاں جہالت بیع یا شمن مفہومی رائی النزاع ہو اس پر بھی فساد کا اطلاق ہوتا ہے، اور بیع پر باائع کی ملک نہ ہونے کی صورت میں بھی فساد کا اطلاق ہوتا ہے حالانکہ عدم ملک کی صورت میں فاسد باطل کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح تسلیم و تسلم سے بجز کی صورت میں بھی فساد کا اطلاق ہوتا ہے۔

ثُمَّ الْفَاسِدُ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَعْمَلُ الْبَاطِلُ يُثْبَتُ بِأَسْبَابٍ مِّنْهَا الْجَهَالَةُ الْمَفْضُبَةُ فِي الْمَبْيَعِ وَالشَّمْنِ وَبِعَدِمِ مَلْكِ الْمَبْيَعِ لِلْبَائِعِ وَالْفَسَادُ بِمَعْنَى الْبَطْلَانِ إِلَّا فِي الْمُسْلِمِ أَوْ مَعَ الْمَلْكِ لَكِنْ قَبْلَ قَبْضَهِ وَمِنْهَا الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمِ (فتح القدر ۲۲/۶)۔

در اصل بات یہ ہے کہ باطل کے بعض افراد اس قدر کمزور ہیں کہ فاسد سے ملتے جلتے ہیں اسلئے ان کو فاسد کہہ دیا جاتا ہے اور فاسد کے بعض افراد میں فساد اس قدر قوی ہوتا ہے کہ ان کو باطل سے تغیر کر دیا جاتا ہے۔ قدوری نے مدبر اور ام ولد اور مکاتب کی بیع کو فاسد کہا۔ اور صاحب ہدایہ نے باطل کہا ہے۔ ہدایہ کے باطل کہنے پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ باطل تزوہ ہے جس میں ملک ثابت نہیں ہوتی ہے، اور فاسد وہ ہے جس میں قبضہ کے بعد ملک ثابت ہو جاتی

اور فقہاء لکھتے ہیں، مدبر یا ام ولد یا مکاتب کے ساتھ ملکر کسی خالص غلام کو بیجا جائے تو مدد بر وغیرہ میں بعث پاٹل ہوگی لیکن خالص غلام میں اسکے مقابل شمن کے عوض بعث درست ہوگی، تو اگر بعث پاٹل ہے تو غلام میں بھی پاٹل ہوتا چاہئے، اور فاسد ہے تو مدد بر اور ام ولد پر بھی ملک ثابت ہونی چاہئے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پاٹل اسلئے کہا گیا کہ مدبر اور ام ولد حرکی طرح قبضہ کے بعد بھی مملوک نہیں ہوں گے، اگر اس پر فاسد کا اطلاق ہوتا تو یہ مغالطہ ہوتا کہ مدبر، ام ولد اور مکاتب بھی قبضہ کے بعد مملوک ہو سکتے ہیں۔

صرف خطرہ یہ ہے کہ باائع قبضہ دینے سے انکار کردے تو مشتری کی ملک تامنہ ہو سکے گی، اسلئے اس کو فاسد قرار دیا ہے۔

تو بعث قبل القبض فاسد کا وہ فرد تو ہی ہے جو پاٹل سے ملتا جلتا ہے لیکن درحقیقت فاسد ہے، جیسے بعث مدبر من القن پاٹل کا فرد ہے جو فاسد سے ملتا جلتا ہے لیکن درحقیقت پاٹل ہے۔ اسلئے بعث قبل القبض میں نفس عقد سے جو ملک و جو ویڈیر ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اس کو پاٹل سے ممتاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ قبضہ کے بعد وہ ملک موکد ہو جاتی ہے۔ صاحب بدایہ فرماتے ہیں:

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل منه ما لملك المبيع ولذمه قيمة وقال الشافعي لا يملكه وإن قبضه لأنه محظور فلا ينال نعمة الملك الخ ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية وركته مبادلة المال بالمال (بدایہ)۔

جب مشتری بعث فاسد میں بعث پر باائع کی اجازت سے قابض ہو جائے اور عقد میں دونوں عوض مال ہوں تو مشتری بعث کا مالک ہو جاتا ہے اور اس پر بعث کی قیمت لازم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بعث فاسد میں قبضہ کے بعد بھی مشتری مالک نہ ہو گا اسلئے کہ یہ بعث شرعاً منوع ہے، اس وجہ سے ایسی منوع بعث سے نعمت ملک حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ رکن البيع (مبادلة المال بالمال) صادر ہو رہا ہے اس کے اہل سے، اور محل بعث میں صادر ہو رہا ہے، اس لئے بعث کے منعقد ہو جانے کا قابل ہونا واجب ہے۔ الہیت میں خفا نہیں ہے، اور رکن مبادلة المال بالمال موجود ہے، اور کام اسی میں ہے (بدایہ)۔

۲۔ باائع کی طرف سے مشتری کو بعث میں تصرف پر قدرت دینے کا نام قبضہ ہے۔ جب باائع نے مشتری کو بعث میں تصرف کرنے پر آزاد چھوڑ دیا اور موافق امتحانے تو مشتری بعث پر قابض سمجھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تصرف پر قدرت اور تخلیہ ہر شیء، ہر ماہول ہر زمانہ کے لحاظ سے بدل سکتا ہے، اسلئے اس کی کوئی حد قطعی متعر نہیں کی جاسکتی۔

حضرت امام فخر الدین قاضیGANJ اپنے فتاویٰ میں رقمطراز ہیں:

حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں مبیع و مشتری کے درمیان تخلیہ تم شرطوں پر قبضہ شمار ہوگا: اول بالع مشتری کو زبانی طور پر کہہ دے کہ میں نے تمہیں مبیع لینے کی اجازت دیدی ہے تم اسے لے لو، مشتری نے کہا کہ میں نے قبضہ کر لیا (لے لیا) (ظاہر بات ہے کہ عقار و غیر منقول میں اس قسم کا تخلیہ کافی ہو سکتا ہے)، دوسری شرط یہ ہے کہ مبیع مشتری کے سامنے موجود ہواں طرح کہ مشتری مبیع کو لینا چاہے تو بلا کسی مانع (رکاوٹ) کے لے سکتا ہو (یہ منقولات کے بارے میں ممکن ہے)، تیسرا شرط یہ ہے کہ مبیع غیر کے حق سے معمور و پُر نہ ہو اور دوسرے کی ملک سے ممتاز و علیحدہ ہو، جیسے گھر میں بالع کا اسباب، اگر دوسرے کے حق کو مبیع معمور و پُر کر رہا ہو جیسے گیوں بالع کے ظرف میں ہو یا اس جیسے کسی کو تو یہ تخلیہ میں مانع نہ ہوگا۔ (قاضی خاں ۲۵۸/۲)

### میع فاسد میں قبضہ کی حیثیت:

حضرت علام فخر الدین قاضیخان فرماتے ہیں:

البائع إذا حلَّ بين المبیع وبين المشتری بحيث يتمکن المشتری من قبضه يصیر المشتری قابضاً للمبیع حتی لو هلك قبل أن يقبضه حقيقة يهلك عليه و كذا لو حلَّ المشتری بين البائع والشمن... أجمعوا على أن التخلیة في البيع الجائز تكون قبضاً وفي البيع الفاسد روایتان والصحیح انه قبض (فتاویٰ قاضیخان بہامش ہندیہ ۲۵۷/۲)۔

جب بالع نے مبیع اور مشتری کو چھوڑ دیا کہ مشتری مبیع کے قبضہ پر قادر ہو جائے تو بلاکت مشتری کی ملک و قبضہ میں شمار ہوگی (بالع ضامن نہ ہوگا)، اسی طرح اگر مشتری نے بالع اور شمن میں تخلیہ کر دیا تو بالع شمن پر قابض شمار ہو گا... اس پر فقهاء کرام کا اتفاق ہے کہ میع جائز میں تخلیہ کو قبضہ کہیں گے، اور میع فاسد میں تخلیہ کے قبضہ ہونے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، صحیح روایت یہ ہے کہ میع فاسد میں بھی تخلیہ قبضہ شمار ہوگا۔

### ہر شی میں تخلیہ اور قبضہ کی صورت جدا ہوگی:

ولو باع نمرا على التحیيل و حلی بیه و بین المشتری صار قابضاً (قاضیخان)۔

اگر کھجور درخت پر نیچ ڈالی اور مشتری کو اجازت دیدی تو مشتری قابض ہو گیا۔ تو کھجور کا درخت اگرچہ بالع کا مملوک ہے مگر پھر بھی تخلیہ سے قبضہ ہو گیا۔

لیکن گھر خریدا اور بالع کا اسباب گھر میں ہے تو تخلیہ کے باوجود گھر پر قبضہ شمار نہ ہوگا کیونکہ تخلیہ کو قبضہ قرار دینے کی شرط یہ ہے کہ مبیع غیر کی ملک سے معمور و مشغول نہ ہو۔

اسی طرح زبانی تخلیہ کا قبضہ شمار ہونا عقار و غیر منقول اشیاء میں متصور ہے جبکہ گھر یا جائداد قریب ہو اور حق غیر سے خالی ہو۔ لیکن گھر یا جائداد وور ہو اور مشتری اس میں داخلہ یا اسکو مغلل کرنے پر قادر نہ ہو تو صرف زبانی کہہ دینے سے مشتری قابض نہ ہوگا، بلکہ حقیقی قبضہ مطلوب ہوگا، مثلاً دوسرے ملک میں جائداد ہے کہ مشتری بلا ویزا وغیرہ کے پہنچ نہیں سکتا تو زبانی تخلیہ سے قابض نہ ہوگا جب تک کہ مشتری یا اس کا وکیل قابض نہ ہو جائے۔

آج کل جائد وغیرہ کے دستاویز جو بواسطہ عدالت ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں ہوں اور جائیداد حق غیر میں مشغول نہ ہو، قبضہ شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے ملک میں ہوں تو دستاویز کے باوجود بھی مشتری کو قابض نہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ قاضیان فرماتے ہیں:

اگر کسی شخص کے ہاتھ مکان فروخت کیا اور مکان بالع مشتری کے سامنے موجود نہیں ہے، بالع نے کہا میں نے پرد کر دیا، مشتری نے کہا میں نے قبول کیا، تو ظاہر الروایہ میں ہے کہ مکان اور جائیداد غیر منقولہ میں یہ زبانی تخلیہ قبضہ کے قائم مقام ہوگا جبکہ مکان قریب ہو۔ اور نوادر روایت میں ہے کہ جب بالع مشتری سے کہتا ہے میں نے مکان پرد کرایا اور مشتری کہہ دے کہ قبول کیا، مکان سامنے موجود نہیں ہے (مگر وہ پہلے دیکھ لیا ہو) تو امام ابوحنینؓ کے قول کے مطابق مشتری قابض ہو جائے گا (خواہ مکان قریب ہو یا دور ہو)، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مکان قریب ہو اور داخلہ ممکن ہے یا مشتری اس پر اپنا قابل لگاسکتا ہو تب تو زبانی تخلیہ قبضہ شمار ہوگا اور مشتری قابض کہلانے گا ورنہ نہیں، لیکن ظاہر الروایت میں قریب کا اختبار ہے، اور صاحبین اور امام صاحب کے درمیان اختلاف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو ظاہر الروایہ میں ہے کیونکہ جب مکان قریب ہو اور حقیقی قبضہ متصور ہو تو تخلیہ حقیقی قبضہ کے قائم مقام بن سکتا ہے، اور اگر مکان دور ہو اور قبضہ حقیقی متصور نہ ہو تو تخلیہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ ہبہ اور صدقہ میں بھی یہی حکم ہے۔ (قاضی خاں ۲/۲۵۷)۔

اس مذکورہ تفصیل سے قبضہ حقیقی اور حکمی کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

۳۔ مذکورہ بالا وضاحت سے اشیاء منقولہ و غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت واضح ہو گئی کہ منقولہ میں اشیاء کے لحاظ سے نوعیت جدا ہو سکتی ہے اور غیر منقولہ میں نوعیت کا فرق ممکن ہے، اور یہ شریعت میں قبضہ کا ایک خاص مفہوم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی نوعیت مقام و موقع کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، لوگوں کے عرف و عادات کا اعتبار تو ہوگا مگر قبضہ کے شرعی مفہوم اور تخلیہ کی شرائط کی رعایت ضروری رہے گی۔ عرف و عادات میں قبضہ اور قبضہ شرعی میں تباہی نہیں ہے بلکہ عام خاص میں وجہ کی لمبٹت ہے۔

۴،۵۔ احادیث متعلقہ بیع قبل القبض اور ممانعت کی نوعیت:

حضرت امام مالکؓ کے یہاں طعام کمیل و موزون کے ساتھ مخصوص ہے، اور حضرت امام احمدؓ کے یہاں بھی طعام کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری اشیاء میں بیع قبل القبض جائز ہے۔

حضرت امام محمد اور حضرت امام شافعیؓ کے یہاں بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، نہ منقولات نہ غیر منقولات میں۔ حضرت امام ابوحنینؓ کا قول اول بھی یہی ہے، لیکن حضرات شیخینؓ کا قول معمول ہے یہ ہے کہ منقولات میں بیع قبل القبض جائز نہیں ہے اور عقار و غیر منقولات میں بیع قبل القبض جائز ہے۔

حضرت امام مالکؓ اور امام احمدؓ کا متدل وہ احادیث ہیں جن میں خاص طعام کی بیع سے ممانعت ہے۔

جیسے حضرت ابن عباسؓؓ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں: قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى

بَكَالهُ فَقْلَتْ لَابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ؟ فَقَالَ الْأَطْرَاهِمْ يَتَبَا يَعْوَنْ بِالْذَّهَبِ وَالْطَّعَامِ مَرْجَأْ وَلَمْ يَقْلَ أَبُو كَرِبَ  
مَرْجَأْ (مُسْلِمُ شَرِيفٌ).

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی غلہ خریدے تو اسکو کیل کرنے سے قبل فروخت نہ کرے، تو میں نے  
ابن عباسؓ سے دریافت کیا کیوں؟ فرمایا تم (دیکھ رہے ہو) کہ لوگ سونے اور طعام (غلہ) کے عوض ادھار بیچتے ہیں۔  
اور ابوکرب نے ادھار کا لفظ نہیں کہا۔

اسی طرح مختلف طرق سے یہ روایت مردی ہے جسکو مسلم نے بیان کیا ہے، اور روایت کے عام طرق میں  
طعام کے ساتھ ہی ممانعت کو مخصوص کیا گیا ہے۔ اس لئے حضرت امام مالکؓ اور امام احمدؓ نے ممانعت کو طعام کے ساتھ  
ہی مخصوص مانا ہے۔ خاص طعام کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مساویں حکم اس کے خلاف ہے، ورنہ تخصیص کا  
فائدہ ظاہر نہ ہو گا۔ ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ خاص طور پر کسی حکم کو کسی شی کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے  
کہ اس شی کے مساویں حکم اس کے خلاف ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اثْرَ  
حَرَامٍ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ كرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر اشهر حرام میں ظلم کرنا چاہئے۔

دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں مطلقائیق قبل القبض کی ممانعت ہے اور ایسی  
روایات بھی موجود ہیں جن میں ممانعت کی صراحت ہے۔

ترمذی شریف میں عبد اللہ بن عمر و کی روایت ہے: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُّ سَلْفٌ وَلَا بَعْ  
وَلَا شَرَطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْعٍ مَالِمٍ يَضْمُنُ وَلَا بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي بَابِ كُرَاهِيَّةِ  
بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ (وقال بذاحدیث حسن صحیح)۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قرض اور نیق جائز نہیں اور ایک نیق میں دو شرطیں جائز نہیں اور جوشی اپنے  
نہان و ذمہ داری میں نہیں آئی اس کا نفع و فائدہ حلال نہیں ہے اور جوشی اپنے پاس نہیں (جس کا مالک نہیں) اس کی نیق  
جائز نہیں۔

دوسری روایت حکیم بن حزامؓ کی ہے:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامَ قَالَ قَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ إِنِّي أَبْتَاعَ هَذِهِ الْبَيْعَ فَمَا يَحْلُّ لِي  
مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ يَا بْنَ أَخْيَرِي لَا تَبِعْنَ شَيْئًا حَتَّى تَقْبضَهُ وَفِي رَوَايَةِ أَبَانِ إِذَا اشْتَرَيْتَ بِبَيْعٍ فَلَا  
تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبضَهُ هَذَا الْلَّفْظُ لِلْبَهِيقِيِّ فِي سَنَنِهِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادُ حَسْنٍ مَتَّصِلٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبَانِ  
حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَحْمَدَ فِي مَسْنَدِهِ ۲۰۲/۳، وَفِيهِ تَعْمِيمُ الْحَكْمِ لِكُلِّ شَيْءٍ.

حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں یہ تجارت کر رہا ہوں تو ان میں سے کون  
کی بیوئے میرے لئے حلال اور کوئی بیوئے حرام ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے جواباً ایک ضابطہ کا یہ بیان کیا کہ کسی شی کو قبضہ  
سے پہلے نہ بیپاؤ، اور اب ان کی ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بیع کو خریدو تو جب تک قبضہ نہ کر لو فروخت نہ کرو۔ اس

روایت میں ممانعت کا حکم ہر شی پر عام ہے۔

**بع قبض کی نہی معلول بالعلة ہے:**

گذشت روایات میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت گذری ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے خود ایک ملت بیان کی ہے: "لوگ سونے اور نار کے عوض ادھار بیع کرتے ہیں"۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فتح ہوتی ہے "بیع الذهب بالذهب متضاصلاً" پر۔ کیونکہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے سو دینار میں ایک شی فروخت کی، ثُن ادا کر دیا، بیع بالغ کے قبضہ میں ہے، اور مشتری نے قبض سے پہلے ہی اس شئی کو ایک سو میں دینار کے عوض فروخت کر دیا اور ایک سو میں دینار لے لئے۔ گویا مشتری نے طعام پر قبضہ نہ کر کے بالا ہی بالا اس کی بیع کر دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ مشتری نے بالغ کو جو سو دینار دئے تھے اس کے مقابل اپنے مشتری سے ایک سو میں دینار لے رہا ہے تو اس مشتری اول کو سو میں دینار کا اضافہ سو دلار کے بدال مل رہا ہے۔ طعام تو گویا درمیان میں رہا ہی نہیں۔

یہ ملت منقولات اور غیر منقولات سب پر عام ہے کہ عقار کی بیع بھی قبض جائز ہونا چاہئے منقولات کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن یہ تعلیل حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابویوسفؓ کے خلاف چار ہی ہے، کیونکہ وہ عقار کی بیع کو قبض جائز قرار دیتے ہیں۔

اصلے دیگر حضرات نے ملت "ریح مالم-ضمون" قرار دی اور کہا کہ بیع قبل القبض میں مشتری ایک ایسی شی سے لفظ اخخار ہا ہے جس کے نقصان کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، اصلے یہ بیع جائز نہیں، اور عقار کی قبض بیع میں ریح مالم-ضمون کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عقار کی ہلاکت متصور نہیں ہے، جب نقصان کا پہلو بیع عقار میں نہیں ہے تو ریح مالم-ضمون بھی متحقق نہ ہو گا اور یہ ملت حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت میں مذکور ہے (تتملہ فتح ۲۹۲)۔

تحملہ فتح الہم میں عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت کے حوالہ سے ریح مالم-ضمون کے علت ہونے کے بارے میں صرف اشارہ ہے، لیکن مسئلہ وضاحت طلب ہے۔

حضرت علام شمس الدین سرہنیؒ نے اس مسئلہ پر میسوط کلام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

شیخینؒ کے نزدیک بیع عقار قبل القبض جائز ہے، اور امام محمد و شافعیؒ کے بیان جائز نہیں ہے، حضرت امام محمد و شافعی اسی عبد اللہ بن عمرؓ والی روایت اور بیع قبل القبض کی نئی کے بارے میں جو عمومی روایات آئی ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بیع عقار قبل القبض میں بھی جبکہ اپنی خرید قیمت سے زیادہ میں فروخت کیا جائے تو ریح مالم-ضمون کا تھقیق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے میع قبل القبض کی بیع کی ہے، تو جس طرح منقول میں ریح مالم-ضمون لازم آتا ہے عقار میں بھی لازم آئے گا، اس لئے دونوں میں بیع قبل القبض جائز ہو گی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ملک میں (ذات) نفس عقد سے حاصل ہوتی ہے تو قبض سے ملک تصرف حاصل ہوتی ہے، اور عقار و منقول ملک میں وملک تصرف میں برابر ہیں تو حکم میں بھی یکسا نیت ہوئی چاہئے۔

ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ سب ملک بیع ہے اور بیع بلا قبضہ کے تمام نہیں ہوتی ہے، اس لئے قبضہ سے پہلے عقد کے بعد مبیع میں جواضاف حاصل ہوتا ہے، اس کو بوقت عقد موجوداً مان کر مبیع میں شامل رکھا جاتا ہے، اور ملک موکد ہوتی ہے سب ملک کے موکد ہونے سے (اور سب ملک قبضہ سے موکد ہوتا ہے) اس میں منقول وغیر منقول برابر ہیں۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "قبضہ سے قبل مبیع مضمون بغیرہ ہوتی ہے، یعنی ثمن سے مضمون ہوتی ہے، (مشتری ثمن کا ذمہ دار ہوتا ہے) اگر قبضہ سے قبل مبیع ہلاک ہو جائے تو مشتری کے ذمہ سے ثمن ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح عقار کی ہلاکت متحور ہو اور قبل القبض ہلاک ہو جائے تو ثمن ساقط ہو جائے گا، جب ثمن کے خلاف میں دونوں یکساں ہیں تو پھر بیع مالم یضمون کے بارے میں بھی دونوں یکساں رہیں گے۔

ان کی تیسرا دلیل یہ ہے کہ عقار ہو یا منقول ہو جواز بیع کے لئے قدرت علی التسلیم دونوں میں شرط ہے، قدرت علی التسلیم بذاتی حاصل ہو یا نائب وکیل کے واسطے ہو، تو عقار جب تک بالع کے قبضہ میں ہے بالع اول کا قبضہ مشتری اول کے قبضہ کا نائب نہیں ہے، اس لئے مشتری اول کو بواسطہ نیابت قادر علی التسلیم نہیں مانا جا سکتا، اسلئے بیع عقار قبل القبض قدرت علی التسلیم نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ بیع عقار قبل القبض کا وہی درجہ ہے جو بیع منقول قبل القبض کا درجہ ہے، لیکن تصرف کے جواز کا مدار صرف ملک پر ہے قبضہ پر نہیں ہے۔

دیکھتے اپنے مودع یا غاصب کے قبضہ میں کوئی شی ہے اور مودع اور غاصب کو اقرار ہے کہ اس شی کا مالک فلاں ہے، تو فلاں کیلئے اس شی کو فروخت کرنا مودع اور غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ تصرف کا مدار ملک پر ہے۔

الیتہ غرر جواز تصرف میں مانع بن جاتا ہے اگر ملک میں غرر درپیش ہو اور اس غرر سے احتراز ممکن بھی ہو تو غرر سے بیع کر چلا جائے اور غرر کی موجودگی میں بیع نہ کی جائے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع الغرر سے منع فرمایا ہے۔

منقول میں قبضہ سے پہلے ملک (مشتری) میں غرر ہے، اسلئے کہ مبیع کی ہلاکت سے بیع منقض ہو جائے گی اور مشتری کی ملک باطل ہو جائے گی، اور قبضہ کے بعد یہ غرر مٹھی ہو جاتا ہے، اگر احتمال غرر رہتا ہے تو مبیع کے استحقاق کا رہتا ہے، اور اس تکمیل کے غرر سے احتراز ممکن نہیں ہے (اسلئے ایسے غرر کا اعتبار بھی نہیں اور اس کو مانع عن الیع نہیں قرار دیا جاسکتا)۔ اور عقار میں قبضہ سے پہلے استحقاق کے سوا مشتری کی ملک میں کوئی غرر متصور نہیں ہے، جس سے ہلاکت مبیع اور بیع کی نوبت آ جائے (اسلئے عقار کی بیع قبل القبض جائز ہے)

علامہ شمس الدین السرخی فرماتے ہیں:

وانتفاء الغرر لعدم تصور سبیه اصلاً یکون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور سبیه ولم

يُعمل وإنما يتصور الغرر فيه من حيث الاستحقاق و ذلك لا يمكن الاحتراز عنه والله ليل عليه أن التصرف في الشمن قبل القبض جائز لأنه لا غرر في الملك وكذلك التصرف في المهر قبل القبض يجوز عندنا لأنعدام الغرر في الملك فإن بالهلاك لا يبطل ملكيتها ولكن على الزوج قيمتها (المبسوط ۱۰۳).

سبب غرر کے بالکل متصور نہ ہوتے کی وجہ سے غرر ہونا زیادہ موثر ہے پس اس کے سبب غرر متصور ہو اور موثر نہ ہو (کیونکہ سبب غرر کا متصور ہونا بھی شبہ کا ناشی ہے) غیر منقول میں جبکہ استحقاق کے حوالہ سرا سبب غرر متصور ہی نہیں تو مانع بیع کا شبہ ہی نہیں ہے۔ استحقاق متصور ہے لیکن احتراز ممکن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مانع نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ جواز تصرف کا مدار عدم غرر پر ہے کہ شمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے۔ اسلئے کہ شمن (نقد) کی ملک میں غرر نہیں ہوتا کیونکہ عقود میں دراهم و دنانیر متعین نہیں ہوتے، اسی طرح مهر میں قبضہ سے پہلے زوج تصرف کر سکتی ہے کیونکہ مهر کی ملک میں غرر ہے تھی نہیں، اسلئے کہ مهر میں قبضہ سے قبل پلاکت کی صورت میں مهر کی ملکیت باطل نہیں ہوتی بلکہ شوہر پر ہلاک شدہ مهر (اگر عرض ہو) کی قیمت کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرات شوانع میں مهر کے قبل القبض پلاکت کی صورت میں اختلاف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پلاکت کی صورت میں تسمیہ باطل ہو جائے گا وہ قبضہ سے قبل مهر میں تصرف کے قائل نہیں ہیں "لقاء الغرر في الملك" ملک میں غرر کی موجودگی کی وجہ سے، اور جو یوں کہتے ہیں کہ ہلاک مهر سے تسمیہ باطل نہیں ہوتا وہ قبل القبض تصرف کو جائز قرار دیتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل وہی ہے جو تم کہتے ہیں کہ تصرف کا مدار عدم غرر پر ہے۔ فرماتے ہیں: جس تصرف سے غرر مانع نہیں ہے ایسا تصرف قبضہ سے پہلے بھی بھی بیع میں جائز ہوتا ہے (جسے آبق کا حق)، چنانچہ بیع قبل القبض میں حق نافذ ہو جاتا ہے، اسی طرح تزدیع بیع قبل القبض میں نافذ ہو جاتی ہے۔ (مبسوط)

ای سے حضرات شوانع کے اس استدلال کا فساد واضح ہو جاتا ہے کہ ملک موکد ہوتی ہے سب ملک کے موکد ہونے سے (یعنی بیع کے موکد ہونے سے) اور بیع قبضہ سے موکد ہوتی ہے (اسلئے بلا قبض عقار کی بیع بھی جائز نہ ہونا چاہئے کیونکہ منقول و عقار اس سبب میں متفق ہیں تو حکم میں بھی متفق رہنا چاہئے) کیونکہ حق تاکہ ملک کے تقاضہ میں محل کے اندر بیع سے بروحر کا اور مضبوط ہے۔


رہی یہ بات کہ شوانع کہتے ہیں کہ ملک تصرف مشتری کو قبضہ سے حاصل ہوتی ہے اور قبضہ سے ہی بیع مشتری کے ضمان میں آتی ہے، تھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ محل میں تصرف کی ملک (حق) اصل ملک سے ہی ثابت ہو جاتی ہے (ضمان سے ثابت نہیں ہوتی)، اس کی دلیل یہ ہے کہ موہوب شی میں قبضہ کے بعد تصرف جائز ہے (قبضہ سے قبل موہوب میں تصرف جائز نہیں ہے) کیونکہ بہہ میں قبضہ کے بعد ہی ملک تام ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ تصرف کا مدار ملک پر ہے، اسی طرح قدرت علی اسلام بھی ضمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ ملک

سے متعلق ہے، چنانچہ قدرت علی اسلامیم غیر کے ہاتھ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے جبکہ مالک منع نہ کرے۔ اور حضرات شوافع کا یہ کہنا کہ حدیث نبی عام ہے اسلئے منقول اور غیر منقول سب پر عام رہے گی، ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ حدیث اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، اس میں تخصیص ہو چکی ہے، اسلئے کہ سب اس پر متفق ہیں کہ تم میں قبل القبض تصرف جائز ہے اور مہر میں بھی قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے۔ لہذا عام نص من البعض میں قیاس سے تخصیص جائز ہے، اس لئے ہم اپنی دلیل مذکور سے حدیث عام کو منقول پر محول کرتے ہیں اور خاص سمجھتے ہیں۔

اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حق شفیع شفیع قبل القبض ہی مل جاتا ہے، اور شفیع بدل و قیمت سے ہی جانداد کا مالک ہو سکتا ہے، تو عقار قبل القبض مملوک بننے کا احتمال نہ رکھتی ہو تو شفیع کو بھی قبضہ سے پہلے اس عقار کو قبضہ سے پہلے لینے کا حق نہ ملنا چاہئے۔

لیکن حق شفیع کو قائم حق مشتری کا قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ حق شفیع مشتری کے حق سے مقدم ہے، اسی لئے شفیع کے لے لینے کی وجہ سے ملک مشتری باطل ہو جاتی ہے، اور ذمہ داری بالع پر عائد ہو جاتی ہے (المبسوط سرخی - ۱۰/۱۳)۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محمد حنفی

ریاض العلوم، گورنمنٹ - جوپور

۱۔ بعْ قَبْضٍ شَرِيعَتٌ مِّنْ نَاجِزَةٍ هُوَ، اسْكَا شَارِيعَ فَاسِدٍ مِّنْ هُوَ تَابَهُ، صَحْ بَعْ عَقَارٍ لَا يَخْشَى  
هَلَاكَهُ قَبْضٍ وَلَا يَصْحُ قَبْضٍ بَعْ الْمَنْقُولٍ وَمَفْسِدٌ بَعْ الْمَنْقُولٍ قَبْضٍ (دریخانہ -  
ج ۲۳، ص ۱۶۲)۔

۲۔ کتاب و سنت میں قبضہ کی کوئی حقیقت متعین نہیں کی گئی ہے، قبضہ کا مقصد بالع کے خان سے نکل کر مشتری  
کے خان میں داخل ہونا ہے۔ لہذا عرف میں جس چیز سے بیع بالع کے خان سے نکل کر مشتری کے خان میں داخل ہو  
جائے اس کو قبضہ سمجھا جائے گا، بہر حال کتاب و سنت میں قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین نہیں ہے، اس لئے منقولہ  
کے قبضہ کی حقیقت میں حضرات علماء کا اختلاف ہوا ہے۔

**اشیاء منقولہ میں قبضہ کی حقیقت:**  
**حضرات احناف:**

حضرات احناف کے نزدیک بیع کے اعتبار سے قبضہ کی حقیقت مختلف ہوتی ہے، لیکن ان حضرات کے  
نزدیک اتنی بات مسلم ہے کہ اگر بیع فی الحال مقدر التسلیم والتسليم ہو تو مشتری کو اطلاع کے بعد تخلیہ قبضہ حکمی ہوتا ہے،  
اپنے اشیاء کے مختلف ہونے کے لحاظ سے تخلیہ کی صورت بھی مختلف ہو گی، بیع خواہ منقول ہو، یا غیر منقول اگر فی الحال مقدر  
التسلیم والتسليم ہے، تو تخلیہ قبضہ ہے اور اگر فی الحال مقدر التسلیم والتسليم نہیں تو تخلیہ قبضہ نہیں، مثلاً بیع دور ہو، خواہ منقول  
ہو، خواہ غیر منقول ہے، یہی ظاہر الرؤایہ ہے، بعض کتابوں میں اشیاء غیر منقولہ کے سلسلے میں حضرات صاحبین کا جواختلاف  
منقول ہے وہ ضعیف ہے۔

ثُمَّ التَّسْلِيمُ يَكُونُ بِالْتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَبْضِ بِلَا مَانِعٍ وَلَا حَائِلٍ وَشَرْطُ فِي  
الْأَجْنَاسِ شَرْطًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنْ يَقُولُ: خَلِيلٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمُبَيِّعِ، فَلَوْلَمْ يَقْلِهِ أَوْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَصِرْ  
فَإِبْصَارًا وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ، فَإِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ قَرْبَةً وَيَعْرُونَ بِالْتَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ وَهُوَ لَا يَصْحُ بِالْقَبْضِ  
عَلَى الصَّحِيحِ (دریخانہ - ص ۲۲)۔

وَفِي حَاشِيَةِ وَحَاصلِهِ أَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ حَكْمًا وَلَوْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كَلْفَةٍ لَكِنْ  
ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ حَالِ الْمُبَيِّعِ فَفِي نَحْوِ حَنْطَةٍ فِي بَيْتِ فَدْفَعِ الْمَفْتَاحِ وَفِي نَحْوِ دَارِ الْقَدْرَةِ  
عَلَى إِغْلَاقِهَا قَبْضٌ أَيْ بَأْنَ تَكُونُ فِي الْبَلْدِ فِيمَا يَظْهُرُ، وَفِي نَحْوِ بَقْرٍ فِي مَرْعَى فَكُونَهُ بِحِيثِ يَرَى  
وَيُشَارِ إِلَيْهِ قَبْضٌ، وَفِي نَحْوِ فَرْسٍ أَوْ طَيْرٍ فِي بَيْتٍ إِمْكَانٌ أَخْذَهُ مِنْهُ بِلَا مَعْنَى.

وقوله على الصحيح وهو ظاهر الرواية و مقابلة ما في المحيط و جامع شمس الأئمة أنه بالخلية يصح القبض وإن كان العقار بعيداً عنهما عنده أبي حنيفة خلافاً لهما وهو ضعيف كما في البحر (ورمذنار ٣٣٢).

بہر حال عبارات مذکورہ سے یہ واضح ہے کہ تخلیہ کی صورت مختلف ہوتی ہے، اور تخلیہ فی الحال مقتدر بالتسليم والتسليم اشیاء ہیں، خواہ منقولہ ہوں، یا غیر منقولہ قبضہ ہے، البتہ اشیاء غیر منقولہ کے سلسلے میں جب وہ فی الحال مقتدر بالتسليم والتسليم نہ ہوں تو ایک روایت میں ہے کہ اس میں بھی اشیاء منقولہ غیر مقتدر بالتسليم کی طرح تخلیہ قبضہ نہیں ہے، اور محيط، جامع شمس الأئمہ کی روایت میں حضرات صاحین کا اختلاف منقول ہے کہ امام صاحب کے نزدیک تخلیہ قبضہ ہے، حضرات صاحین کے نزدیک نہیں ہے۔

#### اشیاء منقولہ میں ائمہ مثلاشہ کا مذهب:

ائمه مثلاشہ کے نزدیک اشیاء منقولہ میں قبضہ کا مدار عرف پر ہے، قبضہ کے لئے عرف میں جو چیز راجح ہوگی اس کو قبضہ متصور کیا جائے گا، مثلاً دراہم و دناتیر میں قبضہ بالبراجم، مکیلات و موزومات میں قبضہ کے لئے کیل و وزن کی شرط لگاتے ہیں۔

قال المالکیۃ والشافعیۃ: قبض المنقول کالامتعة والأعوام والدواب بحسب العرف الجاری، بين الناس قال الحنابلة: قبض کل شیء بحسبہ فإن كان مکيلاً أو موزوناً فقبضه بكله وزنه أی أنه يجب الرجوع في القبض إلى العرف (الفقہ الاسلامی ٢١٩، ٣).

#### اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ:

اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتسليم الفعلى بالتخلية أى رفع العمانع من القبض أو التمکن من إثبات اليد بارتفاع الموعظ (الفقہ الاسلامی ٢٠٨) ثم لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (بدائع ٢٢٣/٥).

اشیاء غیر منقولہ میں تخلیہ قبضہ ہے اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ اگر اشیاء غیر منقولہ فی الحال مقتدر بالتسليم نہ ہوں تو اس میں قبضہ کے سلسلے میں حضرات احناف کا اختلاف ہے، جو کہ شروع میں گذر چکا ہے۔

#### قبضہ کی قسمیں: قبضہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) تام، (۲) ناقص، قبض تام اور ناقص، اشیاء اور ان کی بیع و شراء کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے، اس لئے اشیاء کے اقسام کو ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ ہی وضاحت بھی کروی جائیگی کہ قبضہ تام کیا ہے اور قبضہ ناقص کیا ہے۔

#### مقدر بالتسليم اشیاء کے اقسام:

(۱) اشیاء غیر منقولہ فی الحال مقتدر بالتسليم

- (۲) اشیاء غیر منقولہ غیر مثیلیہ۔ جیسے عدایات، مزروعات، متفاوتہ دونوں قسموں میں قبضہ تام صرف تخلیہ سے متحقق ہو جائے گا، بعد تخلیہ مشتری کو اس میں ہر طرح کے تصرف کی اجازت ہو گی۔
- (۳) اشیاء منقولہ کیلی، یا وزنی ہوں ان کی بیع و شراء مجاز فہ بغير کیل وزن کے ہو تو اس میں بھی صرف تخلیہ ہی قبضہ تام ہے، بعد تخلیہ مشتری کو تمام تصرفات کی اجازت ہے۔
- (۴) اشیاء منقولہ کیلی، یا وزنی جس کی شراء مجاز فہ یعنی بغير کیل وزن کے ہو اور بیع کیل، یا وزن سے ہو تو مشتری اول کیلیے صرف تخلیہ ہی قبضہ تام ہے، اور مشتری ثانی کیلیے تخلیہ قبضہ تام نہیں ہے بلکہ قبضہ ناقص ہے۔ اس لئے اس صورت میں مشتری اول کے لئے بعد تخلیہ تمام تصرفات کی اجازت ہو گی اور مشتری ثانی کیلیے اس میں تصرف کرنا جائز نہ ہو گا۔
- (۵) اشیاء منقولہ کیلی، یا وزنی جس کی شراء کیل، یا وزن سے ہو اور بیع بغير کیل کے مجاز فہ ہو تو اس صورت میں مشتری ثانی کے لئے تخلیہ قبضہ تام ہو گا، اور مشتری اول کے لئے قبضہ تام نہ ہو گا۔
- (۶) اشیاء منقولہ کیلی، یا وزنی جسکی بیع و شراء دونوں کیل، یا وزن سے ہو، اس صورت میں تخلیہ کسی کے لئے بھی قبضہ تام نہ ہو گا دونوں کے لئے قبضہ ناقص ہے، کسی کے لئے بھی بغير کیل، یا وزن کے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔
- (۷) عدایات و مزروعات متقارب، اس میں حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اشیاء کیلیہ، وزنیہ کے حکم میں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک اشیاء کیلیہ، وزنیہ کے حکم میں نہیں بلکہ اشیاء غیر مثیلیہ کے حکم میں ہے۔ لہذا حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک عدایات و مزروعات متقارب میں تخلیہ قبضہ تام نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک تخلیہ قبضہ تام ہے (نوٹ) کیل اور وزن و عدد وغیرہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) حقیقی (۲) حکمی دونوں کا حکم ایک ہے۔
- (۱) مشتری کا خود کیل ہو، یہ کیل حقیقی ہے۔
- (۲) مشتری کے سامنے باع کیل، یا وزن کر دے، یہ کیل حکمی ہے۔ دونوں میں سے یعنی کیل حقیقی، اور حکمی میں سے کوئی بھی پالیا جائے تو قبضہ تام ہو جائے گا مشتری کی موجودگی میں باع کا کیل مشتری کا کیل متصور ہوتا ہے مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے (۲۲۲/۵)۔
- (۳) وإنما شرط الاكتيال على المشترى لكونه من تمام القبض في المكيل والوزن إذا وقع البيع مكابلاً، فلا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه قبل الكيل أو الوزن (تمام فتح المليم ۳۵۸) وفي البدائع ولو كان كاله البائع أو وزنه بحضور المشترى كان ذلك كافياً لا يحتاج إعادة الكيل لأن المقصود بحصول بكميه مره واحده بحضور المشترى (ص ۲۲۲)۔

خلاصہ :

یہ کہ بیع میں قبضہ تام سے پہلے مشتری کیلے کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور قبضہ تام اشیاء منقولہ مثیلیہ

(کیلیہ، وزینہ) کی اگر بیع و شراء دونوں کیل، یا وزن سے ہو تو تخلیہ نہ ہو تو مشتری اول اور مشتری ثانی کے حق میں قبضہ تام ہو گا۔ کیونکہ دونوں کے قبضہ کی تمامیت کیلے کیل، یا وزن کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر بیع کیل، یا وزن نہ ہو اور شراء مجاز فہرست کیل کے ہو تو مشتری اول کے لئے تخلیہ قبضہ تام ہے، اور مشتری ثانی کے لئے قبضہ تام نہیں ہے، اور اگر شراء کیل یا وزن نہ ہو اور بیع مجاز فہرست ہو تو مشتری ثانی کے لئے تخلیہ قبضہ تام ہے، مشتری اول کے لئے تام نہیں ہے، بلکہ اس کا کیل، یا وزن کرنا ضروری ہے، مذکورہ صورتوں کے علاوہ صرف تخلیہ ہی قبضہ تام ہو جاتا ہے، البتہ عددیات، مزروعات متناسبہ میں حضرت ابوحنیفہؓ کے نزدیک تخلیہ قبضہ تام نہیں اور صاحبین کے نزدیک قبضہ تام ہے، قبضہ تام مشتری کے خود کیل کرنے، یا مشتری کے سامنے باع کے کیل کرنے سے بھی متحقق ہو جاتا ہے، اسی طرح مشتری کے کیل کے سامنے بھی کیل و وزن کرنے سے بیع متحقق ہو جاتا ہے۔

### بیع و تصرف قبل القبض کے سلسلے میں مذاہب:

حضرت امام شافعیؓ اور حضرت امام محمدؓ کے نزدیک کسی بھی چیز میں بیع قبل القبض جائز نہیں، خواہ مطعومات، یا غیر مطعومات، منقولات وغیر منقولات ہی کی قبیل سے کیوں نہ ہو، تمام چیزوں میں ان حضرات کے نزدیک قبضہ کی تمامیت شرط ہے۔

**قال الشافعی و محمد ابن الحسن من الحنفیة:** يحرم بيع كل شيء قبل قبضه طعاماً أو كان غيره منقولاً أو كان غير منقول.

حضرت امام احمد ابن حنبلؓ کے نزدیک صرف مطعومات میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں۔

**قال ابن حنبل في المهر الرواية:** إنما يختص النهي والطعام فلا يجوز بيعه قبل قبضه ويجوز فيما سوا، كما حرقه ابن قدامة.

حضرت امام مالکؓ کے نزدیک مطعومات و مشروبات میں بیع قبل القبض جائز نہیں۔

**قال مالک:** إنما يمنع البيع قبل القبض في المكيل والموزون من الطعام خاصة (تمام ۳۵۱-۵۲) يجوز كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك وأبو ثور قال ابن المنذر: واصح المذهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي (اعداوا السنن ۲۲۱/۳).

حضرات شیخینؓ کے نزدیک تمام منقولات میں قبضہ کی تمامیت سے پہلے بیع جائز نہیں، قال ابو حنیفة و أبو يوسف: يمتنع البيع قبل القبض فيسائر المنقولات، ويجوز في العقار الذي لا يخشى هلاكه (تمام فتح الملهم، فتح الملهم ۳۵۰/۵-۵۱).

### امہ کے دلائل:

(۱) نهى رسول ﷺ أن تباع السلع حيث يباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

(۲) وعن حكيم ابن حرام قال: قلت يا رسول الله ﷺ إني أباع هذه البيوع فما يحل

لی منها وما يحرم على قال يا ابن أخي لا تباع شيئاً حتى تقبضها، في رواية أبا بن إذا اشتريت بيعاً فلا تباعه حتى تقبضه.

(۳) وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله ﷺ قال لا يحل سلف و بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (تكميلة في المأمورات).

رواية مذكورة ثلاثة بيع قبل القبض كعدم جواز بودال هي، خواص بيع مطعومات وغير مطعومات كقبيل سے ہو، یہ روایات حضرات امام شافعی و امام محمد و امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ جمیعن کا متداول ہے۔

### دلیل احمد ابن حنبل و امام مالک:

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال من اتبع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية: حتى يقبضه.

رواية مذكورة ببيع مطعومات میں قبل القبض تصرف کے عدم جواز بودال ہے، یہ روایت حضرت امام احمد ابن حنبل کا متداول ہے۔

### دلیل حضرات شیخین:

نهی رسول الله ﷺ عن ربح مالم يضمن وما ليس عندك، ولهمى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، ونهى أن تباع السلع حيث تباع حيث يحوزها التجار إلى رجالهم، فقال رسول الله ﷺ يا ابن أخي لا تباع شيئاً حتى تقبضه وفي رواية أبا بن إذا اشتريت بيعاً فلا تباعه حتى تقبضه۔ رواية مذكورة بيع قبل القبض كعدم جواز بودال هي۔ حضرات شافعی، امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بيع قبل القبض کی نظر نہی "ربح مالم يضمن" ہے، کیونکہ بيع قبل القبض "ربح مالم يضمن" کو مخصوص ہے، جب بھی بيع قبل القبض ہوگی تو "ربح مالم يضمن" ہوگا، اور "ربح مالم يضمن" نص حدیث سے ممنوع ہے، لہذا اہر وہ بیع جو "ربح مالم يضمن" کو مخصوص ہوگی وہ ممنوع ہوگی، اس لئے بيع قبل القبض ناجائز ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث شریفہ میں صراحت ہے۔ خواص بيع قبل القبض مطعومات وغير مطعومات، منقولات، غير منقولات جس چیز میں بھی ہو، حضرات شافعی اور ایام محمد کے نزدیک "ربح مالم يضمن" کو مخصوص ہونے کی بنا پر ممنوع ہوگی۔

### حضرات شیخین:

حضرات شیخین کے نزدیک منقولات میں بيع قبل القبض ناجائز ہے۔ یعنی فاسد ہے۔ اور غير منقولات میں بيع قبل القبض جائز ہے۔

ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه لأنه عليه السلام لم يهـ عن بيع مالم يقبض لأنـ فيه غدر انفسـ اـ العقد على اعتبار الـ هلاـك ويحـوز بـيع العقار قبل القبـض عندـ

ابی حبیفہ و ابی یوسف و قال محمد لا بجوز رجوعاً إلی اطلاق الحديث و اعتباراً بالمنقول و  
صار كالاجارة (بدایۃ)۔

حضرات شیخین کے ملک کی توضیح دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک اس طرح سے کامل ملت نبی "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" کو نہیں کہا جائے اور جہت کے اطلاق عموم سے غیر منقولات کو مستحب کر دیا جائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں بعث  
قبل القبض کی اصل ملت نبی "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" ہے اور تمام کا تصور صرف ان ہی چیزوں میں ہوتا ہے جن میں بیع کے  
ضیاع کا اندیشہ ہوا اور پوچھ کے غیر منقولات میں ضیاع و بلا کت نادر و کالعدم ہے۔ اسلئے غیر منقولات میں تمام کا سوال ہی  
نہیں اور یہ بخان کا وجود نہیں تو "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" کا وجود کیسے ہو گا جو مدعا نہیں ہے، لہذا قائدہ فتحیہ: "إِذَا فَاتَ  
الْعُلَةُ فَاتَ الْحُكْمُ" سے غیر منقولات کی بیع جائز ہے۔

دوسری تشریع یہ ہو سکتی ہے کہ ملت نبی غر الفساح عقد کو نہیں کہا جائے کہ جس میں بیع کے ضیاع سے عقد ختم  
ہو جائے تو ایسا عقد تصرف میں پر قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں اور حدیث "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" کو مخصوص من بعض مانا  
جائے (لائل جواز پر عمل کرتے ہوئے، کما فی الہدایۃ: لہما ان رکن الیع صدر من اهله فی محلہ ولا  
غیر فیہ لأن البلاک فی العقار نادر بخلاف المنقول و الغرر منهی عن غر الفساح العقد  
والحدیث معلول به عملاً بدلالل الجواز أی من الكتاب والسنۃ) (بدایۃ ۳۳۲)۔

حدیث "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" میں تخصیص بالاتفاق جائز ہے، مثلاً قبضہ سے پہلے ایسی بیع میں تصرف کرنا کہ اس  
سے بیع کے ضیاع سے فتح کا اندیشہ ہو تو ایسی بیع میں تصرف بالاتفاق جائز ہے۔ حالانکہ اس میں بھی "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ"  
موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" مخصوص من بعض ہے، ورنہ تو اس بیع میں بھی جس میں  
اس کے ضیاع سے فتح عقد کا اندیشہ ہو یہ تصرف جائز ہوتا، مثلاً مہر، بدل خلع، حق علی مال، بدل صلح من دم العمد،  
جب اعیان کی قبیل سے ہوں، تو ان میں قبضہ سے پہلے تمام تصرفات جائز ہیں۔ اسی طرح اخذ شفعت "قبل قبض ایبع"  
بھی جائز ہے۔ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ ایسی بیع میں تصرفات جس میں بیع کے ضیاع کا اندیشہ ہو قبل القبض جائز  
ہیں۔ اور ملت نبی غر الفساح عقد ہے جو حدیث ابو ہریرہ: "نَبِيٌّ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيعِ  
الْفَرَدِ" سے ثابت ہے، (مسلم شریف) اور اگر ملت نبی "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" ہوتی تو بیع تولیہ کو جائز ہونا چاہئے تھا۔  
حالانکہ بیع تولیہ بھی قبل القبض جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل ملت نبی "رَبِّ الْمَلَکُوْنَ" نہیں بلکہ غر الفساح عقد ہے، تو  
جس طرح سے ایسی بیع میں جس میں اس کے ضیاع سے فتح کا اندیشہ ہوتا ہے، مثلاً مہر، بدل خلع، صلح من دم العمد،  
اخذ شفعت قبل القبض وغیرہ جائز ہیں۔ اسی طرح سے غیر منقولات جس میں ضیاع نادر ہے، ان میں بھی تصرف قبل القبض  
جاز ہوگا، کیونکہ غیر منقولات کی بیع قبل القبض کی صورت میں الفساح عقد کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ لہذا غیر منقولات  
میں بیع قبل القبض جائز ہوگی، اسی ملت پر مدارک کہ حضرات فتحیہ نے یہ کلیہ بیان کیا ہے، ان کل عوض ملک  
بعقد بنفسخ بھلاکہ قبل قبضہ فالتصرف فیہ غیر جائز، وحالاً فوجانز (معنی، دریخانہ ۱۹۲/۲)۔

حاصل یہ ہے کہ حضرات شیخین کے نزدیک اصل ملت نبی غرائب اخ عقد ہے، اور حضرات امام شافعی و امام محمدؐ کے نزدیک ملت نبی "رَبِّ الْمَلَمَّبُونَ" ہے۔ اور حضرات شیخین نے حدیث "رَبِّ الْمَلَمَّبُونَ" کو مخصوص کر دیا ہے ان معاملات کے ساتھ جن میں بیع کے خصائص سے فتح عقد کا احتمال ہو۔

### نهی عن بيع الطعام:

آپ ﷺ کے ارشاد: نهی عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان - "صاع البائع و صاع المشترى" کی ملت نبی مال غیر میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنے سے بچانا مقصود ہے۔ کیونکہ مال غیر میں تصرف بغیر اس کی اجازت کے ناجائز و حرام ہے اس سے تحریز واجب ہے۔ نهی عن بيع الطعام... إلی... فيكون لصاحبہ والزیادة علیه النقصان ذکرہ الزیلعي: فی تصب الرایة، و قال الحافظ: فی الدرایة، إسناده جيد، وهذا يدل على أن العلة في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان إنما هو امتياز حق البائع عن المشترى (تکملة ۳۵۸/۱)۔

### خلاصہ:

سطور سابقہ میں ذکر کردہ مسائل و احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ قبضہ بیع کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، بیع اولاد و طرح کی ہوتی ہے (۱) بیع مثیلی، کیلی، یا وزنی مشتری بالکل، یا بالوزن ہو (۲) بیع اسکے علاوہ ہو یعنی مثیلی نہ ہو اور اگر مثیلی ہو تو کیلی، یا وزنی نہ ہو، کیلی، یا وزنی ہو تو شراء کیلی، یا وزن سے نہ ہوئی ہو۔ ان دونوں قسموں میں سے قسم اول میں حضرات احناف کے نزدیک تخلیق قبضہ ناقص ہے، اور قبضہ کی تمامیت کے لئے مشتری کے کیل، یا وزن کی شرط ہے کہ مشتری دوبارہ خود کیل، یا وزن کرے، یا کم از کم اس کے سامنے کیل، یا وزن کی گئی ہو تو تخلیق قبضہ تام ہو گا، ورنہ نہیں، اور کسی چیز میں تصرف قبضہ کی تمامیت سے پہلے جائز نہیں۔ اگر عقد کرے گا تو عقد فاسد ہو گا۔ "اشتری کیلا بشرط الکیل حرم ای کرہ تحریما بیعه و اکله حتی یکیله وقد صرحو بافساده" (در مختار ۱۶۳/۲) اور جمیع کی دوسری قسم میں اگر وہ فی الحال مقدور استلزم ہے تو تصرف یہ تخلیق ہی قبضہ تام ہے، لہذا اس میں بعد تخلیق مشتری کو ہر طرح کے تصرف کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر جمیع ذرائی اور عدوی متقارب ہو اور شراء عدو و ذرائع سے ہوئی ہو تو حضرات صاحبین اور امام صاحب کا اس میں اختلاف ہے، حضرات صاحبین کے نزدیک ان میں بھی تخلیق قبضہ تام ہو گا اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تخلیق قبضہ تام نہیں، بلکہ قبضہ کی تمامیت کیلئے عدو و ذرائع کی شرط ہے۔

فی البدائع أما المعدودات المتقاربة إذا بيعت عددا لا جراها فحكمها حكم المكيلات والموزونات، عند أبي حنيفة حتى لا يجوز بيعها إلا بعد العدد و عند أبي يوسف و محمد حكم المذروعات فيجوز بيعها قبل العدد. و وجه قولهما أن العدد ليس من أموال الربوا كالذراع ولهذا لم تكن المساواة فيها شرطا لجواز العقد كما لا تشرط في المذروعات فكان حكمه حكم المذروع (بدائع ۵/۲۲۵)۔

اور فتویٰ کے لئے ضرورتہ عموم بلوگی کی بناء پر صاحبین کے قول کو اختیار کیا جائے گا تاکہ "یہ را ولا  
نے سرا" پر عمل ہو کر معاملات میں ہمولت و آسانی پیدا ہو جائے اور نیز ہنچ قبل القبض کی مروجہ صورت میں ہمولت و  
آسانی کیلئے بعض چیزوں میں حضرت امام مالک کا مسلک اختیار کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اور ان کے مسلک و  
مذہب کے مطابق ضرورتہ فتویٰ دینا جائز ہے، جیسا کہ فقہاء متقد میں فتح ختنی کے اصول "إذا حساق الأمر اتسع، إذا  
عمت البلية حفت خفية، المشقة تجلب التسیر" کی بناء پر ضرورت کے وقت دوسرے امام کے مذہب کو  
اختیار کیا ہے۔ مثلاً شامی، بخطاوی وغیرہ نے جمع میں الصلاتین کو ضرورت کے وقت مذہب شافعی پر جائز فرمایا ہے۔  
حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ دیانت میں نہیں معاملات میں ابتلاء عام ہوتا ہے، دوسرے امام کے قول پر اگر جواز کی  
گنجائش ہوتی ہے، تو اس پر فتویٰ دیدتا ہوں، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میرا را وہ تھا کہ ایک رسالہ ادکام معاملات میں  
ایسا لکھوں جن معاملات میں غواص ہتلا ہیں، اگر وہ صورتیں کسی بھی مذہب میں جائز ہوں تو اس کی اجازت دے دوں  
تاکہ مسلمانوں کے افعال کی طرح بھی جائز ہو سکیں۔ اور فرمایا کہ اختیارات میں نے حضرت گنگوہی سے اس کی اجازت  
لے لی تھی، حالانکہ حضرت پکے ختنی تھے (فتح ختنی کے اصول و خوابط ۱۶۹)۔

### امام مالک کا مذہب:

حضرت امام مالک کے نزدیک مطہومات کے علاوہ تمام چیزوں میں تصرف قبل القبض جائز ہے۔ قال  
مالك: يجوز جمیع النصرفات فیه قبیض فی غیر الطعام لأنہ علیه السلام حص الطعام با  
الذکر عند المیہی بقوله: "من ابتعث طعاما فلا يبعده حتى يقبضه" فدل على تخصيص الحكم والا  
فليس لهذا التخصيص فائدة (بنایت ۷/۳۲۱)۔

### بیوں کے چند مروجہ طریقے:

(۱) باع کمپنی یا برڈی تھوک دوکانوں پر فون وغیرہ سے اشیاء کی قیمت معلوم کرتا ہے پھر جب اطمینان کر لیتا ہے تو  
بھیجنے کا آرڈر دیتا ہے۔

(۲) باع مشتری سے اشیاء کی قیمت معلوم کر کے یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو زکال کریا توں کر رکھ دو، پھر مشتری کا مازم  
جا کر وہ سامان لے آتا ہے۔

(۳) باع لکھ کر، یا شیلی فون سے مشتری کو آرڈر دیتا ہے اور باع مطلوبہ اشیاء کو من قیمت کی فہرست کے بھج دیتا  
ہے۔

(۴) ایک شخص ایجنسی وغیرہ میں فون وغیرہ سے کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے اور ایجنسی والے اس کا پتہ وغیرہ نوٹ کر کے  
کمپنی میں آرڈر دیتے ہیں، فلاں پتہ پر اتنا مال روانہ کر دیا جائے۔

(۵) کوئی شخص تھوک دوکان والوں سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، اور ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ ایجنسی، یا کمپنی کو  
آرڈر دیتے ہیں، فلاں پتہ پر اتنا مال روانہ کر دیا جائے اس کو بھی اطلاع کر دیتے ہیں کہ تمہارا مال یہو نجی رہا۔

ہے۔

(۶) آجکل مختلف چیزیں اوزان کے ڈبوں میں اور مختلف اوزان کے سلے ہوئے بوروں، میں بندلوں میں، عدروں، کیلوں، وزن، ذرائع شدہ رکھی رہتی ہیں جن پر متعینہ وزن لکھا رہتا ہے اور بعض بیع میں بیع کے تعارف کی پوری تفصیل درج ہوتی ہے مشتری جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو باع وہی پیکٹ وغیرہ جو پہلے سے کیل وغیرہ کر کے رکھا ہے، دیدیتا ہے۔

(۷) باہر مالک سے مشتری کوئی چیز خریدتا ہے اور قبضہ سے پہلے ابھی مال جہاز ہی وغیرہ میں ہوتا ہے اس کو فروخت کر دیتا ہے دوسرا تیرے کو، تیسرا کسی اور کو، اسی طرح سے وہ چیز قبضہ سے پہلے فروخت ہوتی رہتی ہے، ان سب مروجہ صورتوں کا کیا حکم ہے؟ کیا بغیر کیل و وزن کئے ہوئے اور بغیر قبضہ کئے ہوئے اس میں تصرف کرنا جائز ہے؟

### بیع قولی و تعاطی:

منہ کوہ مروجہ صورت کے حکم سے پہلے بیع بالا لفاظ، بیع بالا فعال (تعاطی) کو سمجھ لینا ضروری ہے، نیز قبضہ کی حقیقت ٹرانسپورٹ وغیرہ کی شرعی حیثیت کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ بیع کی مروجہ صورتوں میں ان سب کا واسطہ ہوتا ہے، لہذا ان صورتوں کا حکم بیع تعاطی، قولی، قبضہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کے بعد لکھا جائے گا، تاکہ اخذ حکم میں سہولت ہو۔

### بیع قولی:

بیع بالا لفاظ کی اولاً دو صورتیں ہیں۔ (۱) ایجاد و قبول دونوں لفظ ماضی یا حال سے ہوں (۲) ایجاد لفظ سے ہو قبول لفظ سے نہ ہو بلکہ فعل سے ہو۔ مثلاً زید نے عمر سے کہا کہ میں نے آپکے ہاتھ یہ چیز فروخت کی تو عمر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبول کے لئے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا یہ بھی بیع بالا لفاظ میں داخل ہے۔

کما فی الرد، قلت قوله من غير لفظ لغير ما قد مناه عن الفتح من أنه لو قال بعتكه بالف فلم يقل المشترى شيئاً كان قبضه قبولاً وليس من التعاطى فلا لمن جعل منه ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة ثمنه (ردا الحکار ج ۲ ص ۱۱)۔

(۲) دوسرا نتیجہ، یعنی ایجاد و قبول دونوں لفاظ سے ہوں، اسکی چار صورتیں ہیں، (۱) ایجاد و قبول دونوں صیغہ ماضی سے ہوں (۲) ایجاد و قبول دونوں صیغہ حال سے ہوں (۳) ایجاد صیغہ ماضی سے ہو، قبول صیغہ حال ہو (۴) قبول صیغہ ماضی سے ہو اور ایجاد صیغہ حال سے ہو۔

البيع يتعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي مثل أن يقول بعث والآخر اشتريت ولا يتعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل وفي التوير. وهما عبارة عن كل لفظين بيان عن التملك والتمليك ماضيين أو حالين ولكن لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني فإن توكل به الإيجاب للحال صح على الأصح وإنما إذا استعمله للحال فكما الماضي

کا بیعک الان لتمحضه للحال واما المتمحض لا سقبال فكان الأمر لا يفتح أصلا إلا إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاء (تنویر مع الدر الخمار ملخصا ۲۳، ۱۰۹)۔

حاصل یہ کہ بیع بالالفاظ کی زیادہ سے زیادہ چھ صورتیں ہو سکتی ہیں:

(۱) ایجاد لفظ سے ہو، قبول فعل سے ہو۔ (۲) ایجاد و قبول دونوں صیغہ ماضی سے ہوں (۳) ایجاد و قبول دونوں صیغہ حال سے ہوں (۴) ایجاد ماضی سے قبول حال سے ہو (۵) ایجاد حال سے اور قبول ماضی سے ہو (۶) ایجاد صیغہ امر سے ہو تو قبول کا صیغہ ماضی سے ہونا ضروری ہے۔ صیغہ امر ایجاد کے لئے اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ امر سے اقتضاۓ حال کا معنی مستبط ہو، بیع بالکتابت، اگروہ... مرسومہ ہو تو الفاظ کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ کتابت الفاظ کا ترجمان اور قائم مقام ہوتی ہے (ارجع لتفصیل رالی الدر ۲۳، ۸۰، ۱۰)۔

#### بیع تعاطی:

بیع تعاطی کی پانچ صورتیں ہیں (۱) شمن ط کرنے کے بعد شمن حوالہ کر دے، بیع پر قبضہ بعد میں کرے۔ (۲) بیع پر قبضہ کر لے، شمن بعد میں دے۔ (۳) شمن ط کرنے اور معرفت شمن سے پہلے ہی بیع پر قبضہ کر لے۔ (۴) شمن کے علم و معرفت سے پہلے ہی شمن دیدے، اور بیع پر قبضہ بعد میں کر لے۔ (۵) شمن دیدے اور بیع لے۔ التعاطی ہو الأخذ والإعطاء وفي الرد و صورته أن يتلقى على الشمن ثم يأخذ المشترى المتعاع و يذهب يرضى صاحبه من غير دفع الشمن أو بدفع المشترى الشمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع فإن البيع لازم على الصحيح... قلت: فيها خامسة إنه ينعقد به ولو تأخرت معرفة الشمن لكون دفع الشمن قبل معرفته (رالخمار ۲۳، ۱۱، البحارائق ۲۲، ۱۱)۔

حاصل یہ کہ شمن کے علم کے بعد یا شمن کے علم سے پہلے باع شمن پر قبضہ کر لے یا مشتری بیع پر قبضہ کر لے، یا دونوں ایک دوسرے پر قبضہ کر لیں، تو یہ بیع تعاطی ہے بشرطیکہ اس میں ایجاد و قبول کے وہ الفاظ جن کی تفصیل گذر چکی ہے نہ پائے جائیں۔

#### بیع تعاطی کا حکم:

- (۱) بیع تعاطی میں جب بیع، یا شمن پر قبضہ ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے
- (۲) بیع تعاطی میں اشیاء کیلیے، وزنیے میں بھی تصرف کیلئے اعادہ کیل اور وزن کی شرطیں ہیں: فی الدر اشتري مکيلابشرط الكيل حرم اى كره تحريراً بيعه وأكله حتى يكيله ومثله الموزون والمعدود غير الدرارم والدنار لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الكيل والوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزونات إلى وزن المشترى ثانياً لأنَّه صار تبعاً بالقبض بعد الوزن، فنية وعلية الفتوى خلاصة (الدر الخمار ملخصا ۲۳، ۱۶۲)۔

عبارات مذکورہ سے واضح ہے کہ بیع تعاطی میں مشتری کے اعادہ کیل اور وزن کی شرط قبضہ کی تمامیت کیلئے نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع قول سے نہیں، بلکہ باعث، مشتری، یا ان میں سے کسی کے قبضہ سے ہوتی ہے (حاشیہ الدر، ۱۶۳)۔

### بیع فاسدہ باطلہ کے بعد بیع تعاطی:

بیع فاسدہ باطل کے بعد اگر متعاقدین سے تسلیم و تسلیم پالیا جائے تو کیا یہ عقد بیع تعاطی بن کر درست ہو سکتا ہے؟

بیع فاسدہ باطل کے بعد جب تک عقداً ول کو فتح نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ تو، وہ معاملہ ایجاد و قبول سے اور نہ ہی بیع تعاطی سے درست ہو سکتا ہے، بلکہ علی حالہ فاسدہ باطل ہی رہے گا۔

التعاطی لا یعقد بعد بیع باطل او فاسدہ ما لم یفسخ العقد الأول (حاشیہ الحجر، ۶/۷۹، ۱۴۲)۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیع فاسدہ باطل کے بعد جب تک عقداً ول کو بالکل ختم نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ تو دوبارہ ایجاد و قبول سے اور نہ ہی بیع تعاطی معاملہ درست ہو سکتا ہے بلکہ عقداً ول کو فتح کرنا ضروری ہے پھر اگر فتح کے بعد لیمن دین ہو جائے یا دوبارہ ایجاد و قبول ہو جائے تو معاملہ درست ہو سکتا ہے لہذا اگر فتح کے بعد لیمن دین ہو جائے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں اور اگر فروخت کر دے گا تو بیع فاسدہ ہو گی اور بیع فاسد کے بعد اگر لیمن دین بھی ہو گا تو یہ بیع تعاطی نہیں بن سکتا بلکہ اس عقد کو ختم کرنا واجب رہے گا۔

### نوث:

اگر وجد فساد کو مجلس عقدہ میں دور کر دیا جائے تو بیع تعاطی ہو کر معاملہ درست ہو جائے گا، والفرق أنه بعد المجلس تقرر الفساد من كل وجه فلا بد من المثاركة، أما في المجلس ولا يقرر من كل وجده متحصل المثاركة ضمناً فتأمل (شامی ۱۴۲)۔

مثلاً "کیل ففیز بدرهم" والی صورت میں اگر صبرۃ طعام کو مجلس عقدہ میں کیل وزن کر دیا جائے تو معاملہ درست ہو جائے گا۔

فی الدر : وإن علم عدد الغنم في المجلس لم يقلب صحيحًا عنده على الأصح ولو رضيا العقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج (در مختار، ۲۹)۔

عبارت مذکورہ میں "ولو رضیا العقد بالتعاطی"، "کو اگر" بعد المثارکة، یا "بعد عذر" پر محول کیا جائے تو درست ہو سکتی ہے، ورنہ یہ عبارت خود مصنف کی سابق ذکر کردہ عبارت کے خلاف ہے، جیسا کہ مضمون ہذا میں لفظ کیا گیا۔

## قبضہ کی حقیقت:

قبضہ کی اصل روح اور حقیقت بیع کے باعث کے خمان سے نکل کر مشتری کے خمان میں داخل ہوتا ہے اور حضرات فقہاء احناف نے انتقال خمان کے سلسلہ میں اگر فی الحال مقدور اسلام و اسلام ہو تو مشتری کو اطلاع دینے کے بعد تخلیہ کو حکما انتقال خمان کیلئے، یعنی قبضہ کیلئے کافی مانا ہے، اور اگر جمیع فی الحال مقدور اسلام و اسلام نہ ہو تو تخلیہ قبضہ نہیں ہو سکتا، خواہ جمیع منقولات کی قبلی سے ہو یا غیر منقولات کی قبلی سے، اگر فی الحال مقدور اسلام و اسلام ہے تو مشتری کو اطلاع دینے کے بعد تخلیہ قبضہ سمجھا جائے گا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ قبضہ میں عرف کا بہت دخل ہے، جیسا کہ حضرات ابن شیاش کے نزدیک قبضہ کا مدارتی عرف پر ہے، اگر عرف میں کوئی چیز ایسی راجح ہو کہ جس سے بیع باعث کے خمان و ذمہ داری سے نکل کر مشتری کے خمان و ذمہ داری میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ حضرات احناف کے نزدیک بھی عرف کا بہت اعتبار ہے۔

(۱) اشتري في المثل حطباً فغضبه غاصب حال حمله إلى منزله فمن البائع لأن عليه

السلام في منزل الشاري بالعرف (رویتار ۲۳۲)۔

عرف اگر کسی نص کے خلاف نہیں ہے تو عرف خاص ہو یا عام دونوں معتبر ہے، لہذا اگر عرف میں کوئی چیز قبضہ کیلئے راجح ہو تو اس کے پائے جانے کے بعد قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور جمیع مشتری کے خمان میں داخل ہو جائے گا۔

(۲) في الدر : المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وفي  
حاشية: فأفاد أن عدم اعتباره بمعنى أنه إذا وجد النص بخلافه لا يصلح ناسخاً للنص ولا مقيداً له  
وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة منها مسائل الإيمان وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه  
على عرفه كما ذكره ابن همام عرف العام يصلح مقيداً (روایتار ۱۷) وفيه عبارة الأشباء أقول:  
على اعتباره أى اعتبار العرف الخاص يتبعى أن يفتى بأن ما يقع فى بعض أسواق القاهرة من خلو  
الحوائط لازم (روایتار ۱۵)۔

ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ حضرات فقہاء نے تخلیہ وغیرہ کو قبضہ کیوں مانا ہے؟ اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات فقہاء کے تخلیہ وغیرہ کو قبضہ شمار کرنے کی وجہیں ہیں (۱) قادر تصرف کامل (۲) انقطاع تعلق البائع من الجميع بحکم المشتری، حضرات فقہاء کے تخلیہ وغیرہ کو قبضہ شمار کرنے کی یہی وجہیں سمجھیں آتی ہیں۔

(۱) أن التخلية تعتبر إفاضاً في العرف والشرع أما في العرف فلا أنه لا يكون في  
العقار إلا بها فتقال هذه الدار في يد فلان فلا يفهم منه إلا التخليل وهو التمكّن من التصرف  
(الفقه الإسلامي ۵/۲۰۰)

(۲) وفي النهاية معزيا إلى الغاية: إن القبض في العقار بالتخلية وفي المنشول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع (بجرالرائق ۳۰۹، ۵).

عبارت مذكورة سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرات فقہاء، کے تخلیہ وغیرہ کو قبضہ شمار کرنے کی وجہ جمیں ہیں (۱) باع کو مکمل قدرت تصرف حاصل ہو جانے (۲) میع سے باع کا تعلق، بالکل ختم ہو جائے مشتری کے حکم سے اور مشتری کے حق کے ساتھ مجبوس ہو جائے، جب ان دو وجہوں میں سے کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو حضرات فقہاء، اس کو قبضہ تسلیم کرتے ہیں۔

### ثرانپورٹ ڈاک وغیرہ کی شرعی حیثیت:

(۱) قبضہ کی حقیقت میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر مشتری کے حکم کی وجہ سے باع کا تعلق میع سے بالکل ختم ہو جائے تو یہ مشتری کا قبضہ ہے۔

(۲) ڈاک ٹرانپورٹ وغیرہ کو جوال کر دینے کے بعد میع باع کے قبضہ سے نکل جاتی ہے، اور اس کا تعلق میع سے بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کا کرایہ باع خود ادا کرے تو یہ باع کے وکیل بالاجر ہوں گے اور وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوتا ہے، لہذا باع کے ان کا کرایہ ادا کرنے کی صورت میں میع باع کے وکیل کے قبضہ میں رہے گی اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے لہذا میع سے باع کا تعلق ختم نہیں ہو گا، بلکہ اس کا تعلق علی حال پاتی رہے گا، فرق صرف اتنا ہو گا، جیسے باع نے میع کو ایک مکان سے دوسرے مکان سے منتقل کر دیا اور جب میع باع کے قبضہ سے نکلے گی نہیں تو مشتری کے خان میں داخل بھی نہ ہو گی، اور جب خان میں داخل نہ ہو گی تو حقیقت قبضہ مفقوہ ہو گی اور اگر ان کا کرایہ باع نہیں ادا کر رہا ہے تو باع کا تعلق میع سے مشتری کے حکم کی بناء پر بالکل ختم ہو جائے گا اور میع سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، اس لئے اگر ڈاک ٹرانپورٹ وغیرہ کا کرایہ باع نہ ادا کرے تو میع کے باع کے خان میں نکل کر مشتری کے خان میں داخل ہونے سے قبضہ کی حقیقت پالی جائے گی، اور مشتری کے خان میں آنے کی صورت میں اس کا قبضہ شمار ہو گا: قال في الهندية: إذا قال المشترى للبائع ابعث إلى ابسى واستاجر البائع وجلأ بحمله إلى ابته فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استاجر من يحمله فقض الأجير يكون قض المشترى إن صدقه أنه استأجره ودفع إليه وإن انكر استيجاره والدفع إليه فالقول قوله كذا في الناقار خانية (عام التليرية ۱۹/۳ انقلام من أحسن الفتاوى ۶)۔

اگر مشتری باع سے یہ کہے کہ فلاں کے ذریعہ سامان بخیجہ و اور وہ شخص صرف تمدنی کا کام کرتا ہو تو یہی سمجھا جائے گا کہ مشتری نے باع کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس شخص کو اس کی جانب سے اجیر رکھ کر سامان بخیجہ یا جائے تو اگر باع کرایہ نہ ادا کرے تو وہ شخص وکیل مشتری کا وکیل ہو گا، اسی طرح سے ڈاک ٹرانپورٹ وغیرہ جو بار برداری کا کام کرتے ہیں، اگر مشتری نے ان کے ذریعہ بخیجہ کا حکم دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کہا "استاجر من يحمله إلى" تو اگر ڈاک ٹرانپورٹ وغیرہ کا خرچ مشتری کے ذریعہ ہو تو باع مشتری سے وصول کر کے ان کو کرایہ دے یا مشتری خود کرایہ

اواگرے، بہر حال اگر ان کا کرایہ باع نہیں ادا کر رہا ہے اور یہ کہنے کی صورت میں کہ ڈاک سے بھیج دو، عرف میں ان کے کرایہ کی ادا نیکی مسعودت الیہ کے ذمہ آتی ہے تو ڈاک وغیرہ مشتری کے وکیل ہوں گے، لہذا ان کے قبضہ میں مال پھر نہیں کے بعد مشتری کا قبضہ تحقیق ہو جائے گا، اور جمیع باع کے ذمہ سے نکل جائے گی۔

حاصل یہ ہے کہ ڈاک نرنسپورٹ وغیرہ کا کرایہ اگر اپنی جیب سے نہیں ادا کر رہا ہے بلکہ ان کے کرایہ کی ادا نیکی مسعودت الیہ کے ذمہ لازم ہوتی ہے تو یہ مشتری کے وکیل ہیں اور ان کا قبضہ مشتری کا قبضہ سمجھا جائے گا اور اگر ان کے کرایہ کی ادا نیکی باع کے ذمہ لازم آتی ہے اور وہ اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے پہلے، یا بعد میں مشتری سے وہ کرایہ وصول نہیں کرتا ہے تو یہ باع کے وکیل ہیں اور ان کا قبضہ باع کا قبضہ سمجھا جائے گا، اور جمیع باع کے ممان سے نکل کر مشتری کے ممان میں داخل نہ ہوگی، جو قبضہ کی حقیقت اور روح ہے۔

### بیوع کے مروجہ مذکورہ چند طریقوں کا حکم:

بیع بالاتفاق اور بیع بالاتفاق قبضہ نرنسپورٹ وغیرہ کی حقیقت واضح ہو جائے کے بعد مذکورہ صورتوں کا حکم نکالنا آسان ہے اب مذکورہ صورتوں کے احکام لکھے جا رہے ہیں (۱-۲-۳-۵) ان سب صورتوں کا تعلق مشتری کے باع کو آرڈر دینے سے ہے اور آرڈر حقیقت میں صیغہ امر ہے اور وہ بھی حال کے معنی میں نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ ایجاد لفظی نہ بنتے گا اور جب باع میج کو مشتری کے کہنے کے مطابق ڈاک نرنسپورٹ ریلوے، اور لازم وغیرہ کو دیدیتا ہے، اور دینے کے بعد باع کے کرایہ نہ ادا کرنے کی صورت میں میج سے اس کا اعلان بالکل ثابت ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں باع کے ممان سے نکل کر مشتری کے وکیل کے قبضہ میں آ جاتی ہیں، اور وکیل کا فعل مشتری کا شمار ہونے کی وجہ سے وہ اشیاء مشتری کے قبضہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور جب بغیر ایجاد لفظی کے مشتری کے قبضہ میں میج آگئی تو یہ بیع تعاطی بنی اور بیع تعاطی کا حکم بیع کا لازم ہے، اور اشیاء کیلیہ، وزنی مشتری بالکل وکیل والوزن میں بھی قبل الکلیل والوزن مشتری کو تمام تصرفات کی اجازت ہے، لہذا صورت مذکورہ میں اگر چہ وہ اشیاء کیلی، وزنی ہوں، یا کیلی، وزنی نہ ہوں، جب آرڈر دینے والے کے پاس ہوئے جاتی ہیں اور یہ ان پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر مشتری اول اور مشتری ثانی کے درمیان بیع تعاطی کے ذریعہ سے ایک تبا عقد ہو جاتا ہے، یہ ہونے والا عقد پہلے سے نہ تو باطل تھا نہ فاسد تھا، بلکہ اس کا وجود ہتھی نہ تھا، اس لئے جب مشتری اول مشتری ثانی کے درمیان بیع تعاطی ہوئی تو مشتری اول کو حاصل ہونے والا بیع حال وظیفہ ہے، اور یہ بیع قبل اتفاق میں داخل نہیں، کیونکہ مشتری ثانی کے پاس میج مشتری اول کے وکیل یعنی ڈاک، نرنسپورٹ وغیرہ کے ذریعہ پہنچ ہے اور وکیل کا فعل مؤکل کا شمار ہونے کی وجہ سے حقیقت میں وہ مشتری اول کے قبضہ سے مشتری ثانی کے قبضہ میں گئی ہے، نیز اصل قبضہ اور حقیقت قبضہ ممان میں داخل ہوتا ہے، تو اگر جمیع مشتری اول کے ممان میں آنے کے بعد وہ مشتری ثانی کے ممان میں گئی ہے تو یہ بیع قبل اتفاق نہیں اور مشتری ثانی کا پہلے سے آرڈر دینا اور مشتری اول کا وعدہ کر لینا یہ بیع نہیں بنے گا، کیونکہ آرڈر امر ہے، اور امر ایجاد نہیں ہوتا ہے، اور مشتری اول کا وعدہ قبول نہیں ہوگا؛ اما قول المشتری یعنی یکون مساومة و طلب امر والایجاد امر آخر طلب الإیجاد

لیس بایحاب وإنما لم يذكر الشارح للبیب برهان عدم الانعقاد على قول المشتری وهو يعني  
ظهوره (حاشیة بنایتے ۱۱)۔

حاصل یہ کہ آرڈر ایجاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف بیع کا مطالبہ ہوتا ہے، لہذا جب مبین بغیر ایجاد و قبول  
کے مشتری کے خمائن اور قیضہ میں داخل ہو جائے تو یہ بیع تعاملی ہوگی اور مشتری کیلئے اس کو دوسرے کے با تھر فروخت  
کرنے کی صورت میں بیع قبل القبض نہ ہوگی۔

(۲) کا حکم یعنی پیک شدہ ذبیث شیشیاں بندل وغیرہ جن کو آج کے موجودہ زمانہ میں بر قی مشینوں کے  
ذریعہ سے کیل، وزن، ذرائع وغیرہ کرنے کے بعد مبین کو ڈبوں، بوروں، ہیکلوں میں سمل کر بند کر دیا جاتا ہے، اور بہت  
سی چیزوں میں پیکٹ وغیرہ پر مبین کا پورا تعارف، وزن، قیمت تاریخ وغیرہ تمام چیزیں درج ہوتی ہیں، پھر اسی مکتوپ  
وزنی، قیمت وغیرہ پر اعتبار کر کے اس کی بیع و شراء ہوتی ہے تا بائع تو لتا ہے اور نہ مشتری اپنے گھر لے جانے کے بعد  
ان چیزوں کو تولتا ہے، اور نہ بائع سے تولئے کلئے کہتا ہے، اور اگر بالفرض پیک کو بخولانے کے بعد تول دنا پا لے تو کم  
ہونے کی صورت میں واپسی ہو جاتی ہے لیکن اگر اسی وزن کے اعتبار سے قیمت کم کر کے بیع و شراء کرنا چاہیں، قیمت کچھ  
کم نہیں ہوتی، جب کہ قانون شرعی کے مطابق کم ہونے کی صورت میں قیمت کم ہونا چاہئے، نیز بائع و مشتری میں سے  
کوئی بھی معاملہ کرتے وقت، یا معاملہ کے بعد ان کو کیل وزن مقصود ہی نہیں کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں پیک ہو کر سلے  
ہوئے بوروں میں فروخت ہوتی ہیں تو ان میں کیل وزن مقصود ہی نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ ذبیث، لفافہ پیکٹ وغیرہ مقصود ہوتا  
ہے، تو یہ چیزیں پیک ہونے کے بعد معدودیات میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کی بیع و شراء میں وزن مشروط نہ ہونے کی وجہ  
سے بیع مجاز فہم میں داخل ہیں اس لئے اگر چہ وہ اشیاء فی نفس کیلی یا وزنی ہوں مشتری نے شراء کے وقت ایک متعین کیل  
اور وزن کی مقدار بیان کر کے خریدا ہو تو بھی وزن مقصود نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس کو قبل الکلیل والوزن تصرف کرنا، بیع  
و شراء کرنا جائز ہے۔

(۳) جہاز وغیرہ سے بیع و شراء، کا حکم یہ ہے حضرات احناف کے نزدیک قبضہ کی حقیقت میں وہ چیزیں داخل  
ہیں (۱) تخلیہ یعنی قدرت تصرف (۲) مبین سے بائع کا بالکل انقطاع اعلق، لہذا اگر جہاز مال ہردار کمپنی کا کراچی مشتری ادا  
کر رہا ہے تو اس کا قبضہ متحقق ہو جانے کی وجہ سے قبضہ حسی سے پہلے اس کیلئے بیع و شراء جائز ہے، اور مشتری ثانی کیلئے  
جائز نہیں، کیونکہ مبین سے بائع کا انقطع منقطع نہیں ہوا اور نہ تخلیہ ہی ہوا۔

**کمپنی کی اشیاء اور ان کا حکم:**

(۱) کمپنی میں تیار ہونے والی چیزیں، خواہ مطعومات و مشروبات کی قیل سے ہوں، یا غیر مطعومات کی قبیل  
سے ہوں، اکثر وہ مشتری وہ پیک شدہ ہوتی ہیں۔

(۲) اور اگر پیک شدہ نہ ہوں تو بھی، یا تو مشتری بالکلیل والوزن نہ ہوں گی، یا بعد دی ذرائی ہوں گی ان  
نہیں قسموں کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں معدودیات میں داخل ہیں، اور بعض میں بیع مجاز فہم ہوتی ہے، اس

لئے بائع کے تخلیہ اور اس کے مشتری کے حکم کی بناء پر بیع سے انقطاع تعلق کے بعد قبضہ یعنی ہو جانے کی وجہ سے مشتری کیلئے ہر طرح کا تصرف جائز ہے، مگر یہ کہ مشتری ثالثی کی بیع و شراء تخلیہ اور بائع کے انقطاع تعلق سے پہلے بیع قبل القبض ہونے کی بناء پر بیع فاسد ہو گی۔

نیز اگر حضرت امام مالکؓ کے مذهب کو اختیار کیا جائے تو مکولات و مشربات کے علاوہ باقیہ تمام چیزوں میں ان کے نزدیک بیع قبل القبض کے جائز ہونے کی وجہ سے سہولت و آسانی ہو جائے گی اور موجودہ دور میں ضرورت کے وقت حضرت امام مالک کے مذهب کو اختیار کر کے لوگوں کو حرج و تنگی سے بچانا ضروری ہے "لَا حرج فِي الدِّين، يَسِرًا وَ لَا تَعْسِرًا" کا ارشاد ہے، اور فقہاء کا اصول ہے: "إِذَا صَاقَ الْأَمْرُ اِتَّسِعَ، الْمُشْكَةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ" وغیرہ، اس لئے حضرت امام مالک کے مذهب کو ضرورت کے وقت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

**کمپنی وغیرہ سے شراء کے بعد قبضہ حسی سے پہلے بیع کا حکم:**

کمپنی سے مال کی خریداری پھر اس کی بیع چار طریقوں سے ہو سکتی ہے۔

(۱) مال خریدنے کے بعد اس کو نہ دیکھا، نہ اس پر قبضہ کیا، وہ مال کمپنی ہی کے پاس تھا صرف معاملہ کرنے کے بعد اس کو فروخت کر دیا۔

(۲) خریدنے کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ وغیرہ کے حوالہ کرنے کے بعد اس کی بیع کیا اور ٹرانسپورٹ کی اجرت بائع کے ذمہ نہ ہو۔

(۳) مال خرید کر کمپنی ہی میں مشتری نے خود، یا اس کے وکیل نے اس کو الگ رکھا یا اور کمپنی نے اس کو پوری قدرت تصرف بھی دے دی، اور وہ مال مشتری کے خامان میں داخل بھی ہو گیا کہ اگر ضائع ہوگا تو مشتری کا ضائع ہوگا۔

(۴) مال خریدنے کے بعد بائع ہی کو اس کی بیع کا وکیل ہنا دیا۔

### پہلی صورت کا حکم:

کمپنی سے مال خرید کر اپنے، یا وکیل وغیرہ کے قبضہ و خامان میں آنے سے پہلے ہی کمپنی ہی سے اس کی بیع کرو یا تو یہ بیع فاسد ہو گی اگر اس سے ربح حاصل ہوگا تو "ربح مالم بضم من" ہوگا، اگرچہ بیع کے بعد بیع مشتری اول کے خامان میں آجائے، کیونکہ جس وقت عقد کیا ہے اس وقت وہ بیع غیر مقبول تھی اور اس سے حاصل ہونے والا نفع اسی عقد کی جانب منسوب ہو کر "ربح مالم بضم من" ہوگا، کیونکہ ربح اسی عقد کا نتیجہ ہے، لہذا اگر اس صورت میں بیع کے تمام ارکان وغیرہ پائے گئے ہیں تو عقد بیع تعاطی بھی نہیں بن سکتا، عقد اول کے فاسد ہو جانے کی وجہ سے، لہذا اس ربح کا حضرات احناف کے مطابق تصدق واجب ہے، البتہ اگر ایجاد و قبول کیلئے صیغہ مستقبل استعمال کیا، مشتری نے کمپنی سے کہا بھیج دیا جائے گا، تو ایجاد و قبول نہ ہونے کی وجہ سے اگر بیع یا ثمن پر بعد میں قبضہ ہو جائے تو یہ بیع تعاطی بن جائے گی۔

## دوسری صورت کا حکم:

ٹرانسپورٹ وغیرہ کو حوالہ کرنے کے بعد اگر اس کی بیع کیا اور اس کی اجرت بالع نے نہ ادا کیا ہو تو وہ مال مشتری کا مقبوض سمجھا جائے گا، اور اس کی بیع درست ہے اور اس سے حاصل شدہ نفع "ربح الم يضمن" نہ ہو گا، لیکن مشتری ٹانی کیلئے کسی تیسرے کے ہاتھ فروخت کرتا مال کے وصول ہونے سے پہلے جائز نہیں کیونکہ جب تک وہ مال ٹرانسپورٹ وغیرہ کے قبضہ میں ہے اس وقت تک وہ مقدور <sup>التسليم</sup> نہیں، اس لئے مشتری کا قبضہ اس پر نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا بیع کرنا بیع قبل القبض ہو گا جو بیع فاسد ہے۔

(۳) مال خرید کر مشتری، یا اس کا وکیل کمپنی کے کسی کمرے، گودام وغیرہ میں رکھ دے اور مشتری کو پوری قدرت تصرف ہو تو وہ مال کا مشتری مقبوض سمجھا جائے گا اور اس کی بیع جائز ہے، البتہ مشتری ٹانی کیلئے وصول ہونے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں۔

(۴) بالع ہی کے پاس مال خرید کر چھوڑ دیا اور قبضہ سے پہلے بالع کو فروخت کرنے کا وکیل بنادیا تو اس کی تین صورتیں نہیں ہیں، اگر دیکھنے سے پہلے ہی بالع سے کہا کہ اس کو فروخت کر دو تو بالع مشتری کے درمیان ہونے والے عقد کو فتح سمجھا جائے گا، بالع نے اس کو قبول کیا ہو یا نہ قبول کیا ہو، اور اگر مشتری نے بالع سے کہا کہ اس کو میرے لئے فروخت کر دو تو اس صورت میں اگر بالع قبول کر لے تو عقد فتح سمجھا جائے گا، اور اگر بالع راضی نہ ہو تو فتح نہ ہو گا، اور اگر قبضہ اور دیکھنے کے بعد اس سے کہا کہ اس کو فروخت کر دیا میرے لئے فروخت کر دو تو یہ بیع کی وکالت ہو گی اور چونکہ قبضہ کے بعد بیع کا وکیل بنایا ہے، اس لئے بیع قبل القبض بھی نہ ہو گی۔

ولو اشتري ثوباً أو حنطة فقال للبائع ، قال الإمام الفضلي إن كان قبل القبض والرؤبة كان فسخاً وإن لم يقل البائع نعم لأن المشترى ينفرد بالفسخ فى حيار الرؤبة وإن قال بعه لى أى كن و كيلا فى الفسخ فما لم يقل البائع لا يكون فسخاً وكذا لو بعد القبض والرؤبة لكن يكون وكيلًا بالبيع سواء قال بعه لى هكذا كله ملخص مما فى البحر (شامی ۲۳/۲)۔

"تفصیل نذکور حضرات ائمۃ ائمۃ" کے مذہب کے مطابق کی گئی، البتہ حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مسلک اختیار کرنے میں سہولت و آسانی ہے، ان کے نزدیک صرف معلومات میں بیع قبل القبض ناجائز ہے، اس کے علاوہ میں جائز ہے۔

والله اعلم بالصواب



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی شرعی حیثیت

مولانا شمس پیرزادہ، ممبئی

ا۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت شرعی اعتبار سے:

ترمذی کی حدیث ہے، حکیم بن حرام کہتے ہیں:

سالت رسول اللہ ﷺ فقلت یا تینی الرجل فیسالنی من الیع ما لیس عندی ، ابناع  
لہ من السوق ثم ابیعه قال : لا تبع ما لیس عندک (ترمذی أبواب البویع)۔

"میں نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور ایسی چیز کا سودا طلب کرتا ہے جو  
میرے پاس نہیں ہوتی، کیا میں اس کے لئے بازار سے خریدوں اور پھر اس کو فروخت کروں؟ فرمایا: جو چیز تمہارے  
پاس نہیں ہے وہ نہ پتو۔"

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قبضہ سے پہلے مال فروخت کرنا جائز نہیں، فقہاء بھی عام طور سے اس کو  
جائز نہیں قرار دیتے، بداع الصنائع میں ہے:

و منها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض (داع الصنائع ۵  
۱۸۰)۔

اور منقولہ مال کی بیع میں قبضہ ضروری ہے، قبضہ سے پہلے اس کی بیع صحیح نہیں۔

اور فتح السنہ میں ہے:

اما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز ، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع  
الأول فيكون بيع غرر ، و بيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقاراً أم منقولاً و سواء أكان مقدراً أم  
جزافاً (فتح السنہ للسید سابق ۲۷/۳)۔

قبضہ سے پہلے بیع میں تصرف جائز نہیں، کیونکہ اس میں باع اول کے پاس مال کے ہلاک ہونے کا احتمال  
ہے اور ایسی صورت میں یہ بیع غرر ہوگی اور بیع غرر صحیح نہیں، خواہ وہ غیر منقولہ کی، بیع ہو یا منقولہ چیزوں کی اور خواہ اس کی  
مقدار معلوم ہو یا تخمینہ سے ہو۔

بعض فقہاء نے منقولہ اور غیر منقولہ میں تفریق کی ہے، اور غیر منقولہ کی فروخت قبضہ سے پہلے جائز قرار دی  
ہے:

وأما بيع المشتري العقار قبل القبض فجاز عند أبي حنيفة و أبي يوسف استحساناً (

بدائع الصنائع ۱۸۱/۵)

رہی خریدی ہوئی غیر منقولہ کی قبضہ سے پہلے بیع تو وہ امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک احسان آجائے ہے۔

اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غیر منقولہ میں اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس لئے اس میں غریبی نہیں ہوتا۔

اور مالکی مسلک میں تو اس سے زیادہ وسعت ہے:  
وَأَمَّا بَيْعٌ مَا سُوِيَ الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي إِحْزاْتِهِ (بدایۃ  
المحدث ۱۳۳/۲)۔

جہاں تک غذا میں اشیاء کے مساوا کی قبضہ سے پہلے بیع کا تعلق ہے تو امام مالک کے مسلک میں اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حدیث میں بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا ہے جبکہ مال کی صفات معلوم ہوں، حالانکہ بیع سلم میں فروخت کیا جانے والا مال باائع کے پاس موجود نہیں ہوتا مگر ضرورت اور تعامل کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے لیکن اس میں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں جبکہ اس میں کوئی غرض نہ ہو، اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردہ کار و باری طور طریقوں میں جہاں ضرورت متراضی ہے اور غرر کا اندازہ نہ ہونے کے برابر ہے اور باائع کی طرف سے ضمانت بھی ہے تو ایسی صورت میں بیع قبل القبض کی اجازت ہوگی، اگر اس بیع کو ناجائز سمجھا جائے تو اس کا شمار بیع فاسد میں ہوگا، لیکن مالکیہ کے باں بعض صورتوں میں اس پر صحبت کا حکم لگانے کی بھی گنجائش ہے:

وَرِبَّمَا صَحَّ عِنْهُ بَعْضُ الْبَيْعِ الْفَاسِدَةِ بِالْقَبْضِ لِخَفَّةِ الْكَرَاهَةِ عِنْهُ فِي ذَلِكَ (بدایۃ  
المحدث ۱۸۲/۲)۔

اور بعض صورتوں میں امام مالک کے نزدیک فاسد بیع قبضہ کے بعد صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس میں کراہت ملکی ہے۔

## ۲۔ شریعت میں قبضہ کی حقیقت:

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

فَالْقَبْضُ مَرْجُعُهُ إِلَى عَرْفِ النَّاسِ حِيثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ (فتاویٰ  
ابن تیمیہ ۳۰/۲۷۵)۔

قبضہ کا مرجع عرف ہے، اس کی حد نہ لغت میں متعین ہے اور نہ شرع میں۔

لہذا عرف و عادات کے مطابق قبضہ کا جو تصور ہوگا اس کو شرعاً بھی قبضہ مانا جائے گا، الایہ کہ کوئی بات کسی نصی

حکم کے خلاف ہو۔

جده کی منظمة المؤتمر الاسلامی کی مجلس جمع الفقه الاسلامی مشعقتہ مارچ ۱۹۹۰ء نے قبضہ کے سلسلہ میں نئی صورت حال کے پیش نظر جو قرارداد منظور کی ہے اس میں کہا ہے کہ:

قبض الاموال کما یکون حسیا فی حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن فی الطعام ، أو السفل و التحويل إلى حوزة القاپض ، يتحقق اعتباراً و حکماً بالتخليه مع التمكن من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً و تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها و اختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها .

مال کا قبض جس طرح حسی ہوتا ہے غذا ای اشیاء میں ہاتھ سے لینے یا ناپ کریا توں کر لینے میں یا نقل و تحويل کے ذریعہ قابض کے اختیار میں آجائے سے، اسی طرح تصرف کے اختیار کے ساتھ تنخیلہ کر دینے سے اعتبار او حکماً متحقق ہوتا ہے اگرچہ حسی قبضہ پایا جاتا ہو، اور اشیاء کے قبضہ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے ان کے حال کی مناسبت سے قبضہ کے تعلق سے عرف کے مختلف ہونے کی بنابر۔

### ۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت:

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک غیر منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، بداع میں ہے:

بيع المشتري العقار قبل القبض فجائز عند أبي حنيفة و أبي يوسف استحساناً .

خرید شدہ غیر منقولہ امور کی بیع قبضہ سے پہلے جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک استحساناً۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے صاحب بداع لکھتے ہیں:

ولأن الأصل في ركن البيع إذا صدر من الأصل في المحل هو الصحة والامتناع لعارض غرر انفساخ العقد بخلاف المعقود عليه ولا يتوجه هلاك العقار فلا يتقرر الغرر فبني على حكم الأصل (بداع الصنائع ۱۸۱/۵)۔

یہ اسلئے کہ بیع کے رکن کی اصل صحیت ہے جب کہ وہ اہل بیع سے صحیح مقام پر صادر ہو، اور ممانعت اس بنابر ہے کہ مال کے تکف ہو جانے سے عقد کے فتح ہو جانے کا غرر (خطرہ) ہے لیکن غیر منقولہ اشیاء کے تکف ہو جانے کا اندریشہ نہیں ہوتا اس لئے اس میں غرر (خطرہ) نہیں ہے لہذا ان کی بیع اصل حکم پر برقرار ہے۔ اور مالکیہ کے مسلک میں بہت وسعت ہے:

يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه بالبيع سواء كان المبيع أعياناً منقوله أو أعياناً ثابتة كالارض والنخيل و نحوهما إلا الطعام كالقمح والفاكهه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه (كتاب الفقه على المذاهب الأربع ۲۳۵/۲)۔

خریدنے والے کیلئے جائز ہے کہ وہ قبضہ سے پہلے خریدے ہوئے مال میں تصرف کرے خواہ مال منقولہ اشیاء میں سے ہو یا غیر منقولہ ہو جیسے زمین اور کھجور کے درخت وغیرہ، بجز غذا ای اشیاء کے مثلاً گیہوں اور پھل، کہ ایسی چیزوں کی بیع قبضہ سے پہلے صحیح نہیں۔

اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں:

لأنها بمجرد العقد تكون في ضمان المشتري فهـى في حـكم المـقـبـوضـة (حوالـهـ مـذـكـورـ).

کیونکہ مجرد عقد سے یہ چیز خریدار کی ضمانت میں آ جاتی ہے اس لئے وہ قابض شدہ کے حکم میں ہے۔

رقم سطور کی رائے میں موجودہ زمانہ کے کار و باری عرف کو سامنے رکھنے اور قبضہ کے تصور میں وسعت پیدا

کرنے کی ضرورت ہے۔

### ۳۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں اور ان کی علت غرر (خطرہ) ہے،

اور خاص طور سے یہ بات کہ خریدار جب مال کا ضامن نہیں ہے تو اس پر نفع کمانے کا اس کو کیا حق ہے، چنانچہ ترمذی کی

حدیث میں ہے:

و لا ربح ما لم يضمن (ترمذی أبواب البيوع)

جـسـ مـالـ کـيـ ضـمـانـتـ نـهـيـ لـلـگـيـ اـسـ پـرـ نـفـعـ حـاـصـلـ كـرـنـاـ دـرـسـتـ نـهـيـ.

لیکن اگر موجودہ تجارتی سُنم میں خریدار مال کا قبضہ سے پہلے ضامن بنتا ہے اور غرر کا اندیشہ نہ ہونے کے

برابر رہتا ہے اور ضرورت بھی اس طرح کے معاملہ کی مقاضی ہے تو قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جا سکتا

ہے۔

### ۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام ہے یا اس میں کچھ استثناءات ہیں:

اس کا جواب اوپر گذر چکا، مزید یہ کہ فقہ السنۃ میں ہے:

ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل القبض فقد سأله ابن عمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له (فقہ السنۃ

للسید سابق ۲۸/۳)۔

اس قاعدہ سے مستثنی ایک نقدی کی دوسری نقدی کے ساتھ قبضہ سے پہلے بیع ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر نے رسول اللہ سے پوچھا اونٹ کو دینار کے عوض بیچنے سے اور ان کے بدل کے طور پر دراهم لینے سے متعلق، تو آپ نے ان کو اس کی اجازت دی۔ معلوم ہوا کہ کچھ مستثنی صورتیں بھی ہیں۔

### ۵۔ مال قبضہ میں آنے سے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینا جبکہ باعث اس کا ضامن ہو:

ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے لیکن فیکٹری سے خریدا

ہو اماں اپنے قبضہ میں نہیں لیتا بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار نمبر (۲) کو رو انہ کر دیتا ہے اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال رو انہ ہونے کے بعد خریدار نمبر (۲) کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر درمیان میں مال بلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آتی ہے نہ خریدار نمبر (۲) پر بلکہ یہ اسی شخص (خریدار نمبر (۱)) کا نقصان قرار پاتا ہے، اس صورت معاملہ میں اگرچہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص کا اس مال پر حصہ قبضہ نہیں ہوا لیکن وہ مال خریدار نمبر (۲) تک پہنچنے سے پہلے اس کی ضمان میں رہا، اسلئے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رنج مالم یضمون (ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) حاصل کیا بلکہ اس نے مال مضمون پر نفع حاصل کیا ہے، لہذا ضمان کو قبضہ حصی کا قائم مقام سمجھ کر اس خریدار فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا۔

جب ملکیت ہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مادی ہونا ضروری نہیں تو قبضہ کا مادی یا حصی ہونا کیوں ضروری ہو، مصطفیٰ احمد الزرقاء ملکیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و بذلك يتبيّن أن الملكية ليست مادياً، وإنما هي حق من الحقوق والحق نوع من الاعتبار الشرعي (المدخل الفقهي العام ۲۲۲۱).

اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ملکیت کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ حقوق میں سے ایک حق ہے، اور حق ایک ایسی نوع ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے۔

#### ۷۔ مشتری کا جہاز پر چڑھائے ہوئے مال کو وصول کرنے سے پہلے فروخت کرنا:

میں الاقوامی تجارت میں جہاز پر مال چڑھانے کے بعد اصل بالع کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا، اسی صورت میں مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دیتا ہے اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا بلکہ تیرا خریدار ضامن ہوتا ہے تو یہ صورت شرعاً جائز نہیں قرار دی جا سکتی، کیونکہ راجح طریقہ کے مطابق مشتری کی بدایت کے مطابق بالع مال جہاز کے ذریعہ بھیجا ہے لہذا اس کی ذمہ داری جہاز پر مال چڑھانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح مشتری دوسرے خریدار کو یہ مال وصول کرنے سے پہلے فروخت کرتا ہے تو یہ بات معہود (Understood) (ہوتی ہے کہ یہ دوسرਾ خریدار جہاز پر چڑھائے ہوئے مال کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اسلئے اول الذکر مشتری ضمانت سے بری ہے۔

خلاصہ یہ کہ مال کی ترسیل کے سلسلہ میں مشتری کی بدایت کے مطابق مال جہاز وغیرہ کی تحویل میں دینے سے بالع اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر مال تلف ہو جاتا ہے تو بالع پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، البتہ مال کی تلاش کی صورت میں معاوضہ کیلئے قانون نے انشورنس کا طریقہ راجح کیا ہے، اور یہ اسی طرح جائز ہے جس طرح پوشل انشورنس۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت۔ اصولی مباحث

مولانا اختر امام عادل

قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ احمد اور بعده کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔

**مذاہب ائمہ:**

بنیادی طور پر اس سلسلہ میں تین رائے میں پائی جاتی ہیں:

۱۔ قبضہ سے قبل علی الاطلاق کسی بھی جیز کی بیع درست نہیں، خواہ میع منقول ہو یا غیر منقول، طعام ہو یا غیر طعام، یہ رائے امام شافعی، امام محمد بن حسن شیباعی اور امام زفرگی ہے، اور حضرت عبد اللہ بن عباس کی جانب بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، (بدائع الصنائع ۵، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲۳۲، ۲۳۵)۔

۲۔ طعام کے سوا جس چیز کو کیل یا وزن کے ساتھ فروخت کیا گیا ہو، دوسری چیزوں کی بیع قبضہ سے قبل درست نہیں، طعام کو بھی اگر اندازے سے فروخت کرو یا گیا اور اس کو کیل یا وزن کے ساتھ فروخت نہیں کیا گیا تو اس کی بیع بھی قبل القبض درست ہے، یہ رائے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی ہے (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲۳۲، بلوغ الامانی ۳۶۰، مبسوط سرخی ۱۲/۸، نووی شرح مسلم ۱/۱۶۹)۔

۳۔ اشیاء منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت علی الاطلاق درست نہیں، اور اشیاء غیر منقولہ کی بیع قبضہ سے قبل اس شرط کے ساتھ درست ہے کہ ان کے بلاک یا ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً از میں، جائد اور مکان وغیرہ، لیکن اگر زمین کسی ایسی ندی کے کنارے ہو جو موج کی طغیانی سے سکتی ہو، یا مکان ایسی پوزیشن میں ہو کہ اس کے گر جانے کا اندیشہ ہو، ایسی شکلوں میں بغیر قبضہ فروخت کرنا درست نہیں، یہ رائے امام عظیم ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کی ہے (فتح القدر ۵/۴۶، مبسوط سرخی ۱۲/۸، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲۳۲)۔

**دلائل و وجوہ:**

**مذہب اول:** پہلی رائے جو امام شافعی، امام محمد اور امام زفرگی طرف منسوب ہے جس میں علی الاطلاق قبضہ سے پہلے کسی چیز کی بیع و شراء درست نہیں ہے، اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) پہلی دلیل وہ روایات ہیں جن میں بالآخر قید کے قبضہ سے قبل کوئی چیز فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، مثلاً عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہ تبع السلع حیث تباع حتی بحوزہ التجار إلى رحالهم (اخراج ابو داؤد ۳۵۶، بحوالہ تتمہ فتح الملجم ۱/۳۲۵۰)۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جہاں سامان خریدا جائے وہیں سامان بیچنے سے منع فرمایا، جب تک کہ تجارتی حقاً نہیں و قبضہ میں سامان کو نہ لے لیں۔

اور اب ان کی روایت میں ہے کہ جب کسی چیز کو خرید و تو اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک کہ قبضہ نہ کرو۔

فی روایة أبیان إذا اشتريت بیعا فلابد من تقبضه (السنن الکبری ۳۱۲/۵)۔

اس مضمون کی ایک روایت عبد اللہ بن عمر وابن العاص سے بھی منقول ہے:

ان رسول اللہ ﷺ قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا  
بيع مال ليس عندك (آخر جه الشرمذی فی باب کراہیہ بیع مال لیس عندک) و قال هذا حدیث  
حسن صحيح ، بحوالہ تکملہ فتح الہم (ار ۳۵۰)۔

ان روایات میں سے کسی بھی روایت میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کیلئے کوئی قید کرنے کی  
گئی ہے، اس لئے یہ ممانعت تمام چیزوں کیلئے کیا جائے گی۔

(۲) دوسری دلیل اس رائے کے حاملین نے یہ دی ہے کہ تمام منقول چیزوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے (الحرارۃ ۶/۱۱۶)

(۳) تیسرا دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عقد کی صحت کیلئے مقدمہ راستیم ہونا شرط ہے اور یہ بغیر قبضہ کے ممکن  
نہیں، بغیر قبضہ کے مال انسان کی مکمل ملکیت میں نہیں آتا اور جس پر مکمل ملکیت نہ ہواں کو فروخت کرنا جائز نہیں۔

(۴) اس کے علاوہ اس میں سامان کے ہلاک ہو جانے کا اندازہ بھی ہوتا ہے، جس سے مشتری ٹالی کو غرر  
ہو سکتا ہے (بدائع الصنائع ۵/۱۸۱، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲۳۵/۲)۔

**مذهب ثالثی:** دوسرا مذهب امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا ہے، ان حضرات کے نزدیک اصولی طور پر  
قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، مگر اس عموم سے صرف ایک صورت کا استثناء ہے وہ یہ کہ طعام کی بیع اگر کیلیا  
وزن، یا گنتی کے ساتھ کی جائے تو اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں، طعام کے علاوہ تمام چیزوں کی بیع قبضہ  
سے قبل درست ہے، اور اگر طعام کو بھی کیلیا وزن یا گنتی کے بجائے اندازہ سے بیجا جائے تو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا  
جازی ہے، اس لئے کہ محض عقد ہی سے مشتری کے ضمان میں آ جاتا ہے، اس لئے کہ یہ مقبول کے درجہ میں ہے، قبل  
القبض ہے ہی نہیں۔

ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت والی متعدد روایات میں طعام کی قید  
مذکور ہے، بعض میں "یکحالہ" کی قید کا بھی ذکر ہے، اگر یہ حکم عام ہوتا تو ان قیدوں کا فائدہ کیا تھا (مبسوط ۱۳/۸)۔

وہ روایات یہ ہیں:

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاما فلا يعه حتى يستوفيه وعن عبد الله  
ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من اشتري طعاما فلا يعه حتى يستوفيه ويقبضه (مسلم شریف)  
(۵/۲)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانے کی چیز خریدے تو  
اس کو فروخت نہ کرے، جب تک کہ قبضہ نہ کرے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ "حتیٰ یکتالہ" بیہاں تک کاسے کیل سے ناپ نہ لے۔  
عن ابی هریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال من اشترى طعاماً فلا يبعه حتیٰ یکتالہ (مسلم  
شریف ۵۲)۔

اس طرح امام مالکؓ اور امام احمدؓ نے طعام اور کیل کی قید کو احترازی فرار دیا، جبکہ دوسرے علماء نے ان کو قید  
اتفاقی قرار دیا ہے (بلوغ الامانی ار ۳۶)۔

**نہجہب ثالث:** حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جو منقولات میں قبضہ سے پہلے خرید  
وفروخت کی اجازت نہیں دیتے، اور غیر منقولات میں دیتے ہیں بشرطیکہ خیار کا اندر یہ شرط ہو۔

(۱) ان کے سامنے بھی وہی احادیث ہیں جن میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت آئی ہے، مگر یہ  
غیر منقول کا استثناء کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت ایک ملت کی بنیاد پر آئی ہے، اور وہ علت ہے غرر کا امکان، مشتری  
اگر بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اسی کے ہاتھ فروخت کر دے اور کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو یہ بیع نافد نہیں ہو سکے گی،  
اس طرح مشتری تاثیٰ کو دھوکہ ہو جائے گا، اور یہ علت مستخاذ ہوئی ہے اس حدیث سے جس میں حضورؐ نے بیع غرر اور بیع  
غیر مقدور انتظام سے منع فرمایا (ترمذی شریف ۱۱۲، الشعاع الرہانی ۱۵/۲۵)۔

اور جب یہ ممانعت کسی خاص سبب سے ہے تو جس صورت میں یہ سبب نہیں پایا جائے گا ممانعت باقی نہیں  
رہے گی، غیر منقول چیزیں، مثلاً زمین، مکان وغیرہ کے خیار کا اندر یہ عموماً نہیں ہوتا، اسلئے ان چیزوں کی بیع قبضہ سے  
قبل بھی درست ہو گی (العملہ فتح الہلبم ار ۲۵۰، میسوط سرخی ۱۳/۸۰)۔

(۲) ایک بات اور ان کی طرف سے کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی معاملہ دو عاقل، بالغ مسلمان کے درمیا  
ن طے پائے، اور جس چیز پر معاملہ کیا گیا ہے وہ اس کے لائق بھی ہو تو یہ معاملہ اصولاً جائز ہونا چاہئے، ایک بیع جو معدوم  
نہیں موجود ہے، اس پر بالعکس ملکیت بھی ہے، صرف قبضہ نہیں ہے، محل بیع بن سکتا ہے، اور جب یہ عقد دو اہل کے درمیان  
ٹے پائے تو اس کو درست ہونا چاہئے، یہ شریعت کے اصول کلی کے تحت سمجھی میں آتا ہے، اور قرآن نے جو "احل اللہ  
البیع" کہہ کر بیع کی اجازت دی ہے، اس کے بعد میں ہر طرح کی بیع آجائی ہے، اب اگر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت والی  
شکل کو احادیث کی بنیاد پر تم خاص کر لیں تو خبر واحد سے کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص کرنا لازم آتا ہے، جو اصول کے مطابق  
درست نہیں، اس بنیاد پر ہم اخبار آحادیت کی بنیاد پر قرآن پاک کے عموم اور شریعت کے اصول کلی کو ترک نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ  
حدیث پر عمل کرنے کیلئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام احادیث کو جن میں بیع قبل القبض کی ممانعت آئی ہے ان کو اشیاء منقولہ پر  
محمول کر لیں، تاکہ کتاب اللہ اور احادیث کے درمیان تطبیق ہو جائے اور کسی کا ترک لازم نہ آئے۔

اور منقول کو کتاب اللہ کے عموم سے ہم خارج اسلئے کرتے ہیں کہ یہ بھی شریعت کے ایک اصول کلی سے  
تابت ہے، وہ یہ کہ "بیع غرر" اور "ریح مالم - ضممن" درست نہیں، اور یہ دونوں خرابیاں منقول کی قبضہ سے پہلے خرید  
وفروخت میں لازم آئی ہیں، ربا غیر منقول تو اس میں عموماً ہلاکت کا اندر یہ شرط نہیں کہ دھوکہ ہو، یا خمان میں لینے کی

ضرورت پیش آئے (فتح القدر ۱۵/۲۶۶، البحرائق ۱۱۶/۶، بداع الصناع ۱۸۱/۵)۔  
بیع قبل القبض کی ممانعت والی روایت معلول بالعلة:

اس پوری تفصیلی گفتگو سے یہ بات سمجھیں آتی ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ائمہ ارجمند میں سے کسی بھی امام کے نزدیک مطلق جائز نہیں ہے، بعض فقہاء نے تو مطلقنا جائز قرار دیا اور بعض نے بعض صورتوں کا استثناء کر کے اس کو ناجائز قرار دیا، اس طرف ایک طرف فقہاء کا عمومی رجحان کم از کم منقولہ چیزوں میں عدم جواز کا معلوم ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ بھی سمجھیں آتا ہے کہ بعض صورتوں کا جن لوگوں نے استثناء کیا ہے ان کے ذہن میں ممانعت کی کوئی علت ہے، جس کے نہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں نے جواز کا حکم لگایا۔

مثلاً جمہور احناف نے اعیان غیر منقول کو قبضہ سے قبل یعنی کی اجازت دی ہے، اور اس کو ممانعت والے حکم کے عموم سے خارج کر دیا ہے، ان کے ذہن میں اس ممانعتی حکم کی بنیادی علت اندیشہ تحریر ہے جو منقول میں پایا جاتا ہے، غیر منقول میں نہیں (فتح القدر ۱۵/۲۶۶)۔

اسی طرح شافعیہ اور امام محمد نے جو عمومی ممانعت کی دلیلیں دی ہیں، ان میں بھی بنیادی اہمیت روایات کے بعد اسی اندیشہ تحریر اور غیر مقدور لفظیں ہونے والی بات کو حاصل ہے (الفقد علی المذاہب الاربعہ ۲۳۵/۲)۔

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کے دلائل:

ان مخصوص صورتوں کے علاوہ عام حالات میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جمہور فقہاء جائز نہیں قرار دیتے، اگر مختلف ائمہ کے یہاں پھیلی ہوئی بخشوں کو اس جمہوری نقطہ نظر کیلئے سمینا جائے تو تمام مباحث اور دلائل کا چوڑ نکلے گا:

کہ خریدے ہوئے سامان کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا، یا اس قسم کا کوئی اور تصرف کرنا جائز نہیں، والا یہ کہ مشتری کوئی ایسا تصرف کرے جو قبضہ کے مترادف سمجھا جائے، مثلاً کسی کو ہبہ کر دے، یا صدقہ کر دے، یا کسی تیرے شخص کے پاس رہن رکھ دے، یا بطور قرض دیدے وغیرہ، تو اس قسم کے تصرفات مشتری کی جانب سے درست ہوں گے، اس معنی میں کہ مشتری اس میمع پر قبضہ حاصل کر رہا ہے یا کر چکا ہے (شامی ۲۱/۱۸، مسوط نسخی ۱۳/۸)۔

(۱) اور اس کیلئے دلیل ایک طرف وہ روایات ہیں جن میں حضور اکرم ﷺ نے قبضہ کرنے سے پہلے خریدے ہوئے سامان کو یعنی سے منع فرمایا ہے، روایات ماقبل میں گذر چکی ہیں (مشکوہ ۲۸۸، مسلم شریف باب بظالان بیع لمیمع ۲/۵)۔

دوسرے عقلی دلائل ہیں جو دراصل وجہہ عمل کا درج رکھتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

(۲) قبضہ کے بغیر کسی چیز پر ملکیت تام نہیں ہوتی اور جب تک مکمل ملکیت حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کو

فروخت کرنا صحیح نہیں، قبضہ میں بھی قبضہ کھان ضروری ہے، قبضہ امانت کافی نہیں (الاشاہ والنظائر ۲۷۵/۲)۔

(۳) قبضہ سے قبل تصرف اس لئے بھی جائز نہیں کہ وہ مقدور لفظیں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اب تک باع کے

قبضہ میں ہے اور اس حالت میں اس کو کسی کے با تجھ بیچنا دراصل بالغ کے حق میں تصرف کرنا ہے جو درست نہیں (مبوط سرخی ۸/۱۳)۔

(۴) جس چیز پر مشتری کا قبضہ نہ ہوا ہو اس کو فروخت کرنے میں اندیشہ غرر ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سامان مشتری ثانی کو حوالہ کرنے سے پیشتر ہی کسی وجہ سے ضائع ہو جائے، جبکہ حضور ﷺ نے نفع غرر سے منع فرمایا ہے (بدائع الصنائع ۵/۱۸۵، الجبراۃ ۶/۱۱۲)۔

(۵) جس سامان پر انسان کا قبضہ نہ ہو وہ محل تملیک نہیں بن سکتا، اور وہ انسان کے خان میں نہیں آتا، اور حضور نے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جو انسان کے خان میں نہ ہو، یا جو محل تملیک نہ بن سکتا ہو۔

**قبضہ سے پہلے خرید و فروخت نفع فاسد ہے:**

یہاں ایک اہم ترین بحث یہ ہے کہ جمہور فقیہاء کے نزدیک عام حالات میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کر لے تو اس کو نفع ممنوع کی تین قسموں (نفع باطل، نفع فاسد، نفع مکروہ (در محتار ۲/۱۱)) میں سے کس قسم میں داخل کیا جائے؟

اس کا جواب فقیہاء کی تصریحات اور اصولی بحثوں کے مطابق یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فاسد کے ذمیں میں آتی ہے، اسلئے کہ نفع باطل کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو اپنے اصل اور وصف دونوں لحاظ سے جائز نہ ہو اور نفع فاسد کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہو، مگر وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو اور نفع مکروہ کہتے ہیں: جو اپنے اصل اور وصف دونوں لحاظ سے درست ہو، مگر کسی خارجی نقص کی بنا پر اس میں کراہت آگئی ہو، جیسے جمع دکی اذان کے وقت نفع و شراء کرنا (شامی ۲/۱۱)۔

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اپنے اصل کے لحاظ سے جائز ہے، کیونکہ یہ معاملہ ایک قابل نفع چیز پر وہ عاقل بالغ مسلمانوں کے درمیان طے ہوا ہے، اور ”مبادلة المال بالمال“ کی حقیقت بھی پائی جاتی ہے، اور کون نفع ایجاد ہے تو قبول بھی درست ہے، اسلئے اس کو اصل کے لحاظ سے خلاف نہیں کہ سکتے، البتہ غیر متبع، یا غیر مقدور اسلامیم، یا اندیشہ غرر ہونا یہ وصف کا انعام ہے جس کی بنا پر اس کو نفع فاسد قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ بعض فقیہاء کے یہاں اس کی تصریح بھی ملتی ہے (الفتنۃ علی الہدیۃ الاربعۃ ۲/۲۳۳)۔

بعض کتابوں (مثلاً الجوہرة) میں اس کو نفع باطل کہہ دیا گیا تو شامی نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اطلاق عام معنی میں ہے اصطلاحی معنی میں نہیں ہے (شامی ۲/۱۸۲، وکذا فی الطحاوی علی الدر المختار)۔

**قبضہ کی حقیقت:**

اس موضوع کی ایک خصوصی بحث قبضہ کی حقیقت و نوعیت سے متعلق ہے۔

فقیہاء نے قبضہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے:

۱۔ قبضہ حقیقی، ۲۔ قبضہ حکمی۔

قبضہ حقیقی اس قبضہ کو کہیں گے جس میں شی انسان کے واقعی تصرف میں آجائے، مثلاً کتاب خریدی تو اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی موڑ خریدی تو اس پر سوار ہو جائے، جا تو رخربیدا تو اس کی بائگ ڈور پکڑ لے وغیرہ۔

اور قبضہ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیلئے سامان اس پوزیشن میں ہو جائے کہ وہ چاہے تو اسے بآسانی اپنے تصرف میں لاسکتا ہو اور استعمال کر سکتا ہو، مثلاً کسی نے کپڑا خریدا اور بائع نے اس کے سامنے کپڑا اتنی دور پر رکھ دیا کہ وہ ہاتھ پر ہما کر اس کو بے تکلف لے سکتا ہے تو یہ قبضہ حکمی ہے (قواعد الفقة ۲۲۲، فتاویٰ انقرہ یا ۲۵۳/۵، بدائع ۲۲۷/۵)۔

قبضہ حکمی کی مختلف شکلیں کتب فقہ میں ملتی ہیں، فقہاء نے متعدد امثال و علامات ذکر کئے ہیں، جن کے پیش نظر ہر کسی چیز پر قبضہ حکمی کا حکم لگا سکتے ہیں، ویسے انہی صورتوں میں انحصار نہیں ہے، کسی فقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قبضہ حکمی کی بیسی چند شکلیں ہیں جو اس نے ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی، بلکہ فقہاء نے جو کچھ لکھا اپنے استقراء اور تسعیج کے لحاظ سے لکھا، اور آخر میں یہ قاعدة کلیہ تکھدیا کرے۔

لکن ذلک بخلاف بحسب حال المبيع (شامی ۲۷/۲)۔

قبضہ کی کوئی ایک صورت و توعیت متعین نہیں ہے، بلکہ وہ مبیع کی حالت و یقینیت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، شامی نے اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے، مثلاً کمرے میں اناج رکھا ہوا ہو، تو اس پر قبضہ اس وقت مانا جائے گا جب کہ اس کمرے کی چاہی مشتری کو مل جائے اور وہ اسے بے تکلف کھول سکے، کسی مکان کی فروخت میں مکان پر قبضہ اس وقت مانا جائے گا جب کہ اس کے بند کرنے پر مشتری قادر ہو جائے۔

چراگاہ کے جا تو پر قبضہ اس وقت متصور ہو گا جب کہ وہ نگاہ کے سامنے ہو اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ کسی مکان میں بند گھوڑے اور پرندے پر قبضہ اس وقت ہو گا جبکہ مشتری بغیر کسی کی مدد کے ان کو پکڑ سکے وغیرہ (شامی ۲۸/۳)۔

یہ مثالیں سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ قبضہ کی کوئی ایک صورت معمین نہیں ہے، بلکہ مبیع کے حال کے لحاظ سے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے باوجود فقہاء نے چند علمتی افعال و احوال کا ذکر کیا ہے جن سے قبضہ حکمی کا بڑی حد تک احاطہ ہو جاتا ہے، عالمہ کاسانی نے تو مستعمل باب ہی قائم کیا ہے: "بیان ما یصیر به المشتری قابضا للبيع من النصرفات وما لا يصیر به قابضا"۔

ان افعال و احوال کا ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے، تاکہ ان کی روشنی میں آج کے حالات و ظروف میں سے کسی چیز کے قبضہ کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں، وہ افعال و احوال درج ذیل ہیں:

(۱) تخلیکو فقہاء نے قبضہ حکمی قرار دیا ہے، تخلیکہ کا مطلب یہ ہے کہ عاملہ ہونے کے بعد مبیع کو بائع مشتری کیلئے چھوڑ دے تو یہ قبضہ متصور ہو گا، بشرطیکہ تمیں باہمی پائی جائیں:

(۲) چیلی بات یہ ہے کہ بائع کہ دے کہ یہ سامان میں نے تمہارے لئے چھوڑ دیا، اور مشتری کہے کہ میں نے قبضہ کر لیا۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ مبیع مشتری کے سامنے موجود ہو، باس طور کہ وہ اس کو بآسانی حاصل کر سکتا ہو۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ مبیع کے ساتھ حق غیر اس طور پر وابستہ ہو کہ یہ تابع ہوا و حق غیر اصل، لیکن اگر حق غیر کی واپسی اس طور پر ہو کہ مبیع اصل ہوا و حق غیر تابع، مثلاً گیوں بائع کے تھیلوں میں رکھے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں (فتاویٰ انقرہ یا ۲۵۳، الابشاد والنظم ۲۸۲-۲۹۲، شامی ۲۸۳)۔

(۴) مشتری یا بائع کی طرف سے ایسا فعل صادر ہو جائے جس سے پتہ چلے کہ بائع کی طرف سے مبیع پر تصرف کرنے کی اجازت ہے تو اسے بھی حکما قبضہ قرار دیا جائے گا، مثلاً مبیع ابھی بائع کے قبضہ میں ہوا و مشتری اس کو تابع کر دے، یا اس میں کوئی ایسا تصرف کر دے جو مبیع میں حقیقتہ یا حکما کوئی شخص یا عیب پیدا کر دے اور بائع اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، تو پمشتری کا قبضہ ہی سمجھا جائے گا، حقیقی شخص کی مثال جیسے جانور خریدا تھا، اس کا پاؤں کاٹ دیا، یا سر یا آنکھ زخمی کر دیا۔ اور حکمی شخص کی مثال: جیسے باندی تھی اس کو ام ولد بنادیا، یا غلام تھا اس کو مد بر جادو یا، یعنی ام ولد ہوں یا مدد بر ہونے کا اقرار کر لیا تو اس سے غلام یا باندی میں شخص پیدا ہو گیا کہ اب اس کو فروخت نہیں کر سکتے، کسی کو یہہ یا بدیہی میں نہیں دے سکتے وغیرہ (بدائع الصنائع ۵، ۲۳۶، شامی ۲۷۲)۔

(۵) یا یہ کہ مبیع کو نقصان پہنچانے والے افعال مشتری کی اجازت و حکم سے خود بائع انجام دے، تو یہ بھی مشتری ہی کی طرف حکما منسوب ہوں گے، اور اس صورت میں بھی مشتری کا قبضہ تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر بائع نے مشتری کے کہنے پر ایسے افعال انجام دیے جو مبیع کو نقصان نہیں پہنچائے، مثلاً مشتری کے کہنے پر اس نے مبیع کو ایک جگہ سے دوسرا جگہ منتقل کر دیا وغیرہ، تو اس صورت میں مشتری کا قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ تصرفات خود بائع ہی کی طرف منسوب ہوں گے، اور وہی تصرف کرنے والا قرار دیا جائے گا (بدائع ۵، ۲۳۶، شامی ۲۷۲)۔

(۶) مشتری کی طرف سے مبیع کے تعلق سے ایسی حرکت سر زد ہو جس سے اندازہ ہو کہ وہ اس معاملہ پر پوری طرح راضی ہے اور اسی بنا پر وہ اس کو اپنے تصرف میں لانا چاہتا ہے، مثلاً معاملہ ہونے کے بعد مشتری مبیع کسی کو بطور عاریت، یا بطور ہیہ، یا ودیعت کے دیدے، یا کوئی اور ایسا تصرف کر دے جس کے وجود و انعقاد کیلئے قبضہ ضروری ہے، تو عالمتی طور پر یہ مشتری کا قبضہ متصور ہو گا، بشرطیکہ اس نے یہ معاملات خود بائع سے نہ کئے ہوں، اس لئے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی صورت میں وہ دوسرا شخص قبضہ کے باب میں مشتری کا نائب تصور کیا جائے گا کہ پہلے وہ مشتری کی طرف سے قبضہ کرے گا، پھر اپنی طرف سے، اس کے برخلاف اگر مشتری یہ معاملہ خود بائع سے کرے تو مبیع پر قبضہ کے باب میں بائع کو مشتری کا نائب قرار نہیں دیا جا سکتا، اسلئے کہ اس کا قبضہ مبیع پر بطور اصل کے قائم ہے، اسلئے اس کو نائب کی حیثیت سے قابض نہیں قرار دیا جا سکتا۔

اسی طرح اگر مشتری مبیع میں ایسا تصرف کرے جس کا انعقاد قبضہ پر موقوف نہیں ہے، مثلاً کسی کے ہاتھ پیچ کر دے تو اس سے بھی مشتری کا قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، اسلئے کہ جب قبضہ اس کیلئے لازم نہیں تو مشتری تالی کو مشتری اول گی طرف سے بطور نیابت قابض مانتے کی ضرورت نہیں ہے (بدائع الصنائع ۵، ۲۳۶)۔

(۵) اگر بیع مشتری کے حمان میں آجائے اور قانونی طور پر وہ اس کی خلافت قبول کرے، تو اگرچہ کہ حتاکہ اس کا قبضہ اس پر نہ ہو مگر حکما اس کا قبضہ سمجھا جائے گا، اور اگر حتاکہ قبضہ ہو بلکہ مثال کے طور پر قبضہ امانت ہو تو حتاکہ قبضہ کے باوجود وہ قابض نہیں سمجھا جائے گا (فتح القدر ۲۶۶/۵، الا شاہ والظاهر ۲۷۵/۲).

### شیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت جدا ہے:

اس تفصیل سے ایک طرف قبضہ کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے تو دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت ایک نہیں ہوگی، بلکہ خود تمام اشیاء، غیر منقولہ میں بھی قبضہ کی نوعیت ایک نہیں ہوگی، مکان اور زمین و نوں اشیاء، غیر منقولہ میں سے ہیں، مگر کتب فقہ میں دونوں کے قبضہ کی نوعیت الگ بتائی گئی ہے، زمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے جنگل میں کوئی زمین فروخت کی اور وہ زمین اس کے حوالہ کر دی تو یہ قبضہ اس وقت مکمل ہو گا جبکہ مقام عقد سے وہ زمین قریب ہو جس کو وہ دیکھا اور سمجھا ملتا ہو، ورنہ قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا (الاشاہ والظاهر ۲۸۷/۳).

اور مکان کے بارے میں فقہی جزئیہ ملتا ہے کہ مکان پر قبضہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کہ اس کی چاپی اس کے حوالے کر دے اور مشتری اس مکان کو بند کرنے پر قادر ہو جائے ورنہ قبضہ نہیں ہو گا (عامگیری ۳/۱۶).

تو جب خود اشیاء، غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں فرق ہے تو اشیاء، منقولہ اور غیر منقولہ کے درمیان قبضہ کی نوعیت میں فرق واقع ہونا طبعی ہے، اور اس کیلئے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، تخلیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ بیع مشتری کے سامنے موجود ہو، یہ اشیاء، منقولہ کیلئے ہے، اشیاء، غیر منقولہ میں سامنے کے بجائے قریب ہونا کافی ہے (شامی ۲۶۷/۲).

### قبضہ حمان کی ایک شکل:

اس اصولی گفتگو کی روشنی میں اس صورت مسئلہ کا جواب یہ سانی دیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال بظاہر اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار (۱) کو روانہ کر دیتا ہے اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار (۲) کے پاس ہوئے چھنے سے پہلے اگر درمیان میں مال ہلاک ہو جائے، تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آتی ہے نہ خریدار (۲) پر، بلکہ یہ اسی شخص (خریدار نمبر (۱)) کا نقصان قرار پاتا ہے، اس صورت معاملہ میں اگرچہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص کا اس مال پر حسی قبضہ نہیں ہوا، لیکن وہ مال خریدار نمبر (۲) تک پہوچنے سے پہلے اس کے حمان میں رہا، اسلئے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے "رنج مالم بضم" (ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) حاصل کیا، بلکہ اس نے مال مضمون پر نفع حاصل کیا ہے جو قبضہ حکمی کے درجہ میں ہے، اسلئے یہ صورت معاملہ شرعاً جائز معلوم ہوتی ہے۔

### ایک ناجائز شکل:

البتہ وہ صورت جس میں میں الاقوامی تجارت شپنگ (جہاز پر مال چڑھانے) کے بعد حاصل باعث کا ذمہ

فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے صائع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور مال کے صائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا بلکہ تیرا خریدار ضامن ہوتا ہے، یہ صورت معاملہ شرعاً ناجائز ہے۔

(۱) ایک تو ”رنج المضمون“ کی وجہ سے (۲) دوسرے اقتصادی بحران پیدا ہونے کے خطرہ کی وجہ سے اس لئے کہ ایک چیز کی جو قیمت جہاز پر چڑھاتے وقت تھی، اس کی دس گنی قیمت جہاز سے اترتے وقت تک ہو جاتی ہے (تممہ فتح الہلبم ۳۵۳)۔

### خلاصہ جوابات:

اب سوالات کی ترتیب پر خلاصہ جوابات ملاحظہ ہو۔

(۱) شرع اسلامی کی رو سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں اور یہ حق فاسد میں داخل ہے۔

(۲) اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز پر واقعی تصرف حاصل ہو جائے، یا قدرت علی التصرف حاصل ہو جائے، اس کیلئے کتاب و سنت نے کوئی خاص صورت متعین نہیں کی ہے، بلکہ اسے لوگوں کے عرف و عادت پر چھوڑ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استیلا، اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے گا۔

(۳) اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے فرق واضح ہوگا، جو اشیاء کے حسب حال عرف کے مطابق ملے کیا جائے گا۔

(۴) قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق احادیث جمہور علماء کے نزدیک معلوم بالعلة ہیں، اور علمت بنیادی طور پر ”اندیشہ تحرر“ ہے۔

(۵) قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت جمہور احناف اور مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک عام نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی تخصیصات اور استثناءات کی گئی ہیں، مثلاً حنفی نے اشیاء غیر منقولہ کی تخصیص کی، اور مالکیہ و حنابلہ نے اس حکم ممانعت کو صرف ایسے طعام کے ساتھ خاص کر دیا جس کو کیل و وزن، یا گنتی سے فروخت کیا گیا ہو، باقی چیزوں میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو وہ جائز کہتے ہیں، شافعیہ اور امام محمد و زفر کے نزدیک، البتہ یہ حکم عام ہے۔

(۶) فیکٹری سے مال خرید کر بھجوانے کی صورت میں جب مشتری اول ضمان لیتا ہو تو یہ قبضہ سمجھا جائے گا اور بیع درست ہوگی۔

(۷) اور اگر پہلا خریدار سامان کی ضمانت نہیں لیتا تو یہ قبضہ نہیں ہوگا اور بیع درست نہ ہوگی۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی

شروعت اسلامی میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے:

أَمَا الْذِي نَهَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبَاعُ حَتَّىٰ يَقْبَضَ فَالْأَبْنَاءُ وَلَا  
أَحَسِبَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ (صحیح بخاری: ۲۸۶/۱)۔

وہ چیز جس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے وہ ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جنہیں قبضہ سے پہلے بیجا  
جائے۔ تا آنکہ ان پر قبضہ ہو۔

ابن عمرؓ کی حدیث میں ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَعَ طَعَاماً فَلَا يَبْعَدُهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيهِ، زَادَ اسْمَاعِيلَ مِنْ ابْتَاعِ طَعَاماً  
فَلَا يَبْعَدُهُ حَتَّىٰ يَقْبَضَهُ (بخاری: ۲۸۶/۱)

رسول ﷺ نے فرمایا جو شخص کھانے کی اشیاء بیچنا چاہے تو اسے اس وقت تک نہ بیچ جب تک پوری  
طرح قبضہ میں نہ لے، اسماعیل نے اپنی روایت میں "حتیٰ يستوفیه" کی جگہ "حتیٰ يقْبَضَه" کا اضافہ کیا  
ہے۔ علامہ مینی نے فرمایا ہے:

وَالْقَبْضُ وَالْأَسْتِيفَاءُ سَوَاءٌ وَالَّذِي يَسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ بَيعِ الطَّعَامِ إِلَّا  
بَعْدَ الْقَبْضِ.

اور قبضہ اور استیفاء دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور جو کچھ حدیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ  
آنحضرت ﷺ نے بیع طعام سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ قبضہ کے بعد ہو (تو درست ہے) (عمدة القارئ: ۳۷۸/۵)۔  
ترمذی کی روایت میں مزید وضاحت ہے:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَّامَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ يَاتِينِي الرِّجْلُ فَيَسأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ  
مَا لَيْسَ عَنِّي . ابْتَاعَ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبْيَعَهُ . قَالَ لَا تَبْعِي مَا لَيْسَ عَنِّكَ (ترمذی: ۱۳۸/۱)۔

حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایسی چیز کے بیع کا مجھ سے  
سوال کرتا ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہوتی۔ میں اس کے لئے بازار سے خرید کر لاتا ہوں پھر اسے فروخت کرتا ہوں،  
آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو اسے مت فروخت کرو۔

## قبل القبض کا حکم:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فقہی نقطہ نظر سے بیع فاسد میں داخل ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:  
وقید بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح غير أنه لا يجب على المشترى دفع الثمن  
لعدم القبض (شامی ۲۳/۲)۔

قبضہ کی قید اس لئے لگائی ہے کہ معاملہ بیع ذاتی اعتبار سے صحیح ہے، البتہ قبضہ نہ ہونے کے سبب خریدار پر مشن کی ادائیگی واجب نہیں۔ ابن تجھیم حنفی فرماتے ہیں:

و حکم الفاسد مالا یفیدہ بمجردہ، بل بالقبض۔

بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ محض معاملہ بیع سے ملک کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ قبضہ سے ملک حاصل ہوتی ہے۔ (ابحر الرائق ۶۹/۲)۔

## قبضہ کی حقیقت:

قرآن و حدیث میں قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین نہیں کی گئی ہے، البتہ اشارۃ القبض سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو فقہاء کی عبارتوں سے واضح ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کچھ خاص قسم کے عمل دخل کو جو لوگوں کے عرف و عادت کے مطابق قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ قبضہ مانا جائے گا۔ علامہ شامی نے قبضہ کی دو قسمیں قرار دی ہیں:

(۱) **قبضہ حقيقی:** جو شے مقبوض پر قبض کے عملی اصرف گو ظاہر کرتا ہو۔

(۲) **قبضہ حکمی:** جو قبض کو صرف اس درجہ میں حاصل ہو کہ وہ قبضہ کر سکنے کی پوزیشن میں ہو یا اس کو عرف میں قبضہ مانا جاتا ہو۔

ثم التسلیم يکون بالتجھیة على وجه يتتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل (در  
محوار: ۲۶۳/۳)۔

پھر پر دگی خریدار اور سامان کے درمیان ایسی تہائی پیدا کر دینے سے ہوتی ہے جس میں سامان پر قبضہ کرنے کی صورت ممکن ہو اور کوئی روکاوت یا آڑ نہ ہو، یعنی بیع خریدار کے سامنے ہو اور باعث اس کو اپنی ملک سے اس طرح علیحدہ کر دے کہ حق غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔  
علامہ شامی لکھتے ہیں:

و حاصله أن التخلية قبض حكمًا لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذالك يختلف بحسب حال المبيع (شامی ۲۳/۲)۔

خلاصہ یہ کہ تخلیہ قبضہ حکمی ہے بشرطیکہ بلا مشقت سامان پر قدرت حاصل ہو لیکن بیع کے حسب حال یہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ گھر میں گیہوں ہو تو اس کا قبضہ یہ ہے کہ باعث کرے کی کنجی خریدار کو دے دے۔ اور خریدار بلا مشقت اس کو کھول سکے۔ اور گھر پر قبضہ یہ ہے کہ خریدار اس کا تالا لگا سکتا ہو۔ جبکہ وہ گھر شہر میں ہو۔ اور چراگاہ میں قبضہ

گائے کا یہ ہے کہ اس کو دیکھا جاسکے اور اس کی طرف اشارہ ہو سکے اور کپڑے میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری ادھر ہاتھ پھیلائے تو کپڑے تک پہنچ جائے اور گھوڑے یا پرندے پر جو کسی گھر میں ہوں قبضہ یہ ہے کہ اس مکان سے بلا کسی مدد گار کے خریدار کا ان کو کپڑا لینا ممکن ہو۔

### اشیاء منقولہ وغیر منقولہ کا حکم:

امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> کے نزدیک اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں باعتبار حکم فرق ہے۔ اشیاء غیر منقولہ میں ان حضرات کے یہاں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں:

ولَكُنْ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيعِ الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا نَهَا لَا تَسْقُلُ وَلَا تَحُولُ (عدۃ القاری ۲۷۹/۵)۔

لیکن امام ابوحنیفہ<sup>ؓ</sup> نے فرمایا کہ گھر اور زمین کو قبل القبض بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

علامہ ابن بکر<sup>ؓ</sup> نے امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> کو اس مسئلہ میں امام صاحب کے ساتھ بتایا ہے۔

صح بيع العقار قبل قبضه أى عند أبي حنفية وأبي يوسف<sup>ؓ</sup> (البحر الرائق ۱۱۶/۶)۔

زمین کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت صحیح ہے، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، البتہ امام مالک اور ابن المنذر کے نزدیک طعام کی قسم کی جملہ اشیاء میں جواز قسم مکمل و موزون ہوں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، مگر طعام کے علاوہ چیزوں میں جائز ہے۔

لیکن امام مالک<sup>ؓ</sup> اور امام احمد<sup>ؓ</sup> کی ایک روایت اور امام شافعی<sup>ؓ</sup> کے قول جدید کے مطابق ہر چیز میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، یہی مذهب حضرت ابن عباس، عطا بن ابی رباح اور ثوری، ابن عینیہ، ابوحنیفہ، ابو یوسف و محمد<sup>ؓ</sup> سے منقول ہے۔ (عدۃ القاری ۲۷۹/۵)۔

### علت نہی:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں اور علت نہی غرر ہے۔

ابن بکر<sup>ؓ</sup> لکھتے ہیں:

لَا بَيْعَ الْمَنْقُولِ أَى لَا يَصُحُ لِنَهْيِهِ عَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ بَيْعِ مَالِمِ يَقْبَضُ وَلَا نَفْسَخُ الْعَدْدَ عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلَاكَ (البحر الرائق ۱۱۶/۶)۔

منقول شے کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قبل القبض بیع کو منع فرمادینے کی وجہ سے اور اس لئے بھی کہ اس میں غیر مقبوض سامان کی ہلاکت کے اعتبار سے عقد بیع ثوث جانے کا غرر (خطرہ) ہے۔

### مماعت عام ہے یا خاص:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی مماعت عام نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ چیزیں مستثنی ہیں۔ ائمہ اربعہ اور

فقہاء کے مالک کی تفصیل پیچے بیان کی جا چکی ہے۔ ہبہ، صدقہ، قرضہ، غلام اور باندی کا نکاح اور وصیت وغیرہ امور قبل القبض درست ہیں (ابحر الرائق: ۲/۱۷)۔

### ایک مخصوص صورت مسئلہ:

ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے لیکن فیکٹری سے خریدا ہو امال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا ہے۔ بلکہ براہ راست فیکٹری سے مال خرید کر خریدار نمبر ۲ کو روانہ کر دیتا ہے اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار نمبر ۲ کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر وہ میان میں مال ضائع ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری فیکٹری پر آتی ہے ن خریدار نمبر ۲ پر بلکہ یہ اسی شخص (خریدار نمبر ۱) کا نقصان قرار پاتا ہے۔ اس صورت معاملہ میں اگرچہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص کا اس مال پر حسی قبضہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ مال خریدار نمبر ۲ تک پہنچنے سے پہلے اس کے خمان میں رہا، اس لئے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رنج مالم پضم (اس چیز سے نفع حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) حاصل کیا، بلکہ اس نے مال مضمون پر نفع حاصل کیا ہے۔

تو اس صورت معاملہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ خریدار اول نے اگرچہ فیکٹری کے مال پر حسی قبضہ نہیں کیا ہے لیکن چونکہ فیکٹری کے مالک، یا اس کے وکیل نے وہ مال اپنی ملک سے بحق مشتری فارغ کر دیا اور خریدار اول کے لئے بلا مشقت اس پر قبضہ کر لینا ممکن ہے، بنابریں اس پر قبضہ حکمی متحقق ہے۔ اور اس بنیاد پر خریدار اول کو یہ سامان خریدار نمبر ۲ سے بیچنا جائز ہے۔

فیکٹری کے مال کا خریدار اول کے خمان میں رہنا بھی قبضہ حکمی کے معنی میں ہے، اس لئے اس کی بیع صحیح ہے۔

ایک فقہی جز بیہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَمِنَ الْقَبْضِ مَا لُوْأَ وَدُعَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَعْارَهُ وَأَمْرَ الْبَاعِثَ بِالْتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ (شامی ۲۴/۲)۔

اور یہ بھی قبضہ کی صورت ہے کہ خریدار نے مال کو کسی اجنبی کے پاس امانت رکھنے یا اس کو ادھار دینے کو کہا اور باائع کو حکم دیا کہ یہ بیع اس کے حوالے کر دے۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ بالاصورت میں جب خریدار اول فیکٹری سے خریدار نمبر ۲ کو مال روانہ کر دیتا ہے تو گویا وہ باائع کو اپنی طرف سے خریدار نمبر ۲ کو پرداز کرنے کا پابند کر رہا ہے، اس صورت میں خریدار اول بیع پر حکماً قابض ہو جاتا ہے۔ مال کا خود روانہ کرنا یا فیکٹری کے ذرائع سے روانہ کرنا اس کی دلیل ہے۔

اور ایسی شکل میں اس کا کسی دوسرے خریدار سے مال بیچنا اور اس پر نفع کمائنا جائز ہے۔ مال کا اس کی خمان میں ہونا قبضہ حکمی کے درجہ میں ہے۔

## شپنگ کا حکم:

وہ صورت جس میں بین الاقوامی تجارت میں شپنگ (جہاز پر مال چڑھانے) کے بعد اصل بالع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا اور پھر یہ مشتری مال کیوصولی سے پہلے جب کہ مال سمندر میں ہوتی رہے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دیتا ہے اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا بلکہ تیراخر یہ اضافہ ہوتا ہے۔

اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ شپنگ مشتری کیلئے اس شیشی یا بوری کی طرح ہے جسے بالع کے حوالے کر کے مشتری نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس میں تیل، یا غلہ وزن کر کے بھردے۔

اب خواہ تیل وزن کرتے وقت یا غلہ بھرنے کے وقت مشتری وہاں موجود ہو یا نہ ہو، ہر دو صورت میں یہ بیع و شراء درست ہے، کیونکہ تیل یا غلہ کے لئے مشتری کا اپنی شیشی یا بوری پیش کر دینا ہی اس کے قبضہ کے قائم مقام ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

وَمَنْهُ مَالُو اشتَرَى دَهْنًا وَدَفْعَ قَارُورَةً يَزْنَهُ فِيهَا فُوزَنَهُ فِيهَا بِحْضُرَةِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ قَبْضٌ  
وَكَذَا بِغَيْبَتِهِ فِي الْأَصْحَاحِ (شامی ۳۲/۳)۔

اور قبضہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مشتری نے تیل خرید کر شیشی بالع کے سپرد کر دی کہ اس میں تیل وزن کر دے۔ پس اس نے اس میں مشتری کی موجودگی میں تیل وزن کر دیا تو یہ قبضہ مانا جائے گا، اور یہ حکم صحیح قول کے مطابق اس کی غیر موجودگی میں بھی ہے۔

یہاں مشتری اول نے بالع کوشپ کے ذریعہ مال بھیجنے کا آرڈر دے کر صورت حال اسی قسم کی بنادی ہے جس میں کوئی خریدار اپنی خرید کردہ چیز کو قبضہ میں لینے کے لئے بوری یا شیشی پیش کر دیتا ہے، اگر چہ شپ بوری یا شیشی کی طرح اس کی ملک نہیں ہے لیکن اگر مشتری کسی دوسرے سے لے کر بالع کو بیع بوری میں بھردیے کا حکم دے دے تب بھی قبضہ حکمی معتبر مانا جائے گا، اسی طرح جب شپ کو مشتری نے اپنی خرید کردہ اشیاء کی منتقلی کا ذریعہ بنایا اور بالع کو ایسا کرنے کو کہا تو یہ قبضہ حکمی کے معنی میں ہو گیا۔ لہذا بالع اول اور مشتری اول کے حق میں اس بیع و شراء کو جائز قرار دیا جانا چاہئے۔


البته بالع ثانی اور مشتری ثانی کے حق میں بیع و شراء کو درست قرار دینا مشکل ہے کیونکہ مال جب تک سمندر میں ہے بالع ثانی کے لئے غیر مقدور استسلام اور مشتری ثانی کے حق میں غیر مقبول ہے۔ اور یہ بیع غرر کے ذمیں میں آتا ہے۔ جو شرایعت اسلامی میں منوع ہے۔ لہذا مال ضائع ہو جانے کی شکل میں مشتری ثانی یعنی دوسرے نمبر کے خریدار پر شمن کی ادائیگی لازم نہیں ہو گی۔

لَا يَجُبُ عَلَى الْمُشْتَرِي دَفْعَ الشَّمْنَ لِعَدَمِ الْقَبْضِ (شامی ۳۳/۳)۔

مشتری پر شمن کی ادائیگی لازم نہیں۔ قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

## خلاصہ بحث:

- ۱۔ بیع قبل القبض احادیث نبویہ اور تصریحات فہریہ کے مطابق ناجائز ہے۔
- ۲۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت منوع بیع کی فاسد قسم میں داخل ہے۔
- ۳۔ اشیاء غیر منقولہ میں امام عظیم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔ امام مالکؓ کے مسلک میں کھانے کی قسم کے علاوہ اشیاء میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک ناجائز ہے۔
- ۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے متعلق احادیث معلوم بالعلاقة ہیں اور علت نبی غر رانفساخ العقد ہے۔
- ۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام نہیں ہے، بلکہ بعض چیزوں اس سے مستثنی ہیں۔ جیسے امام عظیم و امام ابو یوسفؓ کے نزدیک اشیاء غیر منقول۔ اور ہبہ، صدقہ، ترضی، وصیت، اور غلام و باندی کا نکاح۔
- ۶۔ فیکٹری سے مال خرید کر دینا خریدار اول کے خان میں داخل ہے جو قبضہ حکمی کی طرح ہے۔ اس پر خریدار اول کا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ مال بیع دینا اور اس پر فرع حاصل کرنا جائز ہے۔
- ۷۔ شپنگ کی رانج الوقت صورت معاملہ میں خریدار اول اور باائع کے درمیان کا معاملہ بیع و شراء درست ہے۔ البتہ خریدار اول کا دوسرے خریدار کو مال بیچنا جب کہ مال سمندر میں ہو غیر مقدر اور مقصود راست لکھلیم اور مقبوض ہونے کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ کر لیا گیا تو خریدار ثانی پر شعن کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مفتی انور علی اعظمی

### ا۔ بیع قبل القبض:

شرع اسلامی کے اعتبار سے بیع قبل القبض درست نہیں، امام شافعیؓ کے نزدیک باطل ہے اور احتفاف کے نزدیک فاسد ہے، نتیجہ اور مال ایک ہے، اسلئے کہ امام شافعیؓ کے نزدیک فساد اور بطلان ایک ہی معنی میں مستعمل ہے۔

### ۲۔ قبضہ کی حقیقت:

صاحب بدائع نے اس مسئلہ پر مبسوط کلام کیا ہے، ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تسلیم اور قبض کی تفسیر تخلیہ اور تخلی ہے اور تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع میبع اور مشتری کے درمیان موافع دو رکنے اور مشتری کو میبع میں تصرف کا پورا موقع فراہم کر دے۔

امام شافعیؓ کے نزدیک گھر، زمین اور درخت میں قبضہ تخلیہ سے ہو گا اور رورہم و دنائیر میں ہاتھ میں لینے سے ہو گا، اور کپڑا اور غیرہ میں منتقل کرنے سے اور ایسے ہی قبضہ غلہ میں ہو گا جبکہ وہ اندازہ سے یچا گیا ہو اور اگر تاپ توں کر بیجا گیا ہے تو قبضہ ناپنے اور تولنے سے ہو گا، اور غلام و جانور میں ان کی جگہ سے منتقل کر دینے سے ہو گا، الغرض کتاب و سنت نے اصل قبضہ کی حقیقت متعین کر دی ہے، اور وہ تخلیہ ہے، لیکن تخلیہ کی نوعیت عرف و عادات پر چھوڑ دی گئی ہے، چنانچہ جہاں جس چیز کے پارے میں جس طرح استیلا، لوگوں کے عرف میں قبضہ متصور ہوتا ہو، وہی شرعی قبضہ مانا جائے گا (دیکھئے: بدائع الصنائع ۵/۲۲۳)۔

قال في الشامي (۵۹/۲) و تمامه في البحر و حاصله أن التخلية قبض حكماً، لو مع القدر عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت، مثلاً فدفع المفاتح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض، أي بأن تكون في البلد في ما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى و يشار إليه قبض، وفي نحو ثوب فكونه بحيث لم يده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس أو طير في بيته إمكان أخذه منه بلا معين قبض، وقال في موضع آخر لو اشتري دهناً و دفع قارورة يزنها فيها فوزنه فيها بحضور المشترى فهو قبض، وكذا بغيرته في الأصح و كذا كل مكيل و موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره (شامي ۵۸/۲)۔

ان ساری مثالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قبضہ کی نوعیت کا مدار عرف و عادت ہی پر ہے۔  
وقال ابن قدامہ: فی "المفہی" ولأن القبض مطلق فی الشرع فیجب الرجوع فیه إلی  
العرف (معنی ۲۰۰/۲)۔

۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت:  
اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں احناف کے یہاں کوئی فرق نہیں، اسلئے کہ اصل قبضہ تمام  
اموال میں تخلیہ سے حاصل ہوتا ہے۔

قال فی البدائع، ثم لا خلاف بین أصحابنا فی أن أصل القبض يحصل بالتخلية فی  
سائر الأموال (۲۲۲/۵)۔

البستان قبضہ کی تکمیل میں منقولات میں تفصیل الگ ہے اور غیر منقولہ اشیاء کی الگ۔  
منقولات کی دو قسمیں ہیں: ایک مثلى، دوسرے غیر مثلى، منقولات میں تخلیہ سے ہی قبضہ تام ہو جاتا ہے، اسی  
طرح مثیات میں اگر بیع مجاز فہرتو تخلیہ سے قبضہ تام ہو جائے گا، اسلئے کہ بیع مجاز فہر میں مقدار کی جائزگاری کا اعتبار و  
لحاظ نہیں ہوتا ہے، اور اگران کی بیع ناپ توں کے ذریعہ سے ہو تو باائع کی ناپ توں اور تخلیہ سے مشتری کا قبضہ تام ہو گا،  
کیونکہ یہ باائع کے خان سے نکل کر مشتری کے خان میں داخل ہو گئی، غیر منقولہ اشیاء میں بھی قبضہ کی بنیاد تخلیہ ہی ہے۔  
اگر وہ زمین و جائد اقرب ہے تو نفس تخلیہ سے قبضہ مکمل ہو جائیگا، اور اگر دور ہے تو تخلیہ کے ساتھ انی مدت  
گذرنا بھی ضروری ہو گا جس مدت میں وہ مکان میمعن تک پہنچ سکے۔

فی الحانیة: إذا كان قریباً (العقار) يتصور فيه القبض الحقيقي فی الحال فتقام التخلية  
مقام القبض أما إذا كان بعيداً لا يتصور القبض فی الحال فتقام التخلية مقام القبض ..... (شامی  
(۵۹/۳)

۴۔ بیع قبل القبض سے متعلق ہی کی احادیث معلوم بعلت ہیں یا نہیں؟  
بیع قبل القبض سے متعلق ہی کی احادیث معلوم بعلت ہیں۔

احناف کے نزدیک علت غرر انفاسخ عقد ہے، بدایہ (۵۸/۳) میں ہے: ومن اشتري شيئاً مما  
يسفل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه لأنه نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفاسخ العقد  
على اعتبار الهملاك، والغرر منهى عنه غرر انفاسخ العقد والحديث محمول به عملاً بدلائل  
الجواز (۵۹/۳)۔

امام مالکؓ کے نزدیک منفعت عمال کا نصیاع ہے۔

وقد قيل في علة النهي: إن في قبضه منفعة للعمال إذ يستفعون بكيله وحمله و وزنه  
وغير ذلك بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك النفعه، وقيل إنه أمر

تعبدی۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۲۳۵/۲)۔

مالكیہ کے نزدیک ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ بیع قبل القبض سے متعلق نبی امر تعبدی ہے۔ (علم معلوم نبیں)۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت کے عموم و خصوص کے بارے میں ائمہ کی آراء:  
جمهور احتجاف کے نزدیک شی منقول کی بیع قبضہ سے پہلے درست نہیں، اور عقار کی بیع قبضہ سے پہلے امام ابو حنیفہ اور ابو یوسفؓ کے نزدیک جائز ہے، اور امام محمدؓ کے نزدیک ناجائز ہے (الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۲۳۲/۲، ہدایہ ۵۸/۳)۔

مالكیہ کے نزدیک اس نبی کا تعلق مطعومات کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ ان کے یہاں غله اور پھل کی بیع قبضہ سے پہلے درست نہیں ہے (الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۲۳۵/۲)۔

شوانع کے نزدیک نبی عام ہے، قبضہ سے پہلے ان کے یہاں منقول اور غیر منقول سب کی بیع ناجائز ہے، البتہ میں صورتیں استثناء ہیں

(۱) ان بیعہ قبل قبضہ لمن اشتراہ بنفس الشمن الدی اشتراہ بدون زيادة۔

(۲) ان یتلف المبیع عند البائع فیان للمشتری ان بیعہ له بمثله بآن یعطی البائع للمشتري ثمنا مثل التالفة۔

(۳) ان یشتري شيئا يقبضه و كان ثمنا دينا في ذمه كان اشتري جملاء عشرة ولم یقبضه ولم یدفع ثمنه فإنه یصح في هذه الحالة أن بیعہ لمن اشتراہ منه بعشرة في ذمة البائع الأول أو یشتري الجمل بعشرة و یدفعها للبائع ولم یقبض الجمل فإنه یصح ان بیعہ بعشرة في ذمة البائع۔

والبیع فی أحوال ثلاثة یکون إقالة بلفظ البیع، فلیس بیعاً حقیقتہ (الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۲۳۲/۲)۔

**حنابلہ کے نزدیک:**

جب بیع مکمل، موزون، یامعدود، یامروع تھا تو قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائز ہے، اور اگر بیع مذکورہ بالا انواع سے ہو تو قبضہ سے پہلے اس میں بیع کے ذریعہ تصرف درست نہیں (مغنى ۲۱۷/۲، حوالہ الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۲۳۶/۲)۔

اور مغنى میں ابن عبد اللہ سے منقول ہے کہ امام احمدؓ کے اس قول میں نبی کا تعلق صرف طعام سے ہے (مغنى ۲۱۸/۲)۔

## مالکیہ کی دلیل:

(۱) قوله ﷺ "من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يستوفيه، فمفهومه إباحة بيع ماسواه قبل قبضه".

(۲) وقول ابن عمر رأيت الدين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوده إلى رحالهم دلیل حنابلہ: احادیث مذکورہ۔

ووجه قول الخرقی أن الطعام المنہی عنه عن بيعه قبل قبضه لا يکاد يخلو من كونه مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً متعلق الحكم بذلك (مغنی ۲/۲۸۸).

## احناف وشافع کی دلیل:

عن حکیم ابن حرام: لاتبع ما ليس عندك (ترمذی)

قال: سالت رسول الله ﷺ فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك (ترمذی ۱/۱۳۸).

مارواہ أبو داؤد: أن النبی ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، و مارواہ ابن ماجہ: أن النبی ﷺ نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض، وروی: أن النبی ﷺ لما بعث عتاب بن أسمید إلى مکة قال: إنهم عن بيع ما لم يقبضوه و عن ربح ما لم يضمنوه (مغنی ۲/۲۱۳).

احناف نے منقول اور غیر منقول کے درمیان جو تفریق کی ہے اس کی بنیاد احادیث مذکورہ میں نہیں کی گئی تھی بلکہ اور وہ علت "غerr الفساح عقد على اعتبار الہلاک" ہے، یہ علت منقولات میں قبضہ سے پہلے موجود ہوا کرتی ہے، اور غیر منقولات میں ہلاکت نادر ہے، اسی لئے ایسی زمین جو دریا اور سمندر کے کنارے پر ہے ان کی بیع بھی قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہوگی، اسلئے کہ وہاں ہلاکت کا خطرہ موجود ہے (مغنی ۳/۱۳۷).

امام احمدؓ کے نزدیک غیر منقول کی بیع بھی قبضہ سے پہلے ناجائز ہے، اس کی دلیل حکیم ابن حرام کی مذکورہ روایت ہے، اس میں کلمہ "ما" مذکور ہے اور وہ تعیم پر دال ہے۔

امام محمدؓ نے بیع کو اجارہ پر قیاس کیا ہے، چونکہ عقار کا اجارہ قبل القبض درست نہیں، اسلئے بیع بھی درست نہیں ہوگی والجامع اشتمالہما على ربح مالم يضمن فإن المقصود من المبيع الربح، والربح مالم يضمن منهی عنه شرعاً (مغنی ۳/۱۳۷).

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ مال فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار (۲) کو روانہ کر دیتا ہے اور معاملہ یہ طے پاتا

ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار (۲) کے پاس ہو نچنے سے پہلے اگر درمیان میں مال بلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آتی ہے نہ خریدار (۲) پر، بلکہ یہ اسی شخص خریدار (۱) کا نقصان قرار پاتا ہے، اس صورت معاملہ میں فیکٹری سے خریداری کرنے والے کی طرف سے بقدر حصی نہ پائے جانے کے باوجود ضمان کو بقدر حصی کے قائم مقام مان کر اس خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا لیکن اس صورت میں خریدار (۱) کیلئے ضروری ہو گا کہ پہلے فیکٹری سے معاملہ طے کرے پھر اس کے بعد میں خریدار (۲) سے معاملہ کرے تاکہ "لاتبع مالیس عندک" کا مصداق نہ بنے۔


مذکورہ صورت معاملہ کے درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خریدار (۱) کا بیع پر اصل بقدر ثابت ہے اور وہ تکلیف ہے اور بقدر تمام بھی ہے۔

#### ۷۔ میں الاقوامی تجارت میں شپنگ :

(جہاز پر مال چڑھانے) کے بعد اصل بالع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال ہو نچنے سے پہلے صائع ہو جائے تو بالع خامن نہیں ہو گا، اس صورت حال میں مشتری اور بالع کے درمیان بیع و شراء درست ہے، لیکن مال کے سندر میں رہتے ہوئے مشتری اول کا دوسرا کے ہاتھ بینچنا درست نہیں جبکہ وہ مال کے اپنے پاس ہو نچنے تک کا ضمان قبول نہیں کرتا، اسلئے کہ وہ بیع کرنے کا شرط تو یہاں چاہتا ہے لیکن مال کے مشتری ہائی کے پاس ہو نچنے تک نقصان کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، لہذا اس صورت میں اس کا لفظ غیر مضمون شی سے لفظ ہے، اور غیر مضمون شی کا ربح منہ عنہ ہے، اور حدیث میں اس کی صراحتاً نہیں موجود ہے: ذکر عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ ﷺ قال: لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا تبع مال ليس عندك (ترمذی ۱۲۸)۔

اور یہی فساد عقد کی متقاضی ہے، علامہ عینی ہدایہ کی شرح میں فرماتے ہیں: وربح مالم يضمن منهی عنه شرعاً والنہی یقتضی الفساد فیکون البيع فاسدا قبل القبض لأنه لم یدخل فی ضمانه (عینی ۱۳۷/۳)۔

لہذا جہاز پر مال کے رہتے ہوئے مشتری اول کا ضمان لئے بغیر کسی دوسرے کے ہاتھ بینچنا درست نہیں ہو گا۔



## اسلام میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا اعتبار

مولانا خوشید احمد عظیمی

۱۔ شرع اسلامی کے اعتبار سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فی الجملہ ناجائز ہے ان تفصیلات کے ساتھ جو آئندہ ائمہ کے اقوال سے نقل کی جائیں گی بسبب ان احادیث کے جو اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ سے منقول و ثابت ہیں۔

اور بصورت عدم جواز اس کا شارع فاسد میں ہو گا کیونکہ حقیقت بیع کا وجود پایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہے وہ وصف کی وجہ سے ہے لہذا اس پر بطلان کا حکم نہیں لگایا جائے گا، شامی میں ہے:

وهو (أى البيع الفاسد) ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفة و مرادهم من مشروعية أصله كونه مالاً متفقماً، لا جوازه و صحته لأن فساده يمنع صحته أو أطلقوا المشروعية عليه نظراً إلى أنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعًا (شامی ۹۹/۲، نیز البحر الرائق ۲۸/۲)۔

۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت:

قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ بائع مبیع اور مشتری کے درمیان موافع کو دور کر دے اور مشتری کو بیع میں اصراف کا پورا موقع فراہم کر دے، اسی چیز کو اخناف نے تخلیہ سے تعبیر کیا ہے:

فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلى وهو أن يخلى البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحال ببيهima على وجه يتتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للبيع والمشتري قابضاً له و كذلك التسليم الثمن من المشتري إلى البائع (البدائع ۵/۲۳۳)۔

درختار میں ہے: ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتتمكن من القبض بلا مانع ولا حال (درختار ۲۳۳)۔

اس سلسلہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا ذکر فائدہ سے خالی نہیں ہو گا: قال کنامع النبی ﷺ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر فکان یغلبی فیتقدم امام القوم فیز جره عمر و برده ثم یتقدم فیز جره عمر و برده فقال النبی ﷺ لعمر بعنه قال هو لك يا رسول الله قال رسول الله ﷺ بعنه فباعه من رسول الله ﷺ فقال النبی ﷺ هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت.

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے تحت فرمایا: وقد احتج بہ للمالکیۃ و الحنفیۃ فی ان القبض فی جمیع الالشیاء بالتخلیۃ و إلیه مال البخاری (فتح الباری ۳۳۲/۳)۔

البت تخلیہ کی نوعیت میں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اس کا مدار عرف و عادت کے اوپر ہو سکتا ہے،  
کما فی الشامی نقلًا عن البحر :

و حاصلہ ان التخلیۃ قبض حکما لو مع القدرة عليه بلا کلفة لکن ذلک یختلف  
بحسب حال المبيع (شامی ۳۲۲/۳)۔

ابن قدامہ نے مغنى ۱۲۵/۳ میں اس کے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: ولأن القبض  
مطلق فی الشرع فیجب الرجوع فیه إلی العرف .

امام شافعیؓ کے نزدیک بھی قبضہ کا اعتبار تقریباً عرف کے اوپر ہی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری  
میں ذکر کیا ہے:

وفی صفة القبض عن الشافعی تفصیل فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب  
فقبضہ بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضہ بالتخليۃ، وما ينقل في العادة  
كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضہ بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به و فيه قول أنه  
يكفى فيه التخلية (فتح الباری ۳۵۰/۳)۔

مذکورہ بالاتصیریحات سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص نوعیت متعین نہیں کی ہے، البت  
قبضہ کی جو صورتیں مذکور ہیں وہ فی الجملہ تخلیہ کو متضمن ہیں، اسلئے تقریباً تمام ہی اشیاء میں اس کی حقیقت تخلیہ ہے، نوعیت کا  
مدار عرف اور عادت پر ہے، جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استیلا، اور عمل و ضل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور  
کیا جائے وہی شرعاً اس کے حق میں قبضہ ہو گا بشرطیکہ وہ صورت تخلیہ کو متضمن ہو۔

### ۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت:

جیسا کہ پچھلی بحث میں گذر چکا ہے کہ اہناف کے نزدیک قبضہ کی حقیقت تخلیہ سے حاصل ہو جاتی ہے اور  
اس میں منقولہ و غیر منقولہ اشیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے: ثم لا خلاف بين أصحابنا فی أن أصل القبض  
یحصل بالتخليۃ فیسائر الأموال (البدائع ۵/۲۲۲)۔

البت قبضہ کے تمام ہونے کے اعتبار سے منقولات و غیر منقولات میں تفصیل ہے، ایسی اشیاء منقولہ جو غیر مغلی  
ہیں یا مثلی ہوں اور انہیں مجاز فہمی ہو تو ان دونوں صورتوں میں بغض تخلیہ سے ہی قبضہ تمام ہو جائے گا، البت اگر اشیاء  
منقولہ مثیل کوکیل یا وزن کے ذریعہ ہیچا گیا ہو تو اس میں قبضہ کی تکمیل کیلیل کیلیل یا وزن کے بعد ہی ہو گی، ولہذا کانت  
التخليۃ تسليماً و قبضاً فيما لا مثل له و فيما له مثل إذا بيع مجازفة (البدائع ۵/۲۲۲)۔

اشیاء غیر منقولہ مثلاً عقار وغیرہ اگر قریب ہیں تو لفس تخلیہ سے ہی قبضہ تمام ہو جائے گا، اور اگر دور ہے تو

صرف نفس تخلیہ سے قبضہ تام نہیں ہوگا۔

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيداً لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض (شامی ۲۳۲/۲۳).

### ۲۔ احادیث انہی عن الیبع قبل القبض اور ان کی علت:

قبض سے پہلے خرید و فروخت سے ممانعت اور انہی مختلف احادیث میں وارد ہے، ان میں سے چند ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں:

۱۔ عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله (مسلم).

۲۔ عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (مسلم).

نیز حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حرام سے بھی اس مضمون کی حدیثیں مروی ہیں۔ یہ ساری احادیث جن میں قبض سے پہلے خرید و فروخت سے نہیں وارد ہے، امام مالک سے مروی ایک قول کے مطابق یہ نہیں تعبدی ہے اس کی علت نہیں معلوم (الفقه على المذاهب الأربع ۲/۲۳۵).

لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ احادیث معلول بالعلة ہیں، چنانچہ ابن حجر نے اس کی تشریع کی ہے: وفي رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم قال طاوس قلت لابن عباس لم فقال : الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا ، أى فإذا اشتري طعاماً بمائة دينار مثلاً و دفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً و قبضها و الطعام في يد البائع فكانه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً (فتح الباری ۳۲۹/۲).

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں بھی اس کی علت کا ذکر موجود ہے، انہوں نے حضرت مروانؓ سے کہا: أحللت بيع الربا فقل ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصناديق وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفي . (صحیح مسلم ۱۰/۲۱۷)۔

امام شافعیؓ کے نزدیک ان احادیث میں نہیں کی علت "ربع مالم يضمن" کا لازم آنا ہے، واحتاج الشافعی بحدیث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن ربع مالم يضمن آخر جه الترمذی (فتح الباری ۳۵۰/۲)۔

امام مالکؓ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ ان احادیث میں نہیں عن الیبع قبل القبض کی علت منفعت عمال کا ضیاع ہے، کیونکہ قبضہ کی صورت میں ناپنے، تو نے یا منتقل کرنے کی اجرت عمال کو ملے گی اگر قبضہ سے قبل یعنی جائز

قراروی جائے تو اس میں ان کا نقصان ہوگا، وقد قيل في علة النهي أن في قبضه منفعة للعمال إذ يستفعون بكله و حمله وزنه وغير ذلك بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك المنفعة (الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۲۳۵/۲).

احناف کے نزدیک ان احادیث کی علت غرر انفاسخ عقد ہے جیسا کہ اس کی تفصیل ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدر میں اس طرح ہے:

ومن اشتري شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولا ن فيه غرر انفاسخ العقد على اعتبار الها لاك.

اس کی شرح میں علامہ ابن البهائم فرماتے ہیں:

ثم علل الحديث (لأن فيه غرر انفاسخ العقد) الأول (على اعتبار هلاك المبيع) قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه، و ذلك مفسد للعقد، وفي الصحاح أنه ملاك نهى عن بيع الغرر (فتح القدر ۱۳۵/۶).

نیز الحجر الرائق میں ہے:

والغرر المنهي غرر انفاسخ العقد، والحديث معلول به عملاً بدلائل الجواز (الحجر الرائق ۱۱۶/۶).

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے عموم و خصوص کے متعلق تفصیل اور ائمہ کرام کی آراء:  
۱۔ امام احمد بن حنبل<sup>رض</sup> کے نزدیک یہ نبی خاص ہے مکیلات و موزونات کے ساتھ اور وہ اشیاء جو مکیل یا موزون نہیں ہیں ان کی بیع قبضہ سے پہلے درست ہے۔

يجوز مطلقاً الا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعي وأحمد وابن سحق (فتح الباري ۳۳۲/۳).

نیز الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں مدرودات و معدودات بھی مکیلات و موزونات کے ساتھ مذکور ہیں (۲۳۶/۲).

دلیل: ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں طعام کا ذکر موجود ہے اور اس کی وضاحت بقول صاحب مغنى اس طرح ہے کہ وہ طعام جن کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے یا تو مکیل و موزون ہوں گے یا معدود و مدرود، اس لئے یہ نہیں میں منحصر ہوگی اور ان کے علاوہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست ہوگی۔

إن الطعام المنهي عنه عن بيعه قبل قبضه لا يکاد يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً فيتعلق الحكم بذلك (المغني ۲۱۸/۲).

۲۔ امام شافعی کے نزدیک قبضہ سے پہلے بیع سے ممانعت عام ہے خواہ اشیاء منتقلہ ہوں یا غیر منتقل۔

لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقاً وهو قول الشافعى و محمد بن الحسن (فتح البارى ۲۳۵/۲) وقال الشافعى: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غيره (الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ۱۰/۱۲۹).

دليل: إمام شافعى نَفَرَ تمام احاديَثَ سَلَفَ اسْتِدَالَ كَيْاَ بِهِ جُوْنِيْعُنَ لَبِعَ قَبْلَ الْقَبْضِ سَمْعَلَقَ هِيْزَ، نِيزَ عبد الله بن عباس كَوْلَ وَأَحَسَبَ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامَ سَلَفَ، وَأَرَانَ احَادِيَثَ سَلَفَ بِهِ "بَيْعَ مَالِيسَ عَنْدَكَ" أَوْ "رَبْحَ مَالَمِ يَضْمَنْ" كَمُتَعَلِّقَ هِيْزَ، وَأَمَا عِمَدةُ الشَّافِعِيِّ فِي تَعْمِيمِ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَبْيَعِ قَعْدَمَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَحْلُّ بَيْعٌ وَلَا سَلْفٌ وَلَا رَبْحٌ مَالَمِ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالِيسَ عَنْدَكَ وَهَذَا مِنْ بَابِ بَيْعِ مَالَمِ يَضْمَنْ وَهَذَا مِنْهُ عَلَى مَذَهَبِهِ مِنْ أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي دَخْولِ الْمَبْيَعِ فِي ضَمَانِ الْمُشَتَّرِيِّ (بداية الجihad ۱۸۳/۲).

إمام شافعى نَفَرَ اسْعَمَ سَمِّيْنَ صُورَتَوْنَ كَاسْتِنَاءَ كَيْاَ بِهِ جُوْهَرِيَّةَ بَيْعَ ثَمَنِيْسَ هِيْزَ بَلْكَهُ انَّ كَيِّ صُورَتَ اقاَلَهَ كَيِّ (تفصيل كليل دَكَيْتَهُ: الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۲/۲).

۳۔ امام مالک کے زدیک یہ نبی صرف مطعومات کے ساتھ خاص ہے، لہذا ان کے زدیک غیر مطعومات کو قبض سے پہلے بیچنا درست ہے۔

يجوز مطلقاً إلا المأكول والمشروب وهو قول مالك وأبي ثور و اختيار ابن المنذر (فتح البارى ۲۳۵/۲).

وقال في البداية: وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته (بداية الجihad ۱۸۲/۲).

دليل: إمام مالک نَفَرَ ثَمَنِيْسَ احاديَثَ سَلَفَ اسْتِدَالَ كَيْاَ بِهِ جُنَيْمَ لَبِعَ الطَّعَامَ قَبْلَ الْأَسْتِيْفَاءِ وَالْقَبْضِ وَارَدَهُ، وَأَرَجَنَ كَمْفُهُومَ مُخَالِفَ يَهِيَّ بِهِ كَمْ وَهَا شَيْءٌ جُوْهَرِيَّةَ طَعَامَ كَيِّ جِنْسَ سَمِّيْنَ سَمِّيْنَ، حَكْمُ نَبِيِّنَ هِيْزَ انَّ سَمْعَلَقَ هِيْزَ، وَأَرَانَ كَمْ قَبْلَ الْقَبْضِ بِيْهَنَادَرَسَتَ هَوَ.

أما عِمَدةُ مَالِكٍ فِي مَنْعِهِ مَا عَدَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فَدَلِيلُ الْخَطَابِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ (بداية الجihad ۱۸۳/۲).

۳۔ احناف کے زدیک قبض سے پہلے خرید و فروخت میں تفصیل ہے، ان کے یہاں اشیاء منقولہ کی بیع قبض سے پہلے درست نبیں، بلکہ امام محمد کے زدیک غیر منقول کی بیع بھی قبض سے پہلے جائز نبیں ہے، لیکن امام ابوحنیفة و امام ابو يوسف کے زدیک اشیاء غیر منقولہ کی بیع قبض سے پہلے درست ہے، وأما أبو حنيفة فالقبض عندہ شرط في كل مبیع ما عدا المبیعات التي لا تنقل ولا تحول من الدور والعقار (بداية الجihad ۱۸۲/۲-۱۸۳/۲).

وقال في الكنز: صح بيع العقار قبل قبضه لا بيع المنقول (كتنز مع شرح البحر ۱۱۶/۶).

دلیل: احناف کا متدل بھی وہی احادیث ہیں جن میں قبضے سے پہلے خرید و فروخت سے نہیں وارد ہے یا جن میں "نهی عن بیع مالیس عندک" یا "نهی عن بیع الغرر" وارد ہے۔

**قال فی البحر:** (صح بیع العقار قبل قبضه) ای عنده أبي حیفة وأبی یوسف و قال محمد لا يجوز لاطلاق الحديث وهو النهي عن بیع مالم يقبض و قياسا على المنقول و على الإجارة، ولهمما أن رکن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الها لا ك في العقار نادر بخلاف المنقول، والغرر المنهى عنه انفسا خ العقد والحديث معلول بدلائل الجواز... إلى أن قال: (لا بیع المنقول) ای لا يصح لنھیه ﷺ عن البيع مالم يقبض ولا ن فيه غرر انفسا خ العقد على اعتبار الها لا ك (البحر الرائق ۱۱۶/۶)۔

یعنی احناف نے جو اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں فرق کیا ہے اس کی وجہ علت احادیث ہے، یعنی غرر انفسا خ عقد کا اندازہ، اور یہ علت منقولات میں موجود ہے جبکہ اشیاء غیر منقولہ میں اس علت کا وجود نادر ہے۔

اس نے جہاں اشیاء غیر منقولہ میں بھی اس علت کا احتمال ہو گا، جیسے ایسی زمینیں جو دریا یا تالاب کے کنارے اور کٹاؤ پر ہوں ان زمینوں کا قبضے سے پہلے یقیناً درست نہیں ہو گا (تفصیل کے لئے دیکھئے: البناۃ فی شرح الہدایۃ للعنین ۳/۲۷)۔

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال بظاہر اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار نمبر (۲) کو روانہ کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار نمبر (۲) کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر درمیان میں مال باک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آئے گی اور نہ خریدار نمبر (۲) پر بلکہ یہ خریدار نمبر (۱) کا نقصان قرار پا کے گا۔

اس صورت میں اگرچہ خریدار نمبر (۱) کا حصہ اس مال پر نہیں پایا گیا لیکن چونکہ وہ مال کے نقصان کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، اسلئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایسی چیز سے فائدہ اٹھایا جس کا وہ ضامن نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز بچ رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے کیونکہ جب باائع کی طرف سے تحملہ ہو گیا اور اس کے نقصان کا ضامن یہ ہو گیا تو یہ خریدار نمبر (۱) اس فیکٹری کے مال پر قابض مانا جائے گا اور اب اس کے بعد خریدار نمبر (۲) کو یقیناً درست ہو گا، کیونکہ اس نئی کا عائد خود خریدار نمبر (۱) ہے نہ کہ فیکٹری کا مالک، بلکہ فیکٹری کا مالک اس کے امر سے اس مال کو خریدار نمبر (۲) کے پاس بھیج رہا ہے، گویا خود خریدار نمبر (۱) اس مال کا بھیجنے والا ہوا۔

و كذلك لو فعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشتري لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه (البدائع ۲۲۶/۵)۔

**قال محمد:** كل تصرف يجوز من غير قبض اذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز

وَكُل مَا لَا يَحْوِز إِلَّا بِالْقَبْض كَالْهَبَة إِذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْضًا  
(شایی ۲۲۲)۔

اور چونکہ صرف تخلیہ سے ہی قبضہ کا وجود ہو جاتا ہے اور مجیع مشتری کی ضمانت میں داخل ہو جاتی ہے اسلئے ضامن ہونے کے بعد اس شخص کا خریدار نمبر (۲) کو بینچنا درست ہو گا (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵)۔

ایسی صورت میں جبکہ جہاز پر مال چڑھانے کے بعد اصل بالائی کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو بالائی اس کا ضامن نہیں ہوتا، اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دیتا ہے اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا بلکہ تیرے اخیر یہ اس ضامن ہوتا ہے۔

اس صورت میں یہ بیع درست نہیں ہے کیونکہ مشتری اول کا قبضہ نہیں پایا جا رہا ہے، مال ابھی راستے میں ہے اور اس کی بیع ایک تیرے شخص کے ہاتھ ہو رہی ہے اور مشتری اول مال کی ہلاکت کی صورت میں اس کا ضامن بھی نہیں قبول کرتا، اس لئے علت نہیں عن البیع قبل القبض نیز احتمال غرر کی بنیاد پر یہ درست نہیں ہو گی۔

نیز اس صورت میں بیع میں ایک اور خرابی بھی موجود ہے جس کا ذکر مولانا تقی عثمانی صاحب نے تتمدد فتح المهم شرح مسلم ۳۵۶ میں کیا ہے کہ اس طرح سے معمولی قیمتوں کا سامان راستے میں مختلف بیوع اور کتنی منافع کی وجہ سے عوام تک سیکڑوں روپیے کی قیمت تک گراں ہو کر عوام تک پہنچتا ہے، لأن کل تاجر یشتريها قبل الوصول بيعها بربع إلى غيره و تصير الأرباح كلها بأيدي تجارة معدودين و يصير الغلاء نصيب العامة۔  
لہذا ان مذکورہ بالآخریوں کے پیش نظر بیع کی یہ صورت درست نہیں ہے۔

هذا ما عندى والله أعلم بالصواب



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے احکام

مولانا نسیم احمد قاسمی

**قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فاسد ہے یا باطل؟**

قبضہ سے پہلے کسی چیز کے فروخت کرنے کی ممانعت کے بارے میں جناب نبی کریم ﷺ سے مختلف احادیث و روایات مروی ہیں، بعض احادیث میں مطلق قبضہ سے پہلے سامان کے فروخت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، بعض احادیث میں کھانے کی چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، حضرت امام بخاریؓ نے اپنی الجامع صحیح میں "باب بیع الطعام قبل أن يقبض و بيع ما ليس عندك" کے تحت صرف ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن میں نبی کریم ﷺ سے قبضہ سے پہلے طعام کے بیع کی ممانعت ثابت ہے، حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے:

"أَمَا الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبْاعَ حَتَّىٰ يَقْبَضَ"

راوی حدیث ابن عباس کہتے ہیں کہ "ولا احسب کل شی الا مثله" (فتح الباری ۲۳۹/۲) یعنی میرا خیال ہے کہ ممانعت صرف بیع طعام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دوسری اشیاء میں بھی قبل القبض بیع درست نہیں ہوگی، دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے: "من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يستوفيه".

اما علیل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

"من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يقبضه" (حوالہ سابق).

یعنی کوئی شخص کھانے کی کوئی چیز خریدے تو اس پر قبضہ سے پہلے اس کی بیع درست نہیں ہوگی، مختلف سندوں سے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کی روایات ذکر کی ہیں، مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی روایت میں ہے:

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعَدْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ" (تتمہ فتح الہمہ ۳۵۷)

اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے حضرت حکیم بن حزام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبْعَدْهُ حَتَّىٰ تَقْبَضَهُ" (ابوداؤد ۲۸۳).

جب تم کوئی چیز خریدو تو اس کو قبضہ سے پہلے مت فروخت کرو۔

حضرت عمر فاروق کا بھی فتویٰ ہے کہ قبضہ سے پہلے طعام کی بیع جائز نہیں ہے، انہوں نے حکیم بن حزام سے فرمایا: "لَا تَبْعِدُ طَعَامًا أَبْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوِفِيهِ" (الاستر کار ۱۹/ ۳۶۲)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ قبضہ سے پہلے طعام کی بیع درست نہیں ہے (حوالہ بالا ۱۹/ ۲۵۲)۔

ان احادیث و آثار کی وجہ سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک تمام منقولات میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ممنوع ہے، البتہ ایسی زمین و عقار جس کی ملاکت کا اندر یہ نہ ہو قبضہ سے پہلے بھی اس کی بیع جائز ہے، حضرت امام شافعی اور محمد بن الحسن شیعیانی حنفی کے نزدیک ہر چیز کی بیع قبضہ سے پہلے ناجائز ہے، چاہے منقولات کی بیع ہو یا عقار کی اور چاہے طعام کی ہو یا غیر طعام کی، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کا حکم بیع الطعام کے ساتھ خاص ہے، حضرت امام مالک کے نزدیک طعام کی بیع کیل یا وزن کے ساتھ ہو تو اس صورت میں قبل اقبض اس کی بیع ممنوع ہوگی (تمملہ فیصلہ المکمل ۳۵۰، ۳۵۱)۔

اپ رہا یہ سوال کہ حنفی کے نزدیک قبضہ سے پہلے طعام یا منقولات کی بیع ناجائز ہے تو اس کا شماران کے نزدیک کیس قسم میں ہوگا، فاسد میں یا باطل میں؟

کتب حنفی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فقہاء نے اسے بیع فاسد میں شمار کیا ہے، جبکہ بعض فقہاء نے اس پر بیع باطل کا بھی اطلاق کیا ہے، چنانچہ صاحب جوہرۃ النیرہ کے حوالہ سے علام علاء الدین الحسلی نے درج تاریخ میں لکھا ہے: "بخلاف بیعہ قبلہ فیانہ باطل"

یعنی قبضہ سے پہلے بیع باطل ہے۔

مگر صاحب درج تاریخ نے صاحب جوہرہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے، ان کا اپنا ذلتی رجحان یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت فاسد ہے، باطل نہیں ہے، چنانچہ موہب کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: "وفساد بیع المنقول قبل قبضہ" انتہی

یعنی قبضہ سے پہلے منقول اشیاء کی بیع فاسد ہے۔

عدم جواز میں چونکہ فساد اور بطلان دونوں کا اختصار ہوتا ہے، اسلئے بھی فاسد پر باطل کا بھی اطلاق کرو یا جاتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے فساد کے قول کو راجح قرار دیا ہے، چنانچہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے: والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركnee البيع و كثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد (رد المحتار ۳۷۲) یعنی فساد کا قول زیادہ مناسب و مفتی ہے، اسلئے کہ علت فساد غرر ہے، یہاں پر بیع کے دونوں رکن پائے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فاسد پر باطل کا اطلاق کرو یا جاتا ہے، علامہ سید احمد الطحاوی حنفی نے حاشیہ درج تاریخ میں فساد کے قول کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

وهو الظاهر لأن ركشى البيع وهمما العوضان ثابتان وإنما جاء الفساد من جهة أخرى وهو الغرر أى غرر انفساخ العقد بهلاكه والغرر حرام وكثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد (حاشية طحاوى على الدر المختار ۳/۱۰۰).

علام ابن حمام نے فتح القدری میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو بیع فاسد قرار دیا ہے چنانچہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

قبل القبض فتبين حيث أنه باع ملك الغير بغير إذنه و ذلك مفسد للعقد وفي الصاحح أنه صلوات الله عليه نهى عن بيع الغرر (فتح القدری ۱۳۶/۶).

یعنی قبضہ سے پہلے ملک غیر کو اس کی اجازت کے بغیر فروخت کیا جاتا ہے جو مفسد عقد ہے، اور صحاح میں نبی کریم صلوات الله عليه سے بیع غرر کی ممانعت ثابت ہے۔

### قبضہ کی حقیقت:

علام ابن حمام حنفی نے قبضہ کی حقیقت کے بارے میں تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”قبضہ اور بیع کی حوالگی و سپردگی کا مشبوم یہ ہے کہ مشتری (خریدار) اور خریدے ہوئے سامان کے درمیان اسی طرح تخلیہ کر دیا جائے کہ خریدار کیلئے بغیر کسی رکاوٹ اس پر قبضہ کرنا ممکن ہو، اور یہی مشبوم شمن کی حوالگی کا ہے۔“

اور وہی سے منقول ہے کہ اگر کسی مکان میں خریدے گئے سامان تجارت کے ساتھ باع کے سامان کے علاوہ کسی دوسرے کا سامان ہو تو وہ قبضہ کے حق میں مانع ہو گا، پس اگر اسے قبضہ کی اجازت دے دی جائے تو قبضہ صحیح ہو جائے گا اور سامان باع کے پاس بحکم دلیعت ہو گا، کپڑے میں قبضہ کی صورت یہ ہے کہ خریدار اسے اپنے ہاتھ میں لے لے، یا اگر کپڑا از مین پر رکھا ہو اور باع مشتری سے یہ کہیے کہ میں نے تمہارے اور کپڑے کے درمیان تخلیہ کر دیا ہے، پس اس پر قبضہ کرو، اور خریدار نے اس کے جواب میں کہا میں نے قبضہ کر لیا تو اسے شرعاً قبضہ قرار دیا جائے گا، اور اگر کسی مکان میں رکھے ہوئے گندم کو خریدا گیا اور باع نے مشتری کو اس مکان کی کنجی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے اور بیع کے درمیان تخلیہ کر دیا تو اسے شرعاً قبضہ قرار دیا جائے گا (فتح القدری ۵/۲۹۶).

علام علاء الدین حشکھی صاحب در مختار نے قبضہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”پھر قبضہ اور سامان کی سپردگی ایسے تخلیہ سے عمل میں آئے گی جس میں مشتری کیلئے بیع پر قبضہ کرنا کسی رکاوٹ کے بغیر ممکن ہو“ (در المختار ۳/۵۶۱-۵۶۲).

علام شامي کی صراحت کے مطابق تخلیہ بھی حکماً قبضہ سے، بشرطیکہ تخلیہ کے بعد بیع پر کسی مانع کے بغیر قبضہ و تصرف ممکن ہو (حوالہ بالا)۔

فقیہ طاہر بن عبدالرشید نے خاصۃ الفتاوی کی کتاب البيع میں ایک باب ہی اس عنوان سے قائم کیا ہے: ”فیما یکون قبضاً و فیما لا یکون“ اس باب کے تحت انہوں نے قبضہ کی حقیقت و اصلاحیت پر روشنی ڈالتے

ہوئے لکھا ہے کہ:

"تجزید میں بیع پر قبضہ کے باب میں لکھا ہے کہ سامان پر قبضہ اور اس کی پرداگی کی صورت یہ ہے کہ بالع سامان اور مشتری کے درمیان اس طرح تخلیہ کردے کہ کسی رکاوٹ کے بغیر خریدار کیلئے اس پر قبضہ ممکن ہو، اور اسی طرح ثمن کی پرداگی ہوگی، جناس میں ہے کہ سامان کی حوالگی کیلئے تین چیزیں معتبر ہیں: ۱۔ بالع خریدار سے کہے کہ میں نے سامان اور تمہارے مابین تخلیہ کر دیا، ۲۔ بیع خریدار کے پاس اس طرح ہو کہ اگر وہ اس میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو کسی مانع کے بغیر کر سکے، ۳۔ بیع حق غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ قبضہ یہ ہے کہ بالع مشتری سے کہے کہ میں نے تمہارے اور بیع کے درمیان تخلیہ کر دیا ہے اس پر قبضہ کرو... (خلافۃ الفتاویٰ ۸۹/۳)۔ فتاویٰ ہندیہ میں بیع جائز میں تخلیہ کو قبضہ تسلیم کرنے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے: "وَاجْمِعُوا عَلَى أَن التَّخْلِيَةَ فِي الْبَيْعِ الْجَائِزِ تَكُونُ قَبْضًا" (فتاویٰ ہندیہ ۱۶/۳)۔

البیعت فاسد کی صورت میں تخلیہ قبضہ کے حکم میں ہو گایا نہیں، اس میں دروازت ہے مگر اس میں بھی مشتبہ ہے قول یعنی ہے کہ تخلیہ قبضہ کے حکم میں ہو گا۔ "وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا قَبْضٌ" (حوالہ سابق)۔ قبضہ کی حقیقت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:

"سامان کی حوالگی اور قبضہ کی صورت یہ ہے کہ بیع اور مشتری کے درمیان اس طرح تخلیہ کر دیا جائے کہ کسی رکاوٹ کے بغیر مشتری کیلئے اس سامان پر قبضہ ممکن ہو" (حوالہ بالا)۔

حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک چاہے منقولات کی بیع ہو یا عقار کی، ہر صورت میں تخلیہ قبضہ کے حکم میں ہو گا: "وَقَالَ أَبُو حُنْيَفَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَبْضُ فِي الْجَمِيعِ التَّخْلِيَةِ" (حلیۃ الاولیاء ۸۲/۳)۔

ان عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قبضہ اور سامان کی حوالگی کا مطلب یہ ہے کہ خریدار اور بیع کے درمیان ایسا تخلیہ کر دیا جائے کہ اگر وہ اپنے خریدے ہوئے سامان میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو کر سکے، اب رہایہ سوال کہ ہر چیز کا قبضہ ایک ہی نوعیت کا ہو گا یا اشیاء کی نوعیت کے لحاظ سے قبضہ کی حقیقت و نوعیت بدلتی رہے گی، تو اس سلسلہ میں یہ تفصیل ہے۔

**اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کا فرق:**

علماء ابن قدامة حنبلی نے صراحت کی ہے کہ ہر چیز کا قبضہ اس کی نوعیت کے لحاظ سے ہو گا: "وَقِضَ كُلَّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ" (المغنی ۲/۱۲۵)۔

مکملی یا موزوں اشیاء اگر کیل یا وزن کے ساتھ فرودخت کی جائیں تو ان میں کیل یا وزن ہی کے ذریعہ قبضہ معتبر ہو گا، حضرت امام شافعی کی یہی رائے ہے، حضرت امام ابوحنیفہ ہر چیز کی بیع میں تخلیہ کو قبضہ کے حکم میں تسلیم کرتے ہیں (المغنی لا بن قدامة ۲/۱۲۵)۔

محمد ظفر عثمانی صاحب باغا، اسفن نے شرح الوجيز کے حوالہ سے قبضہ کی حقیقت و کیفیت اور ہر چیز کی

نوعیت کے لحاظ سے قبضہ کی نوعیت کا فرق ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

۱۔ اگر بیچ ان چیزوں کے قبیل سے ہو جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے جیسے اراضی (عقار) مکانات، تو ایسی چیزوں کا قبضہ ایسے تخلیہ کے ذریعہ عمل میں آئے گا جس کے نتیجہ میں خریدار کو بیچ پر قبضہ اور تصرف کا حق حاصل ہو جائے، مثلاً باع کہے کہ میں نے تمہارے اور مکان کے درمیان تخلیہ کر دیا ہے تم جس قسم کا چاہو اس میں تصرف کرو، تو یہ تخلیہ قبضہ کے حکم میں ہو گا۔

۲۔ اور اگر بیچ منقولات کے قبیل سے ہو تو نہ ہب مشہور یہ ہے کہ اس میں تخلیہ کافی نہیں ہو گا بلکہ سامان کو منتقل کرنا ضروری ہو گا، امام احمد کا بھی قول ہے، حضرت امام مالک اور امام ابوحنیفہ عقار ای کی طرح بیع منقولات میں بھی تخلیہ کو قبضہ تسلیم کرتے ہیں (اعلام السنن ۲۳۴)۔

علام ابن قدامہ صبغی نے مختلف اشیاء کے قبضہ کی نوعیت ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"ہر چیز کا قبضہ اسی کی نوعیت کے لحاظ سے ہو گا، کیلی یا وزنی چیزیں کیلی یا وزن کے ذریعہ فروخت کی جاتی ہیں اوان کا قبضہ کیلی یا وزن کے ذریعہ تتحقق ہو گا، امام شافعی کی تہی رائے ہے، امام ابوحنیفہ کے تزوییک اس کی بیع میں بھی تخلیہ قبضہ کے حکم میں ہو گا، ابوالخطاب نے امام احمد سے دوسری روایت نقل کی ہے کہ ہر چیز کی بیع میں تخلیہ مع التحییر قبضہ کے حکم میں ہو گا" (المقنى ۲/۱۲۵)۔

امام نووی صاحب الجمیع شرح المبدب نے تحریر کیا ہے کہ:

قبضہ میں اصل عرف ہے (۲۶۹/۲۷۶) (ابد) جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استعمال اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے گا وہی شرعاً بھی اس کے حق میں قبضہ مانا جائے گا)۔

ہر چیز کی نوعیت کے لحاظ سے قبضہ کی نوعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

۱۔ عقار مثلاً از میں، مکانات اور درختوں پر پھل کی صورت میں تخلیہ کے ذریعہ قبضہ کا تتحقق ہو گا۔

۲۔ جو چیزیں عرف و عادت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہیں، مثلاً درخت کی لکڑیاں، جب (انما) مجھلیاں اور اس قسم کی دیگر چیزیں، تو ایسی چیزوں کی بیع کی صورت میں قبضہ اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب اسے ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں باع کا عمل دخل نہ ہو، چاہے باع کی ملکیت میں منتقل کر دیا جائے، یا عام راست یا مسجد یا کسی اور جگہ۔

۳۔ جو چیزیں ہاتھ میں لے کر قبضہ کی جاتی ہیں مثلاً درہم و دینار، کرنسی نوٹ، رومال، کپڑے، برتن، کتاب وغیرہ تو ان چیزوں میں اسی وقت قبضہ تسلیم کیا جائے گا جب باع سے سامان مشتری اپنے ہاتھ میں لے لے (اجمیع شرح المبدب ۲۶۹/۲۷۶)۔

ان عمارت کا حاصل یہ ہے کہ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے لحاظ سے فرق ہو گا، اشیاء منقولہ میں نقل و تحویل کے ذریعہ قبضہ کا تتحقق ہو گا، عقار اور غیر منقولہ اشیاء میں تخلیہ ہی قبضہ قرار پائے گا، اور جو چیزیں

ہاتھ میں لے کر متبوس تجویز جاتی ہیں، ان میں تناول بالید کے بعد ہی قبضہ کا تحقیق ہوگا، اور کیلی و وزنی اشیاء میں کیل اور وزن کے ذریعہ قبضہ تحقیق ہوگا، علامہ انور شاہ کشمیری نے قبضہ کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے: "واعلم ان القبض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها" (النوار محمود ۳۳/۲).

۳۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث معلول بالعلاۃ ہیں:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث محدثین و فقهاء کے زویک معلول بالعلاۃ ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مشہور حنفی عالم شیخ الاسلام برہان الدین المرغینانی اپنی شہرہ آفاق تصنیف بدایہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی احادیث کو معلول بالعلاۃ قرار دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: والحدیث معلول به عملاً بدلائل الجواز (فتح القدر ۲/۲۷۲).

یعنی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی حدیث معلول بالعلاۃ ہے کیونکہ بیع عقار دلائل کی وجہ سے جائز ہے۔ علامہ ابن البہام نے "معلول بہ" کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "والحدیث الذي استدل (معلول به) أی بغير الانفاسخ".

اور علت غرر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

"قبضہ سے پہلے خرید و فروخت میں نبی کی علت غرر انفاسخ کی دلیل یہ ہے کہ وہ تصرف جس میں احتمال غرر نہ ہو وہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت میں نافذ ہوتا ہے، مثلاً نعام کو آزاد کرنا، والدلیل علیہ ان التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العنق (حوالہ بالا)".

اور صاحب البناء نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی حدیث کو معلول بالعلاۃ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے: "والحدیث معلول به أی بغير الانفاسخ العقد فيما قبل القبض بهلاک العقود علیه فيكون مخصوصاً بالمنقول الا ترى أنه يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية" (البناء شرح البدایہ ۵۰۹/۶).

یعنی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی حدیث علت غرر انفاسخ عقد کی وجہ سے معلول بہ ہے کیونکہ قبل انتپیش معقود علیہ کے ہلاک ہونے کا احتمال رہتا ہے، لہذا یہ حدیث منقول کے ساتھ خاص ہوگی، یہی وجہ ہے کہ قبل انتپیش اعتماد اور وصیت جائز ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی حدیث کو معلول بالعلاۃ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے: "والغرر المنہی غرر انفاسخ العقد والحدیث معلول به عملاً بدلائل الجواز" (ابحر الرائق ۱۲۶/۶).

یعنی وہ غرر جس کی ممانعت کی گئی ہے وہ انفاسخ عقد کا غرر ہے، دلائل جواز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیع کو جائز قرار دیا گیا ہے اسلئے کہ اس کی بیع میں علت غرر نہیں ہے۔

اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

”لأن النهي معلول بغرض انفساخ العقد بخوف الهلاك“ (۲۰۰/۱۱)۔

صاحب اعلاء السنن نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث کو معلول بالعلة قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف نے علت کی نبی کی وجہ سے نصوص کو منقول کے ساتھ خاص کیا ہے اور علت نبی اندیشہ بلاکت سے انفساخ عقد کا غرر ہے (اعلاء السنن ۲۲۳/۱۲)۔

علامہ تقی عثمانی نے بھی تکمیلہ فتح الملبم میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث کو معلول بالعلة قرار دیا ہے، چنانچہ لکھا ہے:

”والغرر المنهى عنه غرر انفساخ العقد والحديث معلول به بدلائل الجواز (تکمیلہ فتح الملبم ار ۳۵۳)۔

مذکورہ بالاقوال وعبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے بیع کی ممانعت سے متعلق احادیث معلول بالعلة ہیں اور علت نبی غرر انفساخ عقد ہے، یعنی چونکہ قبضہ سے پہلے سامان خریدار کے پاس نہیں آتا ہے تو اس کا احتمال اور اندیشہ رہتا ہے کہ کسی وجہ سے سامان (میبع) باائع کے پاس ہلاک ہو جائے، اور بیع کی بلاکت کی وجہ سے عقد کو فسخ کرنا پڑے جائے، اگر خریدار قبل القبض بیع کرتا ہے تو وہ ایسے سامان کا نفع حاصل کرتا ہے جو ابھی تک اس کے خامان میں نہیں آیا ہے، اور حدیث میں ”ربح المضمون“ سے ممانعت کی گئی ہے۔

منقولی اشیاء میں اندیشہ بلاکت کی وجہ سے فسخ بیع کا احتمال بلکہ ظن غالب رہتا ہے، اسلئے حضرت امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ممانعت کی احادیث بیع منقول کے ساتھ خاص ہیں، عقار (اراضی) میں اندیشہ بلاکت شاذ و نادر ہی رہتا ہے، اسلئے قبضہ سے پہلے بھی ان دونوں حضرات نے عقار کی بیع کو جائز قرار دیا ہے، البتہ اگر بیع عقار میں بھی اندیشہ بلاکت کی وجہ سے غرر انفساخ عقد ہو تو عقار میں بھی علت نبی کی وجہ سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت منوع ہوگی، مثلاً کوئی زمین دریا کے کنارے واقع ہو اور پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں اس کے دریا میں ضم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی زمین میں بھی قبل القبض بیع جائز نہیں ہوگی، چنانچہ تکمیلہ فتح الملبم میں ہے:

”إن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن وإنما يضمن الإنسان ما يحاف فيه ال�لاك ، وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض“ (حوالہ سابق)۔

یعنی بیع قبل القبض کی علت یہ ہے کہ ایسی صورت میں انسان ایسی چیز کا نفع حاصل کرتا ہے جو اس کے خامان میں نہیں ہے، اور انسان اسی چیز کا خامان قبول کرتا ہے جس میں اندیشہ بلاکت ہو، زمین میں شاذ و نادر ہی اندیشہ بلاکت رہتا ہے، پس اگر کوئی زمین اب دریا ہو یا بیع مکان کا اوپری حصہ ہو تو قبضہ سے پہلے اس کی بیع درست نہیں ہوگی، حضرت

امام ابوحنیفہ اور ان کے ممتاز شاگرد امام ابو یوسف نے علت نبی کا اعتبار کرتے ہوئے بیع منقول میں علی الاطلاق قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو منوع قرار دیا، عقار کی بیع میں چونکہ علت نبی نہیں پائی جاتی ہے اسلئے اسے جائز قرار دیا، البتہ اگر عقار کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت میں بھی علت غرر موجود ہو تو وہ بھی تاجائز قرار پائے گی۔

### غیر کی تعریف اور حقیقت:

جناب نبی کریم ﷺ سے بیع غیر کی ممانعت ثابت ہے "غیر کا الغوی مفہوم، خطر، دھوکہ کسی چیز کو معرض ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اصطلاح فقہاء میں غیر کی تعریف" ما یکون مستور العاقبة (مسبوط ۱۲/۱۹۳) سے کی گئی ہے، فقہاء احتجاف نے غیر کی تعریف کی ہے:

"الغیر ما یکون مجھول العاقبة لا یدری ایکون ام لا" (تعریفات ۱۳۲) باہر ہی نے غیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے "الغیر ما طوی عنک علمه" (العنایہ ۵/۱۹۲) غرروہ ہے جس کا علم تم سے پوشیدہ ہو، صاحب فتح القدير نے بھی غیر کی بھی تعریف کی ہے (۱۳۶/۲)۔

امام قرآنی مالکی نے لکھا ہے:

"اصل غرر یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ وہ حاصل ہو گی یا نہیں؟ جیسے ہوا میں اڑنے والا پرنده یا پانی میں مچھلی، اگر کوئی شخص فضا میں پرواز کرنے والے پرنده یا پانی میں مچھلی کی بیع کرتا ہے تو یہ بیع غرر ہے کیونکہ پرنده یا مچھلی کا قبضہ میں آنا موہوم ہے۔"

علام ابن تیمیہ نے مجھول العاقبة سے غیر کی تعریف کی ہے، علامہ ابن القیم کے نزدیک غرر سے مراد وہ چیز ہے جس کی سپردگی اور حواگری پر قدرت حاصل نہ ہو، چاہے وہ چیز موجود ہو یا معدوم، جیسے بھگوڑے یا سرکش اونٹ کی بیع۔

ان تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع غرر سے مراد وہ بیع ہے جس میں دھوکہ ہو اور دھوکہ فریقین میں سے کسی کو لائق ہو جس سے اس کے مال کے خیال کا اندریشہ ہو۔

بیع غرر کے منوع ہونے پر فقہاء کا اتفاق ہے، بیع غرر کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً جانور کے تھن میں دودھ کی بیع، جانور کی پشت پر بال اور اون کی بیع، جانور کے جمل کی بیع، پانی میں مچھلی اور فضا میں اڑنے والے پرنده کی بیع میں غرر کشیر پایا جاتا ہے، اسلئے یہ بیع جائز نہیں ہے۔

البتہ غرر یسر کے جواز پر علماء کا اتفاق ہے، حفیہ کے نزدیک ان چیزوں کی بیع درست ہے جن میں غرر یسر ہوتا ہے، جیسے کیلا، اخروٹ، اور باقلاء کی بیع چلکے کے ساتھ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بھی غرر یسر کی صورت میں بیع جائز ہے، غرر متوسط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے اسے غرر یسر کے ساتھ اور بعض فقہاء نے اسے غرر کشیر کے ساتھ شامل کیا ہے (الفقد الہ اسلامی وادیۃ ۲۳۰/۲۳۰)۔

## ۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے بارے میں علماء کی آراء اور ان کے دلائل:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت سے متعلق روایت کی احادیث میں مطلقاً قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، ان احادیث کا تقاضہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام ہے چاہے بیع منقول ہو یا بیع عقار، ہر دو صورت میں بیع پر قبضہ سے پہلے صرف طعام (کھانے کی اشیاء) کی بیع سے ممانعت کی گئی ہے، اب رہایہ سوال کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی احادیث کو ممانعت پر محول کرتے ہوئے ہر قسم کی بیع میں بیع قبل القبض کی ممانعت کا حکم لگایا جائے، یا مطلق احادیث کو مقید احادیث پر محول کرتے ہوئے قبضے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کا حکم صرف بیع طعام کے ساتھ خاص رکھا جائے گا۔ فقہاء کی ایک جماعت نے مطلق احادیث کو مقید پر محول کرتے ہوئے صرف بیع طعام کو قبضہ سے پہلے منوع قرار دیا، جبکہ بعض فقہاء نے دونوں قسم کی احادیث پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ فحسلہ کیا کہ یہ احادیث معلول بالعلة ہیں، اور قبضے سے پہلے بیع کی ممانعت کی ملت غرائب فساد عقد ہے یعنی اندیشہ ہلاکت کی وجہ سے عقد کے شیخ ہو جانے کا اختال رہتا ہے، لہذا جہاں بھی علت غرائب پائی جائے گی وہاں قبضے سے پہلے خرید و فروخت منوع ہوگی، اور جہاں یہ علت نہیں پائی جائے گی قبضے سے پہلے خرید و فروخت درست ہوگی۔

قبضے سے پہلے بیع طعام کی ممانعت کے بارے میں اہل علم کا اجماع ہے، چنانچہ علامہ ابن قدامہ حنبلی نے ابن المنذر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

"اجماع أهل العلم على أن من اشتري فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه" (المغني ۲/۱۲۲)۔

بیع طعام کے علاوہ دوسری چیزوں کی قبضے سے پہلے خرید و فروخت کے بارے میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، علامہ نووی نے اجمیع شرح المبدب میں ائمہ کے چار مذاہب نقل کئے ہیں:

۱۔ بیع طعام ہی کی طرح قبضے سے پہلے کسی بھی چیز کی بیع جائز نہیں ہے، حضرت امام شافعی اور حنفی میں سے امام محمد بن حسن شیباعی کی یہی رائے ہے۔

۲۔ مکملی اور موزونی اشیاء کے علاوہ قبضے سے پہلے ہر چیز کی بیع جائز ہے، حضرت عثمان بن عفان، سعید بن الحسین، حسن، حکم، حماد، اوزاعی، احمد بن حنبل اور اسحاق کا یہی مسلک ہے۔

۳۔ مکانات اور اراضی کے علاوہ قبضے سے پہلے کسی بھی چیز کی بیع جائز نہیں ہے، البتہ قبضے سے پہلے مکانات اور اراضی کی بیع درست ہے، حضرت امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسف کی یہی رائے ہے۔

۴۔ ماکول (کھانے کی چیزوں) اور مشروب (پینے کی چیزوں) کے علاوہ قبضے سے پہلے ہر چیز کی بیع درست ہے، امام مالک اور ثور کا یہی مسلک ہے، ابن المنذر نے اس رائے کو "اصح المذاہب" قرار دیا ہے (اجماع ۹۰۶/۲۷)۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی نے فقیہ الجتی کی رائے یہ نقل کی ہے کہ ان کے نزدیک قبضے سے پہلے ہر چیز کی بیع

درست ہے، مگر ملا محدث ابن عبد البر نے احادیث اور اجماع امت کی وجہ سے اس قول کو مردود قرار دیا ہے (المغني ۲/۱۲۷)۔

### وجوه دلائل:

امام شافعی، محمد بن الحسن، ابن عثیل اور ان کے ہم خیال فقہاء نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ثبیت کے عموم پر مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ امام ابو داؤد نے حضرت زید بن ثابت سے یہ حدیث نقل کی ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهَاٰ أَنْ تَبَاعَ السَّلْعُ حِيثُ تَبَاعُ حَتَّى يَحْوِزَهَا التَّجَارُ إِلَى رَحْالِهِمْ (تکملہ فتح الہم ۳۵۲) یعنی جناب نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جس جگہ سے سامان خریدا جائے اسی جگہ اسے فروخت کر دیا جائے، الای کہ تجارت اس سامان کو اپنے گھروں میں منتقل کر لے، تو پھر ایسی صورت میں بیع چاہرہ ہوگی۔

اس حدیث میں مطلقاً قبضہ سے پہلے سامان فروخت کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ثبیت کو صرف بیع طعام کے ساتھ محدود نہیں رکھا گیا، امام شافعی اور ان کے ہم مسلک فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قبضہ سے پہلے ہر چیز کی بیع کو منوع قرار دیا ہے۔

۲۔ حکیم بن حزم سے مردی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میں مختلف چیزیں خریدتا ہوں تو اس میں سے میرے لئے حلال و حرام کی وضاحت فرمائیں، آپ نے فرمایا: اے بھائی کے ہیئتے! قبضہ سے پہلے کسی چیز کو مت فروخت کرو، اور جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے قبضہ سے پہلے مت بینو (حوالہ بالا)

اس حدیث میں بھی قبضہ سے پہلے مطلقاً بیع کی ممانعت کی گئی ہے۔

۳۔ عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"لَا يَحْلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شرطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالَمْ يَعْنَدْكَ"

اس حدیث میں ربح مالم یضممن یعنی ایسی چیزوں پر نفع لیئے سے منع کیا گیا ہے جو خریدار کے دھماں میں نہ آئی ہو، بیع مالم یتعین کے فاسد اور منوع ہونے کی نظر میں ہے کہ اس میں ربح مالم یضممن لازم آتا ہے، جس کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بیع پر خریدار قبضہ نہ کر لے اس وقت تک بیع اس کے دھماں میں نہیں آئے گی، اگر وہ اسے قبل القبض فروخت کر دیتا ہے تو ربح مالم یضممن لازم آتا ہے جو شرعاً منوع ہے، حضرت امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف نے بھی انہیں دلائل سے استدلال کیا ہے، البتہ ان حضرات نے بیع عقار کو عملت نہیں کئے ہوئے کی وجہ سے ثبوتم سے خارج کیا ہے، کیونکہ بیع عقار کی صورت میں عملت نہیں غرائب افساخ عقد نہیں پائی جاتی ہے، قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی صورت میں اس بات کا اختصار رہتا ہے کہ کسی وجہ سے بیع باائع کے یا اس باکر۔

اور عقد کو نجح کرنے کی نوبت آجائے، اس صورت میں اگر خریدار اس پیز کو فروخت کر کے نفع حاصل کرتا ہے، تو وہ ایسی چیز سے نفع حاصل کرنے والا قرار پائے گا جو اس کے ضمان میں نہیں آئی ہے، ایسی صورت کو حدیث میں رنج مالم یفسمن سے تعبیر کیا گیا ہے، غور کیا جائے تو یہ ملت غر صرف بیع متفقہ کی صورت میں پائی جائے گی، کیونکہ متفقاً لات میں اندریشہ بلاکت کی وجہ سے غر ر انساخ عقد کا صرف احتمال ہی نہیں بلکہ ظن غالب رہتا ہے، عقار میں اندریشہ بلاکت شاؤ وناور ہی رہتا ہے، اسلئے غر ر انساخ عقد کا احتمال نہیں ہے، البتہ عقار میں بھی ملت غر کے پائے جانے کی صورت میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست نہیں ہوگی، چنانچہ علام ابن الہمام نے بیع عقار کے جواز کی دلیل پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

"وَالْمَانِعُ الْمُثِيرُ لِلنَّهِيِّ وَهُوَ غَرِّ الْأَنْفُسِ أَخْلَكَ مُنْتَفَ (فَإِنْ هَلَكَ الْعَقَارُ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا يَبْنِي الْفَقِهُ بِاعْتِبَارِهِ فَلَا يَمْنَعُ الْجُوازَ) (فتح القدير ۲/۱۳۸)."

اگر کوئی زمین لب دریا ہو اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس زمین کے دریا میں شامل ہو جانے کا اندریشہ ہو تو ایسی صورت میں علت نہیں کے پائے جانے کی وجہ سے قبضہ سے پہلے اس کی بیع درست نہیں ہوگی، قبضہ سے پہلے بیع عقار کا جواز حضرت عثمان اور طلحہ سے عملانہ ثابت ہے (اعلام، اسنن ۱۳، ۲۲۹)۔

حنابلہ نے اپنے مسلم پر حضرت ابن عباس کی حدیث "من ابیاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" سے استدلال کیا ہے، اسی طرح حضرت ابن عمر کی اس حدیث سے بھی حنابلہ نے استدلال کیا ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بیع میں دناییر کے ذریعہ اونٹ فروخت کرتا تھا اور دناییر کے عوض دراہم وصول کرتا، اسی طرح دراہم کے عوض اونٹ فروخت کرتا اور دراہم کی جگہ دناییر وصول کرتا، میں نے بھی کریم ﷺ کی خدمت میں آکر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: قیمت میں ایسا کرنے میں کوئی محساً نہیں ہے (العملاء فتح المفهم ۱/۳۵۱)۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عمر نے قبضہ سے پہلے ثمین میں تصرف کیا اور آپ نے اسے جائز قرار دیا، ثمین عوض میں سے ایک عوض ہے، جب ثمین میں قبل القبض تصرف جائز ہے، تو بیع میں بھی قبل القبض تصرف جائز ہونا چاہئے، مگر چونکہ بیع طعام کی صورت میں قبضہ سے پہلے نہیں وارد ہوئی ہے، اسلئے ہم بیع طعام کو قبل القبض جائز نہیں مانتے ہیں۔

مگر حنابلہ کا حضرت ابن عمر کی حدیث سے استدلال اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس حدیث میں صرف استبدال ثمین کا ذکر ہے، بقیہ ثمین کی بیع کا ذکر نہیں ہے، اور استبدال ثمین کے جواز میں حنفی کا بھی اتفاق ہے، کیونکہ اس میں اندریشہ بلاکت کی وجہ سے غر ر انساخ عقد نہیں پایا جاتا ہے۔

مالكی نے ابن عمر کی مدد رجہ ذیل روایت سے استدلال کیا ہے:

"من ابیاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" رواہ البخاری، ان ہی سے دوسری روایت متفقہ ہے:

"لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافاً يعني الطعام" فصرروا أن

بیعوہ فی مکانهم حتی یؤزوہ الی رحالہم۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے: "أما الذي نهى عنہ النبی ﷺ فهو الطعام أن يباع حتی یقبح، قال ابن عباس: وأحسب کل شیء مثله (حوالہ سابق)۔

مالکیہ کا کہنا ہے کہ ان احادیث میں قبضہ سے پہلے بیع طعام کی صراحت اس بات کی دلیل ہے کہ غیر طعام کی بیع قبضہ سے پہلے درست ہوگی، مالکیہ کے زدیک قبضہ سے پہلے بیع طعام کی نبی کی علت یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اس اوقات ربانیسیہ کا ذریعہ بن جائے گا اسلئے سَمَّ اللَّهُ رِبُّكَ اسے ممنوع قرار دیا گیا، حنفیہ اور شافعیہ کے زدیک علت نبی غرر ہے۔

#### ۶۔ قبضہ سے پہلے مال فروخت کرنا:

سوال سے واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی فیکٹری کے مالک سے مال خریدتا ہے اور اس پر قبضہ سے پہلے اور سامان کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے ہی اسی سامان کو کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، جس وقت اس نے اپنے خریدے ہوئے مال کا معاملہ دوسرے شخص سے طے کیا، اس وقت سامان اس کے قبضہ میں نہیں آیا تھا، اور قبضہ میں نہیں آنے کی وجہ سے اس کے خرچ میں بھی نہیں آیا بلکہ باعث اول ہی کے قبضہ و خرچ میں رہا، پھر جب اس نے مشتری ثانی سے معاملہ طے کر لیا تو باعث اول فیکٹری کے مالک سے یہ کہا کہ میں نے جو سامان خریدا ہے وہ سامان براہ راست میرے پاس بھیجنے کے بجائے مشتری ثانی کے پاس روانہ کر دو، تو جب سامان باعث اول کے خرچ میں نہیں آیا تھا، ایسی صورت میں چونکہ نکل کر مزدور کے حوالہ یا سامان اٹھانیوالی گاڑی پر رکھا گیا، تو یہ سامان باعث اول کے خرچ میں دخل ہو گیا اور جب تک مشتری ثانی اس پر قبضہ نہ کرے اسی کی خرچ میں رہے گا، ایسی صورت میں چونکہ معاملہ طے کرتے وقت "مال" مشتری اول کے قبضہ میں نہیں تھا (اگرچہ بعد میں آگیا) اسلئے یہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی صورت ہے جس میں ربع مالم بضم من لازم آتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے، لہذا میرے زدیک یہ عقد معاملہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ہونے کی وجہ سے بیع فاسد ہے، اگر مشتری اول کی اجازت اور رضامندی سے مشتری ثانی اس پر قبضہ کر لے تو اس کا مالک قرار پائے گا، اور اس پر تصرف کرنا اس کیلئے جائز ہوگا۔

ہدایہ میں ہے:

"وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منها مال ملوك المبيع (ہدایہ علی ہامش فتح القدر ۹۲/۶)۔

ابتداء اگر یہ شکل ہو کہ خریدار اول باعث اول مالک کی فیکٹری سے مال خرید لے، اور مالک فیکٹری اس کے درمیان اور مال کے درمیان تخلیہ کر دے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکے، تو محض تخلیہ کی وجہ سے بھی اس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا، یا قبضہ حکمی کسی اور طرح ہو جائے اس کے بعد خریدار اول دوسرے کے ہاتھ مال فروخت کرے تو یہ صورت بلا شبہ جائز ہوگی۔


## ۷۔ بین الاقوامی تجارت کی ایک مخصوص صورت:

سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں شپنگ (جہاز پر مال چڑھانے) کے بعد اصل باائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور فروخت کیا ہو مال اس کے قبضہ اور ضمان سے نکل جاتا ہے، اس صورت میں اگر درمیان میں مشتری تک پہنچنے سے پہلے مال ضائع ہو جائے تو باائع اس کا ضامن نہیں ہوتا ہے، گویا صورت مسئلہ یہ ہوئی کہ ایک شخص نے کسی کے ہاتھ اپنا سامان فروخت کیا، سامان کی فروختگی کے بعد اس نے مشتری کی ہدایت کے مطابق مال بردار جہاز کے حوالہ سامان کر دیا، لہذا اب وہ سامان اس کے قبضہ و ضمان سے نکل کر مشتری کے قبضہ و ضمان میں داخل ہو جائے گا، میرے نزدیک جہاز کے عملہ کا قبضہ جن کی حیثیت مشتری کے اجر کی ہے مشتری جو مستاجر ہے، کا قبضہ قرار پائے گا، اور اس طرح سے وہ سامان مشتری اول کے قبضہ و ضمان میں آجائے گا، مملوک اور مقبوض ہونے کی وجہ سے اس سامان پر مشتری اول کو اصرف کا حق حاصل ہو گا، چاہے وہ اسے فروخت کر دے یا کسی کو وہ کر دے۔

پس جب مشتری اول نے جہاز پر سوار مال کو مقبوض و مملوک ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت نہیں ہو گی بلکہ بیع مملوک و مقبوض ہونے کی وجہ سے جائز و درست ہو گی، اور معاملہ بیع کے مکمل ہو جانے کے بعد جب مشتری اول مشتری ثانی سے مال کی قیمت وصول کر کے اپنی ملک و قبضہ ختم کر دے گا تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ جہاز کا عملہ مشتری ثانی کے اجر ہو گئے اور اب ان کی اجرت کی ادائیگی مشتری ثانی کے ذمہ واجب ہو گی، اور جہاز کے عملہ کا اس مال پر قبضہ مشتری ثانی کا قبضہ تصور کیا جائے گا اور جب مشتری ثانی کا قبضہ اس پر تسلیم کر لیا گیا تو مال بھی اس کے ضمان میں آگیا، لہذا اگر مشتری ثانی کے مال وصول کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو مشتری ثانی کا مال ضائع ہو گا، نہ کہ مشتری اول کا، فتاویٰ ہندیہ میں اجر کے قبضہ کو مستاجر کا قبضہ تسلیم کیا گیا ہے۔

"إلا أن يقول استاجر على من يحمله فقبض الأجر يكون قبض المشترى" (فتاویٰ

ہندیہ ۱۹/۳)



## قبضہ سے پہلے بیع و شراء کا حکم

مولانا محمد زید مظاہری ندوی

احادیث صحیحہ (مصنف عبدالرزاق ۳۹/۸، مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ) کی وجہ سے تمام ائمہ اور اہل علم اس پر متفق ہیں کہ مشتری کیلئے قبضہ سے پہلے اس کی بیع ناجائز ہے، اور یہ ایک ایسا اجتماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ اور اہل علم میں سے کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں، البتہ عثمان بن سعید سے اس کا جواز منقول ہے لیکن تمام علماء نے ان کے قول کو مردود و قرار دیا ہے۔

لا يجوز للمشتري بيع أى شئ كان حتى يقبضه وهو قول جابر ولا يعرف  
مخالف في الصحابة ولا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما حكى عثمان البشري من جواز البيع كل  
شيء قبل قبضه وهو قول مردود (موسوعة الفقه الإسلامي ۱۸۳/۱)۔  
ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ قول سنت اور اجتماعی مسئلہ کی دلیل سے بالکل مردود ہے، ایسے قول کی طرف  
نگاہ انہما کر بھی نہ دیکھا جائے گا۔

قال ابن عبد البر هذا قول مردود بالسنة والحجۃ المجمعۃ علی الطعام وأظنه لم یبلغه  
هذا الحديث ومثل هذا لم یلتفت (المغني ۲/۱۱۳، تکملۃ فیت الہم شرح مسلم)۔

اب رہی یہ بات کہ قبل القبض بیع بیع فاسد ہے یا باطل؟ تو امام شافعیؒ کے نزدیک تو بیع فاسد و باطل میں کوئی  
فرق ہی نہیں ان کے نزدیک دونوں ایک ہیں، البتہ احناف کے نزدیک قبل القبض بیع بیع فاسد ہے نہ کہ باطل، کیونکہ  
فاسد و باطل کے مابین امتیازی فرق یہی ہے کہ بیع باطل اس کو کہتے ہیں جس میں عوضین بیع کے قابل یعنی مال نہ ہوں،  
اور اگر عوضین مال تو ہوں لیکن بیع کی عدم صحت کے دوسرے اسباب مثلاً شرط فاسد، کسی نص کی مخالفت، ربا وغیرہ لازم  
آئے تو بیع فاسد ہوتی ہے، ماعلیٰ قاری اور دوسرے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

والباطل وال fasid عند الشافعية واحد و تحرير مذهب الحنفية أن العوضين إن لم  
يكونا قابلين للبيع فهو باطل وإن كانوا قابلين لكن استعمالاً على مقتضى عدم الصحة كالربا ففاسد  
ويقىد بالقبض الملك الخیث (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ۲/۲۷)۔

اور قبل القبض بیع میں باع ثانی کی ملک تو محض عقد سے ثابت ہو جاتی ہے گو قبضہ نہیں ہوتا (ان  
ملک التصرف یستفاد بالقبض کما أن ملک العین یستفاد بالعقد) (مبسوط ۹/۱۳) اسلئے یہ بیع بیع

فاسد ہوگی اور اس میں بیع فاسد کے ادکام جاری ہوں گے، چنانچہ عنایہ شرح ہدایہ میں قبل القبض بیع کے بیع فاسد ہونے کی صراحت موجود ہے۔ والنهی یقتصی الفساد فیکون الیع فاسدا قبل القبض (عنایہ علی ہامش فتح القدری ۱۳۷/۶)۔

### ۳۲۔ قبضہ کی حقیقت اور اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کا فرق:

قبضہ کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کوئی شی کسی کے حرز و حمان میں آجائے یعنی اس کے زیر اثر و زیر تصرف ہو جائے کہ وہ اس میں جو چاہے تصرف کرے، کوئی نقصان و تاوان ہو گا تو وہ بھی اسی کا ہو گا، قبضہ کی اصل حقیقت یہی ہے، باقی تفصیلات وہ سب اسی حقیقت کی علامات ہیں۔

اما القبض فهو أن يأتي بالشيء في حرزه وضمانه كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح  
(تمکملة فتح الہم لشرح تفسییر عثمانی ۱/۳۵۰، فتح الباری ۲۳۹/۲)۔

کتاب و سنت نے قبض کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی البتہ فتاہ، کرام نے اپنے اجتہاد سے اشیاء کے منقولہ وغیر منقولہ ہونے کے اختبار سے قبض کی خاص صورتوں کی تعیین کی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:  
۱۔ امام شافعی اور امام احمدؓ کے نزدیک ہر شی کا قبضہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ شریعت نے قبض کی کوئی خاص صورت متعین نہیں کی اسلئے اس کا مدار عرف پر ہے۔

قال ابن قدامة قبض كل شيء بحسبه... لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع  
فيه إلى العرف كالاحراز والتفرق (امغنى ۱۲۵/۲-۱۲۶)۔

اشیاء غیر منقولہ میں تو صرف تخلیہ کافی ہے (یعنی زمین و مکان سے اپنا قبضہ و تصرف ہٹا کر اس کو خالی کر دینا) کیونکہ عرف میں تخلیہ ہی سے زمین پر قبضہ سمجھا جاتا ہے اور اشیاء منقولہ میں حمل و نقل کے ذریعہ اور لینے دینے کی چیزوں میں ہاتھ میں لینے سے قبضہ سمجھا جائے گا۔

قبضہ کی تعریف و تفصیل امام احمد و امام شافعیؓ کے مسلک کے مطابق ابن قدامہؓ نے المغنى میں اور امام نوویؓ نے شرح مہذب میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل فرمائی ہے:

قال النووي قد ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار و نحوه بالتخلية وفي المنقول  
بالنقل وفي المتناول باليد المتناول وبه قال أحمد (شرح مہذب للنووی ۲۸۳/۹)۔

وقال الحافظ في الفتح وفي صفة القبض عن الشافعی تفصیل فما يتناول باليد  
كالدرارهم والدنابر والثوب فقبضه بالتناول (فتح الباری ۳۵۰/۲)۔

۲۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالکؓ کے نزدیک اشیاء منقولہ وغیر منقولہ دونوں ہی میں تخلیہ کافی ہے، یعنی یہ کہ بالع اپنا قبضہ ہٹا کر مشتری کیلئے راستہ چھوڑ دے کہ اگر وہ قبضہ کرنا چاہے تو کر سکے۔

وقال مالک و ابوحنیفہ القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياسا على العقار (شرح

مہذب للدوی (۲۸۳/۹)

امام مالک سے یہی منقول ہے کہ اشیاء غیر منقولہ میں تو قبضہ کا مدار تخلیہ پر ہے اور اشیاء منقولہ میں قبضہ کا مدار عرف پر ہے لیعنی عرف میں جس صورت میں قبضہ کی جاتا ہو، اس وہی کافی ہے (الفقہ الاسلامی و ادله ۲۱۹/۲)۔  
فقہاء احناف کے نزدیک قبضہ کا مفہوم و توسع:

قبضہ کے مفہوم میں سب سے زائد توسع فقہاء احناف کے یہاں پایا جاتا ہے، چنانچہ مبسوط ضریح، بدائع الصنائع، فتح القدری، البحر الرائق وغیرہ میں تصریح ہے کہ اشیاء منقولہ ہوں یا غیر منقولہ سب میں قبضہ کی حقیقت تسلیم و تخلیہ ہے لیعنی بالع مشتری کو بیع کے حق میں اس طرح کر دے کہ مشتری اگر اس پر قبضہ کرنا چاہے تو درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو حقیقت یا عرف و عادات کے اعتبار سے قبضہ کیلئے مانع ہو، لیعنی بالع کی جانب سے تسلیم و اختیار اور مشتری کی جانب سے قدرت، اسی حاصل ہے قبضہ کا، قبضہ کی اس حقیقت کے پائے جانے کے بعد بھی اگر بیع بالع کے پاس موجود ہے تو وہ بطور امامت ہوگی۔

لأن معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع الموانع عرفاً و عادةً حقيقةً وقال:  
فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلّي وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشترى  
برفع الحال إلى وجه يتمكن المشترى من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً والمشترى  
قابضاً (بدائع ۲۲۱-۲۲۸/۵، فتح القدری ۵/۲۹۶، البحر ۵/۳۰۸).

البنا آتی بات خود ہے کہ قبضہ کی اس حقیقت کے تحقیق کیلئے بھی مشتری یا اس کے نائب کا قریب میں حاضر ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ اگر زمین جاندراو بھی خریدی جائے اس میں فقہاء نے مشتری کی حاضری کو ضروری قرار دیا ہے۔  
إذا باع ضياعة و خلى بينها وبين المشترى إن كان يقرب منها بصير قابضاً وإن كان  
بعيد لا يصير قابضاً... المعتبر فيها القرب الذى يتصور معه حقيقة القبض (روأكتار ۲۳/۲۳).

اہن ہمام اور اہن تجھیم نے اجناس کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ قبضہ اور تسلیم کے معتبر اور صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں: ایک تو یہ کہ بالع مشتری سے کہے کہ میں نے تمہارے اور بیع کے درمیان راست چھوڑ دیا، لیعنی بیع سے اپنا قبضہ ہٹا کر تمہارے حوالہ کیا، دوسرا شرط یہ کہ مشتری اس وقت موجود ہو کہ قبضہ کرنے سے اس کوئی مانع نہ ہو، تیسرا شرط یہ کہ وہ شیء علیحدہ ہو لیعنی غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو۔

وفى الأجناس يعتبر فى صحة التسلیم ثلاثة معان أى يقول خليت بينك وبين المبيع  
وأن يكون بحضور المشترى على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع وأن يكون مفترأ غير مشغول  
بحق غيره (البحر ۵/۳۰۸، فتح القدری، مجمع الأئمہ).

الغرض قبضہ کیلئے بالع کی جانب سے تخلیہ و تسلیم، اور مشتری کی موجودگی اور بیع پر بغیر کسی رکاوٹ کے قبضہ کی  
قدرت، اسی ہی حاصل ہے قبضہ کا۔

البته اتنی بات ضرور ہے کہ قبضہ پر قدرت کی کیفیت میع کے حال کے اعتبار سے مختلف ہوگی، چنانچہ علامہ شامی نے اس کی تصریح فرمائی ہے مثلاً کسی گودام میں بھرے ہوئے غلہ کی بیع کی تو باع کا گودام کی جانبی مشتری کے حوالہ کر دینا جس سے کہ وہ بلا تکلف دروازہ کھول سکے بس قبضہ کے لئے اتنی بات کافی ہے، کسی جانور مثلاً گائے وغیرہ پر قبضہ کیلئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ مشتری کو دکھلادیا یا اشارہ کر دیا کہ وہ گائے موجود ہے چراگاہ میں، کپڑوں وغیرہ میں قبضہ اس طرح ہوگا کہ اگر ہاتھ پھیلا کر لینا چاہے تو لے سکے۔

إن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض ... إلى قوله وفي نحو بقر في مراعي فكونه بحث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحث لو مد يده تصل إليه قبض (شامی ۲۲/۲)۔

**قبضہ کی دو قسمیں:**

۱۔ حقیقی، ۲۔ حکمی۔

فقہاء احناف نے قبضہ کی دو قسمیں فرمائی ہیں: قبضہ حقیقی، قبضہ حکمی۔

حقیقی قبضہ تو یہی ہے کہ کسی شی کو ہاتھ سے اپنے قبضہ میں لے لیا جائے (لأن حقيقة القبض التسلم باليد حاشية البحر ۵/۳۰۸) اس کو قبضہ حکمی بھی کہتے ہیں، فقہاء کی تصریح کے مطابق قبضہ حکمی کی طرح قبضہ معنوی و حکمی بھی ہوتا ہے بلکہ "تخیہ" کی حقیقت بھی قبضہ حکمی ہتی ہے۔ و حاصلہ ان التخلية قبض حكما (ردا المختار ۲/۲۳)۔

قبضہ معنوی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، فقہاء کے کلام میں تبع کرنے، اصول و جزئیات پر نظر کرنے سے بنیادی طور پر دو باتیں سمجھتے ہیں آتی ہیں جن سے قبضہ حکمی کا تحقق ہوتا ہے:

۱۔ ایک تو یہ کہ مشتری میع میں ایسا کوئی اقدام یا ایسا کوئی تصرف کرے جس سے میع تکف یا عیب دار ہو جائے، یا اس کی ملک سے خارج ہو کر دوسرے کی ملک میں منتقل ہو جائے، یہ تصرف اور یہ اقدام قبضہ حکمی ہے جس سے کہ میع باع کے خان سے خارج ہو کر مشتری کے خان میں داخل ہو جاتی ہے۔

واما الشانی فالمشتری إذا أتلف المبيع أو أحدث عيبا قبل القبض يصير قابضا (البحر ۵/۳۰۷)۔

کیونکہ جب تخلیہ تمکین کو قبضہ کہا گیا ہے (جس کا حاصل قدرت علی التصرف ہے) تو نفس تصرف جو قدرت علی التصرف سے بڑھ کر ہے بدرجہ اولی قبضہ کہنا چاہئے۔

لأنه صار قابضا بالتخلية وبالإطلاق أولى لأن التخلية تمكين من التصرف في المبيع والإطلاق تصرف فيه حقيقة (بدائع ۵/۲۲۲)۔

البته ان تصرفات میں کچھ تفصیل ہے ہر تصرف کو قبضہ کیلئے کافی نہیں سمجھا گیا، اصولی طور پر تصرفات کی دو

فہمیں ہیں ایک تو و تصرفات کے قبضہ کے بغیر جن کی تجھیں نہیں ہوتی مثلاً ہبہ، عاریت، و دیعت وغیرہ، کہ جب تک قبضہ کامل نہ ہو یہ تصرفات ناقص رہتے ہیں، دوسرا و تصرفات کے قبضہ کے بغیر بھی درست ہو جاتے ہیں مثلاً بیع وغیرہ، تو پہلی قسم کے تصرفات سے تو مشتری میع پر قابض سمجھا جائے گا اور دوسرا قسم کے تصرفات میں مشتری میع پر قابض نہ سمجھا جائے گا، یعنی پہلی قسم کے تصرفات قبضہ حکمی میں داخل ہیں اور دوسرا صورت کے نہیں۔

مذکورہ بالتفصیل بحر، عنایہ، فتح القدریہ خانیہ وغیرہ میں امام محمدؐ کے حوالہ سے منقول ہے (دیکھئے فتح القدری  
۱۳۷/۶، عنایہ شرح بدایہ ۱۳۶/۶، بحر ۵/۲۰، شامی ۲۲/۲)۔

اس تفصیل کے پیش نظر مشتری نے اگر میع پر قبضہ سے پہلے بیع کردی تو درست نہیں، البتہ اگر قبضہ سے پہلے بہ کردیا تو درست ہے، چنانچہ مقاؤنی برازی میں اس کی تصریح موجود ہے۔

لَا يَصْحُ بِعُوْدِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قِصْهِهِ مِنَ الْبَاعِنِ أَوِ الْأَجْنِيِّ (برازی ۳۹۹/۲)۔

۲۔ قبضہ حکمی و مدنوی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ العقادیع کے بعد خود مشتری یا اس کا نائب وکیل ایسی کوئی بھی صورت اختیار کرے جس سے کہ عرف میں وہ میع مشتری کیلئے نامزوں، شخص و متین اور زیر اثر و تصرف سمجھی جائے ہے اسی سے مشتری کو قابض سمجھا جائے گا، گوئی باع کے پاس موجود ہو، مثال کے طور پر فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ کسی شخص نے برک یا اس جیسی کوئی شی خریدی جو ابھی باع کی دکان یا اس کے گھر میں موجود ہے اور اسی حال میں باع نے مشتری کو میع پر قبضہ کرنے کا اختیار دیا، اور مشتری نے میع پر مہر یا ایسی کوئی علامت لگادی جس سے وہ میع متین اور نامزوہ ہو گئی گویا مشتری نے اس کو اپنے زیر اثر و تصرف کر لیا، اس صورت کے متعلق انہیں ہام فرماتے ہیں کہ مشتری کو میع پر قابض سمجھا جائے گا اور میع مشتری کے خمان میں داخل ہو گئی گواہی باع کے پاس ہی موجود ہے۔

وَلَوْ بَاعَ خَلَا وَسَحُورَهُ فِي دَنَّ وَحَلَّيِ بَيْهِ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ فِي دَارِ نَفْسِهِ وَخَتَمَ الْمُشْتَرِيِّ عَلَى الدَّنَّ فَهُوَ قَضَى (کذا فی فتح القدری ۳۹۷/۵)۔

ای طرح فقہاء نے اور بھی جزئیات تحریر فرمائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتری کا باع سے ایسی کوئی بات کہنا یا اسی کوئی صورت اختیار کرنا جس سے کہ عرف میں میع مشتری کے حرزوں خمان میں سمجھی جاتی ہو اور اسی کے زیر اثر و تصرف ہو جاتی ہو قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر کسی شخص نے غلہ خرید کر باع سے یوں کہا کہ اس کوچھ میں پیس دو، یا غلہ خرید کر یوں کہا کہ اس کو اس بورے میں بھرو، اتنا کہنے سے مشتری کو میع پر قابض سمجھا جائے گا، اس کے بعد اب باع جو تصرف کرے گا یعنی بورے میں غلہ بھرنا، آتا پہنچا یہ سب مشتری کی نیابت اور کالرت میں ہو گا اور اب باع کا قبضہ مشتری کا قبضہ سمجھا جائے گا، اب ایسی صورت میں اگر باع مشتری کے حکم سے میع کسی دوسرا جگہ بھیجے گا تو وہ مشتری کی نیابت ہی میں نہیں گا، یہ تفصیل ہے جو علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں تحریر فرمائی ہے:

وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ إِنْسَانٍ كَرَّا بِعِينِهِ وَدَفَعَ غَرَانِرَهُ وَأَمْرَهُ بَانٍ يَكْبِلُ فَفَعْلُ صَارِ قَابِصًا سَوَاءٌ

كان المشتري حاضراً أو غائباً لأن المعقود عليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العقد فصح أمر المشتري لأنه تناول عيناً هو ملكه فصح أمره وصار البائع وكيله وصارت يده يد المشتري وكذلك الطعن إذا طعن البائع بأمر المشتري صار قابضاً (بدائع ۵/۲۳۷).

اس تفصیل کے پیش نظر اگر کوئی شخص مثلاً کسی فیکٹری یا کمپنی سے مال خریدتا ہے اور کمپنی سے فروخت شدہ مال کو دوسرا جگہ اپنے مشتری کے پاس بھیجنے کو کہتا ہے، ایسی صورت میں مشتری کا اپنے مخصوص و معین مال کو دوسرا جگہ بھیجنے کیلئے کہنا ہی قبضہ کے قائم مقام بھینجا چاہئے جیسا کہ غلہ خرید کر آتا پہنچنے کا حکم وینے کو قبضہ کے قائم مقام کیا گیا۔

لیکن چونکہ یہ کہنا اور دوسرا جگہ بھیجنے کا حکم دینا ہی قبضہ کے قائم مقام ہے لہذا اس حکم سے پہلے اگر دوسرا جگہ اس مال کی بیع کر چکا ہے پھر بھیجنے کا حکم دیا تو یہ صورت بیع قبل القبض کی ہوگی اور ناجائز ہوگی، البتہ بھیجنے کا حکم پہلے دے کر پھر اپنے مشتری سے معاملہ کیا جائے تو یہ صورت بعد القبض بیع کی ہوگی اور درست ہوگی۔

ولو أودعه أو أعاره أجيلاً صار قابضاً لأن الإعارة والإيداع صحيح (بدائع ۵/۲۳۶).

### قبل القبض بیع کی ممانعت کی علت:

بیع قبل القبض کی ممانعت متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے، ائمہ مجتهدین نے ان احادیث کو معلوم بالعلت قرار دیا ہے، اگر علت پائی جائے گی تو ممانعت کا حکم باقی رہے گا ورنہ نہیں۔

ائمہ مجتهدین کے کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل القبض بیع کی ممانعت کی تین علتیں ہیں اور وہ علتیں ایک ہیں جو خود بھی مستقلًا حدیث سے ثابت ہیں، اور وہ یہ ہیں:

(۱) احتمال غرر، (۲) ربح المضمون، (۳) احتمال ربالغیہ۔

### پہلی علت:

پہلی علت یعنی "احتمال غرر" اس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ قبل القبض بیع کرنے میں اس بات کا خطرہ اور احتمال ہے کہ شاید قبضہ سے پہلے بیع ہلاک ہو جائے اور فتح عقد کی نوبت آجائے کیونکہ مشتری خود نہیں جانتا کہ قبضہ سے پہلے بیع باقی رہے گی یا ہلاک ہو جائے گی اور اسی حال میں بیع کر رہا ہے یہ صورت بلاشبہ غرر و خطر کی ہے، اور غرر حرام ہے، بلکہ ثابت احادیث و آثار صحابہ میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، الگرض چونکہ قبل القبض بیع میں غرر کا احتمال ہے جس کی ممانعت منصوص ہے اس علت کے پیش نظر قبل القبض بیع منوع ہے۔

لا يجوز بيع المنقول قبل القبض لأن فيه غرر انفساً العقد على اعتبار ال�لاك قبل القبض لأنه إذا هلك المبيع قبل القبض ينفع العقد فيتبين أنه باع ما لا يملك والغرر حرام لماروينا أى أنه يتحمل ال�لاك فلا يدرى المشتري هل يبقى المبيع أو يهلك قبل القبض (تبیین الحقائق ۸۰/۲، فتح القدر ۱۳۶/۶، الفقه الإسلامي وأدلته ۲۷۳/۲).

اس علت کا فقہاء احناف نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اشیاء غیر

منقولہ جائیدا وغیرہ کی قبل القبض بھی بیع جائز ہے کیونکہ ممانعت کی علت یعنی بیع کی ہلاکت کا احتمال اور غرر کا خطرہ اس میں نہیں ہے، اور اگر اس میں بھی ہو تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہے، امام ابوحنیفہؓ کے خلاودہ شافع و حنابلہ نے بھی اس علت کو اختیار فرمایا ہے (الفقہ الislامی و ادلة ۲۷۳-۲۷۵)۔

### دوسری علت:

قبل القبض بیع ممنوع ہونے کی دوسری علت "رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ" ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ بیع سے مقصود رُحْ یعنی نفع حاصل کرنا ہے اور "رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ" یعنی مشتری کا ایسی شی سے نفع حاصل کرتا جو بھی اس کے ضمان میں نہ آئی ہو شرعاً ممکن نہ ہے، حضور ﷺ نے صراحةً اس سے منع فرمایا ہے۔

أَخْبَرَنَا عبد الرزاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عُمَرٍ وَبْنِ شَعْبَنَ عَنْ أَبِيهِ نَهْيَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَلْفٍ وَعَنْ بَيعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ، (مصنف عبد الرزاق ۳۹۸)

اور قبل القبض بیع رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ کو متلزم ہے، لہذا جب تک بیع مشتری کے ضمان میں نہ آجائے اس وقت تک اس کی بیع درست نہ ہوگی، اور ضمان میں آنے کی شکل صرف قبضہ ہے نہ کہ شرط ضمان، اسی وجہ سے امام ترمذیؓ نے امام احمدؓ سے حدیث کے الفاظ مالِمَ يَضْمَنْ کی تفسیر مالِمَ يَقْبَضَ سے فرمائی ہے۔

قوله لم تضمن فسره أَحْمَدَ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَقْبُضْ ذَكْرُهُ التَّرمِذِيُّ (حوالہ سابق)۔

ممانعت کی اس علت کو امام ابوحنیفہؓ کے شاگرد امام ابویوسف اور امام محمدؓ نے اختیار فرمایا ہے، اور اس علت اسی کی وجہ سے اپنے استاد و امام کے ملک کے خلاف اشیاء غیر منقولہ کی بیع کو بھی قبضہ سے پہلے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ اگرچہ اس میں ہلاکت کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ غرر کا احتمال نہیں لیکن "رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ" کی علت تو موجود ہے کہ ایک شی کے ضمان میں داخل ہوئے بغیر اس سے نفع انتہار ہابے اور یہ ممکن نہ ہے۔

وقالَ صَاحِبَاهُ إِنَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُرُورٌ لِانْفَسَاخٍ فَفِي بَعْدِ قَبْضِ رُحْ مَالِمَ يَضْمَنْ وَهُوَ مُنْهَى عَنْهُ (إِعْلَامُ السُّنْنَ ۲۲۵/۱۲، مِسْوَطُ ۳/۹، عَنْ أَيْلَى عَلَى الْبَاهِشِ ۶/۱۳۷)۔

### تیسرا علت:

قبل القبض بیع ممنوع ہونے کی تیسرا علت "احتمال ربا النسیمہ" ہے، اس کو صرف مالکیہ نے اختیار کیا ہے اور بطور حکمت کے ابن قیمؓ نے بھی تہذیب السنن (۱۲۷/۵) میں ذکر فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ قبل القبض بیع ربا النسیمہ کا ذریعہ ہے اس لئے سدۃ ذرائع کے طور پر اس کی ممانعت کی گئی، اور وہ اس طرح کہ مثلاً ایک شخص نے سور و پئے کا غلہ خریداً اور غلہ پر قبضہ کئے بغیر اس مشتری نے دوسرے کے ہاتھ ایک سو بیس روپے میں فروخت کر دیا تو یہ ایسا ہوا کہ گویا اس نے سور و پئے کے عوض سور و پئے دیئے اور یہ بیس روپے سود کے ہو گئے کیونکہ مشتری نے بیع میں کچھ بھی تصرف نہیں کیا، یہ تفصیل اسی مثال کے ساتھ علامہ شوکانی نے تحریر فرمائی ہے جس کو مولانا ظفر احمد نے نقل

فرمایا ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے: نیل الادوار ۵، ۲۱، اعلاء السنن ۱۲، ۲۲۵)۔

چونکہ یہ صورت ربانیہ کے مشابہ ہے اسلئے سدۃ ذرائع کے طور پر اس کی ممانعت کی گئی، اور چونکہ اس کی علت ربانیہ ہے اسی وجہ سے امام مالکؓ کے نزدیک اس کی ممانعت صرف مطعومات یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگی وہ بھی اس وقت جبکہ کیل دوزن کے ساتھ اس کی بیع ہو، اور اگر اس کے بغیر ہوتا رفقاء علت کی وجہ سے یہ ممانعت بھی نہ ہوگی بلکہ قبل القبض بھی اس کی بیع (جزافا) جائز ہوگی (دیکھئے: الفقہ الاسلامی ۳/۲۷۳)۔

ممانعت کی یہ علت حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے، عاصمہ شوکانی نے اس کی تحریک فرمائی ہے: وسئلہ ابن عباس عن سبب هذا النهي فقال الدرأهم بالدرأهم والطعام ربا الخ (نیل الادوار ۵، ۲۱، اعلاء السنن ۱۲، ۲۲۵)۔

اور بعض علماء کے فرمان کے مطابق قبل القبض بیع کی ممانعت معلوم بالعلم نہیں بلکہ یہ امر تعبدی ہے (الفقہ علی المذاہب الاربعة ۲/۲۳۵)۔

الغرض قبل القبض بیع کی ممانعت پر اندر بعد متفق ہیں گوئا توں میں فرق ہے، اور قبل القبض ممانعت کی بیع اتنی شدید ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں قبل القبض بیع کرنے پر ضرب و تادیب کا ذکر آیا ہے (مسلم شریف حدیث نمبر ۳۷۰، تکملہ فتح الہم، ۲۵۷)

**بیع قبل القبض کی ممانعت کا حکم عام ہے یا مخصوص:**

جن احادیث میں قبل القبض بیع کی ممانعت آئی ہے وہ مطلق ہیں اور عام ہیں جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہ حکم اشیاء منقولہ وغیر منقولہ سب کو عام ہوتا لیکن انہی مجتہدین نے حدیث کی علت کے پیش نظر اس حکم میں تخصیص فرمائی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) حضرت امام شافعی اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ حکم منقولات، غیر منقولات، مکملات و موزونات، مذروا عات و عددیات سب کو عام ہے، کسی بھی بیع کی بیع قبل القبض درست نہیں، ان حضرات کے نزدیک دلیل اس کی یہی ہے کہ حدیث "نهی عن بیع مالم یقبض" عام ہے، لہذا اس کا حکم بھی عام رہے گا، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ بیع کی صحت کے واسطے چونکہ بیع پر قدرت علی التسلیم شرط ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ بیع مقبول ہو، غیر مقبول پر قدرت علی التسلیم کا تحقق نہیں ہوتا (المبذب ۱/۲۶۲، الفقہ الاسلامی و اولیٰ ۳/۲۵۷، اعلاء السنن ۱۲، ۲۲۳)۔

(۲) امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ قبل القبض بیع کی ممانعت کا حکم اشیاء منقولہ کے ساتھ خاص ہے۔

إن أبا حنيفة خص النصوص بالمنقول بعلة النهي وهو غرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض (اعلاء السنن ۱۲، ۲۲۳)۔

اشیاء غیر منقولہ اس سے مستثنی ہیں کیونکہ اس کی علت بیع کی بلاکت کا خطرہ اور اس کے نتیجہ میں فتح عقد کا احتمال ہے جو غرر کی صورت ہے اور یہ علت اشیاء غیر منقولہ میں نہیں پائی جاتی، علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے

معلوم یعنی ممانعت کا حکم بھی نہ پایا جائے گا، اور بالفرض اگر اشیاء غیر منقولہ میں بھی یا احتمال موجود ہو مثلاً یہ کہ زمین دنیا کے موقع پر ہوں جس میں کہ خیال و بلاکت کا تھرہ ہو، ایسی صورت میں ممانعت کا حکم اشیا، غیر منقولہ کو بھی شامل ہو گا، زبٹی نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

حتیٰ لو نصور هلاکہ قبل القرض لا یجوز بعه و ذلك بان کان علی شط النهر و نحوه (فتح القدر ۹/۱۳، تفسیر الحقاقي ۸۰/۲)۔

(۳) امام احمد اور امام مالک کے نزدیک قبل القبض بيع کی ممانعت کا حکم طعام یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ خاص ہے وہ بھی اس وقت جب کہ ان کی بیع کیل یا وزن کے ساتھ ہو، غیر مطعومات اور وہ مطعومات جن کی بیع بغیر کیل و وزن کے ہواں حکم سے مستثنی ہیں یعنی ان کی بیع قبل القبض بھی جائز ہے۔

امام احمد اور امام مالک کا یہ مسلک ان کے مدرب کی اصل تابوں میں اسی طرح منقول ہے اور ویلیں اس کی یہ کھی ہے کہ حدیث میں حضور نے صرف طعام کی بیع کو قبل القبض منع فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ لکا کہ اس کے مساوا کی بیع قبل القبض جائز ہے۔

قال ابن قدامة: وقال الأثرم سالت أبا عبد الله عن قوله تعالى عن ربع ما لم يضم فـ قال هذا في الطعام وما أشبهه من ما كـول أو مشروب فلا يـعه حتى يـقـضـه، قال ابن عبد البر الأصح عن أحمد بن حـبل أن الذـي يـمـنـعـ من بـعـهـ قـبـلـ قـبـضـهـ وـهـ الطـعـامـ وـذـكـ لـأـنـ النـبـيـ ﷺـ نـهـيـ عن بـعـ الطـعـامـ قـبـلـ قـبـضـهـ فـمـفـهـومـ إـيـاحـةـ بـعـ ما سـوـاهـ قـبـلـ القـبـضـ (المغني ۱۲۲/۲)۔

وفي المدونة قلت لم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جراها وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل ويـشـرـوبـ كـيلـاـ أوـ وزـنـاـ قـلـيلاـ أوـ كـثـيرـاـ حتـىـ أـقـبـضـهـ؟ قال لأن النبي ﷺ نـهـيـ عن بـعـ الطـعـامـ قـبـلـ أن يـسـتـوـفـيـ وـهـ عـنـدـنـاـ عـلـىـ الـكـيلـ وـالـوـرـنـ وـكـلـ شـيـ ماـخـلـاـ الطـعـامـ وـالـشـرـابـ فـهـوـ جـائزـ أن تـبـعـدـ قـبـلـ أن يـسـتـوـفـيـ إن كـسـتـ اـشـتـريـتـ كـيلـاـ أوـ وزـنـاـ أوـ جـراـهاـ فـهـوـ سـوـاءـ لأنـ الحـدـيـثـ إـنـماـ جـاءـ فـيـ الطـعـامـ وـحـدهـ (المدونة في الفقه المأكلي ۸۸/۲)۔

فیکشـرـیـ اـوـ کـمـپـنـیـ سـےـ خـرـیدـاـ ہـوـاـ مـالـ قـبـضـهـ سـےـ پـہـلـےـ دـوـرـےـ کـوـ فـرـوـختـ کـرـناـ:

فیکشـرـیـ سـےـ خـرـیدـاـ ہـوـاـ مـالـ جـسـ پـرـ کـاـبـھـیـ مـشـترـیـ نـےـ قـبـضـهـ بـھـیـ نـہـیـںـ کـیـاـ اـوـ معـالـمـ اـسـ شـرـطـ کـےـ سـاتـھـ ہـوـاـ کـہـ نـقـصـانـ ہـوـتـےـ کـیـ صـورـتـ مـیـںـ باـلـعـ کـاـنـہـیـںـ بلـکـہـ مـشـترـیـ کـاـ نـقـصـانـ ہـوـگـاـ، اـیـسـیـ صـورـتـ مـیـںـ بـغـیرـ قـبـضـهـ کـےـ بـیـعـ فـرـوـختـ کـرـناـ درـستـ ہـوـگـاـ یـاـ نـہـیـںـ؟ـ

(۱) ظاہر بات ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک صورت مسئول میں جب بـغـرـ حـسـیـ یـاـ معـنـوـیـ نـہـیـںـ پـایـاـ گـیـاـ توـ بـلـاـ شـبـہـ یـہـ صـورـتـ نـاـجـائزـ ہـوـتـیـ چـاـہـئـےـ اـوـ مـشـترـیـ پـرـ خـمـانـ کـیـ شـرـطـ عـاـندـکـرـنـےـ کـےـ باـدـ جـوـ مـبـیـعـ باـلـعـ کـےـ عـمـانـ سـےـ خـارـجـ نـہـ ہـوـگـیـ

کیونکہ مبیع کے باعث کے ضمان سے خارج ہونے کیلئے قبضہ شرط ہے اور قبضہ یہاں پایا نہیں گیا لہذا مبیع بھی مشتری کے ضمان میں داخل نہیں ہوئی، اور نفس ضمان کی شرط قبضہ کے تحقق کیلئے کافی نہیں کیونکہ ضمان کا انتقال خود قبضہ پر موقوف ہے اور قبضہ ضمان کا موقوف علیہ ہے، ایک ہی شی موقوف اور ہی موقوف علیہ ہو یہ کیسے ممکن ہے، اور اقتضا، قبضہ بھی نہیں کہا جاسکتا ورنہ پھر قبل القبض بع ممنوع ہونے کی کوئی بھی صورت نہ ہوگی، اور اس مضمون کی احادیث بے معنی ہو کر رہ جائیں گی، یہ گفتگوا حنفی کے مسلک کے مطابق ہے۔

(۲) حضرت امام شافعیؓ کے نزدیک بھی مبیع کے مشتری کے ضمان میں داخل ہونے کیلئے قبضہ شرط ہے اس کے بغیر ضمان منتقل نہ ہوگا، ابن رشد مالکی نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

وعند الشافعی أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري (بداية المحدث ۱۰۹)۔

قال الشافعی كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبض المشتري (المغني ۱۲۲/۲)۔

(۳) امام مالکؓ کے نزدیک مطعومات کیلیہ وزنیہ میں انتقال ضمان کیلئے قبضہ شرط ہے اس کے علاوہ دیگر مبیعات میں نفس عقدہ سے مبیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو جاتی ہے۔

وعملة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفيق فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد (بداية المحدث ۱۱۰/۲)۔

(۴) امام احمد بن حنبلؓ کے نزدیک مکملی و موزوںی اور معدودی اشیاء کے علاوہ جملہ مبیعات میں قبضہ کے بغیر نفس عقدہ سے مبیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو جاتی ہے۔

ما عدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه (المغني ۱۲۲/۳)۔

حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں امام احمد بن حنبلؓ کے مسلک پر ایک مسئلہ کے ضمن میں تفریغ کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ اگر مبیع متعین ہو تو نفس عقدہ سے مبیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو جاتی ہے۔

وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض (فتح الباري باب ۵۷: ۳۵۲/۳)۔

مذکورہ بالامانہ اہب کی تفصیل کے پیش نظر کسی مسلک کی رو سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محض یہ شرط اگادینے سے کہ ”نقصان ہونے کی صورت میں باعث پر اس کا ضمان نہ ہوگا“ اتنا کہہ دینے سے مبیع باعث کے ضمان سے خارج نہ ہوگی۔

بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ صورت مسموٰہ میں مبیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو گئی تب بھی رنج مالم

یضمون کے علاوہ ممانعت و عدم جواز کی دوسری علت "قبل القبض" کی موجود ہے، اور خمائنی کی شرط لگادینے سے قبضہ کا تحقق کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں، البتہ جن ائمہ کے یہاں جن صورتوں میں بعث قبل القبض کی اجازت ہے ان صورتوں میں جواز ہوگا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

### جواز اور گنجائش کی صورتیں:

(۱) فیکٹریوں اور کمپنیوں کے توسط سے تجارت کرنے میں جس میں مشتری اول میں پر قبضہ سے پہلے اس کو فروخت کر دیتا ہے اور اسی کے حکم سے کمپنی مشتری اول کے مشتری کو مال روانہ کر دیتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ صورت قبل القبض بعث کی ہے جو احتفاظ و شوافع کے نزدیک تو ناجائز ہے، لیکن مالکیہ و حاملہ کے نزدیک بلاشبہ جائز ہے کیونکہ ان حضرات کے نزدیک صرف طعام یعنی کھانے پینے کی چیزوں جو کیلیں یا وزن سے فروخت کی جائیں ان کی بعث تو قبل القبض، جائز ہے اس کے علاوہ جملہ اشیاء کی بعث قبل القبض بھی جائز ہے، کیونکہ نفس عقدتی سے میں مشتری کے خمائنی داخل ہو جاتی ہے، اسلئے موجودہ حالات میں کوئی حرج نہیں کہ ضرورت عامہ کے پیش انظر ملک حنفی سے عدول کر کے مالکیہ کے ملک کو اختیار کرتے ہوئے جواز کا حکم لگایا جائے۔

اس سلسلہ میں تحقیق تھانوی کا فرمان بار بار غور سے پڑھنے کے قابل ہے، وہ فرماتے ہیں:

"میں نے چاہا تھا کہ تمام اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کو سوالات کی صورت میں جمع کر کے مجھ کو دیں خواہ وہ تجارت پیشہ ہوں یا ملازمت پیشہ، میں کوشش کر کے ان کے متعلق روایتیں جمع کر دوں گا اور احکام بتاؤں گا، اگر کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے مذهب پر جواز نہ لکھتا تو میں نے یہ طے کیا تھا کہ امام شافعی کے مذهب پر فتویٰ دوں گا، امام مالک کے مذهب پر فتویٰ دوں گا، امام احمد بن حنبل کے مذهب پر فتویٰ دوں گا، اور ان سے بھی کوئی صورت نہ لکھے گی تو ان کی سہل مذایہ بتاؤں گا کہ یوں کر لیا کرو جس صورت سے جواز نکل آتا، اور اگر کوئی بات صحیح سے باہر ہوتی تو اس کا علاج نہیں معمدوں ہے، لیکن اب اتنے ہوئے کام کی ضعف کی وجہ سے ہمت نہیں (ملفوظات جلیل الامت ۲۱۲/۳)۔


الفرض زیر بحث مسئلہ میں طعام یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں مسئلہ آسان ہے کہ مالکیہ کے ملک کو اختیار کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا جائے اور چونکہ نفس عقدتی سے میں مشتری کے خمائنی میں داخل ہو جائے گی لہذا خمائنی کی شرط لگائے بغیر بھی مشتری ہی پر خمائنی ہو گا بلکہ اس کے خلاف شرط لگانے کی صورت میں بھی مشتری ہی پر خمائنی ہونا چاہئے۔

(۲) البتہ طعام یعنی کھانے پینے کی تجارت میں پھر بھی مسئلہ محل غور ہے، کیونکہ مطہومات کی بعث قبل القبض کسی کے نزدیک جائز نہیں، اور خمائنی کی شرط عائد کر دینے سے قبضہ کسی کے نزدیک نہیں ہوتا، نیز دو توں علتمیں مستثنی ہیں، خمائنی کی شرط کے باوجود قبل القبض بعث کی خرابی لازم آئے گی، اسلئے اس کے جواز کی آسان صورت یہی ہے کہ حنفی ملک کے مطابق مشتری اگر حصی قبضہ پر قادر نہ ہو تو خود جاگریا اپنے دکیل کو بسیح کر کم از کم قبضہ حکمی و معنوی

کر لے جس سے کہیجی اس کے خان میں داخل ہو جائے، قبضہ معنوی کی صورت میں ماقبل میں گذر جکیں۔

(۳) جواز کی ایک شکل یہ ہے کہ کمپنی یا فیکٹری جس ذریعہ اور واسطے سے مشتری کا مال دوسرا جگہ بھیجنے ہے یہ مشتری اس ذریعہ اور واسطہ کو اپنا وکیل ہمیشہ کیلئے بنادے خواہ وہ ایک ہوں یا متعدد، مثلاً یہ کہہ دے کہ فلاں کمپنی سے میرا مال آیا کرے گا اس کو اپنے قبضہ میں لے کر حسب بدایت پہنچا دیا کرنا، اس صورت میں وہ واسطے مشتری کا وکیل سمجھا جائے گا اور مبلغ بالغ کے خان سے خارج ہو کر مشتری کے خان میں داخل ہو جائے گی۔

(۴) جواز کی ایک شکل یہ ہے کہ ابھی بیع کا معاملہ نہ کرے بلکہ وحدہ بیع کرے، جب مال مشتری ثانی کے پاس پہنچ جائے تب بیع کا معاملہ کرے اور اگر پہلے کر بھی چکا ہے تو مال پہنچنے کے بعد پھر سے بیع کرے تاکہ یہ معاملہ درست ہو جائے، اخیر کی دونوں صورتوں کا تذکرہ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاویٰ میں کیا ہے (احسن الفتاویٰ ششم)۔



# قبضہ سے پہلے فروختگی

مولانا جیل احمد نذیری

ا۔ قبضہ سے پہلے بیع کا حکم:

قبضہ سے پہلے بیع کی دو صورتیں ہیں:

الف: ملکیت میں نہ ہونا، لہذا اس شخص ایسی چیز کو فروخت کرے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، تو یہ بیع باطل

ہے۔

بیع مالیس فی ملکہ باطل (رواہ محدث رحمہ اللہ علیہ و آله و سلمہ، ۱۱۹/۲) اس چیز کی بیع جو باائع کی ملکیت میں نہ ہو باطل ہے۔

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

أَنْ يَبْيَعَ مِنْهُ مَتَاعًا لَا يَمْلِكُهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْ مَالِكٍ وَ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَ هَذَا باطل لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ فِي مَلْكَهُ وَ قَوْلُهُ قَالَ (لَا تَبْيَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أَى شَيْئًا لَيْسَ فِي مَلْكَكَ حَالُ الْعَقْدِ (مرقاۃ المفاتیح ۸۱/۲).

خریدار کو ایسا سامان فروخت کیا جس کا مالک نہیں، پھر اسے مالک سے خریدے اور خریدار کو دے، یہ بیع باطل ہے، اس لئے کہ اس نے ایسی چیز فروخت کی ہے جو بیع کے وقت اس کی ملکیت نہیں، یہی مطلب ہے حضور کے اس فرمان کا کہ جو تمہارے پاس نہ ہوا سے مت فروخت کر دیجئی جو چیز عقد کے وقت تمہاری ملکیت میں نہ ہوا سے مت نہیں۔

ب: ملکیت میں ہو یکن قبضہ میں نہ ہو، ایسی چیز کو فروخت کرنا بیع فاسد ہے۔

و فی معنی مال لیس عنده فی الفساد بیع العبد الآبق و بیع المبیع قبل القبض و فی معناه بیع مال غیرہ بغیر اذنه لا یدری هل یجیز مالکه ام لا (حوالہ سابق)۔

جو چیز باائع کے پاس نہیں اس کی بیع کے فاسد ہونے میں وہ صورت بھی داخل ہے جب بھاگا ہوا غلام فروخت کرے یا قبضہ سے پہلے بیع فروخت کرے، اور اسی کے معنی میں وہ صورت بھی ہے جب غیر کے مال کو غیر کی اجازت کے بغیر فروخت کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا مالک اجازت دے گایا نہیں۔

یہ آخری صورت امام شافعیؓ کے نزدیک بیع فاسد ہے، امام مالک، امام احمدؓ اور امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک مالک کی اجازت پر موقوف ہے (حوالہ سابق)۔

و من الْبَيْعِ الْفَاسِدُ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ (الفقہ علی المذاہب)

یعنی فاسد میں سے یہ بھی ہے کہ مشتری میمع میں قبضہ سے پہلے تصرف کرے۔

۲۔ قبضہ کی حقیقت "تخلیہ" ہے، درمختار میں ہے:

ثُمَّ التَّسْلِيمُ يَكُونُ بِالتَّحْلِيلِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِبْضَ بلا مانع ولا حائل وَ شَرْطٌ فِي الْأَجْنَاسِ شَرْطٌ ثَالِثٌ وَ هُوَ أَنْ يَقُولُ خَلْبَتْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْمُبَيِّعِ فَلَوْ لَمْ يَقُلْهُ أَوْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَصِرْ قَابِضًا (درمختار ۲۷۰، ۲۸۰)۔

حوالگی "تخلیہ" یعنی مشتری اور میمع کے اکٹھا ہونے کی حالت میں اس طرح آزاد چھوڑ دینے سے ہوتی ہے کہ مشتری میمع پر بغیر مانع و بغیر حائل کے قبضہ پر قادر ہو جائے، اجناس میں ایک اور شرط بھی لگائی گئی ہے وہ یہ کہ میک نے تمہارے اور میمع کے درمیان تخلیہ کیا، پس اگر یہ کہے، یا میمع دور ہو تو قبضہ نہ ہو گا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ترجمہ: (اس طرح آزاد چھوڑ دینا کہ قبضہ پر قادر ہو جانے کا) نتیجہ یہ ہے کہ اگر گندم خریدے کسی گھر میں اور بالغ مشتری کو اس گھر کی کنجی دے کر کہے میں نے تمہارے اور گندم کے درمیان تخلیہ کیا تو یہ قبضہ مانا جائے گا، اور اگر کچھ نہیں کہا تو قبضہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر ایسے گھر کو جو وہاں موجود نہیں ہے پس بالغ نے کہا میں نے وہ گھر تمہارے سپرد کیا، مشتری نے کہا میں نے اس پر قبضہ کر لیا تو قبضہ نہیں مانا جائے گا، اور اگر قریب ہو تو قبضہ مانا جائے گا، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشتری اس پر تالا لگانے پر قادر ہو اور اگر تالا لگانے پر قادر نہ ہو تو دور مانا جائے گا، جمع انوازل میں ہے کہ گھر کی بیش میں کنجی دیدیں قبضہ و حالگی ہے جب وہا سے بلا کلفت و مشقت کھول دیئے کیلئے مستعد ہو، اور اگر گھر کے سجن میں خریدا، بالغ نے کہا جاؤ قبضہ کرو، پس اگر وہ اس طرح دکھاتی دے کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہو تو قبضہ مانا جائے گا، اور اگر کپڑا خریدا، بالغ نے کہا کہ اس پر قبضہ کرو، مشتری نے قبضہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کپڑے کو کسی دوسرے نے لے لیا، تو جب بالغ نے قبضہ کرنے کا حکم دیا تھا، اگر مشتری کیلئے بغیر کھڑے قبضہ کرنا ممکن تھا تو حالگی صحیح ہو گئی (گویا دوسرے کے لئے لینے سے نقصان مشتری کا ہوا، بالغ کی ذمہ داری نہیں ہے) اور اگر بغیر کھڑے ہوئے قبضہ ممکن نہیں تھا تو حالگی صحیح نہیں ہو گئی (دوسرے کے لئے لینے سے نقصان بالغ کا ہوا) اور اگر کوئی چڑیا یا کوئی گھوڑا کسی گھر میں خریدا، بالغ نے قبضہ کرنے کا حکم دیا، مشتری نے دروازہ کھولا، گھر میں گیا، تو اگر کسی مددگار کے بغیر کپڑا ناممکن ہو تو قبضہ مانا جائے گا، یہ ساری بحث الحرج الرائق میں ہے، خلاصہ یہ کہ "تخلیہ" اس وقت حکماً قبضہ ہے جب بغیر کلفت و پریشانی کے اس پر تدریت ہو، لیکن یہ چیز میمع کے حال کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، مثلاً گھر میں گندم فروخت کیا ہو تو کنجی کا دیدیں اس وقت قبضہ ہو گا جب گھر کو بلا کلفت کھونا ممکن ہو، اور گھر کی بیش میں قبضہ اس وقت مانا جائے گا جب تالا بند کرنا ممکن ہو، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ گھر اسی شہر میں ہو، چراگاہ میں گائے کی فروختگی میں قبضہ اس وقت مانا جائے گا جب وہ دکھاتی دے اور اس کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہو، کپڑے میں "تخلیہ" کو قبضہ اس وقت قرار دیا

جائے گا کہ ہاتھ پڑتے تک پہنچ جائے، گھوڑے اور جنہیں میں "تخلیق" قبضہ اس وقت ہے، جب اس گھر میں جا کر بلا معین و مددگار کے اس کو پکڑنا ممکن ہو (روالہ کار ۲۷/۳۷)۔

صاحب درمختار کے قول بلا مانع ولا حائل کی شرح کرتے ہوئے علامہ شاعی لکھتے ہیں:

(قولہ بلا مانع) بآن بکون مفرزا غیر مشغول بحق غیرہ فلو كان المبيع شاغلاً  
کالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه بحراً و في الملتقط ولو باع داراً أو سلمها إلى المشترى وله  
فيها متعاق فلليل أو كثير لا يكون تسليماً حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضاً و فيها  
ذروع..... (قولہ ولا حائل) بآن يكون في حضرته الخ.

بلامانع کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص و علیحدہ ہو، حق غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو، پس اگر میں شاغل ہو، مثلاً گندم  
بانع کے بورہ میں ہو تو قبضہ سے مانع نہ ہوگا (الحرارائق)، اور ملتقط میں ہے کہ اگر کوئی گھر بیجا یا گھر مشتری کے حوالہ کیا  
اور اس میں بانع کا سامان ہے، کم ہو یا زیادہ، تو یہ جواہگی نہیں مانی جائے گی یہاں تک کہ عالی کر کے ہے، ایسے ہی اگر میں  
بیچے اور اس میں پیداوار ہو تو جب تک خالی کر کے نہیں وے گا قبضہ اور جواہگی نہ ہوگی..... اور بغیر حائل کا مطلب یہ ہے کہ  
جواہگی اور تخلیق مشتری کی موجودگی میں ہو۔

محض قبضہ و تسليم کے اقرار سے شرعاً قبضہ نہیں مانا جائے گا، درمختار میں ہے:

فإنهم يشترون قرية و يقرؤن بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض على الصحيح.

اوگ کاؤں خریدتے ہیں، جواہگی اور قبضہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن صحیح مذهب کے مطابق اس سے قبضہ صحیح

نہیں ہوتا۔

روالہ کار میں عبارت بالا کی شرح میں ہے:

ترجمہ: اگر گھر دور ہو تو اگرچہ بانع کہہ کہ میں نے تخلیہ کیا، قبضہ نہ ہوگا، دور سے مراد یہ ہے کہ بلا کافت اس  
پر قبضہ کرنے پر قادر نہ ہو، اور یہ بیع کے بدلنے سے بدلتا ہے جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں، یا اس سے مراد حقیقتہ دور ہونا  
ہے اور جو اس کے مشاہد ہو اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا، محض اقرار سے قبضہ صحیح نہ ہوگا اور قبضہ کے ساتھ مقید اس لئے  
کیا ہے کیونکہ بیع فی ذاته صحیح ہے، لیکن مشتری پر قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے قیمت کی ادائیگی واجب نہ ہوگی، صاحب درمختار  
کے قول علی اسی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر الردایہ یعنی ہے، اس کے مقابلے میں وہ ہے جو محیط میں ہے، اور جامع شیعہ  
الائمه میں ہے کہ محض "تخلیق" سے قبضہ صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ عقار (جادہ اور غیر منقول) دور ہو اور بانع اور مشتری سے  
غائب ہو، امام ابو حیفیہ کے نزدیک، امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ہے، محیط وغیرہ کی یہ بات ضعیف ہے جیسا کہ  
الحرارائق اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے، اور صحیح وہی ہے جو ظاہر الردایہ میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جب جادہ اور غیر  
منقول قریب ہوگی تو فی الحال بھی اس پر قبضہ حقیقی متصور ہوگا، لہذا "تخلیق" قبضہ کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جب دور  
ہوگی تو فی الحال قبضہ متصور نہ ہوگا، لہذا "تخلیق" قبضہ کے قائم مقام نہ ہوگا (روالہ کار ۲۸/۳۸)۔

عبارات بالا کا خلاصہ یہ ہے کہ ”تخلیہ“ جسے قبضہ قرار دیا گیا ہے اس میں دو باتیں پائی جانی ضروری ہیں:  
 ۱۔ میع حق بالع یا حق غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو، یعنی میع سے کسی کا حق متعلق نہ ہو۔  
 ۲۔ تسلیم و حوالگی مشتری کی موجودگی میں ہو، یا اس کا وکیل موجود ہو۔

امام کا سائی ”نے قبضہ، تسلیم و حوالہ اور تخلیہ کی حقیقت ان الفاظ میں واضح کیا ہے:

ترجمہ: حوالگی اور قبضہ ہمارے نزدیک تخلیہ اور تخلی ہے، وہ یوں کہ بالع، میع اور مشتری کے درمیان رکاوٹیں دور کر کے قبضہ کی آزادی دیدے اس طریقہ سے کہ مشتری میع میں تصرف کرنے پر قادر ہو جائے، لہذا بالع میع کو پرداز کرنے والا اور مشتری قبضہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، اسی طرح مشتری کی طرف سے بالع کی جانب تمدن کی ادائیگی بھی ہونی چاہئے..... تسلیم (حوالگی) لفظ میں نام ہے شی کو سالم و خالص بنانے کا، کہا جاتا ہے کہ سلم فلان بفلان یعنی فلاں کیلئے خالص کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ور جلا سلما لر جل“ (اور ایک آدمی خالص ایک آدمی کیلئے ہے) اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پس میع کی مشتری کی طرف تسلیم (حوالگی و پردازگی) یہ ہے کہ میع مشتری کیلئے اس طرح سالم و خالص بنادی جائے کہ اس کے بارے میں اس سے کوئی دوسرا نزاع نہ کرے، یہ معنی ”تخلیہ“ کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، لہذا ”تخلیہ“ بالع کی طرف سے پردازگی ہوئی اور ”تخلی“، ”مشتری کی طرف سے قبضہ ہوا۔  
 چند مطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں:

ثُمَّ لَا خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ أَصْلَ الْقِبْضَ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي سَائرِ الْأَمْوَالِ  
 وَأَخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا هَلْ هِيَ قَبْضٌ تَامٌ فِيهَا أَمْ لَا وَجْهٌ لِكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَبْيَعَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ  
 مَمَالِهِ مُشَلٍّ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَمَالِ لَا مُشَلٍّ لَهُ مِنَ الْمَدْرُوعَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاقَوْنَةِ فَالتَّخْلِيَةُ فِيهَا  
 قَبْضٌ تَامٌ بِلَا خِلَافٌ (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵).

ہمارے اصحاب (احناف) کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل قبضہ تمام اموال میں ”تخلیہ“ کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے، البتہ اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ یہ قبضہ تام ہے یا نہیں، خلاصہ کام یہ ہے کہ میع یا تو ان چیزوں میں سے ہوگی جن کیلئے مثل ہوتا ہے یا ان چیزوں میں سے ہوگی جن کے لئے مثل نہیں ہوتا مثلاً مدروعات اور معدودات متفاوتہ وغیرہ، پس ”تخلیہ“ ان سب میں بغیر کسی اختلاف کے قبضہ تام ہے۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

لَانْ مَعْنَى الْقِبْضَ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيُّ وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عَرْفًا وَ عَادَةً حَقِيقَةً (بدائع الصنائع ۱۳۸/۵).

اسنے کہ قبضہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر قادر کر دینا، تہائی میں ہونا، اور عرف اور عادۃ جو موافع ہوں ان کو حقیقتہ اٹھا دینا۔

ان عبارات کی روشنی میں احقر کے خیال میں ”قبضہ“ کو معین کرنے میں عرف کو دخل ہے، لیکن عرف صحیح

ہونا چاہئے، جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، ہر قسم کا عرف معتبر نہ ہوگا۔  
قبضہ کی ایک ہی نوعیت "تخلیہ":

اشیاء منقولہ و غیر منقولہ دونوں میں قبضہ کی ایک ہی صورت ہے یعنی "تخلیہ"۔ البتہ بقول صاحب درمختار اجناس میں مزید یہ بھی شرط مذکور ہے کہ:

و هو أَنْ يَقُولُ خَلِيلُ بْنُ كَعْبٍ وَبَنْ الْمَبِيعِ (در مختار ۳۸/۲)

بائع کہے کہ میں نے تمہارے درمیان اور بین کے درمیان آزادی دیدی۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

(قوله أن يقول خليلاً الخ) الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية لما في البحر ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أحدهما الخ وفي الفروع المارة ما يدل عليه أيضا (در مختار ۳۸/۳)

بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد قبضہ کی اجازت دینا ہے "تخلیہ" کا مخصوص لفظ مراد نہیں ہے، جیسا کہ البح رائق میں ہے کہ اگر بیع کے بعد بائع مشتری سے کہے "لے لو" تو قبضہ نہیں ہوا، اور اگر کہے "اس کو لے لو" تو یہ "تخلیہ" کہلائے گا جب کہ وہ اسے لینے کیلئے پہنچے، اور گذشتہ فروع بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔

بعض صحیح اور بیع فاسد دونوں میں تخلیہ کو قبضہ مانا گیا ہے۔

وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا و في البيع الفاسد روایتان  
والصحیح أنها قبض کذا فی فتاوى قاضیخان (فتاویٰ ہندیہ ۱۶/۳)

فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ بعض صحیح میں "تخلیہ" قبضہ قرار دیا جائے گا، اور بیع فاسد کے بارے میں دور و ایتیں ہیں، صحیح یہ ہے کہ بیع فاسد میں بھی "تخلیہ" قبضہ ہے، ایسے ہی فتاوى قاضیخان میں ہے۔

احادیث مذکورہ معلوم بالعلة ہیں:

ایک بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز کیوں ہے؟ جبکہ یعنی والا ایسی چیز نیچ رہا ہے جو اس کی ملکیت میں ہے، ایجاد و قبول بھی موجود ہے، بیع و شراء کرنے والوں میں بیع و شراء کی اہمیت بھی ہے، بیع، خل بھی ہے، پھر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کیوں جائز نہیں؟

وہ صاف ظاہر ہے، وہ یہ کہ اس میں غرر اور دھوکہ ہے، کیونکہ جب بیع قبضہ میں نہیں ہے اور فروخت کردے تو مشتری کا حوالہ کرنا مشتبہ ہو گیا، ممکن ہے وہ حوالہ کر ہی نہ پائے، بیع بلاک و ضائع ہو جائے وغیرہ وغیرہ، ایسی صورت میں بیع ہی فتح ہو جائے گی۔

ہدایہ میں ہے:

ترجمہ: جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے تو اس کی بیع اسی وقت

جاائز ہوگی جب اس پر قبضہ کر لے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس حیزکی بیع سے منع فرمایا ہے جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو، اور اسلئے بھی یہ بیع جائز نہیں کیونکہ اس میں بیع کے بلاک ہو جانے پر بیع کے فتح کا خطرہ ہے، البتہ امام ابوحنیفہؓ اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک عقار (جانمداد غیر منقول) کی بیع قبضہ سے پہلے بھی جائز ہے، امام محمدؓ کے نزدیک جائز نہیں، حدیث کے مطلق ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے اور "منقول" کا اختبار کرتے ہوئے جس طرح جانمداد غیر منقول کا اجارہ قبل القبض جائز نہیں، اسی طرح بیع بھی جائز نہیں، شیخینؓ کہتے ہیں کہ بیع کا رکن اہل سے صادر ہوا ہے اور محل میں صادر ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا وہوکہ اور غرہ نہیں، اسلئے کہ عقار میں ہلاک ہو جانا نادر ہے، اور جس غرہ سے منع کیا گیا ہے وہ عقد کے منع ہو جانے کا غرہ ہے (وہ یہاں موجود نہیں) اور دلائل جواز پر عمل کرتے ہوئے ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث اسی "غرفتح" کے ساتھ معلوم ہے، اور اجارہ کے پارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی اسی اختلاف پر ہے، اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس میں اختلاف نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معموق و علیہ اجارہ میں منافع ہے اور اس کا ہلاک ہو جانا نادر ہے، لہذا چونکہ اس میں علت موجود نہیں اسلئے وہ ممانعت سے مستثنی ہوں گی، کیونکہ حکم علت کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔

امام کاسانیؓ فرماتے ہیں:

ترجمہ: شیخینؓ (امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسفؓ) کی دلیل، قرآن مجید کی آیات بیع کا بلا تخصیص عموم ہے، اور ہمارے نزدیک کتاب اللہ کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص جائز نہیں، یا پھر ہم اسے جانمداد منقول پر محدود کریں گے تاکہ دلائل کے درمیان موافقت رہے، تناقض نہ پیدا ہو، اور جانمداد غیر منقول کی قبل القبض بیع اس لئے بھی جائز ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ رکن بیع (ایجاد و قبول) الہیت رکھنے والے سے صادر ہوا اور ایسی جگہ میں صادر ہو جو بیع کا محل بن سکے، تو اس بیع کو صحیح ہونا چاہئے، عدم جواز غرہ (وہوکہ) کے عارض کی وجہ سے ہے، اور یہ "غیر" معموق و علیہ کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں بیع کے فتح ہو جانے کا ہے، کیونکہ جانمداد غیر منقول کی ہلاکت کا اندر یہ نہیں، لہذا "غیر" بھی ثابت نہ ہو گا، لہذا بیع اصل کے حکم پر باقی رہے گی (بدائع الصنائع ۱۸۱/۵).

امام سراجیؓ فرماتے ہیں:

ترجمہ: امام ابوحنیفہؓ اور امام ابو یوسفؓ کہتے ہیں کہ عقار کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اسی طرح جائز ہے جس طرح "منقول" کی بیع بعد القبض جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تصرف کی اجازت ملکیت کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ قبضہ کی وجہ سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص اپنی ایسی ملکیت کو فروخت کرے جو مودع یا غاصب کے قبضہ میں ہو اور وہ مودع و غاصب اس شخص کی ملکیت کا اقرار بھی کرتے ہوں تو بیع جائز ہوگی (حالانکہ وہ اس شخص کے قبضہ میں نہیں

ہے) کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر تصرف کی اجازت دینے والی ملکیت میں ایسا غرہ ہو جس سے بچنا ممکن ہو تو یہ تصرف کے جواز کے لئے مانع ہو گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے "بع غر" سے منع فرمایا ہے، لہذا جائزہ منقولہ میں قبل القبض بیع کرنے میں یہ غرہ ہے کیونکہ اس کے ہلاک ہو جائے سے بیع نوٹ جائے گی اور مشتری کی ملکیت باطل ہو جائے گی، اور جب قبضہ کر لے گا تو یہ غرہ ممکن ہو جائے گا اور صرف ایک غرہ باقی رہے گا، وہ یہ کہ وہ چیز کہیں کسی اور کی نہ نکلے، لیکن اس غرہ سے بچنا ممکن نہیں (کیونکہ یہ تو بیع کی ہر صورت میں پایا جاسکتا ہے)، عقار کی قبل القبض بیع میں مشتری کی ملکیت میں سمجھی "غراستحقاق" ہے، کیونکہ عقار کی ہلاکت متصور نہیں اور اس کی وجہ سے بیع کا شیخ ہو جانا بھی متصور نہیں، اور غرہ کا ممکن ہو جانا اس کے سب کے بالکل یہ عدم اتصور کی وجہ سے امکن ہے اس غرہ کے ممکن ہونے سے جس کے سب کا اتصور کیا گیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا، بیع میں "غراستحقاق" کا اتصور ہوتا ہے، لیکن اس سے احتراز ممکن نہیں یعنی غرہ شیخ عقد کا سبب ہی ممکن ہے، اس کے برخلاف غرہ استحقاق کا سبب متصور ہے مگر عمل نہیں کرتا، لہذا سبب کا ہی ممکن ہو جانا سبب کے پائے جانے کے بعد احتراز ممکن نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے کے مقابلے میں امکن ہے (مبسوط ۹/۱۳)۔

امام ابن حنبل شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: جو چیز منع اور نبی کا باعث ہے وہ غرہ "النساخ" ہے بیع کے ہلاک ہونے کی صورت میں، وہ یہاں ممکن ہے کیونکہ عقار کا ہلاک ہو جانا نادر ہے، اور جو نادر ہو اس کا اختبار نہیں ہوتا، اور احکام فہریہ اس پر ممکن نہیں ہوتے، لہذا مانع جواز نہ ہو گا، کیونکہ اس کا ہلاک ہو جانا متصور نہیں، الایہ کہ وہ دریا وغیرہ بن جائے، یہاں تک کہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مسئلہ اس بیان کے متعلق ہے جس کے دریا ہو جانے یا اس پر ریت وغیرہ کے غالب آجائے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن جو بیان اس سے مامون نہ ہو وہاں قبل القبض بیع اسی طرح جائز نہ ہو گی جس طرح منقول میں، اسے محظوظی نے ذکر کیا ہے، اور اختیار میں ہے کہ اگر زمین دریا کے کنارے پر ہو یا جیج انتہائی بلندی پر تو اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے (فتح القدر ۶/۱۳)۔

عبارات مذکورہ کا حاصل یہ ہے کہ اشیاء غیر منقولہ (عقار) میں بھی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اسی وقت جائز ہے جب اندیشہ اشیاء و ہلاکت نہ ہو، لیکن اگر اندیشہ ہلاکت ہو تو اس کا حکم اشیاء منقولہ کا ہی ہے، یعنی اس میں قبل القبض بیع جائز نہ ہو گی۔

اب تک کے مباحث سے سوال (۱، ۲، ۳، ۴، ۵) کے جوابات واضح ہو چکے ہیں، باقی مانده دو سوالات کے جوابات پیچے درج کئے جاتے ہیں۔

۶۔ یہ خرید و فروخت جائز ہے، اول و پانچ میں فیکٹری کی حیثیت باقی کی ہے، ثانیاً مشتری اول کے وکیل کی جسے سوال میں خریدار نہیں (۱) سے تعبیر کیا گیا ہے، دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

اصول الشاشی کی یہ عبارت اس کی صریح نظر ہے:

وإذا قال أعتق عبدك عنى بالف درهم فقال اعتقت يقع العتق عن الأمر فيجب عليه

الْأَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ نَوْيَ بِهِ الْكُفَّارَةَ يَقْعُدُ عَمَانُوْيَ وَذَلِكَ لَأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتَقَهُ عَنِ الْأَلْفِ دَرَهْمٍ  
يَقْتَضِي مَعْنَى قَوْلَهُ بَعْدَهُ بِالْأَلْفِ ثُمَّ كَنْ وَكَبِيلَيْ بِالْإِعْتَاقِ فَاعْتَقَهُ عَنِ فِيَثَتِ الْبَيْعِ بِطَرِيقِ الْاِقْتَصَاءِ وَ  
يَثَتِ الْقَبُولِ كَذَلِكَ (اصْوَلُ اِشَائِيْ ص ۳۲).

جب کہے "آزاد کر دو اپنے غلام کو میری طرف سے ایک ہزار درہم میں" پس وہ سرا کہے "میں نے آزاد  
کر دیا" تو یہ آزادی آمر کی طرف سے واقع ہوگی اور اس پر ایک ہزار درہم واجب ہو جائیں گے، اور اگر آمر نے اس  
کے ذریعہ کسی کفارہ کا ارادہ کیا تو یہ آزادی اسی کی طرف سے ہوئی جس کی نیت کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے شخص کا قول "غلام کو میری طرف سے ایک ہزار درہم میں آزاد کر دو" اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ تم مجھے اپنے غلام کو  
ایک ہزار میں فروخت کر دو، پھر میرے دلیل بالاعتقاب بن کر میری طرف سے اسے آزاد کر دو، لہذا بعید طریق الاقتضاء  
ثابت ہوگی اور ایسے ہی قبول بھی بطریق الاقتضا ثابت ہو گا۔

یہ صورت جائز نہیں ہے، بیع فاسد ہے، حدیث نبوی ولا ربح مالم یضمون ۷ نہیں کرتے ہوئے مشہور حنفی  
عالم ملا علی قاری تکھتے ہیں۔

ترجمہ: اس سے مراد وہ نفع ہے جو کسی چیز کو خریدنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے سے پہلے بیع کرنے سے  
حاصل ہو، اور وہ باائع کے خمائن سے مشتری کے خمائن کی طرف منتقل نہ ہوا ہو، اس لئے کہ اس کی بیع فاسد ہے.... اور کہا  
گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا نفع اسی وقت حلال ہوتا ہے جب خسارہ کی ذمہ داری بیچنے والے پر ہو، پس  
اگر خسارہ کی ذمہ داری اس پر نہ ہو مثلاً قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جب تک ہو جائے، تو اس کا خمائن باائع پر ہے اور  
مشتری کو حق نہیں ہے کہ اس کا وہ نفع واپس لے جس سے باائع قبل اقبض منتفع ہو چکا ہے، اس لئے کہ بیع قبضہ کے  
ذریعہ مشتری کے خمائن میں داخل نہیں ہوئی، پس اس کے لئے قبل اقبض بیع کا نفع بھی حلال نہ ہو گا۔

اس پہلے خریدار کی فروختگی اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جب وہ مال اس کے خمائن میں ہو، اصالۃ یا نیاۃ و  
وکالت، یہاں اصالۃ ممکن نہیں، وکالت و نیاۃ ممکن ہے، جبکہ اس خریدار نے اسی طریقہ (شینگ) سے مال منگوایا ہو، اس  
صورت میں مال بردار جہاز کا عملہ پہلے خریدار کا وکیل مانا جائیگا، اور نقصان کی صورت میں وہی پہلا خریدار ضامن بھی  
ہو گا۔

لیکن اگر پہلا خریدار ضامن نہ ہو اور اس نے مال کی وصولی سے پہلے کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بیع  
جائز نہ ہو گی۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی شرعی حیثیت

مولانا مجیب الغفار اسعد

۱۔ شرع اسلامی کے اعتبار سے بیع قبل القبض ناجائز ہے، اور اس کا شمار یوں فاسدہ میں ہے، جیسا کہ تصریحات ذیل سے واضح ہے، فتح القدیر میں ہے:

(لأن فيه غرر انفساخ العقد) الأول (على اعتبار هلاك المبيع) قبل القبض فيتبين حينئذ أنه ياع ملك الغير بغير إذنه و ذلك مفسد للعقد (۲۶۵/۵).

"بیع قبل القبض" اسلئے ناجائز ہے کہ اس کے اندر قبضہ سے پہلے بیع کے بلاک ہو جانے کی صورت میں عقد اول کے نفع ہو جانے کا خطرہ اور رکھنکا ہے، اگر ایسا ہوا تب تو محل کریہ بات سامنے آجائے گی کہ بیع قبل القبض کرنے والے نے دوسرے کامال بدوان اس کی اجازت کے نفع دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ مفسد عقد ہے۔

عنایہ میں ہے:

فإن المقصود من البيع الربح، وربح ما لم يضمن منهى عنه شرعاً والنهاي يقتضي الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه كما في الإجارة (عنایہ على ما مش فتح القدیر ۲۶۵/۵).

بیع سے مقصود نفع کمانا ہوتا ہے، اور جو چیز آدمی کے ضمان میں نہ آئی ہو اس سے نفع کمانا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اس سے نہیں دارو ہوئی ہے، اور کسی چیز سے نہیں شرعی اس کے فساد کو متفقہ ہوا کرتی ہے، اس کے تحت بیع قبل القبض فاسد ہوگی، کیونکہ بیع مشتری کے ضمان میں داخل نہیں ہے۔

### ۲۔ شرع اسلامی میں قبضہ کی حقیقت:

قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنے کی ممانعت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے مختلف احادیث مختلف الفاظ و تعبیرات کے ساتھ مروی ہیں، لیکن چونکہ قبضہ کی مختلف اور گونا گون صورتیں تھیں جیسا کہ فقه و فتاویٰ کی کتابوں سے واضح ہے، اسلئے اس کی کوئی خاص صورت کتاب و سنت میں بطور تعمیم و حصر کئی نہیں فرمائی گئی۔

احادیث میں قبضہ کی جو صورتیں مذکور بھی ہیں، مثلاً نقل و تحويل، "إِيَّاهُ إِلَى الرِّحَالِ" وغیرہ، وہ سب چونکہ غالب احوال پر محمول ہیں، قبضہ کیلئے لازمی اور ضروری شرطیں نہیں، کما قال الحافظ "إِنَّ الْإِيَّاهَ إِلَى الرِّحَالِ حَرْجٌ مَخْرُجٌ لِلْغَالِبِ" (فتح الباری ۲۹۳/۳) اسلئے ان ساری صورتوں کے انضباط اور انتظام کیلئے ایک ایسے

امرکلی کے بیان کی ضرورت تھی جس کے اندر قبضہ و دخل کی تمام صورتیں آجائیں، سو آنحضرت ﷺ نے اسے بیان فرمادیا جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی شرعاً اسی چیز کو بینچے اور فروخت کرنے کا مجاز ہے جو اسکے حرز و ضمان میں داخل ہو چکی ہو، ورنہ اس کا بینچنا درست نہ ہوگا، اور اس بعث کا جو نفع ہو گا وہ ”رُحْ مَالِمْ يَضْمَنْ“ کے تحت ناجائز ہو گا۔

عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي ﷺ عن ربح مالم يضمن (آخرة الترمذى) (فتح البارى ۲۹۲/۳)

عبدالله بن عمروؓ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے اسی چیز سے نفع کمانے سے منع فرمایا ہے جو آدمی کے حرز و ضمان میں نآمدی ہو۔

اسی کے معنی میں حضرت حکیم بن حزامؓ کی وہ حدیث بھی ہے۔ جس کی اصحاب سنن نے تخریج کی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

قلت: يارسول الله يأتيكى الرجل فيسألنى البيع ليس عندي ، أبعده منه ثم أبتاعه له من السوق فقال : لا تبع ما ليس عندك . (فتح البارى ۲۹۱/۳)

حکیم بن حزام کہتے ہیں ”میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے اسی چیز فروخت کرنے کی فرماش کرتا ہے جو ابھی میری ملک اور ضمان میں نہیں ہے، تو کیا میں اس وقت اس کے ہاتھ وہ شیخ دوں اور پھر بازار سے وہی چیز خرید کر اس کے حوالے کر دوں؟ آپ نے فرمایا: جو چیز تمہارے پاس یعنی تمہاری ملک اور ضمان میں نہ ہو اسے فروخت نہ کیا کرو۔

ان احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے قبضہ کی شرعی حقیقت متعین فرمادی ہے، اسی بناء پر جسٹس مولا نا محمد تقی مدظلہم العالی نے قبضہ کی تعریف ضمان ہی سے کی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ بہت ہی خوب اور جامع تعریف کی ہے، لکھتے ہیں:

وَأَمَا الْقَبْضُ فَهُوَ أَنْ يَاتِي الشَّيْءَ فِي حَرْزٍ وَضَمَانٍ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ فِي  
الْفَتْحِ (تمام فتح البارى ۳۵۰)

یعنی قبضہ کی حقیقت جیسا کہ ”فتح الباری“ کے اندر حافظ کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے کہ ”چیز آدمی کی ضمانت اور حفاظت میں آجائے“۔

اس سے صاف واضح ہے کہ قبضہ اور ضمان کا مفہوم ایک ہے، لہذا جوشی کسی آدمی کے ضمان میں ہو، یعنی جس کے نفع نقصان کا وہ ضامن ہو وہ اس پر شرعاً قابض مانا جائے گا اور اس کا اسے بینچنا ازروے شرع صحیح درست ہوگا، حکومت و حمل اور حسی قبضہ نہ ہو۔

## امام العصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی رائے:

حضرت علام فرماتے ہیں:

واضح ہو کہ شوافع کے یہاں نقل و تحویل کے بغیر قبضہ کا حق نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں میع اور مشتری کے درمیان تخلیہ سے قبضہ پالیا جاتا ہے، لیکن تخلیہ سے کیا مراد ہے؟ اور اسکی حقیقت کیا ہے؟ سو یہ ایسی چیز ہے جس کا انقباط ذرا مشکل ہے، ہاں جزئیات پر غائز نظر ڈالنے سے کسی قدراں کے مفہوم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، میرے نزدیک تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ باائع میع سے اپنی ملکیت کے علاقوں کو اٹھائے اور اسے قبضہ پر قابو دیدے، اور یہ بات کبھی قول کے ذریعہ، کبھی فعل کے ذریعے، اور کبھی قرآن کے ذریعہ پائی جاتی ہے، اور تاٹھی کی اجتناس میں جو یہ شرط لگائی ہے کہ باائع زبان سے کہدے ہے کہ میں نے میع اور مشتری کے درمیان روک انخواہی ہے، یا اسی کے ہم معنی کوئی بات کہے، سو میرے نزدیک یہ کچھ ضروری نہیں ہے، اور میرے علم میں ناطقی کے علاوہ کسی اور نے یہ شرط نہیں لگائی ہے، اب میں آپ کے سامنے چند جزئیات رکھتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، مثلاً: فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر صحراء کے اندر کسی نے گھوزا بیجا اب اگر مشتری اس پوزیشن میں ہے کہ بد دون کسی تعاون کے قبضہ کر سکتا ہے تو قبضہ مان لیا جائے گا۔

و میکھنے فقہاء نے یہاں صرف مشتری کے تملک کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قبضہ کے حکم میں مان لیا۔ (فیض الباری ۲۰۶/۳)

فقہاء کا قول ہے کہ اگر کسی نے گھری صندوق بیجا اور اس کی کنجیاں مشتری کے حوالے کر دیا تو یہ قبضہ ہو گیا، حاصل کلام یہ کہ نیع، ہبہ، رہن میں ہمارے نزدیک قبضہ تخلیہ اور قبضہ پر قدرت سے ہو جاتا ہے اس کیلئے نقل و حمل اور حسی قبضہ کچھ ضروری نہیں۔ (فیض الباری ۲۰۶/۳)

## تخلیہ کے بارے میں ایک ضروری وضاحت:

علامہ شامی لکھتے ہیں:

و حاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، ولو نحو بقر في مرعى فكونه بحث يرى و يشار إليه قبض، وفي نحو ثوب فكونه بحث لو مديده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض - (روا مختار ۲/۵۹)

حاصل یہ ہے کہ بد دون کافت و مشقت کے قبضہ پر قدرت اور تملک کے باوجود بھی تخلیہ کو حکما قبضہ فرار دیا جائے گا، لیکن تخلیہ کی نوعیت ہر جگہ یکساں نہیں ہو گی بلکہ میع کی حالت اور پوزیشن کے اعتبار سے اس کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، مثلاً ایک کوٹھری میں گیوں ہے، باائع نے اسے نیچ دیا بعدہ اس کی کنجی مشتری کے حوالے کر دی ایسی صورت میں اگر مشتری بآسانی تالاکھوں سکتا ہے تو قبضہ مان لیا جائے گا، یا مثلاً گائے پیگی

گئی جو چراغاں میں چڑھی ہے تو اگر وہ اتنی قریب ہے کہ نظر آئے اور اس کو اشارہ سے بتایا جائے تو یہ قبضہ ہو گیا، اسی طرح اگر کپڑا بیچا گیا اور اتنے فاصلہ پر ہیکے مشتری اگر باتھ بڑھائے تو پا جائے تو یہ بھی قبضہ ہو گیا، اگر گھوڑا یا پرندہ کی بیج ہوئی جو کوثری میں بند ہیں ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ مشتری اسے اگر بد دن کسی کی مدد حاصل کئے ہوئے پکڑ سکتا ہے تو اسے قبضہ مان لیا جائے گا۔

### حاصل بحث:

الحاصل قبضہ یہ ہے کہ چیز آدمی کی حفاظت اور خان میں آجائے، قبضہ کی یہ تعریف اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو شامل ہے، فقہاء کے نزدیک قبضہ کی دو شمیں ہیں۔ (۱) قبضہ حقیقت: جس کو قبضہ حصی بھی کہتے ہیں (۲) قبضہ حکما، قبضہ حکمی اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کے اندر تخلیہ سے ہو جاتا ہے، اور تخلیہ میں باتھ کا قبضہ یعنی قبضہ حصی شرط نہیں بلکہ روک دور کر کے قابو دینا بھی قبضہ ہے، یعنی باائع بیع اور مشتری کے درمیان اس طرح روک اٹھادے کہ مشتری اس کے قبضہ کرنے پر قادر ہو جائے اور کوئی مانع نہ رہے، چنانچہ فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ موائع کا درمیان سے اٹھاد دینا بیع جائز میں قبضہ ہو جاتا ہے مگر بیع فاسد میں دور دیستیں ہیں اور صحیح یہ ہے کہ اس میں بھی قبضہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ کے جواب میں عرض ہے کہ ہمارے نزدیک اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں تخلیہ کے ذریعہ قبضہ کا تحقیق ہو جاتا ہے، البتہ حضرت امام شافعی کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، ان کے یہاں جو چیز باتھ میں لی جا سکتی ہے، جیسے دراہم، دنائز، کپڑے وغیرہ ان کا قبضہ باتھ میں لینے ہی سے ہو گا، اور غیر منقولہ کے اندر قبضہ تخلیہ سے ہو گا اور جو چیزیں عادۃ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی ہیں، جیسے لکڑیاں، اتاج، حیوانات، تو ان پر قبضہ اس وقت ہو گا جبکہ انہیں ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جس کا باائع سے کوئی علاقہ نہ ہو، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان اشیاء میں بھی تخلیہ سے قبضہ ہو جائے گا، کمانی (فتح الباری ۲۹۲/۳)۔

۴۔ کے جواب میں عرض ہے کہ بیع قبل القبض کی ممانعت سے متعلق احادیث تعددی نہیں، بلکہ معلوم بالعلة ہیں اور نبی کی علائم دو ہیں (۱) ربح مالم یضممن کا لزوم ہے جس مولانا محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

حدیث عبد الله بن عمرو دل علی أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضم نصه ما يأتي : أن رسول الله ﷺ قال: لا بحل سلف و بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضم ، ولا بيع ما ليس عندك (آخر جامع الترمذ في باب كراهة بيع ما ليس عندك وقال بذلك حسن صحيح)۔

عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما کی حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ بیع قبل القبض سے ممانعت کی علت "ربح مالم یضم" ہے، یعنی اس چیز سے نفع اٹھانا لازم آتا ہے جو ابھی خان (قبضہ) میں نہیں آئی اور ایسا نفع ناجائز ہے اور جو عقد امر ناجائز کو مستلزم ہو وہ بھی ناجائز ہوتا ہے۔

(۲) غرائب الفارغ العقد، یہ علت صاحب بدایہ نے بیان فرمائی ہے، مطلب یہ ہیکہ بیع قبل القبض اسلئے

ناجائز ہے کہ اس کے اندر قبضہ سے پہلے مبیع کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں عقداً اول کے فتح ہو جانے کا خطرہ اور کھٹکا ہے۔

علام ابن الہمام اس کے تحت لکھتے ہیں:

والحدیث معلول به ای بغير الانفساخ، یعنی حدیث میں ممانعت غرائب افساخ کی وجہ سے ہے اور اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جو تصرفات غرائب افساخ سے متاثر نہیں ہوتے وہ مبیع کے اندر قبل القبض صحیح ہیں، جیسے غلام کو قبل القبض آزاد کرنے کا تصرف، اور مبیع کو قبل القبض نکاح میں مهر مقرر کردینے کا تصرف، یہ سب صحیح اور نافذ ہیں، غلام آزاد ہو گیا تو ہو گیا غلام کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں یہ تصرف باطل نہیں ہوتا اسی طرح اگر مہر معین ہلاک ہو گیا تو شوہر پر اس کی قیمت لازم ہو گی لیکن اس کی وجہ سے نکاح ہی فتح ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ (تلہمہ فتح الہم ۳۵۲/۱)

۵۔ کے جواب میں عرض ہے کہ احادیث نبی قیوم و تخصیص کے اعتبار سے فقہاء کے اجتہادات مختلف ہیں، اس سلسلہ میں چند مشہور اقوال مع وجود دلائل کے ذکر کئے جاتے ہیں۔

**قول اول:**

یہ کہ بیع قبل القبض ہر چیز کے اندر جائز ہے، یہ قول عثمان رضی کا ہے، یہ قول ناقابل التفات، شاذ، متردک اور مردود ہے۔

علام ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”یہ قول، احادیث بالخصوص انانج کے اندر بیع قبل القبض کی ممانعت کے سلسلہ میں اجتماعی جھٹ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، شاید انہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث ”من ایتاع طعاما فلا یبعه حتی یستوفیه“ کا علم نہ ہوا ہو گا، اسلئے انہوں نے یہ بات کہدی، لیکن کچھ بھی ہو یہ قول ناقابل التفات ہے (کذا فی المغنى لابن قدامة ۱۱۳/۲)۔

**قول ثانی:**

اشیاء منقولہ، غیر منقولہ غلہ وغیرہ ہر چیز کی بیع قبل القبض بدون کسی استثناء اور تخصیص کے حرام ہے، یہ قول امام شافعی، امام محمد بن الحسن الشیعیانی کا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ظاہر بھی یہی ہے، اور ایک روایت میں بواسطہ ابن عقیل امام احمدؓ سے بھی یہی بات منقول ہے، کما فی المغنى۔

**دلائل:**

(۱) أخرج أبو داود ( رقم ۳۳۵۶)۔

عن ابن عمر قال: ”ابتعدت زيتاني السوق، فلما سووجته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسناً، فاردت أن أضرب على يديه فأخذ رجل من خلفي بزراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعد عنه حتى ت hvorه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تبع

السلع حيث تباع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ” .

سنن أبي داود میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بازار میں روغن زیتون خریدا، جب بیع لازم ہو گئی تو ایک صاحب وہیں پر ملے اور اس کا اچھا فتح دے کر مجھے سے خریدنے کیلئے تیار ہو گئے، میں نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اس آدمی سے ہاتھ مالوں اور بیع کی کچلی بات کرلوں کہ اتنے میں چھپھے سے ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے جو مز کردیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، کہنے لگے کہ بھائی! ایسا نہ کرو، جس جگہ تم نے خریدا ہے وہیں بیچنا درست نہیں، جب تک کہ اسے گھرنہ پہنچا لو، سامان جس جگہ خریدا جائے وہیں اسے بیع دیا جائے رسول اللہ ﷺ نے تاجر و کوایا کرنے سے منع فرمایا ہے، تا آنکہ وہ اسے اپنی تحويل میں لے کر اپنے گھر اور شہکانے پر نہ پہنچا لیں ” ۔

(۲) عن حکیم بن حرام قال : ” قلت : يا رسول الله ! إنی أبتاع هذه البوء فما يحل لی منها و ما يحرم علی ؟ قال : يا ابن أخي ، لا تبیعن شيئاً حتی تقبضه ” (بِهَا الْفَظُّ لِلْبَیْهَقِی فِی سنن ۳۱۳/۵) و قال : هذَا إسْنَادُ حَسْنٍ مُتَصَّلٌ ” وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبْنَ حِبَانَ فِی صَحِيحَهُ ، (واحمد فی مسندہ ۲۰۲/۳) ۔

حکیم بن حرام سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میں خرید و فروخت کرتا رہتا ہوں، میرے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ حضور اقدس ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: اے بھتیجے قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو آگے فروخت مت کرنا۔

(۳) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل سلف و بيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ماليس عندك ، (آخر جده الترمذی فی باب كراہیة ما ليس عنده و قال : هذَا حديث حسن صحيح) .

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ قرضہ اور بیع کو جمع کرنا حلال نہیں اور نہ بیع میں دو شرطیں لگانا، اور نہ ایسی چیز کا فتح حاصل کرنا حلال ہے جو ابھی خمان میں نہیں آئی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

مندرجہ بالا احادیث عام ہیں اور ہر قسم کی بیع کو شامل ہیں، لہذا ان احادیث کے عموم پر نظر کرتے ہوئے قول ثالث کے اندر کسی طرح کا استثناء نہیں، بلکہ ہر ایک بیع کی بیع قبل القبض حرام ہے۔

**قول ثالث:**

بیع کے صحیح ہونے کیلئے قبضہ کی شرط صرف طعام (غله) کی بیع کے ساتھ خاص ہے، طعام کے علاوہ دوسروں اشیاء کی بیع قبل القبض جائز ہے، یہ قول امام احمد بن حنبل کا ہے ”کما حقہ ابن قدامة“ ۔

## دلائل:

(۱) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله (أخرج البخاري في البيوع باب ما يذكر في نوع الطعام والحكم). حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سعید بن جحش كا ارشاد ہے فرمایا کہ جو شخص غلہ پیچنے کا ارادہ کرے اسے چاہئے کہ قبضہ میں لانے سے پہلے فروخت نہ کرے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حکم غلہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام چیزوں میں عام ہے۔

(۲) عن ابن عمر قال : "كنت أبيع الإبل بالقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتتني النبى ﷺ فسألته عن ذلك، فقال : لا بأس به بالقيمة". حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سعید بن جحش کے علاقے میں اونٹ یا چاکر تھا، جب دنانیر کے بدالے یا چتا تو ان کی جگہ دراهم لے لیتا، اور کبھی دراهم کے عوض فروخت کرتا تو ان کی جگہ دنانیر لے لیتا، میں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا: مالیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں کوئی مفہوم نہیں۔

آخر جده أصحاب السنن الأربعه وأحمد و ابن حبان والحاکم من طريق سماک بن حرب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر ، ولم يرفعه إلا سماک بن حرب كما في التلخيص الحبیر للحافظ (۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، باب القبض وادکامه).

### وجہ دلالت:

اس حدیث کی رو سے جب بیع کے ایک عوض (مثمن) کے اندر قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں کوئی مفہوم نہیں تو پھر دوسرے عوض (میبع) کے اندر بھی قبضہ سے پہلے تصرف صحیح ہونا چاہئے، ہال بیع جب غلہ ہو تو وہ اس سے مستثنی ہے، اسلئے کہ اس کو قبضہ سے پہلے یا پھر بصراحت منع ہے۔

**نوٹ:** قول ثانی کے اندر جو حدیثیں مذکور ہیں چونکہ وہ عام ہیں اور ہر قسم کی مبیع کو شامل ہیں، اس لئے وہ حدیثیں ان کے خلاف ججت ہیں۔

### قول رابع:

بیع کی صحت کے لئے مبیع پر قبضہ کی شرط صرف کیلی اور وزنی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، ان چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی بیع میں قبضہ شرط نہیں، یہ قول امام مالک کا ہے۔

### استدلال:

بـ حدیث ابن عمر مرفوعاً "من اشتري طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه" (رواہ

حضرت ان عمرؓ کی مرفوع عادیت کے اندر ارشاد بنوی ہے کہ جو شخص غلہ خریدے کیل، یا وزن کے ذریعہ تو وہ اسے قبضے سے پہلے نہیں بچ سکتا۔

### قول خامس:

زمین اور مکانات کے علاوہ باقی اشیاء میں آگے فروخت کرنے کیلئے بالع کا قبضہ ضروری ہے، یہ قول امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف ہے (کما فی فتح القدر ۲۶۶/۵)۔

### دلائل:

ان حضرات کی دلائل بعدہ وہی ہیں جو قول ثالثی کے اندر مذکور ہو چکی ہیں بہ فرق یہے شیخین نے بر بناء درایت بع قبیل القبض سے ممانعت کی حدیثوں کا مصدق اشیاء منقولہ ہی کو قرار دیا ہے (۱) اعلا، السنن میں عقار کی بع قبل القبض کے جواز پر حدیث بھی وجود ہے، لکھتے ہیں۔

وَمَا يَدْلِ بِقَوْلِ أُبَيِّ حَنِيفَةَ مَارِوَاهَ إِبْنِ أَبِي مُلِيكَةَ أَنَّ عُثْمَانَ أَبْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ بِأَقْلَهَ بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ عُثْمَانَ بَعْتَكَ مَا لَمْ أَرْهُ فَقَالَ طَلْحَةُ إِنَّمَا النَّظَرُ لِي لِأَنِّي أَبْتَعَتْ مَعِيَا وَأَنْتَ قَدْ رَأَيْتَ مَا أَبْتَعَتْ فَتَحَاهُ كَمَا إِلَى جَبِيرِ بْنِ مَطْعَمٍ فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيعَ حَانَتْ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ لِطَلْحَةَ لِأَنَّهُ أَبْتَاعَ مَعِيَا رِوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْتَادِ حَسْنٍ، وَيَقْتَضِي حَوَارِ بَعْدَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقِبْضِ فَإِنَّ عُثْمَانَ بَاعَ أَرْضَهُ بِالْكُوفَةِ وَلَمْ يَرُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بَاعَهَا وَلَمْ يَقْبِصْهَا فَإِنَّ الْقِبْضَ يَسْتَلِزُمُ الرُّوْيَاةَ حَتَّمًا (۱۷۵/۱۲)۔

اور امام شافعی وغیرہم نے منقولہ وغیرہ منقولہ تمام مبیعات کو ان کا مصدقہ سمجھا ہے، شیخین کہتے ہیں کہ بع کا دار و مدار چونکہ مجع ہی پر ہوتا ہے، اور مبیعات منقولہ میں بلاکت کثیر الوقوع ہے، اسلئے غالب احوال کو، کہتے ہوئے آگے فروخت کرنے کیلئے یہاں بالع کا قبضہ ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بصورت بلاکت مجع، عقد اول ہی فتح ہو جائے اور پھر دوسرے کی ملک میں اتصاف کرتا اور ایک ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا لازم آئے جو ابھی نہماں اور قبضہ تی میں نہیں آئی ہے، اور یہ دونوں باقی شرعاً منسوخ ہیں، اور جو چیز امر منسوخ ہو سکتزم ہوا کرتی ہے وہ منسوخ ہوا کرتی ہے، اسلئے یہاں بع قبل القبض کو منسوخ قرار دیا گیا، اور چونکہ اشیاء غیر منقولہ (گھر اور زمین) میں مجع کی بلاکت شاذ و نادر ہے، اور نادر بخیزد معدوم کے ہوا کرتا ہے، اسلئے عام احوال میں بر بنا، عدم فساد مذکور، آگے فروخت کرنے کیلئے یہاں مجع پر قبضہ کی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن اگر یہاں بھی وہی فساد لازم آئے جس کا ذکر اور پر ہوا، مثلاً یہ کہ گھر، زمین، دریا کے کنارے پر ہو اور سیلا ب وغیرہ کی وجہ سے بلاکت کا خطرہ غالب ہو تو ایسی صورت میں یہاں بھی فتح ختنی کے اندر بع قبل القبض جائز نہیں (کما فی فتح القدر ۲۶۶/۵)۔

### نحو:

سوال (۵) سے متعلق مذکورہ بالتفصیلات اتمکملہ فتح القدر مولانا تقی عثمانی ارج ۳۵۰، ۳۵۱، نیل ۱۱۰ طا۔

لکشو کانی ۵/۲۵۶، او جز الممالک للشیخ زکریا ۵/۲۵۷ سے ماخوذ ہیں۔

الحاصل، بیع کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مبیع بالغ، یا اس کے دکیل کے قبضہ میں ہو، پھر حاملہ نے اس شرط کو طعام (غذہ) کی بیع کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لہذا ان کے نزدیک طعام کے علاوہ دوسری اشیاء کی بیع قبل القبض جائز ہے، اور مالکیہ نے قبضہ میں ہونے کی شرط کو دکیل اور وزنی چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، لہذا ان کے نزدیک نکلی اور وزنی چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی بیع میں قبضہ شرط نہیں ہے۔

امام شافعی اور امام محمد بن حسنؓ کے نزدیک مبیع کا بالغ کے قبضہ میں ہونا تمام ممیعتات میں ضروری ہے، چاہے وہ طعام ہو، یا کیلی و زنی چیز ہو، یا زین ہو، امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ کے نزدیک زین کے علاوہ باقی اشیاء میں آگے فروخت کرنے کیلئے بالغ کا قبضہ ضروری ہے۔ (فتح القدیر لابن الجمام ۵/۲۶۹، المخفی لابن قدامة ۲/۱۱۳)۔

۹۔ کے جواب میں عرض ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔

یہاں جواز کی صورت یہ سمجھ میں آتی کہ خریدار اول نے فیکٹری سے مال خریدا اور بیع کے بعد فیکٹری سے کہا کہ فیکٹری میرا خرید کردہ مال فلام، یعنی خریدار دوم کے پتہ پر بھیج دے یہ عمل فیکٹری خریدار اول کی طرف سے وکالت کرتی ہے، اسلئے یہاں قبضہ اور خمان پالیا گیا اور بیع جائز و درست ہو گئی۔

رد المحتار میں ہے:

"وَمِنَ الْقَبْضِ مَا لُوْأَ وَدُعَهُ الْمُشْتَرِيْ عِنْدَ أَجْنَبِيْ أَوْ أَعْجَارِهِ وَأَمْرِ الْبَالِغِ بِالْتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ (رو  
فتح الکبار ۵۸/۲)۔

۱۰۔ حواب میں عرض ہے کہ صورت مسؤولہ میں بیع ناجائز ہے، یہاں مبیع خریدار اول کے خمان میں آئی ہی نہیں، اس لئے کہ مبیع خمان میں آتی ہے قبضہ حکمی ہے، یا تخلیکہ (قبضہ حکمی) سے جو بالغ، یا اس کے دکیل کی طرف سے پایا جائے، یا اس سے کہ خریدار نے بالغ کو کسی کے پاس مال سمجھنے، یا پرداز کرنے کا دکیل بنادیا ہو، یہاں یہ سب صورتیں مفقود ہیں، شرع میں مجرد عقد سے مبیع خمان میں نہیں آتی، لہذا "رَبِّ الْمَلَمِ يَضْمَنْ"، "كُوْتَلْزَمْ" ہونے کی وجہ سے اس بیع کو ناجائز قرار دیا گیا، بیع کے خمان میں آنے کی وجود مذکورہ کے بغیر کسی کو اس کا ضامن قرار دینا شرعاً غیر معترہ ہے بلکہ سراسر ظلم ہے، جب اس عقد کی بنیاد اول ہی صحیح نہیں تو جہاں تک بھی اس کا سلسلہ چھوٹے چھوٹے گاہب "بنا، الفاسد على الفاسد" کی بنیاد پر فاسد قرار دیا جائے گا، جس س مولانا محمد آنی عثمانی نے بھی اس بیع کو، بیع قبل القبض ہی کی صورتوں میں شمار کیا ہے اور اس کے مفاسد پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ (تمکملہ فتح الہم ۳۵۲)۔

## قبضہ سے پہلے بیع و شراء کے مسائل

مولانا ظفر عالم ندوی بلکھنوا

۱۔ بیع کے سلسلہ میں جو اصولی ادکام ہیں ان پر غور کرنے اور بعض فقہی نصوص کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شمار بیع فاسد میں ہوگا، کیونکہ جب بیع کے ارکان موجود ہوں اور عوضیں موجود ہوں تو بیع کا وجود ہو جاتا ہے، البتہ اس بیع کو قبضہ سے قبل فروخت کردینے میں معاملہ علی الخطر ہو جاتا ہے کہ ایسا کا حصول ہو یا نہ ہو، اس بناء پر اس میں فساد پیدا ہو جائے گا، پھر یہ کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں نصوص شرعیہ میں جو نبی وارد ہے، وہ فساد کو ثابت کرتی ہے، ڈاکٹر وہب الزحلی نے اپنی مشہور تصنیف الفقه الاسلامی و ادله میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو بیع فاسد کی فہرست میں شمار کرایا ہے، اور لکھا ہے:

لَا يحوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض لأن النبي ﷺ نهى عن بيع مالم يقبض والنهى يوجب فساد المنهى عنه (أبو داود، الفتن الاسلامي، واد ۲، ۳۷۳).

ایسی بیع جو منقول ہو قبضہ سے پہلے اس میں تصرف جائز نہیں ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے ایسی چیز کی بیع سے روک دیا ہے جس پر قبضہ نہ ہوا ہو، اور نبی مسیحؐ کے عند کے فساد کو ثابت کرتا ہے۔

۲۔ قبضہ کی کوئی خاص حقیقت غالباً کتاب و سنت میں بیان نہیں کی گئی ہے، البتہ کتب فتنہ لے مطالعہ سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے یہاں ایسا تخلیہ جو بیان مانع اور بالا حال ہو قبضہ ہے، اس سلسلے میں ناچیز کا خیال ہے کہ قبضہ کا تعلق عرف و روانج ہی سے ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس طرح کا استیلا، اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے گا۔ علامہ کاسائی نے بدائع الصنائع میں ایک مسئلہ کے ضمن میں قبضہ کے مفہوم کو مختصر ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ موصوف کے نزدیک قبضہ میں اصل معیار عرف ہی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں:

و لا يشترط بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع الموانع عرفاً و عادةً حقيقة (بدائع الصنائع ۲/۱۳۸).

اور انگلیوں سے پکڑنے کی شرط نہیں ہے، اس لئے کہ قبضہ کا مطلب دراصل تمکین، تخلیہ اور موانع کو دور کرنا ہے اور یہ عرف و عادت اور حقیقت کے مطابق ہو۔

علامہ شاہی نے تایم اور قبضہ کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد جو حاصل بحث لکھا ہے اس سے بھی پڑھ جاتا ہے کہ شریعت اسلامی میں قبضے کی کوئی خاص شکل اور حقیقت متعین نہیں ہے بلکہ عرف میں جس چیز پر جس درجے کے عمل دخل حاصل ہونے کو قبضہ سمجھا جاتا ہو شرعاً بھی وہی قبضہ تصور کیا جائے گا۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں:

حاصلہ: أن التخلية قبض حکما لو مع القدرة عليه بلا كلفة ، لكن ذلك بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض ، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أى بأن تكون في البلد فما يظهر وفي نحو بقر في مرجعي فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مديدة تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض (رداً مختار ٢٥٦٠).

خاصہ یہ کہ تخلیہ حکما قبض ہے اگر بلا تکلف اس پر قدرت حاصل ہو، البتہ یعنی کہ سب حال ہوگا، پس چیزوں جیسی چیز اگر کسی مکان و اس سور میں ہو تو کنجی کا دے دینا جبکہ بلا کسی وقت کے کھولنا ممکن ہو تو یہ قبضہ تصور کیا جائے گا، مکان جیسی چیزوں میں قبضہ یہ ہے کہ اس کے بند کر دینے اور تالاگاد دینے پر قدرت حاصل ہو جائے، کائنے جو وجہ اگدہ میں ہو اگر اس کو دکھادیا جائے یا اشارہ کرو یا اگیا تو یہ قبضہ ہے، کپڑا اگر اس طرح پھیلایا گیا کہ اس تک پہنچ جائے تو یہ قبضہ ہے، گھوڑے یا پرندے اگر گھر میں ہوں، بلا کسی تفہیں کے ان کی گرفت یا ان کو حاصل کرنا آسان اور ممکن ہو تو یہ قبضہ ہے۔ علامہ شامیؒ کے بیان سے جو خاص بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کے حسب حال قبضہ کا تصور ہوگا۔ علامہ ابن قدامہؓ نے المغنيؓ میں حنابلہؓ کا جو مسلک بیان کیا ہے اس میں صاف وضاحت ہے کہ قبضہ کے سلسلے میں عرف، رواج ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

قبض کل شی بحیہ فیان کان مکبلاً او موزوناً فقضه بکیله و وزنه ای آنہ بحسب الرجوع فی قبض الى العرف (المغني ۱۱۱/۲)۔

ہر چیز کا قبضہ اس کے حسب حال ہوگا، اگر مکملی ہے تو کیل کرے یا موزونی ہے تو وزن کرے اس پر قبضہ ہوگا، یعنی قبضہ کے سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اسی طرح مالکیہ اور شافعیہ کے بیان قبضہ کے سلسلہ میں صراحت موجود ہے کہ لوگوں کے درمیان قبضہ کا جو عرف جاری ہو اس کا اندازہ لیا جائے گا۔

وقبض المقبول کا الأمسنة والأنعام والدوااب بحسب العرف الجاری بين الناس (المجموع ۳۰۱، المہدہ ب ۲۹۳)۔

اشیاء منقول مثلاً سامان، جانور، چیزیں کا قبضہ اس عرف کے مطابق ہوگا جو لوگوں میں جاری ہو۔  
مذکورہ بحث کا حاصل یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں کتاب و سنت میں قبضہ کی کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے، لہذا لوگوں کے عرف میں جس چیز پر جس درجہ کے تسلط اور عمل دخل کو قبضہ سمجھا جاتا ہے شرع میں بھی وہی قبضہ مانا جائے گا۔

۳۔ علامہ شامیؒ کی اوپر درج شدہ عبارت "ذلك بحسب حال المبيع" سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء منقول، غیر منقول کی نوعیت سے قبضہ کی صورتوں میں فرق ہوگا۔ مالکیہ اور شوافع نے اشیاء منقول و غیر منقول کے قبضہ میں فرق بیان کیا ہے۔

فِضَّلُ الْعَقَارَ كَالْأَرْضِ وَالْبَنَاءِ وَنَحْوِهِمَا يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُبَيْعِ وَبَيْنَ الْمُشَتَّرِيِّ وَتَسْمِكَتْهُ مِنَ التَّصْرِيفِ فِيهِ بِتَسْلِيمِ الْمُفَاتِيحِ إِنْ وَجَدَتْ وَفِضَّلَ الْمُنْقُولَ كَالْأَمْتَعَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِ بِحَسْبِ الْعَرْفِ الْجَارِيِّ بَيْنَ النَّاسِ (الفقہ الاسلامی، ۲۳/۲۷۳)۔

زمین اور مکان جیسی چیزوں کا قبضہ دراصل بیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ اور اس میں تصرف پر قدرت حاصل ہوتا ہے، اگر کچھا ہوں تو مکان کی کچھا سپرد کر دینا قبضہ ہے، اور منقول جیسے سامان، جانور اور چوبائے کا قبضہ اس عرف کے مطابق ہوگا جو لوگوں میں جاری ہو۔

اس سلسلے میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے بہت ہی واضح طور پر لکھا ہے جس سے مسئلہ کی پوری نوعیت سامنے آ جاتی ہے، علامہ موصوف شرح الوجيز للرافیٰ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

قال العبد الضعیف: وفي "شرح الوجيز" للرافعی ما نصہ فی بیان أن القبض به يحصل؟ فينظر إن كان المبیع مما لا ينقل كالدور والأرض فقبضه بالتخلية بینه وبين المشتری و تسکنه من البد والتصرف، وإن كان المبیع من المنقولات فالمذهب المشهور وبه قال أحمد انه لا يکفى فيه التخلية بل لابد من التقل والتحویل. وقال مالک وأبو حنيفة: إنه يکفى فيه التخلية كما في العقار، وعن رواية حرملة قول مثله، وفيه وجه آخر: أن التخلية كافية لنقل الصمان إلى المشتری غير كافية للتسلط على التصرف.

الحالۃ الثانية: أن بیاع الشیء مع اعتبار تقدیر فیه، كما إذا اشتري ثوباً أو أرضاً مذارعة أو متعاماً موازنة، أو صبرة حستة مکایلة أو معدوداً بالعدد فلا يکفى للقبض ما مر في الحالۃ الاولی، بل لابد مع ذلك من الدرع أو الوزن أو الكيل أو العدد (اعلاء السنن ۲۳۱/۱۲)۔

امام رافیٰ نے شرح الوجيز میں جو صراحت کی ہے کہ قبضہ کس طرح ہوا کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غور کیا جائے گا اگر مبیع اشیاء منقولہ میں سے نہ ہو مثلاً لگھ اور زمین ہو تو ان پر قبضہ بیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ کرنے اور تصرف پر قدرت حاصل کر دینے سے ہوتا ہے، اور اگر مبیع اشیاء منقولہ میں سے ہو تو مشہور قول اور مسلک یہ ہے کہ صرف تخلیہ کافی نہیں بلکہ نقل اور تحویل بھی ضروری ہے، یہی خیال امام احمد کا ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اشیاء منقولہ میں بھی تخلیہ کافی ہے جیسا کہ عقار میں ہے۔ اور حرملہ سے اسی طرح کا قول منقول ہے، اور اس میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تخلیہ کافی ہے زمان کے لقل ہونے کی وجہ سے مشتری کیطرف، اور ناکافی ہے تصرف پر قادر ہونے کے اعتبار سے۔

دوسری حالۃ یہ ہے کہ اشیاء فروخت کی جائیں اس میزان کے اعتبار سے جوان میں معابر ہیں، مثلاً کپڑے یا زمین کو پیمائش کے اعتبار سے، گیوں کے ذیہر کو کیل کے اعتبار سے یا معدودی اشیاء، کو عدد کے اعتبار سے، تو ان میں قبضہ کے لئے وہ چیز کافی نہیں جو بھی صورت میں گذری، بلکہ یہاں پیمائش کرنا، وزن یا کیل کرنا یا اگنا ضروری ہے، جب ہی قبضہ کا تصور ہوگا۔

۳۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق جواہادیت ہیں وہ معلوم بالعلة ہیں، عام طور پر مجتہدین نے علت نہیں غرر کو بتایا ہے۔ محقق علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

إن أبا حنيفة وأبا يوسف خصا النصوص المنقول بعلة النهي وهو غرر انفساً العقد بالهلاك قبل القبض و محمد أجر لها على عمومها والشافعى خصها بما لم يكن متميزاً و هو اختلاف الاجتہاد (اعلاء السنن ۲۲۲/۱۲)۔

امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ نے نصوص کو نہیں کی علت کے ساتھ خاص کیا ہے اور یہ علت دراصل قبضہ سے قبل ہلاک ہونے کی وجہ سے عقد کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اور امام محمدؐ نے ان نصوص کو عموم پر چھوڑ دیا ہے، اور امام شافعیؓ نے ایسی چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے جو ممتاز و ممتازہ ہو، اور یہ اختلاف اجتہادی ہے۔

ڈاکٹر وہبہ الزحلیؓ نے اختلاف کے مسئلک پر روشنی ڈالتے ہوئے آخر میں لکھا ہے:

والخلاصة أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر (الفقه الإسلامي وادلة ۲۷۳/۳)۔

خلاصہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے عدم جواز میں حنفیہ کے نزدیک علت غرر ہے۔

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی صورت میں تمام اشیاء کی بیع کو منوع قرار نہیں دیا، بلکہ جہاں علت نہیں پائی جاتی ہے وہاں منوع ہے اور جہاں علت نہیں پائی جاتی ہے وہاں منوع نہیں۔ مثلاً احناف میں امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ نے عقار کی بیع کو قبل القبض جائز قرار دیا ہے، اور وجہ جواز یہی ہیان فرمایا ہے کہ اس میں غرر نہیں ہے:

أما العقار والأراضي والدور فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف  
استحساناً... ولا غرر في العقار إذ لا يتوهم هلاك العقار ولا يخاف تغيره غالباً بعد وقوع البيع  
وقبل القبض أن تلف العقار غير محتمل فلا يتقرر الغرر (المبسوط ۱۳/۸، بداع الصنائع ۲۳۲/۵، فتح  
القدر ۵/۲۶۲)۔

عقارات مثلاً زمین اور مکان ان کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ کے نزدیک استحساناً جائز ہے، اور عقار میں غرر نہیں ہے کیونکہ عقار کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہیں اور نہ ہی بیع ہونیکے بعد تبدیلی اور تغیر کا اندیشہ ہے، قبضہ سے قبل تکف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، اسلئے غرر ثابت نہیں ہے۔

البته مالکیہ کے نزدیک علت نہیں ربا النسیبہ ہے، ان کے نزدیک طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست نہیں ہے، اور طعام کے علاوہ اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔

وقال المالكية لا يجوز بيع الطعام قبل القبض ربويا كان أو غير ربوى لحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يقبضه (مجموع الزوائد ۹۸/۱۵۸، نيل الأ渥ار ۵/۱۵۸)۔

مالکیہ نے کہا کہ طعام کی بیع قبضہ سے قبل جائز نہیں ہے، خواہ وہ طعام اموال ربوبیہ میں سے ہو یا نہ ہو، اور یہ عدم جواز ابن عباس<sup>رض</sup> وابن عمر<sup>رض</sup> کی روایت کی وجہ سے ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے طعام خریدا وہ اس کو نہ فروخت کرے تا آنکہ اس پر قبضہ نہ کر لے۔

واما سوی ذلک او بيع الطعام جزاها فيجوز بيعه قبل قبضه لغلبة تغير الطعام بخلاف ما سواه والعلة في منع بيع الطعام قبل قبضه عند المالكية هي أنه قد يتخذ البيع ذريعة للتوصيل إلى ربا النسية فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء فيحرم سدا الذرائع (الفقه الإسلامي وادلة ۲۲۶/۳)۔ اور اس کے علاوہ میں یا طعام کی بیع انکل سے ہو تو قبضہ سے قبل جائز ہے تغیر طعام کے غلبہ کی وجہ سے، برخلاف اس کے علاوہ اشیاء میں۔ مالکیہ کے نزدیک علت نہیں یہ ہے کہ یہ بیع ربا النسیہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس لئے یہ بیع الطعام بالطعام نسیہ کے ہم مشابہ ہے، جو سدا اللذ ریحہ حرام ہے۔ احناف ہی کی طرح حنابلہ نے بھی علت نہیں غرر کو مانا ہے، البتہ مکملی، موزونی اور معدودی اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے:

**قال الحنابلة:** لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيناً أو موزوناً أو معدوداً وأما عدا المكيل والموزون والمعدود فيصح قبل قبضه فالعلة عنده الغرر (حوالہ سابق ۲۲۳/۲)۔

حنابلہ نے کہا ہے کہ طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مکملی یا موزونی یا عددی ہو، اگر مکملی، موزونی اور عددی کے علاوہ ہو تو اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، علت نہیں ان کے نزدیک غرر ہے۔

خلاصہ یہ کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق جو روایات ہیں وہ معلول بالعلة ہیں۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کے عموم و تخصیص کے سلسلے میں انہ کی رائیں مختلف ہیں، حضرت امام شافعیؓ کے نزدیک اس کی ممانعت عام ہے، مہذب میں ہے:

**قال الشافعی:** لا يجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه مطلقاً قبل قبضه عقاراً كان أو منقولاً لعموم النهي عن بيع مالم يقبض (المہذب ۱/۲۲۳)۔

امام شافعیؓ نے فرمایا کہ جس چیز میں ملکیت ثابت نہ ہو جائے اس کی بیع جائز نہیں ہے قبضہ سے قبل، خواہ عقار ہو یا منقول ہو، روایت میں نہیں کے عموم کی وجہ سے۔

امام ابوحنیفہؓ اور امام ابو یوسفؓ نے اس ممانعت سے عقار کی بیع کو مستثنیٰ قرار دیا ہے اور اسے جائز قرار دیا ہے، ان کے نزدیک ممانعت عام نہیں ہے (بدائع الصنائع ۵/۲۳۲)۔ اسی طرح امام مالکؓ اور امام احمد بن حنبلؓ کے نزدیک منوع عام نہیں ہے، بلکہ بعض اشیاء کو تفصیل سے فرمایا ہے جس سے مسئلہ کی پوری نوعیت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، میں یہاں امام نوویؓ ہی کی بحث کو نقل کرنا زیادہ مفید سمجھتا ہوں، علام موصوف لکھتے ہیں:

ترجمہ: ہم نے بیان کیا ہے کہ ہمارا مسلک اس کے بطلان کا ہے، خواہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، تھی بات اب ان عباس سے بھی ثابت ہے، اور امام محمد بھی یہی کہتے ہیں، ابن المنذر نے گہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس شخص نے طعام خریدا تو اسے حق حاصل نہیں ہے کہ اسے بیچ دےتا آنکہ اس پر قبضہ نہ کر لے، اور غیر طعام کے سلسلہ میں فقہاء کے چار مذاہب ہیں: ایک یہ کہ کسی چیز کی بیع بفہرست سے قبل جائز نہیں ہے، خواہ بیع جس قبیل سے ہو، جس طرح طعام میں جائز نہیں ہے، یہ قول امام شافعی و امام محمد ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ معلمے مکمل و موزونی کے تمام اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، یہ قول عثمان بن عفان، عیینہ بن میتب اور دیگر حضرات کا ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ سوائے گھر اور زمین کے دیگر تمام چیزوں کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ قول امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف گا ہے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ سوائے مأکولات و مشرب بات کے تمام چیزوں کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، یہ قول امام مالک و ابو شور گا ہے۔ ابن المنذر کا خیال یہ ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے، اس حدیث کی بنابر کہ حضور ﷺ نے طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے منع فرمادیا ہے، امام مالک اور ان کے موالین نے ابن عمرؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، اور ابن عباسؓ کی روایت کو بھی مستدل بنایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جس چیز کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے منع فرمایا وہ طعام ہے۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ ان روایات میں جو طعام کی صراحت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر طعام کا حکم اس کے بر عکس ہے۔ ہمارے اصحاب شوافع نے حکیم بن حزام کی روایت سے استدلال کیا ہے: "لاتفع الم تقبضه" یہی زیدؓ ابن شاہزاد کی روایت ہے کہ سامان وہاں نہ خریدا جائے جہاں فروخت ہوا ہے تا آنکہ تجارت پنے گھروں میں اسے جمع نہ کر لیں، امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

امام ابوحنیفہ نے نصوص کے اطلاق سے استدلال کیا ہے، اور اس سے کہ عقار کے تلف ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، برخلاف غیر عقار کے... یہ پوری بحث امام نوویؓ کی کتاب شرح المجدب سے تنخیص کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ (شروع مسند پ ۲۷۲، ۲۷۳)۔

۶۔ اس صورت میں خمان کو قبضہ حسی کے قائم مقام فرار دیا جائے گا اور اس طرح کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ عرف میں بھی اسے قبضہ ہی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا عرف ہے جو نص شارع سے متصادم بھی نہیں ہے، لہذا اس کے جواز میں کوئی تردید نہیں ہے۔

۷۔ جہاں پر لداہو امال جواہی سمندر ہی میں ہو اور مشتری اول نے ابھی اسے وصول بھی نہ کیا ہو اس مال کو کسی تیسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دینا یا تیسرے شخص کا اس مال کو خریدنا شرعا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممنوع صورت میں داخل ہے، اور فقہاء نے یہ صراحت کر دی ہے کہ اشیاء متناولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا حکم

محمد ارشد فاروقی قاضی

۱۔ شرع اسلامی کے اعتبار سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اور کبھی باطل ہوتی ہے تو کبھی فاسد۔

**بیع باطل:**

اگر بیع ملکیت میں نہ ہو اور بیع کی جائے تو بیع باطل ہوگی۔ بیع مالیس فی ملکہ باطل (رواہ مختار ۱۱۹، ۳) قول رسول ہے: "لَا تَبْعِدْ مَالِيْسَ عَنْكَ" (مرقاۃ المفاجیع ۸۱، ۲)۔

**بیع فاسد:**

اگر بیع ملکیت میں ہو، لیکن قبضہ میں نہ ہو تو بیع فاسد ہوگی۔ وفی معنی ما لیس عنده فی الفساد بیع العبد الآبق و بیع المبیع قبل القبض (حوالہ سابق)۔

۲۔ فقہاء کی عبارتوں کو بے نظر غائر پڑھنے سے حاصل مطالعہ یہ ہے کہ "قبضہ" جو "عرف" میں تسلیم کیا جائے وہی معتبر ہے۔ امام کاسانی کی ایک جامع عبارت بطور ذکر قلم ہے:

فالتسلیم والقبض عندنا هو التخلیة والتخلی وهو أن يخلی البائع بين المبیع والمشتري برفع الحال بینهما على وجه يمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبیع والمشتري قابضاه وكذا تسلیم الشمن من المشتري إلى البائع... ایک دوسری عبارت ہے: لأن معنی القبض هو التمکین والتخلی وارتفاع المواقع عرفاً وعادةً حقيقة (بدائع الصنائع ۵/۲۲۸، ۲۲۹)۔

۳۔ اشیاء منتولہ وغیر منتولہ میں قبضہ وہی معتبر ہو گا جو "عرف" میں قبضہ تسلیم کیا جائے۔ علامہ کاسانی کی عبارت بالآخر سے یہی واضح ہوتا ہے (ایضاً)۔ اشیاء غیر منتولہ قبضہ سے پہلے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے یہاں جائز ہے۔ امام محمدؐ کے یہاں ناجائز ہے۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق احادیث معلوم بالعلاقة ہیں۔ "علت نہیں" غرر و دھوکہ ہے۔ والغرر المنہی عنہ غرر انفاسخ العقد والحدیث معلوم به (ہدایہ ۵۸، ۳)۔ قبضہ سے قبل بیع کا ضائع ہونا ممکن ہے، یہ ہے "غرا فسخ"، یہی علت نہیں ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت امام محمدؐ کے نزدیک عام ہے۔ اور حضرات شیخین (امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف) کے یہاں اشیاء غیر منتولہ کا استثناء ہے:

ویجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفة و عند ابی یوسف، وقال محمد لا یجوز رجوعاً إلى إطلاق الحديث واعتباراً بالمنتول۔

امام محمد فرماتے ہیں اس سلسلہ میں احادیث مطلق ہیں اس لئے اطلاق کو باقی رکھتے ہوئے عمل ہو گا۔  
ولهمما أَنْ رَكِنَ الْبَيْعُ صَدْرُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا غَرْرٌ فِيهِ لَأَنَّ الْهَلاَكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ (حوالہ سابق)۔  
شیخین فرماتے ہیں کہ بیع کا کارکن، بیع کا اہل موجود ہے، اس لئے عقار میں بیع ہو جائے گی قبضہ سے پہلے،  
اور ”غیر“ ہی حدیث میں ملت ہے۔ اور شیخین فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے ثابت شدہ بیع کو جزو واحد سے خاص نہیں کیا  
جاتا۔ ولهما عموم البياعات من الكتاب العزيز ولا يحوز تخصيص بيع الكتاب بخبر واحد  
عندنا (بدائع الصنائع ۱۸۱/۳)۔

لیکن اگر اشیاء غیر منقولہ میں ”غیر انفصال“ پایا جائے تو شیخین کے یہاں بھی قبضہ سے پہلے بیع ناجائز ہو  
گی، مثلاً عقار سمندر کے کنارے ہو، یا ریلی زمین ہو۔ فال بعض المشائخ أَنَّ جوابَ أَبِي حنيفة فِي مَوْضِعِ  
لَا يَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَصِيرَ بَحْرًا أَوْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الرِّمَالُ (فتح القدیر ۶/۱۳۷)۔


۶۔ بیع کی صورت مسئولہ جائز ہو گی، البتہ بائع اول کی دو حیثیت تسلیم کی جائیگی۔ پہلی حیثیت بائع کی اور  
دوسری حیثیت خریدار نمبر ایک کے وکیل کی، اب خریدار نمبر ۲ کے بدست بیع بحیثیت وکیل کے بائع نمبر اکر لے گا، اس  
لئے بیع جائز ہو گی۔ اور یہ بیع اقتضاء جائز ہو گی، اصول فقہ کی کتابوں میں اس صورت کی نظیر موجود ہے:  
وإذا قالَ أَعْتَقَ عَبْدَكَ عَنِي بِالْفَدِرَهْمِ فَقَالَ أَعْتَقْتُ، يَقْعُدُ الْعَنْقُ عَنِ الْأَمْرِ، لَأَنَّ قَوْلَهُ  
أَعْتَقَهُ عَنِي بِالْفَدِرَهْمِ يَقْتَضِي مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَ بِالْفَدِرَهْمِ كَنْ وَكَلِي بِالْإِعْتَاقِ فَأَعْتَقْتُهُ عَنِي فَيُثْبِتُ  
الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْإِقْتَضَاءِ وَيُثْبِتُ الْقَبُولُ كَذَلِكَ (أصول الشاشي ۳۲، نور الانوار، حسامی وغیرہ)۔

۷۔ بیع کی یہ صورت ناجائز ہو گی اور یہ بیع فاسد ہو گی۔ حدیث ہے: ”وَلَا رِبْحٌ مَالًا يَضْمُنُ“ حدیث بالا کی  
تشریح بایں الفاظ کی گئی ہے: ”يُرِيدُ بِهِ الرِّبْحُ الْحَاكِلُ مِنْ بَيْعٍ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهُ وَيَنْتَقِلَ مِنْ ضَمَانِ  
البائع إِلَى ضَمَانِهِ فَإِنْ بَعْدَ فَاسِدٌ“ (مرقاۃ المفاتیح)۔

صورت مسئولہ میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اس لئے یہ صورت ناجائز ہو گی  
۔ اور اس طریقہ تجارت میں بے حد نقصانات ہیں، مثلاً ایک چیز جدہ بندرگاہ سے ایک کروڑ میں چلی اور پھر وہ نچنے سے  
پہلے دسیوں میسوں ہاتھوں فروخت ہوتی رہی، ہندوستان آتے آتے وہ چیز دو کروڑ کی ہو جائے گی اور یہ سارا بار عوام پر  
پڑے گا، یہ دولت اور لفظ چند سرمایہ داروں کو حاصل ہو گا اور لاکھوں عوام پر بوجھ پڑے گا۔

رسول اکرم ﷺ کے فرمان میں کس قدر حکم ہیں سبحان اللہ اس لئے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے۔  
محترم مولانا نقی عثمانی دامت برکاتہم تے ”تکملہ فتح الملہم“ شرح صحیح مسلم میں اس موضوع پر بہت  
تفصیل سے لکھا ہے (دیکھئے: تکملہ فتح الملہم)۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَحْكَمٌ



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے شرعی احکام

مختصر شیعہ احمد، مراد آباد

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے احکام اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک کہ قبضہ کی حقیقت واضح نہ ہو جائے، اسلئے سب سے پہلے قبضہ کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔

### قبضہ کی حقیقت :

کسی شی پر قبضہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ سے قبضہ کر کے لایا جائے یا باعث کے یہاں سے حقیقی طور پر منتقل کر لایا جائے، بلکہ مفہوم قبضہ کے دائرے میں داخل ہونے کیلئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ باعث شی میمع کو اپنے مال سے اس طرح الگ کر کے رکھ دے کہ خریدار جب چاہے اپنی چیز اپنی مرضی سے اٹھا کر لے جاسکے اور اختیار سے انھا کر لے جانے میں اس پر کوئی پابندی یا رکاوٹ پیش نہ آئے، لہذا اگر باعث نے شی میمع کو اپنے مال سے اس طرح الگ کر دیا ہے کہ خریدار جب چاہے لے جاسکتا ہے اور اس درمیان شی میمع باعث کی طرف سے تعدی کے بغیر ہلاک ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو باعث پر کوئی تباہی ہو گا، بلکہ خریدار کی ملکیت میں سے اس کے گھر میں ہلاک ہو جانے کے حکم میں ہو گا، اس مسئلہ کی وضاحت کیلئے ہم چند فقہی جزئیات نقل کرتے ہیں:

و لا يشترط القبض بالبرامج لأن معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع المواقع

عرفاً و عادةً حقيقة الخ (بدائع ۱۲۸/۵).

قبضہ حاصل ہونے کیلئے ہاتھ سے قبضہ کر کے لانا شرط نہیں ہے اسلئے کہ قبضہ کے معنی صرف قبضہ کرنے پر قادر ہونے اور باعث کا خریدار کے سامنے سامان کو چھوڑ دینے کے ہیں اور لوگوں کے عرف میں صحیح معنی میں قبضہ کرنے میں رکاوٹ دور ہو جانے کے ہیں۔

صاحب بدائع نے آگے چل کر مزید وضاحت فرمائی ہے۔

ثم لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية فيسائر الأموال الخ

(بدائع ۲۲۳/۳).

حضرات فقهاء احناف کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل قبضہ تمام اموال میں باعث کی طرف سے محض اختیار دینے اور سامنے رکھو دینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اور صاحب بدائع نے ایک جزوی اس سے بھی واضح نقل فرمایا ہے:

تفسير التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی

البائع بين المبيع وبين المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري فايضا له (بدائع الصنائع ۲۲۳/۵).

خریدار کو مال میج سونپنے اور اس کے قبضہ کرنے کی تفصیلی وضاحت ہمارے علماء اخناف کے نزدیک یہی ہے کہ خریدار کیلئے تخلیہ کر دیا جائے اور تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع میج کو خریدار کیلئے اس طرح پیش کر دے کہ درمیان سے رکاوٹ اس طرح دور ہو جائے کہ مشتری کو اس میں تصرف کرنے میں پوری طرح قدرت حاصل ہو جائے، تو کہا جائے گا کہ بائع نے میج کو سونپ دیا اور مشتری نے قبضہ کر لیا ہے۔

**اشیاء منقولہ کی نیچ قبضہ سے پہلے:**

اشیاء منقولہ ایسی اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہو اور ایسی اشیاء پر قبضہ کے ثبوت کیلئے اتنا کافی ہے کہ بائع کی طرف سے مشتری کو قبضہ پر آزادانہ قدرت حاصل ہو جائے، لہذا قبضہ پر آزادانہ اختیار حاصل ہونے کے بعد مشتری کیلئے ان اشیاء میں تصرف کرنا اور دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنا سب بلا سکراہت جائز اور درست ہے (بدائع الصنائع ۲۲۳، ۱۳۸/۵)۔

**اشیاء منقولہ کے اقسام:**

جو اشیاء منتقل کی جاسکتی ہیں وہ چار قسم کی ہیں:

(۱) کیلی اشیاء، جیسا کہ دودھ اور تیل وغیرہ جو کہ اکثر ممالک میں کیل کر کے فروخت کیا جاتا ہے اور قدیم زمانہ میں گیہوں، چاول، بھنی کیل ہی کر کے فروخت کیا جاتا تھا، لہذا ایسی اشیاء کو کیل کر کے الگ کر دینے سے مشتری کا قبضہ ثابت ہو جائے گا۔

(۲) وزنی اشیاء، جیسے دھات، سونا، چاندی پتیل، تانبہ، وانگ، المونیم، لوہا وغیرہ اور اسی طرح اس زمانہ میں چاول، گیہوں وغیرہ بھنی وزن کر کے فروخت کیا جاتا ہے، لہذا ایسی اشیاء کو وزن کر کے الگ کر دینے سے قبضہ ثابت ہو جائے گا۔

(۳) زرعی اور پیمائشی اشیاء، جیسے کپڑے وغیرہ جو پیمائش سے فروخت کیا جاتا ہے، لہذا ایسی اشیاء کو پیمائش کر کے الگ کر دینے سے قبضہ ثابت ہو جائے گا۔

(۴) عددی اشیاء، جس کو شمار اور گنتی سے فروخت کیا جاتا ہے، جیسے انڈے، جانور، گازی وغیرہ تو ایسی اشیاء کو شمار کر کے الگ کر دینے سے قبضہ ثابت ہو جائے گا۔

اور ان چاروں قسم کی اشیاء کو الگ کر دینے کے بعد ثبوت قبضہ کیلئے آزادانہ قدرت حاصل ہونا بھی شرط ہے، علامہ کاسانی نے "بدائع الصنائع" میں ان مسائل کو ان عبارتوں میں لفظ فرمایا ہے:

وَإِن بَاعَ مُكَابِلَةً أَوْ مُوزَوْنَةً فِي الْمُكَبِّلِ وَالْمُوزَوْنِ وَخَلَى فَلَا خِلَافٌ فِي أَنَّ الْمِبَعَ يَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَاعِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشَتَّرِي (بدائع الصنائع ۲۲۳/۵) فان کان مما لا مثل له

من المدروءات والمعدودات المتقابلة فالتحلية فيها قبض تمام بلا خلاف (بدائع الصنائع ۲۳۳/۵)۔ اور اگر کسیلی چیز کو کیل کر کے اور وزنی چیز کو وزن کر کے الگ کر دیا ہے تو اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شی بائع کے ذمہ سے نکل کر خریدار کے ذمہ میں داخل ہو جاتی ہے، اگر اشیاء مثلی نہ ہوں بلکہ پیائشی اور گنتی کی اشیاء ہوں تو ان میں الگ کر کے اختیار دینے سے بالاتفاق مکمل قبضہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اب مذکورہ دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عددی اور پیائشی اشیاء جیسے، گاڑی، جہاز، لوہے، چتیل، کاغذ، غله، لکڑی، کپڑے کتاب جانوروغیرہ کا سودا مکمل ہو جانے کے بعد جب بائع مشتری کو قبضہ کا اختیار دیدیتا ہے تو بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے یا مشتری کے حکم سے بیع کو اپنی اشیاء سے الگ کر دے گا تو بائع کے ضمان سے منتقل ہو کر مشتری کے قبضہ اور اس کے ضمان میں داخل ہو جاتی ہے، جیسا کہ کتب فقہ کی مذکورہ عبارات سے واضح ہو جاتا ہے، لہذا مشتری کو اپنے یہاں منتقل کرنے سے قبل ان اشیاء میں تصرف کرنے اور دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا پوری طرح حق حاصل ہو جائے گا۔

### غير منقول اشياء کی بیع قبضہ سے پہلے:

غير منقول اشياء ایسی اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ زمین، مکان، دوکان، تجارتی پلاٹ وغیرہ، تو ایسی اشیاء اور جائیداد کی خرید و فروخت میں صرف سودا اور معاملہ طے ہو جانے سے قبضہ کا ثبوت ہو جاتا ہے، لہذا ایسی اشیاء میں معاملہ طے ہو جانے کے بعد خریدار کیلئے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینا جائز ہو گا باقاعدہ وہاں جا کر اپنا سامان ڈال دینا یا چہار دیواری وغیرہ بناؤ دینا لازم نہیں ہے اور اشیاء غير منقولہ کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے کے جواز کو صاحب ہدایت نے ان الفاظ سے تقلیل فرمایا ہے۔

ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف (بدايٰ ۳/۵۸).

حضرت امام ابوحنیفہ اور ابویوسفؐ کے نزدیک غير منقول اشياء کی فروختگی قبضہ سے پہلے جائز ہے:

اما بيع الأعيان غير المنقوله قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الشابة التي لا يخشى هلاكها فانه يصح الخ (كتاب الفقہ على المذاہب الاربعۃ ۲۳۳/۲).

بہر حال اشیاء غير منقولہ کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا، مثلاً زمین، جائیداد، باغات، مکانات اور ان جیسی اشیاء جو قائم و ثابت ہیں جن کی بلا کست کا کوئی خطرہ نہیں، صحیح ہے:

قبضہ کا مدار عرف پر ہے نصوص پر نہیں:

اسلامی شریعت نے کسی چیز میں تصرف سے پہلے اس پر مالکانہ قبضہ کا حکم فرمایا ہے اور مالکانہ قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے، اور ممانعت سے متعلق کتب حدیث میں مختلف قسم کی روایات موجود ہیں، اور ان میں سے حضرت حکیم بن حرام کی روایت زیادہ صریح اور واضح معلوم ہوتی ہے، منہ امام احمد بن حنبل میں حضرت حکیم بن حرام کی

روایت کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے

ان حکیم بن حرام اخیرہ قال: قلت یا رسول اللہ انی اشتربت بیو عاقماً یحل لی منها و ما یحرم علیٰ قال، فاذا اشتربت شیئاً فلا تبعه حتیٰ تقبضه، الحدیث (مند امام احمد بن حنبل ۲۰۲/۳)۔

حضرت حکیم ابن حرام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ میں بہت سی اشیاء کو خریدتا ہوں ان میں سے کون سی میرے لئے حلال ہے اور کون سی میرے اوپر حرام ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو خرید تو اس وقت تک نہ پہنچ جب تک اس پر قبضہ نہ کرو۔

شریعت نے قبضہ سے پہلے شی کو فروخت کرنے اور اس کو اپنے تصرف میں لانے سے، اس قسم کی روایات سے منع فرمایا ہے، مگر شریعت نے قبضہ کی حقیقت کو متعین کر کے محمد و نبیم کیا ہے، بلکہ ہر علاقہ اور ہر زمانہ کے عرف و عادت پر سونپ دیا ہے، لہذا اب قبضہ کے بارے میں جہاں جیسا رواج ہے ویسا ہی قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا (بدائع الصنائع ۱۳۸/۵)۔

### بیع قبل القبض فاسد ہی میں داخل ہے:

قبضہ سے پہلے کسی شی کا فروخت کرنا من جانب شریعت منوع اور ناجائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو فروخت کرنے کیلئے سب سے پہلے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز مشتری کے حوالہ کرنے میں باع کو کسی قسم کی رکاوٹ لازم نہ آتی ہو اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مبیع باع کے اختیار و ضمان میں داخل ہوتا کہ مبیع کو متفقہ، عقد کے مطابق اپنے اختیار سے مشتری کے حوالہ کر سکے اور قبضہ سے پہلے فروخت کرنے میں مشتری اپنے اختیار سے ملکیت کو منتقل کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے، اسلئے شریعت نے قبضہ سے پہلے کسی شی کو فروخت کرنے سے ممانعت فرمائی ہے اور اس ممانعت کی وجہ سے عقد باطل تو نہیں ہوتا ہے لیکن فاسد ہو جاتا ہے، لہذا ناجائز عقود کے اقسام ثلاثة (یعنی عقد باطل، عقد فاسد اور عقد عکروہ) میں سے قبضہ سے پہلے جو عقد ہوتا ہے وہ عقد فاسد کے دائرہ میں ہوتا ہے، باطل یا مکروہ کے دائرہ میں نہیں، اس کو حضرات فقہاء نے اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے۔

النهی يقتضى الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنَّه لم يدخل في ضمانه (عن أبي مع  
الخط ۵۱۲/۲)۔

حدیث نبی عقد کے فساد کا تفاصیل کرتی ہے، لہذا اب قبضہ سے پہلے جو عقد ہوتا ہے وہ عقد فاسد کے دائرہ ہی میں ہوتا ہے، اسلئے کہ اس عقد سے مبیع مشتری کے ضمان میں منتقل نہیں ہوتی۔

### احادیث نبی معلول بالعلة ہیں:

بیع قبل القبض کی ممانعت سے متعلق مختلف قسم کی روایات کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان میں حضرت حکیم ابن حرام کی روایت زیادہ صریح اور واضح معلوم ہوتی ہے (مند احمد بن حنبل ۲۰۲/۳)۔

شریعت نے قبضہ سے پہلے شی کو فروخت کرنے اور اس کو اپنے تصرف میں لانے سے اس قسم کی روایات سے منع فرمایا ہے، اور اس کی علت یہ ہے کہ اگر معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس پر ماکانہ قبضہ نہیں کیا گیا تو قبضہ سے پہلے خدا نخواستہ اگر بیعہ بلاک ہو جائے تو عقد کے فتح ہو جانے کا خطرہ ہے یا بیع میں کمی بیشی ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لئے شریعت نے ماکانہ قبضہ اور اپنے اختیار و غمان میں آنے سے پہلے تصرف سے منع فرمایا ہے۔

اس کو حضرات فقہاء نے اس قسم کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لأن فيه غرر انسفاح العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض (فتح القدر ۵۱۲/۶)۔

اس لئے کہ قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں بیع کے درمیان میں بلاک ہو جانے کی وجہ سے عقد اول کے فتح ہو جانے کا خطرہ ہے۔

خریدنے سے پہلے فروخت کرنا:

آج کل کے زمان میں اس طرح کا معاملہ کثرت کے ساتھ تاجر و مالک کے درمیان راجح ہے کہ مشتری دوکاندار کے پاس مال خریدنے کیلئے جاتا ہے اور اس وقت اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں سے وہ مال منگایا کرتا ہے مشتری کو وہ باہ سے جا کر لینے کے لئے خود بل بنا کر دیتا ہے اور مشتری کمپنی کے پاس یہ بل لے کر جاتا ہے یا اس تاجر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس مال بنا کر بھیجا ہے اور اس بل کو دیکھ کر بل بتانے والے پر اعتماد کرتے ہوئے مشتری کو اس بھاؤ سے زیادہ قیمت پر دیا جاتا ہے، اب درمیان میں جو منافع ہوتا ہے وہ دوکاندار اور تاجر کو بل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دو عقد ہو جاتے ہیں۔

(۱) مشتری اور دوکاندار کے درمیان جس میں بلا اجازت ملک غیر کو فروخت کرنا لازم آتا ہے۔

(۲) دوکاندار اور کمپنی کے درمیان، جس میں ملک غیر کو فروخت چکنے کے بعد خریدنا لازم آتا ہے، اور ان دونوں عقدوں میں غور طلب بات یہ ہے کہ دوکاندار اور مشتری کے درمیان جو عقد ہوا ہے اس میں دوکاندار کے مذکورہ بیع و خریدنے سے پہلے فروخت کرنا لازم آتا ہے اور کسی چیز کو خریدنے اور معاملہ طے کرنے سے پہلے فروخت کرنا کسی کے نہ، وکیجی جائز نہیں ہے اور اسی طرح خریدنے کے بعد قبضہ کے اقسام میں سے اگر قبضہ معنوی بھی نہیں پایا جاتا تو بھی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اذکورہ معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں ہو گا اور دوکاندار کیلئے درمیان کا نفع حاصل نہ بھی جائز نہ ہو گا اور عدم جواز کی بات حضرات فقہاء کی اس قسم کی عبارت سے واضح ہوتی ہے۔

بِزَكْلِ الْمُشْتَرِيِ الْبَاعِعُ بِأَنْ بَيْعَ سَلْعَةٍ مِنْ نَفْسِهِ لَا تَصْحُ هَذِهِ الْوَكَالَةُ وَلَا هَذَا الْبَعْعُ وَ  
بِزَكْلِ زَمَدْ رَحْلًا مثلاً بِشَرَاءِ شَيْءٍ بِعِينِهِ وَوَكْلَ صَاحِبِ الْعَيْنِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضًا بِأَنْ بَيْعَهُ مِنْ زَمَدْ ۖ  
وَلَا يَحْسَدْ لِلْوَاحِدِ بِصَيْرٍ مَمْلَكَةً وَمَتَمَلَكَةً (معنی شرح ہدایہ ۱۱۲/۲)۔

اور مشتری نے باع کو اس بات کا وکیل بنایا کہ باع اس سامان کو مشتری کی طرف سے فروخت کرے۔

وکالت صحیح نہیں ہے اور نہ یہ بیع صحیح ہوگی یا زید نے، مثلاً کسی شخص کو کسی متعین شی کو خریدنے کا وکیل بنایا ہے اور سامان دالے نے بھی اسی آدمی کو وکیل بنایا اس بات کا کروہ سامان زید کی طرف سے فروخت کر دے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے جیسا کہ ایک ہی آدمی مالک بنانے والا اور مالک بننے والا دونوں بن جائے تو جائز نہیں ہوتا۔

### بیع قبل القبض میں استثناء:

قبضہ سے پہلے تصرف کی جو ممکنعت نصوص میں آئی ہے اس کا دائرہ صرف منقول اشیاء میں ہے، غیر منقول اشیاء، ممکنعت کے دائرہ سے خارج ہیں، لہذا جو چیز اپنی جگہ ثابت رہتی ہے اور ان میں اختال کی صلاحیت نہیں ہے، ایسی اشیاء صرف ایجاد و قبول سے مشتری کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہیں، لہذا اس میں تصرف کے جواز کیلئے قبضہ کے نام سے کسی دوسرے امر کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلئے کہ غیر منقول اشیاء ممکنعت کے نصوص سے منتقل ہیں (كتاب الفقہ على المذاهب الاربعة ۲۳۵/۲)

### قبضہ حسی کے بغیر فیکٹری کے توسط سے فروختی:

آج کل کے زمانہ میں تاجردوں کے درمیان قبضہ حسی کے بغیر معاملہ کرنے کا زیادہ رواج ہے، صرف قبضہ معنوی پر سارے معاملات کامدار ہے، اور اس کی بے شمار شکلیں ہیں ان میں سے دو شکلیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

شكل (۱) ایک شخص نے کسی فیکٹری سے اپنا لکھن کر رکھا ہے اور مال خریدنے کے لئے خود نہیں لے جاتا بلکہ ٹیلی فون یا فیکس یا خط و کتابت کے ذریعہ سے معاملہ طے کرتا ہے اور فیکٹری کو ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع دیتا ہے کہ میرا مال فلام شخص کے پاس روانہ کر دیا جائے، اس میں مال کی پیکنگ اور اس کے چڑھانے، اتارنے اور دوسرا جگہ روانہ کرنے کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان سب کا ذمہ دار یہی خریدار (۱) ہوتا ہے اور مال پر اگرچہ خریدار (۱) کا قبضہ حسی نہیں ہوتا ہے، لیکن قبضہ معنوی پورے طریقہ سے حاصل ہو جاتا ہے اور مال کے لفظ و نقصان سب کچھ پورے طریقہ سے خریدار (۱) کے ہمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اب ایسی صورت میں محض قبضہ حسی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے خریدار (۱) اور (۲) کے درمیان جو عقد ہوتا ہے اس کو تاجرز اور فاسد نہیں کہا جا سکتا، اس لئے کہ قبضہ کا مقصد صرف ہمان میں داخل کرنا ہوتا ہے اور وہ قبضہ حسی کے ذریعہ حاصل ہو چکا ہے، اسلئے خریدار (۱) اور خریدار (۲) کے درمیان جو عقد ہوا ہے وہ بلا تردود جائز اور درست ہے، لہذا اگر راستہ میں مال ہلاک ہو جائے تو فیکٹری اس لئے اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کے ہمان سے نکل کر مشتری اول کے ہمان میں داخل ہو چکا ہے اور مشتری ہاتھی اس لئے ذمہ دار نہیں ہے کہ ابھی اس کے ہمان داخل نہیں ہوا ہے، اور عرف و رواج میں طریقہ یہی ہے کہ خریدار (۲) اس وقت تک ہے جو اضافی نہیں ہوتا ہے جب تک مال اس کے یہاں نہ پہنچ جائے، اور شرعی طور پر اس طرح کا معاملہ درست ہوتا ہے اور عرف میں خریدار (۲) کے پاس چیخنے سے پہلے پہلے مال کا خریدار (۱) کی شماتت میں رہتا اور خریدار (۲) کا ذمہ دار ہے جو نا بھی شرعی طور پر صحیح اور درست ہے، اس لئے کہ قبضہ ارتقاء موانع کا نام ہے، اور خریدار (۱) کے حق میں ارتقاء موانع ثابت ہو چکا تھا، اس لئے دوسرے کے با تھاں کافر، خست کرنا جائز ہوا، مگر یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ مال خریدار

(۲) کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ تیرے کے ہاتھ فروخت کر دے اس لئے کہ مال ابھی اس کے ضمان میں داخل نہیں ہوا (بدائع الصنائع ۵/۱۳۸، عنایہ مع الفتح ۵۱۲/۶)۔

**شکل (۲)** دوکاندار بل بنا کر مشتری کو نہیں دیتا، بلکہ کمپنی کے پاس اپنے آدمی کے ذریعہ بھیج دیتا ہے یا کمپنی سے فون یا فیکس کے ذریعہ سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیتا ہے اور کمپنی سے کہتا ہے کہ میرا مال فلاں آدمی (یعنی مشتری) دوکاندار اور کمپنی کے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے، اب مشتری یا مشتری کا آدمی جا کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے یا کمپنی پیکنگ کر کے مشتری کے یہاں بھیج دیتی ہے تو یہ معاملہ اسلئے جائز ہے کہ کمپنی کے یہاں سے دوکاندار یا دوکاندار کا آدمی جو بھی جا کر اس مال پر قبضہ کرنا چاہے تو کمپنی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور قبضہ پر رکاوٹ نہ ہونے کا نام ہی قبضہ معنوی ہے اور قبضہ معنوی معتبر ہوتا ہے، جیسا کہ قبضہ کی حقیقت کے بیان میں گذر چکا ہے، اسلئے یہ معاملہ جائز اور درست ہو جائے گا۔

### جہاز سے مال اترنے سے پہلے دوسرے کو فروخت کرنا:

آج کل کے زمانہ میں بین الاقوامی تجارت میں جب ایکسپورٹر مال جہاز پر چڑھا دیتا ہے اور اس کی اطلاع مشتری کو پہنچتی ہے، مال ابھی سمندر میں ہو یا ہوائی جہاز پر ایکسپورٹر کی دو حالتیں ہوتی ہیں (۱) وہ مال کو اس وقت تک دوسروں کے ہاتھ فروخت نہیں کرتا ہے، جب تک مال جہاز سے اتر کر اس کے قبضہ میں نہ آجائے تو ایسی صورت میں اس کے معاملات میں کسی قسم کی شرعی قباحت لازم نہیں آتی (۲) ایکسپورٹر اس کا انتظار نہیں کرتا کہ مال جہاز سے اتر کر اس کے قبضہ میں آجائے بلکہ مال ابھی سمندر میں یا ہوائی جہاز پر ہی ہوتا ہے، یہ دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تیرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔

سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے کہ مال جہاز پر چڑھا جانے کے بعد اصل بالع کے بعد اصل بالع کے ضمان سے خارج ہو جاتا ہے اور مشتری کے ضمان میں منتقل ہو جاتا ہے، واقعہ کلی طور پر صرف ایسا نہیں ہے جو سوالنامہ میں ہے بلکہ مال جہاز پر چڑھائے جانے کے بعد اس کی پوری طرح ذمہ داری یہیہ کمپنی پر ہوتی ہے، اب یہیہ کمپنی پر ذمہ داری کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔

### شکل (۱) جہاز یا راستہ میں مال کا مشتری کے ضمان میں ہوتا:

بالع اور مشتری کے درمیان معاملہ اس طرح ہے کہ بالع اپنے ملک کی بندرگاہ سے جہاز پر چڑھا دینے کا ذمہ دار ہے اور جہاز پر چڑھاچنے کے کاغذات جب اس کو حاصل ہو جائیں گے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور وہاں سے مشتری کے یہاں مال پہنچنے تک کیلئے مشتری یہیہ کرتا ہے، اور وہاں سے مشتری کے ہاں مال پہنچنے تک پوری ذمہ داری یہیہ کمپنی کے توسط سے مشتری کے اوپر ہوتی ہے، ایسے معاملہ کوتا جروں کی اصطلاح میں (C & F) کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر راستہ میں مال بلاک ہو جائے تو اس مال کے نقصان کی تلافی کیلئے مشتری دوز دھوپ کرے گا اور یہیہ کمپنی کے توسط سے جو کچھ بھی ہرجانہ وصول ہو سکتا ہے مشتری یہی وصول کرے گا، اور

بائع کو اپنے مال کی قیمت مل جائے گی، اور جو کچھ بھی نقصان ہو گا وہ مشتری کے ضمان میں ہو گا، لیکن اس میں یہ بات بھی بے کر آگز (A.I.M.S) کے ذریعہ سے پہلے سے مال کی قیمت بائع کیلئے جمع نہیں ہوتی ہے اور مشتری کی وحدہ خلافی کرتا ہے اور رقم نہیں بھیجتا ہے تو اس پر کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اس کے اخلاقی اور دینامیکی پر موقوف ہے، بہر حال ایسی صورت میں چونکہ مال مشتری کے ضمان کے دائرہ میں آ جاتا ہے، اسلئے کہ اس کے یہاں مال پر چھٹے ہے، پہلے اس کے حق میں قبضہ معنوی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا وہ ووسمے کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ بخواہش نکلتی ہے کہ عقد اول اور عقد ثانی صحیح ہو جائیں گے اور اس کے بعد تیرے اور چوتھے نمبر کے عقود سب کے سب فاسد ہو جائیں گے، محض بل کی تبدیلی کی وجہ سے نہ مال کا ضمان منتقل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقد صحیح ہو سکتا ہے، اسلئے کہ بائع اول نے از خود مشتری اول کیلئے رد ادا کیا ہے، وہ ہر طرح سے مال کے اوپر قابض تھا، لہذا اس نے اپنے ضمان کو مکمل طریقے سے مشتری اول کو منتقل کر دیا مگر مشتری اول مال کے اوپر ہر طریقے سے قابض نہیں ہو جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمان کو ووسمے تک منتقل کر سکے، اسلئے مشتری اول کا عقد تو متعقد ہو سکتا ہے لیکن ضمان منتقل نہیں ہو سکتا، اور ضمان کے منتقل نہ ہونے کی وجہ سے قبضہ بھی منتقل نہیں ہو سکتا، اور قبضہ سے پہلے فروخت کرنا کسی کے فرد کیک جائز نہیں ہے، اسلئے مشتری ثانی اور مشتری ثالث کا عقد ناجائز اور باطل ہو گا۔

### شکل (۲) جہاز یا راستہ میں مال کا اصل بائع کے ضمان میں ہونا:

اوپر کے عنوان سے تجھت شکل اول میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ صرف موافقاً مادے کے پیش نظر لکھا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ راستہ مرا آباد کے بڑے بڑے ایکسپریس جن کے کاروبار زیادہ تر یورپ، امریکہ اور عرب ممالک سے ہیں اور ان لوگوں کا رات دن کا مشغله ہی مال ایکسپریس کرنا ہے اور وہ از خود یورپ، امریکہ جا کر معاملہ طے کر کے آرڈر لایا کرتے ہیں، ان سے کاروبار اور معاملات سے متعلق پوری طرح معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاز پر مال چڑھانے کے بعد C-G-C-E کے معاهدوں کے علاوہ کاروبار کی بقیہ تمام صورتوں میں مال کا ذمہ دار مشتری نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے جو (C&F) کے تحت معاملہ کرتے ہیں بلکہ اکثر معاملات میں مشتری کے یہاں مال پر چھٹے ہیں کہ ذمہ دار بائع ہی ہوا کرتا ہے اور ایسے معاملات کو (C-A-F) کہتے ہیں جس میں بائع مال کا ہم کرداری ذمہ داری بھی کمیتی پڑتا ہے، لہذا مال کے بلاکت کے نتیجے میں جو کچھ ہی کمیتی خلافی کرتی ہے اس کا تعلق سرف بائع کے ساتھ ہوتا ہے مشتری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اسلئے جہاز پر مال روانہ کرنے کے بعد مال مشتری کے ضمان میں منتقل نہیں ہو گا، بلکہ بائع کا وکیل جو کریمہ کمپنی ہے وہی ضامن ہوتی ہے، ایسی صورت میں مشتری کے حق میں مال پر قبضہ معنوی بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور جس مال پر قبضہ حسکی یا قبضہ معنوی میں سے کوئی بھی تاثر نہ ہو اس کو ووسموں کے ہاتھ فروخت کرنا شریط طور پر جائز نہیں ہو سکتا ہے اور ایسا عقد معرض العقاد کو نہیں پہنچ سکتا، اسلئے کہ مال کی بلاکت کی وجہ سے اس عقد کے فتح کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو صاحب فتح القدر یعنی ان الغافل سے منتقل نہ ہو سکتا۔

لأن فيه غرر انفاسخ القعد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فتبين حينئذ  
أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد (فتح القدر ۵۱۲/۶).

اس لئے کہ قبضہ سے پہلے فروخت کرنے میں عقداً اول کے فتح ہو جانے کا خطرہ ہے، قبضہ سے پہلے میع کے  
ہلاک ہو جانے کے انهیش سے اس وقت یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ اس میں غیر کی ملک کو بغیر اجازت فروخت کر دیا  
ہے اور یہ مفسد عقد ہے۔

### ٹرانسپورٹ پر رکھے رکھے عقد در عقد:

ملکی سمع پر ایک شہر سے دوسرے شہر جو مال منتقل کیا جاتا ہے اس کا حال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال ابھی بذریعہ  
ریل یا ٹرک وغیرہ راستہ میں ہے اور ادھر مشتری مال کا نمونہ اور نوعیت پیش کر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے  
اور کبھی ٹرانسپورٹ پر رکھے رکھے دوسرا تیرے اور تیسرا چوتھے کے ہاتھ فروخت کرتا جاتا ہے اور اس میں مال کا خمان  
 منتقل ہونے کا سوال بھی نہیں ہوتا، بلکہ صرف بل کی تبدیلی ہوتی جاتی ہے تو اس طرح مخصوص تبدیل بل کی وجہ سے ملکیت  
 منتقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خمان منتقل نہ ہو جائے، اسلئے کہ راستہ میں جو مال پڑا ہوا ہے یا ریل یا ٹرک وغیرہ کے  
 ذریعہ سے آرہا ہے وہ اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو مشتری اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ دار بالآخر بھی ہوتا ہے اور اس قسم کے  
 عقود میں ماکولات اور غیر ماکولات سب کا حکم برابر ہے، جیسا کہ "فتح الہم" کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے:

فَنَهِيَ فِيهِ رِسُولُ اللَّهِ عَنِ الرِّبْحِ مَا لَمْ يَضْمُنْ وَالْبَيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِتَضْمِنِهِ لَأَنَّ الْمَبْعِي  
لَا يَأْتِي فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّبْحِ كَانَ ذَلِكَ رِبْحًا بِمَا لَمْ  
يَضْمُنْهُ وَهَذِهِ الْعُلَةُ تَعْمَلُ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ (تتمہ فتح الہم ۳۵۳).

اس میں رسول اللہ ﷺ نے کسی ایسی چیز سے نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے جو خمان کے دائرہ میں  
 داخل نہ ہوتی ہو اور قبضہ سے بیچنا اس کو اپنے خمان میں لے لینا ہے، حالانکہ میع مشتری کے خمان میں قبضہ سے پہلے  
 داخل نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر قبضہ سے پہلے بیچ کر نفع حاصل کرے گا تو اس چیز سے نفع حاصل کرنا لازم آتا ہے جو اس  
 کے خمان کے دائرہ میں داخل نہیں ہوتی ہے اور ممانعت کی یہ علت ماکولات وغیر ماکولات سب کو شامل ہے۔

### جوائز کی مقابل شکل:

اگر میں الاقوامی سمع میں قبضہ سے پہلے دوسروں کے ہاتھ فروخت کرنے کا معمول لوگوں کے درمیان عام  
 ہو جائے اور اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نہ بن سکے اور تمام لوگ اس میں بتایا ہو جائیں تو ایسی صورت میں "عدول عن  
 المذهب" کی گنجائش ہو جاتی ہے اور قبضہ سے پہلے حضرت امام مالک اور امام بخاریؓ کے نزدیک شی میع کو فروخت  
 کر دینا جائز اور درست ہے، البتہ حضرت امام مالکؓ کے نزدیک اشیاء خوردنی کے علاوہ دیگر منقول اشیاء کا ہونا لازم  
 ہے اور امام بخاریؓ کے نزدیک یہ قید بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ایجاد و قبول کے بعد مشتری کیلئے شی میع کو دوسرے کے  
 ہاتھ فروخت کر دینا بالآخر درج جائز ہے، حضرت امام مالکؓ کا مسلک "کتاب الفتن علی المذاہب الاربعہ" میں ان الفاظ

نقل فرمایا ہے:

**المالکية قالوا:** يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع سواء كان المبيع أعياناً متنقلة أو عيناً ثابتة كالارض والنخيل ونحوهما إلا الطعام (كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ۲۳۵/۲).

حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ مبلغ میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے چاہے، مبلغ اموال متنقلہ ہوں یا غیر متنقلہ، اور غیر متنقلہ، جیسا کہ زمین، باغات وغیرہ مگر ماکول اشیاء، مثلاً چھل وغیرہ ان کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

اور امام مالک کا مسلک "أوجز المالک" اور "تعليق الحمد" میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:  
قال مالك يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام.

اور حضرت امام بخاریؓ کے نزدیک مختص ایجاد و قبول کی وجہ سے قبضہ کا ثبوت ہو جاتا ہے، مبلغ پر قبضہ لازم نہیں ہے، نہ قبضہ معنوی لازم ہے اتنا قبضہ جسی۔

اور امام بخاریؓ کا مسلک حضرت شاہ صاحبؒ نے "فیض الباری" میں اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

أما عند البخاري فلا يشترط عنه (إلى قوله) وكان القبض بحصول عنده بمجرد الإيجاب والقبول ولا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر يسمى قبضا (فیض الباری ۲۰۶/۳).

بہر حال امام بخاریؓ کے نزدیک قبضہ کی شرط نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں مختص ایجاد و قبول کی وجہ سے قبضہ کا ثبوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی ایسے دوسرے امر کی ضرورت نہیں رہتی ہے جس کا نام قبضہ رکھا جائے۔  
امام بخاریؓ نے حضرت جابرؓؑ حدیث عیر کے تحت ترجمۃ الباب میں اپنی رائے ظاہر فرمائی ہے جو "بخاری شریف ۲۸۱" میں موجود ہے، اور اس میں حضرت ابن عمرؓؑ کا وہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے جس میں حضرت عمرؓؑ کے خرید کر دہ اونٹ کو حضور ﷺ کے ہاتھ فروخت کرنے کا ذکر ہے۔

لہذا مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حضرت امام مالکؓ اور امام بخاریؓ کے نزدیک غیر ماکول اشیاء، کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے، ابتلاء نے عام کی وجہ سے حقوق مسلک کے لوگ اس مسئلہ میں اپنے مسلک سے عدول کر کے حضرت امام مالکؓ کے مسلک کو اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں علماء، کو غور کرنا چاہئے۔

ماکول اشیاء میں حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے:

حدیث پاک میں یہ جو صراحت آئی ہے کہ ماکول اشیاء کو دوبارہ کیل بادزن کرنے سے پہلے کھانا یا اس میں تصرف کرنا منوع ہے، یہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ خریدار کو باع کے ناپ تول پر اعتماد ہو، لہذا اگر مشتری کو باع

کے ناپ تول پر پوری طرح اعتماد ہو تو پھر دوبارہ کیل یا وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باعث نے جو کیل یا وزن کیا ہے وہ مشتری کے سامنے ہونا لازم نہیں بلکہ مشتری کی عدم موجودگی میں کیل یا وزن کر کے رکھ دیا ہے اور مشتری کو اعتماد ہے تو کافی ہے۔

اس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہؒ ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے:

فَالذِّي يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ اعْتَمَدَ عَلَىٰ كَيْلَ الْبَاعِثِ جَازَ لَهُ أَكْلُهُ بَدْوَنِ إِعْدَادِ الْكَيْلِ سَوَاءٌ كَانَ بِحُضُرَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ (فیض الباری ۲۲۰/۳)۔

پس جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مشتری اگر باعث کے کیل پر اعتماد کرتا ہے تو کیل کے اعادہ کے بغیر اس کو کھانا جائز ہے، چاہے باعث کا کیل مشتری کی موجودگی میں ہو یا اس کی غیوبت میں ہو۔

ایک آدمی کا اپنے ملک میں رہ کر دوسرے ملک کے آدمی کا وکیل بن کر خرید و فروخت کرنا:

ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے دوسرا شخص، مثلاً امریکہ میں رہتا ہے، اب دونوں کے درمیان فون یا فیکس سے بات چیت ہوتی ہے، انہیا میں رہنے والا شخص امریکہ میں رہنے والا شخص کو فون یا فیکس کے ذریعہ اس بات کا وکیل بناتا ہے کہ آج کی تاریخ میں سونا جس بجاو کا ہو خرید لے اور خرید کر اپنے ہی پاس رکھ لے تو امریکہ میں رہنے والے نے، مثلاً فی تو له سوڈا رکے حساب سے خرید لیا ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد سونے کا بجاو بڑھ جاتا ہے، مثلاً فی تو له سوڈا رک ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان گفتگو اور رابطہ رہتا ہے تو اب ہندوستان والے نے اجازت دیدی کہ میرے نام سے خریدا ہوا سونا سوڈا رک کے حساب سے فروخت کر دیا جائے اور وکیل طے شدہ معاملہ کے مطابق فروخت کر دیتا ہے اور فی تو له چھپیں ڈال رکا منافع ہندوستان میں رہنے والے کو بینھے بینھے مل جاتا ہے تو کیا اس طرح کا معاملہ جائز ہے یا نہیں؟ شرعی طور پر ایسا معاملہ جائز اور درست ہے، عدم جواز کی کوئی علت نہیں ہے، اسلئے کہ ایک آدمی وکیل بالمعیق اور وکیل بالشراء دونوں ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرات فقہاء کی اس قسم کی عبارت سے واضح ہوتا ہے:

وإذا وَكَلَ رَجُلًا غَائِبًا وَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ بِالوَكَالَةِ يَصِيرُ وَكِيلًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبَرُ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الرِّسَالَةِ صَدَقَهُ الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَبَهُ (عاملگیری ۵۶۱/۳)۔

اور جب کسی دور را زر ہنے والے عائب آدمی کو وکیل بنایا جائے اور اس کو وکالت کی خبر پہنچ جائے تو وہ وکیل ہو جائے گا چاہے خبر دینے والا عادل ہو یا فاسق، اس نے اپنی طرف سے خبر دی ہو یا بطور پیغام بات پہنچا دی اور وکیل نے اس کی تصدیق کی ہو یا مکنذیب، بہر حال وہ وکیل بن جائے گا۔

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ تَتَحَمِلُ فِي الْوَكَالَةِ (ہدایہ ۱۶۵/۳)۔

معمولی جہالت مسئلہ وکالت میں متھمل کر لی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی شرعی حیثیت

مولانا ابو بکر قاسمی، درجہ نگار

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں فقیہاء کے مذاہب:

اب یہاں پربع قبل القبض یا بع ما لم یقبض کی یہ صورت جس میں انسان ایک سامان کو خرید کر اس کا مالک تو ہو چکا ہے، لیکن ابھی مبیع پرسرے سے قبضہ نہیں کیا ہے اور قبضہ سے پہلے ہی وہ مبیع کو فروخت کر دینا چاہتا ہے، تو بع ما لم یقبض کی یہی صورت عام طور پر راجح ہے اور اسی کے سلسلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک کسی بھی سامان یا مبیع کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے، خواہ وہ سامان اشیاء منقولہ کے قبیل سے ہو، یا وہ غیر منقولی چیز ہو، اور خواہ باع نہ نہمن پر قبضہ کر کے مبیع کو فروخت کرنے کی اجازت دیدی ہو یا نہ دی ہو، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا بھی مسلک حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مسلک کے مطابق ہے۔

**فمذهب الشافعية ... وهو ... قول محمد انه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان منقولاً أو عقاراً وإن أذن البائع وقبض الشمن** (الموسوعة الفقهية ۹/۱۲۳) و قال زفر ومحمد والشافعی لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره لإطلاق الأحاديث (تعليق امجد ۲/۲۳۲) اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعی لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً منقولاً أو نقداً أو غيره (حاشية النووى على مسلم ۵/۲۵).

حضرت امام احمد کی ایک روایت تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مذهب کے مطابق ہے، اور وہ سری روایت میں وارد ہے کہ اگر مبیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائے تو قبضہ سے پہلے اس مبیع میں تصرف کرنا اور اسے فروخت کرنا جائز ہے۔

**ولو دخل في ضمان المشترى جاز بيعه والتصرف فيه كما جاز ذلك بعد قبضه** (الموسوعة الفقهية ۹/۱۲۷)۔

اور حضرت امام احمد کی تیسری روایت جو بظاهر حضرات حنابلہ کا مذهب ہے، اس روایت کے مطابق حضرت امام احمد کے نزدیک ملکی و موزوںی اور معدودی اشیاء کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، ہاں اس کے علاوہ میں بیع قبل القبض جائز ہے (ویکھئے: الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۳/۱۹۳۔ الموسوعة الفقهية ۹/۱۲۸)۔

اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف کھانے کے قبیل کی چیزوں کی قبضہ سے پہلے خرید فروخت جائز نہیں ہے اور وہ بھی اس وقت جبکہ کیل دوزن سے بالع نے خریدا ہو، ورنہ اس کے عادہ اشیاء میں اور انکل کی بیع کی صورت میں قبضہ سے پہلے خرید فروخت جائز ہے (حوالہ سابق، حاشیہ دسوی ۱۳۵/۳)۔

حضرت امام مالک نے بیع قبل القبض سے متعلق مقید روایات سے استدلال کیا ہے، جس میں حضور ﷺ نے کھانے کے قبیل کی چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے "سند امرہ کی ہے

(قال طاؤس) سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض (حاشیہ ابو داود ۲۹۲)۔

اس روایت کو بغور پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے پہلے صرف کھانے کی چیزوں کی ممانعت ہے ویگر چیزوں کی نہیں، لہذا جن روایات میں مطلقاً سامانوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں سامانوں سے مراد کھانے کے سامان ہیں، وہ سامان نہیں۔

امام مالک علیہ الرحمہ کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں ذمک ہونے، سو کھانے کے سبب جتنا تغیر و تفاوت ہو جاتا ہے، ویگر چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس عقلی دلیل کا بھی تقاضا ہے کہ صرف کھانے کے قبیل کی چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا جائے اور ویگر سامانوں میں پونک تغیر کم ہوتا ہے اس لئے قبضہ سے پہلے اس کی بیع سے منع نہ کیا جائے، قال في الموسوعة: "ولغالية تغير الطعام دونها سواه" (بخاری امر ۲۸۶)۔

اور حضرت امام شافعی اور امام محمد و امام زفر نے اپنے مسلک کی تائید میں ان عام حدیثوں سے استدلال کیا ہے جن میں مطلقاً قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان روایات میں طعام کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، چنانچہ حضرت حکیم بن حزام کی روایت ہے کہ حضور پاک ﷺ نے ان کا با تحکم پکڑ کر فرمایا تھا کہ "إذا ابعتت شيئاً فلا تبعده حتى تقبضه" (طحاوی ۲۰۲) جب تم کوئی چیز خرید تو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرو۔ اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل وہ حدیثیں بھی ہیں، جن میں سامان کو منتقل کرنے سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، عن زید بن ثابت قال إن رسول الله ﷺ نهانا ان نبيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رجالهم (رواہ الطحاوی ۲۰۱، أبو داود ۲۹۲)۔

اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل بعض صحابہ کرام کے فتاویٰ ہیں، جن میں بیع قبل القبض کی ممانعت کے حکم کو بغیر طعام کی تخصیص کے عام رکھا گیا ہے، مثلاً حضرت ابن عباس کا نتوی ہے، واحمد کل شئ مثل الطعام (أبو داود ۲۹۲، ابن ماجہ ۱۶۱) میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیع (کو قبضہ سے پہلے یعنی) کا حکم کھانے کے مثل ہے، نیز امام طحاوی علیہ الرحمہ نے حضرت جابر کا یہ قول لفظی کیا ہے:

عن جابر فی الرجل بیتاع المبع فییعه قبل ان یقضه قال اکرہ (معانی الآثار ۲۰۲۲)۔  
مذکورہ دونوں صحابی نقیع قبل القبض کی ممانعت سے متعلق حدیث مقید بالطعام کے مشهور راویوں میں سے  
ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات نقیع قبل القبض کی ممانعت کے حکم کو عام قرار دیتے ہیں، لہذا ان صحابہ کرام کے فتاویٰ  
سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نقیع قبل القبض کی ممانعت کا حکم عام ہے، لأن الصحابة أعرف بمفاهيم الرسول  
(سئل الآثار ۱۶۰، بحوال الموسوعہ ۱۳۲۹)۔

ربھی وہ روایتیں ہیں میں طعام کی قید نہ کوہ ہے تو اس کا جواب حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے یہ  
دیا گیا ہے کہ وہ قید احترازی نہیں ہے، بلکہ اتفاقی اور تمثیلی ہے، قال محمد وابن عباس إن قید الطعام اتفاقی  
(العرف الشذوذی ۲۲۳) چنانچہ علماء طحاوی علیہ الرحمہ نے معانی الآثار میں مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس  
طرح قرآن پاک میں حرم کے شکار کو قتل کرنے کی صورت میں جزا کا حکم عدم کی قید کے ساتھ مذکور ہے، لیکن وہ حکم عام  
ہے اور غیر عمد والی صورت کو بھی شامل ہے، چنانچہ بعدی وہی جزا قتل عدم کی صورت میں بھی واجب ہوتی ہے، اسی طرح  
یہاں بھی نقیع قبل القبض کی ممانعت والی حدیث میں طعام کی قید کے سلسلہ میں بھی یہی سمجھنا چاہئے۔ (شرح معانی  
الآثار ۲۰۲۲)۔

مذکورہ نقطی دلائل کے علاوہ نقیع قبل القبض کی عام ممانعت کے سلسلہ میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی  
جانب سے کچھ اور عقلی و نقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، مثلاً ان کا کہنا ہے کہ قبضہ سے پہلے سامان کو فروخت کرنے سے جو لفظ  
حاصل ہوگا، وہ رنج مالم یضمون ہے، یعنی مال غیر مضمون کے ذریعہ نفع حاصل کرنا لازم آتا ہے، جو شرعاً حلال و طیب نہیں  
ہے، کیونکہ حدیث پاک میں رنج مالم یضمون سے منع کیا گیا ہے۔

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال نبھی رسول الله ﷺ ... عن ربع مالم  
یضمون (رواہ النسائی ۲۲۶۲)۔

اب طاہر ہے کہ قبضہ سے پہلے سامان کو فروخت کرنے کی صورت میں جس طرح کھانے کی اشیاء کو قبضہ  
سے پہلے فروخت کرنے سے رنج مالم یضمون لازم آتا ہے اسی طرح غیر طعام کو بھی قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے  
رجح مالم یضمون لازم آتا ہے، لہذا اس دلیل کا بھی تقاضا ہے کہ نقیع قبل القبض کی ممانعت عام ہو، ویکھنے: (معانی الآثار  
۲۰۲۲)۔

اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی نقیع قبل القبض کی ممانعت کے سلسلہ میں ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ  
میمع میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں شرم اربا (سود) کا شہر پایا جاتا ہے، کیونکہ قبضہ سے پہلے جب میمع میں تصرف کیا  
جائے گا اور اس کو فروخت کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ میمع تو غائب ہے، مال ٹھن موجو ہے، لہذا اس صورت میں جو میمع کو  
قبضہ سے پہلے فروخت کیا گیا تو درحقیقت کمی بیشی کے ساتھ ٹھن کا ٹھن سے تبادلہ کیا گیا، جو شرعاً واردست نہیں ہے، اب  
ظاہر ہے کہ یہ شبہ ربا تمام میمع کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے میں پایا گیا، چنانچہ جب حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے

کھانے کی اشیاء کے قبضہ سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت والی مرفوع حدیث کو ذکر فرمایا تو حضرت طاووس نے حضرت ابن عباس سے بیع الطعام قبل القبض کی ممانعت کی وجہ پوچھی تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا: ذاک در اہم بدر اہم والطعام مر جا (رواہ البخاری ۲۸۶) الا تراہم يتعاون بالذهب والطعام مر جا (مسلم شریف ۵۲).

اب یہاں پہنچ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض کی ممانعت والی بیشور احادیث میں الطعام کی قید کیوں مذکور ہوئی ہے اس سلسلہ میں بھی کچھ عرض کیا جائے، تو جیسا کہ ماقبل میں درج کیا گیا وہ قید تمثیل ہے، وہ سے طعام کی قید کے ذکر کرنے کی مصلحت پر امام طحاوی علی الرحمہ نے معانی الآثار میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ طعام کی بیع کے اندر شریعت نے کچھ توسع سے کام لیا ہے، چنانچہ اس کے اندر بیع سلم کو جائز رکھا ہے، دوسری چیزوں کے اندر نہیں، جبکہ بیع سلم معدوم وغیر موجود کی بیع ہے، لہذاجب شریعت نے صراحت کے ساتھ طعام کے اندر بیع قبل القبض کے ناجائز ہونے کا اعلان کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ بدرجادی غیر طعام میں بیع قبل القبض ناجائز ہے، یہی وہ خاص مصلحت ہے جس کے سبب طعام کا ذکر ہوا، اب ظاہر ہے کہ اگر اس کے بر عکس عالمہ ہوتا کہ طعام کو چھوڑ کر غیر طعام کو ذکر کر کے بیع قبل القبض کا اعلان کیا جاتا تو پھر ایسی صورت میں طعام کے اندر بیع قبل القبض کی ممانعت ثابت ہو پاتی، اور سامع کو یہ نہ معلوم ہو پاتا کہ طعام کے اندر بیع قبل القبض کا کیا حکم ہے۔  
(دیکھئے: شرح معانی آثار ۲۰۲/۲)

اور حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابویوسف نے بیع قبل القبض کی ممانعت کے حکم کو طعام کے علاوہ دیگر منقولی اشیاء کی بیع کے عدم جواز تک جو عام رکھا ہے، تو اس سلسلہ میں ان حضرات کی دلیل بھی تقریباً وہی حدیثیں اور فتاویٰ حجاًپ اور عقلی دلائل ہیں جن سے حضرت امام شافعی علی الرحمہ نے بیع قبل القبض کی ممانعت کے حکم کے عموم پر استدلال کیا ہے، البتہ امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسف نے بیع سے پہلے غیر منقولی اشیاء کی بیع کے جواز کو جو حکم عام سے خاص کیا ہے، اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) قرآن پاک میں بغیر قبضہ کی قید کے مطلق بیع کو حلال قرار دیا گیا ہے، چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: احل الله البيع (سورۃ البقرۃ ۲۷۵) اس آیت کے عموم کا تناقض یہ ہے کہ بغیر قبضہ کے بھی خرید و فروخت کا معاملہ شرعاً جائز و درست ہو، لیکن دوسری طرف احادیث میں بیع قبل القبض کی مطلق ممانعت وارد ہے، جس کا تناقض ہے کہ بغیر قبضہ کئے ہوئے کسی سامان کو بینچنا اور فروخت کرنا جائز ہو، لہذا دونوں حسم کے دلائل کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آیت کے عموم کی وجہ سے بیع سے پہلے غیر منقولی اشیاء کی بیع کو جائز قرار دیا جائے (جبکہ حسی حمذر ہے) اور احادیث ثبویہ کے پیش نظر بیع سے قبل منقولی اشیاء کی بیع کو جائز کہا جائے، اور اس تخصیص کا قرینہ وہ حدیثیں ہیں جن میں بیع کو محل بیع سے منتقل کرنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری دلیل یہ ہے کہ منقول طور سے تمام فقہاء نے بیع سے پہلے ثمن میں تصرف کرنے کی اجازت

دی ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں تو اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ اس کا وجوب ذمہ میں ہوتا ہے، لہذا تم کے ملاک ہونے سے باع کا کوئی تھesan غیر میں ہوتا ہے، اس کا حق ساقط ہوتا ہے، اور انہیں حق فاسد ہوتی ہے، اس نے قبضہ سے پہلے باع جو اس میں تصرف کر رہا ہے، وہ اپنی ملک میں تصرف کر رہا ہے، چنانچہ حدیث نبوی میں جس قبضہ سے پہلے تم میں مطلق تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

عن ابن عمر ... فقلت يا رسول الله رويدك اسالك إني أبيع الإبل بالتفع فابع بالدقابير وأحد الدراهم وأبيع بالدرارهم وأحد الدنابير وأحد هذه من هذه فقال رسول الله ﷺ لا يأس إن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبستكماشي (أبو داود ۲۶۶).

لیکن تم کے ہر جس مبیع میں قبضہ سے قبل ہو تصرف کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مبیع کی دو قسم ہے ایک وہ ہے جس میں ملاکت کا امکان بہت زیاد ہے، جس کے سبب مبیع کے فاسد ہو جائے کا خطرہ ہے، جیسے منتقلی اشیاء۔ مبیع کی دوسرا قسم ہے جس میں ملاکت کا امکان بہت کم ہے، جیسے غیر منتقلی اشیاء، زمین و جامدات وغیرہ۔ اب جس مبیع گے ملاک ہونے کا امکان زیاد ہے، اگر قبضہ سے پہلے اس کے فروخت کرنے کی اجازت دی جائے تو قوی امکان ہے کہ قبضہ سے پہلے مبیع ملاک ہو جائے اور حق فاسد ہو جائے، اور اس طرح اس صورت میں اگرچہ باع اول کا تھesan ہو گا، لیکن باع ثانی کا کچھ تھesan نہ ہو گا، مگر یہاں پر وہ خرایتی پیدا ہو گی ایک تو یہ کہ باع ثانی نے قبضہ سے پہلے جو مبیع میں تصرف کیا تو گویا اس نے غیر مملوک شی میں تصرف کیا، دوسرے اس نے اپنے خریدار کے ساتھ بیع غرر کا عامل کیا، کیونکہ خریدار نے تو مبیع کو یہ سمجھ کر خریدا کہ باع ثانی جو اسے فروخت کر رہا ہے وہ اس کی ملک ہے، جبکہ اس کی ملک نہیں ہے، لہذا مذکورہ دونوں خرایتوں کی وجہ سے قبضہ سے پہلے مبیع کو فروخت کرنے سے منع کیا گیا، لأن النبي ﷺ قال ليس على رجل بيع فيما لا يملك، وفي حدیث آخر لاتبع ما ليس عنده ک (رواہ النسائي ۲۲۵، ۲۲۶).

اب ظاہر ہے کہ قبضہ سے پہلے مبیع کو فروخت کرنے کی صورت میں یہ خرابیاں لازم آرہی ہیں وہ منتقلی اشیاء کی بیع میں تو لازم آتی ہیں، کیونکہ ان میں ملاکت کا امکان زیاد ہے، لیکن غیر منتقلی اشیاء کی بیع میں عام حالات میں یہ خرابیاں نہیں لازم آتی ہیں، لہذا قبضہ سے پہلے مذکورہ خرایتوں کے سب منتقلی اشیاء میں تو تصرف کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا، لیکن قبضہ سے پہلے غیر منتقلی اشیاء کی بیع قبل انتہش تمدن میں تصرف کرنے کے جواز پر قیاس کر کے جائز رکھا گیا، البتہ اگر غیر منتقلی اشیاء میں بھی ملاکت کا امکان زیاد ہو جیسے کوئی زمین دریا کے کنارے ہو اور اس کے کٹ جائے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں غیر منتقلی اشیاء میں بھی قبل انتہش تصرف جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی وہی سب خرابیاں پائی جا رہی ہیں جو قبضہ سے پہلے غیر منتقلی اشیاء کے فروخت کرنے میں پائی جاتی ہیں۔

بیع قبل انتہش کے جواز و عدم جواز کے سلسلہ میں فقہاء کرام کے دلائل و آنحضریات کو ذکر کرنے کے بعد رقم سطور کی ت accus رائے یہ ہے کہ بیع قبل انتہش کی ممکنعت کے نقلی و سمعی اور عقلی دلائل میں خور گئنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

ان کا تعلق یا توکھانے کے قبل کی اشیاء سے ہے (چنانچہ حضرت حکیم بن حزام جو بعْدِ قبْلِ القبض کی ممانعت والی مطلق حدیث کے راوی ہیں، ان کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ کھانے کے قبل کی اشیاء کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے حضور پاک ﷺ سے انہیں چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے کے سلسلہ میں دریافت فرمایا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے حضور ﷺ نے ان کو کھانے کی اشیاء کی صراحت یا بغیر صراحت کے قبضہ سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا (معانی آثار ۲۰۱/۲) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بعْدِ قبْلِ القبض کی ممانعت والی مطلق روایت میں بھی غالباً کھانے ہی کے قبل کی اشیاء ہرادیں، یا وہ مختلف اشیاء سے متعلق ہے، اور جو دلیلیں بظاہر عام نظر آتی ہیں اگر ان کو ان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو وہ تخصیص کا احتمال رکھتی ہیں، بلکہ ہر امام نے دلائل عموم میں تخصیص کی ہے، جیسا کہ غقریب معلوم ہوگا، چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو بعْدِ قبْلِ القبض کے مطلاقاً عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی انہل والی بیع میں قبضہ سے پہلے بیع کے اندر تصرف کرنے کے قائل ہیں، چنانچہ الفقه علی المذاہب الاربعہ میں شوافع کا مسلک یہی نقل کیا گیا ہے (الفقه علی المذاہب الاربعہ ۱۹۱/۳)۔

ای طرح، مگر انہوں نے بھی اندازے والی بیع کی صورت میں قبضہ سے پہلے بیع میں تصرف کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اس کے علاوہ بھی بیع کی بعض صورتوں میں انہوں اندازے میں سے اکثر نے بعْدِ قبْلِ القبض سے ممانعت والی روایت میں تخصیص کی ہے، دوسری طرف اکثر احادیث میں صرف بعْدِ الطعام قبْلِ القبض کی ممانعت وارد ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے پہلے بیع کرنے کے سلسلہ میں اصل شدت صرف کھانے کی اشیاء میں ہے، چنانچہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بعْدِ قبْلِ القبض کی ممانعت کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: "إِنَّمَا الشَّهْدَى بِدُونِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ" (ترمذی ۲۲۲/۱)۔

لہذا اگر کھانے کے علاوہ کسی اور بیع کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے کا عرف ہو جائے اور اس کو ناجائز قرار دینے کی صورت میں لوگوں کو پریشانی و دقت ہو تو ایسی صورت میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے مسلک پر عمل کرنے اور اقویٰ دینے کی گنجائش ہے۔

حالہ ازاں میں بعض علماء نے بعْدِ قبْلِ القبض کی ممانعت سے بختنے کیلئے اور بعْدِ قبْلِ القبض کی تصحیح کیلئے درج ذیل صورتیں لکھی ہیں، جن کو بوقت ضرورت اپنایا جا سکتا ہے:

- (۱) جہاں مال خریدے وہیں کسی مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے، تو اس وکیل کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے۔

- (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ مال پہنچنے سے پہلے بیع نہ کرے، بلکہ وعدہ بیع کرے، اور جب مال پہنچنے کا وقت باضافہ بیع کرے، اس صورت میں اگر جانہمیں میں سے کوئی انکار کر دے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہو گا، بیع پر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔

- (۳) نیز اگر خریدار نے مال سمجھنے کیلئے کسی خاص کمپنی، غیرہ کی تعمیم نہیں کی، البتہ مال پہنچانے کا کرایہ

خریدار ہی ادا کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کا قبضہ مانا جائے گا، اور کمپنی کی تحویل میں مال کے آجائے کے بعد خریدار کیلئے اس مال کو فروخت کرنا جائز ہے (حسن الفتاویٰ ۵۲۶/۶)۔

(۳) اور اگر سامان کو خریدنے سے پہلے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے تو اسے محض وعدہ بیع یا بیع سلم یا بیع اسحناع کے دائرہ میں رکھ کر جائز قرار دیا جائے گا۔

مذکورہ گذارشات کے بعد فقاًکیڈی و ملکی کے مرسل سوالوں کا جواب ملاحظہ ہو:

### بیع قبل القبض فاسد ہے یا باطل؟

جیسا کہ اوپر مفصل عرض کیا گیا کہ بیع قبل القبض شرعاً اسلامی کے اعتبار سے ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے پر جمیع فقہاء فی الجملہ متفق ہیں، اب رہی یہ بات کہ بیع قبل القبض کا شمار عند الفقہاء بیع فاسد میں ہے، یا بیع باطل میں یا بیع مکروہ میں، تو اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے بیع فاسد و مکروہ اور بیع باطل کی حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، فقہاء کرام نے بیع فاسد و مکروہ اور بیع باطل کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس کا حاصل ہے کہ:

اگر خرید و فروخت کا معاملہ اصل اور وصف دلوں اعتبار سے صحیح نہ ہو تو بیع باطل ہے، اور اگر بیع کا معاملہ اصل کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن وصف متصل کی وجہ سے اس میں کوئی خرابی ہو تو یہ بیع فاسد ہے، اور اگر بیع کا معاملہ اصل و وصف کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن کسی امر مجاور کی وجہ سے اس میں کوئی فتح و خرابی پائی جائے تو یہ بیع مکروہ ہے، چنانچہ مشکوٰۃ کی شرح تنظیم الاشتات میں مرقوم ہے:

والبیع الباطل مالا لا یکون صحيحاً باعتبار الأصل والوصف والبیع الفاسد هو ما لا یصح ای ان کان القبح لوصف متصل والبیع المکروہ ان کان القبح لأمر مجاور (تنظیم الاشتات ۱۱۵/۲)۔

حضرت علامہ عبدالمحییٰ فرنگی محلی علی الرحمہ نے ہدایہ کے حاشیہ میں باب البیع الفاسد کے تحت بیع فاسد و مکروہ اور بیع باطل کی حقیقت پر اس سے زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے (دیکھئے: حاشیہ ہدایہ ۳۳/۳)۔

بیع باطل و فاسد کی حقیقت سامنے آجائے کے بعد بیع قبل القبض کے سلسلہ میں غور کرنا چاہئے کہ اس سے بیع فاسد ہوتی ہے یا بیع باطل ہوتی ہے، تو اگرچہ اس سلسلہ میں فقہاء کرام کا کام مختلف ہے، چنانچہ جو ہرہ نیرہ باب المراءج میں لکھا ہے کہ

قال الخجندی إذا اشتري منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من باعده ولا من غيره فبان باعه فالبیع الثاني باطل والبیع الأول على حاله جائز ولو باعده من البیع فقبله لا یصح البیع (الجوهرة النيرة).

اسی طرح صاحب درجتار نے بیع قبل القبض کے سلسلہ میں ایک قول یقینی کیا ہے: بخلاف بیعہ قبلہ (

ای قبل القبض) فاہنے باطل مطلقاً (الدر المختار مع ردا المختار ۱۸۲/۳) یعنی قبل القبض باطل ہے، لیکن مذکورہ قول کے بعد بع قبض کے متعلق دوسرا قول بع فاسد ہونے کا لکھا ہے: وَفِي الْمُوَاهِبِ وَفِسْدِ بَيعِ الْمُنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ، انتہی (الدر المختار ۱۸۲/۳)۔

اسی طرح فتاویٰ عالمگیری میں بع قبض کو بع فاسد ہی لکھا ہے: وَمِنْهَا الْقَبْضُ فِي بَيعِ الْمُشْتَرِيِ الْمُنْقُولِ وَفِي الدِّينِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ كَالْمُسْلِمِ فِيهِ (فتاویٰ عالمگیری کتاب الجیوع الباب الاول ۳/۳)۔

بع باطل و فاسد کے مذکورہ بالا اصول کے پیش نظر بع قبض کو بع فاسد ہی ہونا چاہئے، رہائی بع فاسد پر بع باطل کا اطلاق تو یہ فقہاء کرام کے کلام میں بکثرت ہے، اسی طرح بع باطل پر بھی فقہاء کرام کے اقوال میں بع فاسد کا اطلاق ہوا ہے، چنانچہ شرح وقاریہ میں لکھا ہے:

قد يذكر الفاسد ويراد به الباطل كما أن في أول كتاب القدوري جعل البيع بالمية  
فاسداً وهو باطل (شرح وقاریہ ۵۰/۳)۔

اسی طرح ہدایہ میں ہے:

وبع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل (ہدایہ ۳۲/۳)۔

### قبضہ کی حقیقت تصریحات فقہاء کی روشنی میں:

اسلامی شریعت نے قبضہ سے پہلے کسی بیع میں تصرف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن قبضہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا کتاب و سنت نے قبضہ کی کسی خاص حقیقت کی کوئی تحدید و تعین کی ہے؟ یا لوگوں کے عرف میں جس درجہ کے عمل داخل کو قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً قبضہ مانا جائے گا، تو اس سلسلہ میں فقہاء کرام اور شارحین حدیث کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اسلامی شریعت نے قبضہ کی کوئی خاص تحدید نہیں کی ہے، البتہ نصوص شرعیہ کی روشنی میں بطور خود حضرات فقہاء کرام نے قبضہ کی تحدید کی کوشش کی ہے، لیکن تصریحات فقہاء کو درج کرنے سے پہلے قبضہ کے لغوی مفہوم کو یہاں تحریر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ تصریحات فقہاء کو سمجھنے میں سہولت ہو، تو اس سلسلہ میں ارباب لغت نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ قبض باب ضرب کا مصدر ہے، اور قبض اسی کا اسم مرہ ہے، قبض کے لغوی معنی ہیں، لینا، پکڑنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا، گرفتار کرنا، ضبط کرنا، قابو پاننا، وصول پاننا، رکنا، باز رہنا، ہمنا، دور کرنا، سمینا، وفات دینا، تنگی ڈالنا، کہا جاتا ہے: "صَارَ الْمَالُ فِي قَبْضَةٍ" مال اس کی ملکیت میں ہو گیا (لاحظہ ہو: القاموس الحجدید ۲۱/۵۷، مصباح اللغات ۶۵۳/۶۳، المنجد ۱۱۷/۶۳، المعجم الوسيط ۱۱۱/۱۱۷) اور قواعد الفقه میں قبض کی تشریح کرتے ہوئے اس کے مصنف نے لکھا ہے: القبض خلاف البسط یقال قبض علیہ إذا ضم علیہ أصابعه و قبض الشیء أخذده، وهذا الشیء فی قبضه فلان ای فی ملکه و تصرفه، والقبضه من الشیء ملا الکف منه (قواعد الفقه ۲۲۲/۲۲۲)۔

قبض کے لغوی معنی کو جان لینے کے بعد تصریحات فقہاء کی روشنی میں قبضہ کی حقیقت ملاحظہ ہو:

اس سلسلہ میں حضرات ائمہ شافعی (امام مالک، شافعی اور احمد) کا نظر ہے کہ ہر چیز میں قبضہ اسی شی کی حیثیت کے اعتبار سے مانا جائے گا۔

**مذهب المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ ان قبض کل شی بحسبہ** (الموسوعۃ الفقیریۃ، ۱۳۲۰ھ، نص ابن قدامہ فی المغایر، ۲۲۰ھ).

اگر کوئی چیز وزن، کیل، عدد یا ذرائع سے فروخت ہوئی تو اس میں قبضہ وزن، کیل، ذرائع عدد (گن لینے) سے تسلیم کیا جائے گا۔

فإن كان مكيناً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً فقبضه بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وذلك لحديث عثمان... يا عثمان إذا أبعت فاكتل وإذا بعت فكل (علق البخاري ۲۸۰، وصل أحمد ۲۲، وحدث أبي شعیب ۹۸/۲، البیهقی ۳۱۵/۵، الموسوعة ۱۳۲۰ھ).

البت امام مالک کے نزدیک مثلی چیزوں میں قبضہ کا تحقیق خریدار کو بیع اس کے برتن میں رکھ کر جوالہ کر دینے سے مانا جائے گا، اور اگر منقولی سامان یا چوپائے کو خریدا تو اس میں قبضہ کا اعتبار لوگوں کے درمیان راجح عرف کے مطابق ہو گا۔

**والمالکية شرطوا في قبض تسلیمه للمشتري وتفریغه في أوعيته** (الشرح الكبير للدردري، حاشیة الدسوقي على ۱۳۲/۳) وإن كان جزافاً فقبضه نقله و ذلك لحديث ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى الصوت فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبعده حتى ينقولوه وفي رواية حتى يحولوه، وإن كان متقولاً من عروض وأنعام فقبضه بالعرف الجارى بين الناس كما يقوله المالکية كاحتياز الثوب و تسلیم معقود الدابة (الموسوعة الفقیریۃ، الشرح الكبير ۱۳۲۰ھ، ۱۳۲۵ھ).

اور حضرات حنابلہ کے نزدیک اگر بیع دراهم و دنانیر کے قبیل سے ہو، تو اس میں قبضہ کا تحقیق با تحدیں یعنی سے ہو گا، اور اگر کپڑا ہو تو اس کو منتقل کر لینے سے ہو گا، اور اگر جانور ہو تو اس کو اس کی جگہ سے چلا دینے سے قبضہ مانا جائے گا، اور اگر زمین ہو تو اس میں قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ باع مشتری کیلئے زمین کا تخلیہ کر دے۔

**وفصل الحنابلة في المنقول من العروض والأنعام فقالوا إن كان المصعد دراهم أو دنالير فقبضها باليد وإن كان ثياباً فقبضها نقلها وإن كان حيواناً فقبضه تمثيله من مكانه وإن كان عقاراً فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري بلا حائل دونه** (الموسوعة الفقیریۃ، اتفاقاً عن ۱۳۲۰ھ، کشف النقاش ۲۲۰، ۲۲۲/۳).

اور حضرات شافعی کے نزدیک بھی میمع کی مختلف قسموں کے اعتبار سے قبضہ کے مدد ہے۔

یہ اگر بیع ایسی ہے کہ وہ با تحدی سے پکڑ لی جائے کیتی ہے تو اس میں قبضہ با تحدیں یعنی سے ہو گا۔

و دنانیر، اور کپڑا۔ اور اگر بیع منقولی اشیاء کے قبیل سے ہے تو قبضہ کا تحقیق سامان منتقل یعنی سے ہو گا۔

منقولی اشیاء میں سے ہے تو قبضہ تخلیہ کر دینے سے ہو جائے گا، البتہ مکان میں قبضہ کا اختصار اس وقت ہو گا جبکہ باعث خریدار کو مکان کی کنجی حوالہ کر کے تصرف کرنے کی اجازت دیدے، اور اگر اس میں کسی اور کام سامان ہو تو اس کو نکال کر مکان کو خالی کروے، (الموسوعة الفقهية ۲۳۲/۹، بفتح الباري ۲۱، ۲۱۰/۲۹)۔

اور انہ احناف کے نزدیک قبضہ کے سلسلہ میں اتنی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے قبضہ کیلئے تخلیہ کو معتبر مانا ہے، لیکن تخلیہ کی تعریف بقول علامہ انور شاہ کشمیری محدث رہے، البتہ ظاہر روایت کے مطابق اس کا الغوی مفہوم یہ ہے کہ خریدار کیلئے مبیع کو لے کر تصرف کرنے میں جو رکاوٹ پیش آسکتی ہے، باعث اس کو دور کروے (العرف الشذوذی ۲۳۳/۱)۔

اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک منقولی چیزوں میں قبضہ کا تحقیق سامان کو منتقل کر لینے سے مانا جائے گا، لیکن ظاہر یہ حضرت امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے وہ ان کا مہم ہب ہے کہ تمام چیزوں میں قبضہ کا تحقیق صرف تخلیہ سے ہو جاتا ہے۔

**قال في الموسوعة لأنها (أى التخلية) تسليم فمن ضرورته الحكم بالقبض فيترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي وهذا هو الأصح و مقابل الأصح المرسو عن أبي يوسف وهو أنه لا يثبت في المتقول إلا بالنقل (الموسوعة الفقهية ۲۳۲/۹)** ولكن قال صاحب البدائع لا خلاف بين أصحابنا في أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (البدائع ۲۳۲/۵) متدرج بالتفصيل سے قبض کی تحقیقت کے سلسلہ میں فقہاء احناف کا جو نظر یعنی ہو کر سائے آتا ہے اس سلسلہ میں صاحب بدائع نے متعدد جگہ کام کیا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھا ہے، ولا يشترط القبض بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكן والتخلی وارتفاع الموانع عرفاً وعادةً وحقيقة (بدائع الصنائع ۱۲۸/۵) تیز ایک اور جگہ صاحب بدائع نے قبض کی تحقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: تفسير التسليم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبیع وبين المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبیع والمشتري قابضاً له (بدائع ۵/۲۳۳)۔

مذکورہ تفصیل سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ فقہاء احناف نے قبضہ کے تحقیق کیلئے تخلیہ کو معتبر مانا ہے، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہاء احناف کے نزدیک مبیع پر قبضہ بالید کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ حکما قبضہ کو بھی ان حضرات نے معتبر تسليم کیا ہے، چنانچہ علامہ شامی نے لکھا ہے: وقد يكتبون القبض حكمها، كجھی قبضہ حکمی ہوتا ہے، آگے جل کر علامہ شامی نے قبضہ حکمی کی متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اسی ذیل میں لکھا ہے کہ ومه (أى من القبض) مالوشتری دھنا ودفع فارورة يزنہ فيها فوزنه فيها بحضوره المشتري فهو قبض وكذا بعنته في إلا صاحب مکمل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ومنه مالوغصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاً بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية (رواہ ابن رشد ۲۷)۔

خاصہ کام یہ ہے کہ مبیع پر قبضہ اس کے تخلیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، چنانچہ درمختار میں بھی لکھا ہے کہ مبیع کو  
حوالہ کرنا اس کے تخلیہ سے ہوتا ہے، لیکن اس طرح کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس پر قبضہ کرنا ممکن ہو، تم التسلیم یکوں  
بالتخلیہ علی و جهہ یتممکن من القبض بلا مانع ولا حالل (الدر المختار ۲۷۲) اور علامہ شامی نے درمختار کی  
مذکورہ عبارت کی شرح کرتے ہوئے رد المحتار میں قبضہ کے سلسلہ میں تفصیلی بحث کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر  
گیروں کسی نے خریدا اور وہ کسی مکان میں ہے، اور بالائی نے خریدار کو مکان کی کنجی دیکھ کر کہا کہ میں نے گیروں کا آپ کیلئے  
تخلیہ کرو دیا، تو اسے قبضہ مانا جائے گا، لیکن اگر کنجی دیکھ کر جسمیں کہا تو شرعاً قبضہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے نظر وہ سے  
احصل مکان کو فروخت کیا، اور کہا کہ میں نے وہ مکان تجے ہو والہ کرو دیا تو یہ قبضہ نہیں ہے، ماں اگر مکان اتنا قریب ہو  
کہ خریدار اس کو بند کر سکتا ہو تو شرعاً مکان پر قبضہ مانا جائے گا ورنہ نہیں، اور جمیع الموازل میں لکھا ہے کہ گھر کو فروخت  
کر کے کنجی ہوالہ کر دینا شرعاً قبضہ ہے جبکہ خریدار کیلئے بلا تلف اس مکان کو گھوننا آ جان ہو، اسی طرح اگر کسی نے چراکاہ  
میں گائے اور بالائی نے اس سے کہا کہ جاؤ قبضہ کرو تو اگر خریدار اس گائے کو دیکھ سکتا ہو اور اس کی طرف اشارہ  
کر سکتا ہو، تو یہ بھی قبضہ ہے ورنہ نہیں، اگر کسی نے کیا اخریدا تو بالائی نے اس سے کہا کہ قبضہ کرو اب اگر بغیر کھڑے  
ہوئے بھی کپڑے کو لینا ممکن ہے تو یہ قبضہ ہے ورنہ نہیں، اور اگر کسی نے گھوڑے یا پرندے کو خریدا اور وہ گیروں کسی کمرہ  
میں ہوں، اور فرم دخت کنده نے خریدار سے کمرہ کا وردازہ کھول کر کہا کہ قبضہ کرو، تو اگر خریدار کیلئے وہاں چھوٹ کر بغیر  
کسی کی مدد کے پرندہ اور گھوڑے کو پکڑنا ممکن ہو تو یہ قبضہ ہے اور اس سلسلہ میں تفصیلی بحث بھریں ہے، آخر میں بطور  
خاصہ کے خود علامہ شامی نے لکھا ہے کہ و حاصلہ ان التخلیہ قبض حکما لو مع القدرة علیہ بلا کلفة  
لکن ذلک بحسب حال المبيع فضی نحو حنطة فی بیت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا  
کلفة قبض و فی نحو دار فالقدرة علی إغلاقها قبض ای بیان تکون فی البلد فيما يظهر و فی نحو  
بقر فی مرعی فکونه بحیث برسی و یشار إلیه قبض و فی نحو ثوب فکونه بحیث لو مددده تصل  
إلیه قبض و فی نحو فرس او طیر فی بیت امکان اخذہ بلا معین قبض (رد المختار ۲۷۲، ۲۸۰)۔

آئے چل کر علامہ شامی نے بھی لکھا ہے کہ اگر مبیع اتنی دور ہو کہ بغیر مشقت کے اس پر قابل ہونے کی  
قدرت نہ ہو تو ایسی صورت میں صرف قبض کر لینے کی اجازت دیدیئے سے شرعاً قبضہ نہیں مانا جائے گا، اسی طرح مبیع کے  
دور ہونے کی صورت میں اس کے تخلیہ سے خریدار کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

لأنه إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض أما

إذا كان بعيداً لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض (رد المختار ۲۷۲، ۲۸۰)۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ فتنہا، احناف کے نزدیک تخلیہ کو قبضہ کے قائم مقام اسی وقت مانا گیا ہے جبکہ  
مبیع قریب ہو اور اس پر حقیقی قبضہ بھی ممکن ہو، ورنہ جہاں مبیع کے دور ہونے کی وجہ سے حقیقی قبضہ متاخر ہو جوہاں تکہ کو  
قبضہ کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہاں حقیقی قبضہ معتبر ہو گا، البتہ جہاں حقیقی قبضہ ممکن و مقدر ہو وہاں قبضہ کے لئے

میع کا تحلیل کر دینا کافی ہے، اور تحلیل کا واضح مطلب یہ ہے کہ باعث میع کو اپنے دیگر سامانوں سے اس طرح الگ اور جدا کر دے کہ خریدار جب چاہے، بلاروک ٹوک کے میع میں تصرف کر سکے، اور میع کے ساتھ خریدار کے علاوہ کسی اور کا کوئی حق و ایستہ ہو، اور ہر چیز میں قبضہ اسی شی کے مناسب حال معتبر ہو گا۔

### منقولی و غیر منقولی اشیاء میں قبضہ کی صورتیں:

غیر منقولی اشیاء میں قبضہ کے تحقیق کیلئے تقریباً تمام فقہاء نے تحلیل کو کافی قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر مفصل لذرا، البت و در حاضر میں زمین و جا نہدار کے قبل کی غیر منقولی اشیاء میں عرف عام کے اندر رجسٹری کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ بغیر اس کے لوگ قبضہ کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، اس لئے و در حاضر کے پدلتے ہوئے حالات میں زمین و جا نہدار میں قبضہ کے تحقیق و ثبوت کیلئے تھماں زمین کی رجسٹری کو لازم قرار دینا چاہئے، اگرچہ دیانتہ بغیر رجسٹری کے صرف تخلیٰ اور بع موالع کی وجہ سے قبضہ تسلیم کیا جائے اور اسی کے مطابق موقوٰتی دیا جائے۔

اور منقولی اشیاء میں قبضہ کے تحقیق کیلئے اگرچہ فقہاء، احناف نے میع کے قریب ہوتے ہیں لیکن کافی قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری کیلئے میع لو قبضہ کرنے میں جو دکاوٹ پیش آئیتے، باعث اس رکاوٹ کو دوڑ کر دے، لیکن دیگر فقہاء نے اس کے ساتھ مکملیٰ و موزوٰنی اور حدودیٰ و محدودیٰ چیزوں میں کیل و وزن، پیمائش اور میع کو گن کر الگ کر دینے کو لازم قرار دیا ہے، بلکہ حضرت امام مالک نے مثلی چیزوں میں قبضہ کے تحقیق کیلئے میع کو خریدار کے برتن میں رکھ دینے کو مشروط قرار دیا ہے، اور دیگر منقولی سامانوں اور جانوروں میں قبضہ کے لئے لوگوں کے درمیان رائج عرف کا اعتبار کیا ہے، اور حضرات شافع و حنبل نے با تھہ سے پکڑی جانے والی چیزوں میں قبضہ کے ثبوت کیلئے میع کو با تھہ میں لینے اور دیگر منقولی چیزوں میں سامان باعث کے پاس سے منتقل کر لینے کو لازم کہا ہے، اسی طرح طعام کے قبل کی چیزوں کو اگر خریدار نے اندازے سے خریدا ہون تو اس میں قبضہ کا اعتبار میع و منتقل کر لینے سے ہو گا اور جانور وغیرہ میں اس کی جگہ سے جیا ویئے سے، قال في البدائع وقال الشافعی القبض في الدار والعقار والشجر بالحليبة وأما في الدرارم والدفاتير فتناولهما بالبراجم وفي الثياب بالنقل وكذا في الطعام إذا اشتراه مجازفة فإذا اشتراه مكابلة فالكيل وفي العبد والبهيمة بالسير من مكانه (بدائع ۲۲۴۵)

اوپر فقہاء احناف کا جو یہ قول اُنقل کیا گیا کہ ان کے نزدیک صرف تخلیٰ سے خریدار کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ فقہاء احناف کا ایک قول ہے، ورنہ ومرے قول کے مطابق مکملیٰ و موزوٰنی اشیاء میں قبضہ کی تمامیت کیلئے میع کا کیل و وزن ہو جانا ضروری ہے، قال في البدائع: والدليل على أن الكيل والوزن في المكيل والموزون الذي بيع مكابلة وموازنة من تمام القبض أن القدر في المكيل والموزون معقود عليه إلا ترى أنه لو كيل فازداد لاططيب له الزرادة بل ترد أو يفرض لها ثمن ولو نقص يطرح بحصته شيء من الثمن ولا يعرف القدر فيه إلا بالكيل والوزن (بدائع ۲۲۵۵)۔

## کیا بع قبض کی نہی سے متعلق احادیث معلوم بالعلم ہیں؟

عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ " فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمة" حکیم کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا اللہ رب العزت جو حکم الحاکمین ہے، کیا اس کے کسی حکم کا حکمت سے خالی ہونا ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں تخلیق انسانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

أَفَحِسْتَمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَإِنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ (سورة المؤمنون/۱۱۵)۔  
اے لوگو! کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور تم لوگ ہمارے پاس نہیں اونا نے جاؤ گے؟

باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اس ذات وحدہ لا شریک لے نے انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ہر انسان کو اس نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ باری تعالیٰ سبحانہ کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، البتہ اگر کسی امر خداوندی کی حکمت ہم کو معلوم ہو گئی تو اسے ہم امر معقول کہتے ہیں ورنہ اس حکم کو امر تعبدی کا عنوان دیا جاتا ہے، فما شرعاً إِنْ ظَهَرَتْ حُكْمَتُهُ لَنَا قَلَنا إِنَّهُ مَعْقُولٌ وَإِلَّا قَلَنا إِنَّهُ تَعْبُدِي (رواختار کتاب الصلوٰۃ/۳۳۰)۔

ذکورہ تفصیل کا تقاضا ہے کہ نصوص شرعیہ میں تعلیل کو اصل کہا جائے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کا ہر کام حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ نصوص شرعیہ اور احکام فرعیہ کی بنیاد بھی علتوں پر ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کو بغیر کسی علت کے بیکار مشروع کیا ہے، جو سراسر باطل ہے، لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ فتنہ، اصولیں نے جو یہ قاعدہ تحریر فرمایا ہے کہ:

إِنَّ الْأَحْکَامُ الشَّرِعِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ جَمِيعُهَا إِنَّمَا شَرَعَتْ لِمَصَالِحِ النَّاسِ وَلِعَذَابِ بَنَيَّتْ عَلَيْهَا  
وَمَا شَرَعَ حَكْمٌ مِنْهَا عَبْدًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (أصول الفقه للخلاف/۲۲)۔ نیز اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ مرقوم ہے:  
إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَنَهُ مَا شَرَعَ حَكْمًا إِلَّا لِمَصْلَحةٍ وَإِنَّ مَصَالِحَ الْعِبَادِ هِيَ الْغَايَةُ الْمُقْصُودَةُ مِنْ  
تَشْرِيفِ الْأَحْکَامِ (أصول الفقه للخلاف/۵۸)۔

ذکورہ تصریحات سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ احکام شرعیہ کی بنیاد علتوں پر ہوتی ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن احادیث نبویہ اور اکابر صحابہ کے فتاویٰ میں بع قبض سے منع کیا گیا ہے تو ان میں ممانعت کی علت ضعف ملک ہے، چنانچہ الموسوعۃ الفقہیۃ میں لکھا ہے کہ:

لا يصح بيع البيع قبل قبضه (إلى قوله) لضعف الملك قبل القبض لأنفساً العقد  
بتلفه وهذا المعنى الذي علل به الشافعى النهى عن البيع قبل القبض (الموسوعۃ الفقہیۃ/۱۲۲/۹) ومثله  
في الفقه على المذاهب الأربعة: لا يصح للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه (إلى

قوله) لضعف الملك قبل القبض فلا يصح التصرف في المبيع بالبيع (الفقه على المذاهب الأربع ۱۹۱/۳)۔

اور حضرات حنابلہ کے نزدیک بع قبض کے عدم جواز کی علت بع پر مشتری کی ملکیت کا تامن ہوتا ہے، وعلل الحنابلۃ عدم الجواز على هذه الروایة التي اختارها ابن عقیل من المتهم بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كما لو كان عین معین (الموسوعة الفقیریة ۱۲۲/۹)۔

اور حضرات مالکیہ کے نزدیک بع قبض سے ممانعت کی علت کے سلسلہ میں الفقه علی المذاهب الاربعة میں دو قول مذکور ہیں: ایک قول یہ ہے کہ بع پر قبضہ کر کے بیچنے کے ساتھ بہت سے لوگوں کا نفع وابستہ ہے، مثلاً جو لوگ سامان تو لتے ہیں یا وزن کرتے ہیں، یا اس کو اٹھاتے ہیں، ان کو نفع ہوتا ہے، لیکن اگر بع پر قبضہ کے بغیر ہی اس کو فروخت کر دیا جائے تو نہ کو رو حضرات کا نقسان اور گھٹانا ہوتا ہے اور ان کا نفع ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ممانعت کا حکم تعبدی ہے، یعنی ممانعت کی علت و مصلحت ہم کو معلوم نہیں ہے، وقد قيل في علة النهي إن في قبضه منفعة للعمال إذ يتبعون بكيله وحمله وزنه وغير ذلك بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك المنفعة وقيل إنه تعبدی (الفقه علی المذاهب الأربع ۱۹۲/۳)۔

اور علماً احناف کے نزدیک بع قبض کی علت غرر ہے، کیونکہ قبضہ سے پہلے اگر بع باع ہی کے پاس بلکہ ہو جائے تو عقد بع فتنہ ہو جاتا ہے، پس اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشتری نے جو قبضہ سے پہلے بع کو فروخت کیا ہے، تو گویا اس نے غیر مملوک شی کو فروخت کر کے مشتری ثانی کو دھوکہ دیا ہے، جو شرعاً ممنوع و حرام ہے، چنانچہ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ وابن عباسؓ سے مردی ہے: نهى رسول الله عن بيع الغرر (ابن ماجہ ۱۵۸، ترمذی ۲۳۳، أبو داؤد ۲۷۹، مسلم ۲۲)۔

اور حضرت مولانا مشتی محمد تقی صاحب عثمانی نے بع قبض کی ممانعت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

بع قبض کی ممانعت کا مدار دو وجوہ ہیں یہ ہے:

(۱) قبضہ سے پہلے بع متقدور اشتمیم نہیں ہوتی، لہذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرادے گا، یہ غرر ہے جس کی بنا پر بع جائز نہیں ہے۔

(۲) بع قبض کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے بع باع کے خلاف میں نہیں آتی، اور ربح مالم یضم من جائز نہیں (اسلام اور جدید معیشت ۹۱)۔

اور علامہ طحا وی علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی بع قبض کی علت ربح مالم یضم من ہے (معانی الآثار ۲۰۲) لیکن زیادہ تر علمائے احناف نے بع قبض کی علت غرر (دھوکہ) کو فرار دیا ہے۔

(۵) بع قبض کی ممانعت کا حکم عام مخصوص منه بعض ہے:

بع قبض کی ممانعت با تفاق ائمہ عام مخصوص منه بعض ہے، کیونکہ جب بع قبض کی نہیں سے

متعلق احادیث معلوم بالعادة ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہاں ممانعت کی علت پائی جائے گی وہیں ممانعت کا حکم ہو گا ورنہ نہیں، چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو قبضہ سے پہلے میج کی خریدار فروخت کی ممانعت کی عمومیت کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی بیع کے علاوہ بہت سے دیگر تصرفات قبضہ سے پہلے میج میں جائز ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک قبضہ سے پہلے وقت جائز ہے، بلکہ ان کے نزدیک اگر کسی نے بغیر کیل و وزن کے انکل سے غلہ کو مثلاً گہوں وغیرہ کے ڈھیر کو بغیر کیل و وزن کے انداز سے خریدا تو اس میں خریدار قبضہ سے پہلے تصرف کر سکتا ہے۔

اسی طرح الفقه علی المذاہب الاربعة میں لکھا ہے کہ حضرات شوافع کے نزدیک قبضہ سے پہلے میج میں تصرف کے عدم جواز سے تین صورتیں مستثنی ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ خریدار قبضہ سے پہلے میج کو پہلی اسی قیمت کے عوض بغیر کسی اضافہ کے بالغ کے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میج کا کچھ حصہ بالغ کے پاس تکف ہو جائے تو خریدار تکف شدہ میج کو بالغ ہی کے ہاتھ فروخت کر دے، یعنی بالغ خریدار کو تکف شدہ میج کے مثل ٹھنڈے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز بالغ سے ادھار خریدی اور ابھی خریدار نے بالغ کو ٹھنڈے دیا، اور نہ میج پر قبضہ کیا تو اسی صورت میں بھی خریدار پہلی قیمت پر میج کو بالغ سے فروخت کر سکتا ہے، والیع فی الأحوال الثلاثة يکون إقالة بلقطع البيع فليس بيعاً حقيقة۔

(الفقه علی المذاہب الاربعة ۱۹۲۳)۔

نیز امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک ترکہ میں، اسی طرح ٹھنڈے میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔

لَا يمتع بيعه ما ورثه قبل قبضه (مسلم شریف ۶۲)۔

اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک قبضہ سے پہلے صرف کھانی جائے والی چیزوں کو فروخت کرنا ناجائز ہے ورنہ جائز ہے، لیکن کھانی جانے والی اشیاء کے علاوہ دیگر چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر کسی نے کھانی جانے والی چیزوں کو انکل سے بغیر تو لے اور وزن کئے ہوئے خریدا تو اس کی بیع بھی قبضہ سے پہلے جائز ہے۔

در اصل امام مالک کے نزدیک قبضہ سے پہلے کسی چیز میں تصرف کا عدم جواز و شرطوں کے ساتھ مشروط ہے: پہلی شرط یہ ہے کہ کھانے کی اشیاء کو کوئی عوض دے کر لیا گیا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ کیل و وزن با عدد سے لیا گیا ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس کھانے کی اشیاء بہبہ یا ترکہ میں آئی ہوں تو اس کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر کسی چیز کو انکل سے خریدا ہو تو قبضہ سے پہلے اس چیز کو انکل سے یا تول کر فروخت کرنا شرعاً درست ہے، البتہ اگر کھانے کی اشیاء کو کسی چیز کے عوض کیل سے خریدا تو اس کو قبضہ سے پہلے بچانا انکل سے جائز ہے اور نہ کیل و وزن سے جائز ہے۔ (حاشیۃ الدسوی ۱۵۲، ۱۳۵)۔

اور حضرات حنبلہ کے نزدیک غیر مکملی وغیر موزوفی، غیر معہودی اور غیر مذوقی چیز کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا، رہمن رکھنا، ہبہ کرنا جائز ہے، اسی طرح جن چیزوں کو انکل سے خریدا ہو، ان چیزوں کو قبضہ سے پہلے

فروخت کرنا جائز ہے، البتہ جن چیزوں کو کیل و وزن سے یا ناپ کر یا گن کر خریدا ہو، ان چیزوں کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یاں قبضہ سے پہلے وصیت کرنا یا مال غیر مقبول اور مہر تھہرانا درست ہے۔  
(الفقہ علی المذاہب الاربعۃ ۱۹۲/۲)۔

اور حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بیع غیر منقولی اشیاء کے قبیل سے ہے جیسے زمین، تو اس کی بیع قبضہ سے پہلے جائز ہے، اسی طرح قبضہ سے پہلے ثمن میں تصرف بھی جائز ہے (دیکھئے المسیوط ۳۱۰، بدائع ۲۳۲۵)۔

اور حضرت امام محمد کے نزدیک قبضہ سے پہلے بیع میں تصرف کا ضابط یہ ہے کہ جن تصرفات کی تمامیت کیلئے قبضہ شرط ہے، ان میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے، جیسے قبضہ، صدقہ، رهن، قرض، ائمارہ وغیرہ، اور جو تصرفات قبضہ سے پہلے ہی تام ہو جاتے ہیں جیسے بیع، اجارہ، بدل صلح جو اعیان کے قبیل سے ہوں، ان میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، وضع محمد بن الحسن من الحنفیۃ (لمنع التصرف قبل القبض) هذا الضابط۔

(۱) ان کل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والفرض والإعارة  
ونحوها يجوز قبل القبض۔

(۲) وكل تصرف يتم قبل القبض كالبيع والإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عيناً ونحوها لا يجوز قبل القبض (الموسوعۃ ۱۲۹/۹)۔

اور تقاضی شوکانی کے نزدیک جو تصرفات عوض لے کر کئے جاتے ہیں وہ بیع کے مثل ہیں، البتہ قبضہ سے پہلے ایسے تصرفات کو انجام دینا جائز نہیں ہے، اور جو تصرفات بغیر عوض لئے کئے جاتے ہیں وہ ہبہ کے مانند ہیں، یعنی قبضہ سے پہلے ان کا کرنا جائز ہے، اور اس سلسلہ میں علامہ شوکانی کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ قبضہ سے پہلے وقف کرنا اور غلام کو آزاد کرنا شرعاً جائز ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو تصرف بغیر عوض لئے کیا جاتا ہے، وہ قبضہ سے پہلے انجام دینا جائز ہے، کیونکہ وقف اور غلام کی آزادی کا تصرف بغیر عوض لئے ہوئے ہی کیا جاتا ہے، اور بیع قبل القبض کی ممانعت کی علت شہر بوابی ہے، اور بوابا کا لین دین بھی معاوضات ہی کے اندر ہوتا ہے، البتہ جو معاملہ عوض لے کر کیا جائے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہونا چاہئے۔ (الموسوعۃ الفقہیۃ ۱۳۱/۹)۔

مندرجہ تصریحات علماء وفقہاء سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ بیع قبل القبض کی ممانعت کا حکم عام مخصوص من بعض ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جن حضرات انہی نے بعض صورتوں میں بیع قبل القبض کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کے دلائل کیا ہیں۔

(۶۔۷) بیع قبل القبض کی بعض مروجہ شکلیں:

اگر کوئی شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ اس مال کو فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ بر اور است فیکٹری سے خرید کر مال کو دوسرے خریدار کے پاس

روانہ کر دیتا ہے یا فیکٹری ہی کو دوسرے خریدار کے پاس مال بھیج دینے کا حکم دے دیتا ہے، اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار نمبر (۲) کے پاس یہو شخص سے پہلے اگر درمیان میں مال بلاک ہو جائے تو اس انتصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آئے گی، اور نہ خریدار نمبر (۲) پر، بلکہ یہ پہلے ہی خریدار کا نقصان مانا جائے گا، تو اس صورت میں اگرچہ فیکٹری سے خرید نے والے شخص کا برآہ راست حصی قبضہ تو نہیں ہوا لیکن چونکہ خود خریدار اول نے اپنے توکر کے ذریعہ مال انہوں کو خریدار ثالثی کے یہاں بھیجا یا ہے یا فیکٹری ہی کو اس نے مال بھیجنے کا وکیل بنایا ہے، اس لئے وہ مال خریدار نمبر (۲) تک پہوچنے سے پہلے اسی خریدار اول ہی کے ضمان میں رہے گا، اور اس خریدار اول کا مال پر حکمی قبضہ پایا گیا، اس لئے یہاں نہیں کہا جا سکتا کہ خریدار اول نے مال غیر مضمون سے نفع حاصل کیا ہے، یا اس نے قبضہ سے پہلے مال کو فریخت کیا ہے، بلکہ اس نے مال پر حکمی قبضہ کے بعد مال مضمون سے نفع حاصل کیا ہے، لہذا سوالنامہ کی اس درج شدہ صورت میں فیکٹری کے مالک کو باائع مانے کے ساتھ خریدار اول کو وکیل بالقبض قرار دیا جائے گا، لأن امور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن (بدائع ۵/۲۱).

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی باائع (دوکاندار) سے مال خرید کر اس سے کہا کہ تم ہمارا مال جہاز کے ذریعہ روانہ کر دو، چنانچہ باائع نے ایسا ہی کیا اور وہ مال جہاز پر چڑھا کر اپنے ذمہ سے فارغ ہو گیا، اور مال مشتری کے خیال میں داخل ہو گیا، پھر مشتری نے اپنے پاس مال یہو شخص سے پہلے ہی جبکہ مال مندر میں ہے، ایک تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دیا، اور اس مال کو تیرے شخص کے حکم سے اسی کے پاس بھیج دیا اور درمیان میں مال کے ضائع ہونے کی صورت میں یہ درمیانی شخص مال کا ضامن نہیں ہوتا، اور نہ باائع اول ہی مال کا ضامن ہوتا ہے، بلکہ تیرے شخص ضامن ہوتا ہے، تو شرعاً یہ صورت بھی جائز ہے، لأن فعل المسلم بحسب حمله على أحسن الوجوه ما أمكن (إجماع السنن ۳۲۸، ۱۷) اور مال بردار کمپنی کو تیرے شخص کے حق میں وکیل بالقبض مانا جائے گا، قال في الهندية رجل اشتري كرا من صبرة قال للبائع ..... في جوالقى ودفع إليه الجوالق فعل كان المشتري قابضاً كذا في فتاوى قاضى حان (المكىرى ۱۹/۳) وفيه أيضًا إذا قال المشتري للبائع قل للعبد يعمل لي كذا فامره البائع فعمل صار المشتري قابضاً، كذا في المحيط (المكىرى ۲۰/۳).

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلے میں ائمہ کی آراء

مولانا عبداللہ مظاہری، ہائیکوٹ

بعض قبل القبض کے سلسلہ میں علماء کے اختلاف آراء تحریر کرتے ہوئے صاحب تکملہ رفتح الہمم مولانا نقی

عثمانی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کل پانچ مذهب ہیں:

(۱) حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ تمام اشیاء خواہ منقولات کے قبل کی ہوں یا غیر منقولات کی یا مشروبات و مطعومات کے قبل کی ہوں، بہر صورت قبل القبض ان جمیع اشیاء کی بعض جائز درست ہے، علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ قول مردود ہے اس لئے کہ طعام کی بعض قبل القبض کے عدم جواز پر علماء کا اجماع ہے (تکملہ فتح الہمم ارجمند ۳۵۰)۔

یہ صاحب اعلاء نے بھی ابن المندر کے حوالے سے طعام کی بعض قبل القبض پر اجماع انقل فرمایا ہے: فال ابن المندر أجمع العلماء على أن من اشتري طعاماً فليس له بيعه حتى يقبضه (اعلاء السنن ۲۲۷)

چنانچہ عثمان کی بات قابل اجماع نہیں اور ابن المندر کے دلائل و جوہ کے بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) حضرت امام شافعی اور حنفیہ میں سے امام محمد علی الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کی بعض قبل القبض حرام و ناجائز ہے خواہ از قبل طعام ہو یا غیر طعام ہو، خواہ منقول ہو یا غیر منقول، صاحب عنای فرماتے ہیں کہ یہی مسلک حضرت امام زفر کا ہے اور امام احمد اور امام ابو حیفہ کا یہی قول ہے (بنایہ ۳۲۲) اور صاحب بدایہ الجتہد نے یہی قول امام ثوری علی الرحمۃ کا بیان فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ اور ابن عباس سے یہی مردی ہے (بدایہ الجتہد ارجمند ۳۵۰)۔

(۳) امام احمد بن حنبل کی اظہر روایت یہ ہے کہ قبل القبض فروختگی کی مخالفت صرف اور صرف مطعومات کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ طعام کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں، البتہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی فروختگی قبل القبض جائز درست ہے، البتہ صاحب بدایہ الجتہد نے مطعومات کے ساتھ کیلی اور وزنی کی شرط قرار دی ہے یعنی ایسے طعام جو کیلی یا وزنی ہوں اس کی فروختگی قبل القبض جائز درست نہیں، اور یہی مسلک امام ابو ثور کا بھی بیان فرمایا ہے (بدایہ ۱۰۸)۔

(۴) حضرت امام مالک خاص طور سے مطعومات میں سے کیلی یا وزنی کی بعض قبل القبض کو ناجائز گردانے ہیں، یہ مسلک حضرت مولانا نقی عثمانی صاحب زید مجده نے بیان فرمایا ہے، لیکن صاحب بدایہ (۱۰۸) صاحب الفقہ علی المذاہب الاربع (۲۳۵) صاحب اعلاء السنن (۲۲۷) صاحب بنایہ (۲۲۱) نے کیل و وزن کی شرط بیان نہیں فرمائی ہے بلکہ مطلق طور سے صرف اور صرف طعام کی بعض قبل القبض کے عدم جواز کا قول نقل فرمایا ہے، خواہ کیلی و وزنی ہو یا نہ ہو۔

(۵) حضرت امام ابو حنینہ اور امام یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ تمام منقولات خواہ طعام ہوں یا غیر طعام، کی بیع قبل القبض جائز نہیں، البتہ وہ عقار جس کی ملکت کا اندیشہ نہ ہو اس کی فروختگی قبل القبض جائز و درست ہے (تمامہ فتح المکمل جلد ۱/۳۵۱، فتح التدبری ۹/۱۳۸، اعلاء السنن ۱۲/۲۲۷، بدایۃ الجہد ۱۰۸)۔

**دلائل و وجہ:**

۱۔ حضرت امام شافعی، امام محمد اطاق حدیث سے استدلال کرتے ہیں مثلاً: قوله عليه السلام لا يحل بيع و سلف ولا زبح ماله يضم ولا بيع ما ليس عندك اسی طرح حکیم بن حزام کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں اقال قلت يا رسول الله ای اشتري بيعا فاما يحل لى منه او ما يحرم ؟ فقال يا ابن أخي اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تفهيده

ان تمام احادیث کے اطلاق سے یہ لوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس میں منقول اور غیر منقول کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا تمام چیزوں کی بیع قبل القبض جائز نہیں، بلکہ یہ لوگ غیر منقول اشیا کو منقول پر قیاس کر کے بھی جمیع چیزوں میں قبل القبض بیع کے عدم جواز کا قول فرماتے ہیں، وہ اس طور سے کہ جس طرح اشیائے منقول کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے اسی طرح شیء غیر منقول کی بھی بیع جائز نہیں اور ان دونوں میں علمت جامع میں کا غیر مقبول ہونا ہے۔

۲۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک رحمہما اللہ کا استدلال ان ہی حدیثوں سے ہے جن میں صراحت طعام کا الفاظ ذکر کیا گیا ہے اور قبل القبض اس کی فروختگی کی ممانعت آئی ہے مثلاً: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی يستوفيه، وسری حدیث: نہیں ان یہ بیع احد طعاما اشتراہ بکیل وزن حتی يستوفيه، تیسری حدیث: من اشتري طعاما فلا يبعه حتی يقبضه وغیرہ طریق استدلال یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خاص طور سے طعام کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا منوع قرار دیا ہے، اب اگر یہ ممانعت طعام کے ساتھ مخصوص نہ ہو تو اسی صورت میں خصوصیت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا، معلوم ہوا کہ صرف طعام کی بھی بیع قبل القبض ناجائز ہے۔

۳۔ امام ابو حنینہ اور حضرت امام ابو یوسف علیہما الرحمۃ کا استدلال بھی متعدد احادیث ہے۔ مثلاً حضرت ابن عمرؓ کی حدیث قال قال رسول الله ﷺ لا يحل سلف و بيع ولا شرطان فی بيع ولا زبح مالا يضم ولا بيع ما ليس عندك

اسی طرح حضرت حکیم بن حزام کی حدیث قال الشیء لا تبیعن شيئاً حتی تقبضه، اسی طرح زید بن ثابتؓ کی حدیث نہیں ان تباع الملع حيث تباع حتی يحوزها التجار الى رحالهم، ان ہی جیسی حدیثوں سے حضرات شیخین نے استدلال فرماتے ہوئے طعام وغیرہ کی شخصیت کے بغیر قبل القبض فروختگی کے عدم جواز کا قول فرمایا ہے، اس لئے کہ یہ تمام حدیثیں ہر قسم کے سامان کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اس میں کسی خاص میمع کا

تذکرہ نہیں ہے، تاہم اس عمومیت نبی سے غیر منقول یعنی عقار وغیرہ کی بیع قبل القبض کا استشاف فرمایا ہے اور ذکر کو رہ  
حدیثوں کو صرف منقول اشیاء کے ساتھ خاص کر دیا ہے اس لئے کہ حدیث نبی تو معلوم بعلة ہے.... اور یہ علت صرف  
منقول میں پائی جاتی ہے، غیر منقول میں نادر ہے جس کا شریعت میں کوئی اختصار نہیں، اس طور سے کہ قبل القبض ممانعت  
ان ہی چیزوں میں ہے جن کی بلاکت کی صورت میں عقداً اول کے فتح ہو جانے کا خوف دھوکہ ہوا اور یہ دھوکہ شے منقول  
ہی میں غالب ہے غیر منقول میں غالب نہیں بلکہ نادر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی زمین سند رکے کنارو پر ہو یا منبع گھر کی وہ سری منزل ہو تو قبل القبض فروخت کرنے  
کی اجازت نہیں اس لئے کہ یہاں بھی بلاکت کا اندر یہ ہے، اب اگر قبل القبض بیع کے جواز کا قول کہا جائے تو اس  
صورت میں غیر کی ملکیت کا فروخت کرنا یا غر لازم آئے گا، کیونکہ جب کوئی سامان آپ نے خرید کر ابھی قبض نہیں کیا  
اور وہ چیز ہلاک ہو گئی تو آپ کے درمیان کا عقد فتح ہو گیا اب اگر آپ اسی چیز کو وہ سرے کے باٹھ فروخت  
کرتے ہیں تو گویا وہ سرے کی چیز کو فروخت کر رہے ہیں اور بلاکت کے علم نہ ہونے کی صورت میں اپنی چیز ہونے والے  
ہونے کا غر اور دھوکہ ہے جس سے حدیث میں ممانعت آئی ہے، لہذا قبل القبض منقولات کی بیع جائز نہیں اور رہی بات  
غیر منقولات کی تو اس میں بلاکت نادر ہے جو شرعاً غیر معتبر ہے اب اگر قبل القبض فروخت کریں تو اپنی ملکیت یعنی طور پر  
فروخت کرنے والے ہوں گے چنانچہ شیخ بن حنفیہ اس کی بیع قبل القبض کے جواز کا قول فرمایا۔ (کفاية فتح القدر، فتح  
الملهم وغیرہ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں)۔

### ممانعت کی حدیث معلوم بعلة ہے:

وہ تمام احادیث جن میں قبل القبض خرید و فروخت کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ معلوم بعلة ہیں چنانچہ  
صاحب اعلا، السنن فرماتے ہیں ان ابا حنيفة و ابا يوسف حصا النصوص بالمنقول بعلة النهي وهو  
غرض انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض (اعلاء السنن ۲۲۲/۱۷) یعنی حضرت امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسف  
نے منقولات کے ساتھ عدم جواز کو اس لئے خاص کیا ہے کہ ممانعت کی حدیث معلوم بعلة ہے اور علت صرف منقولات  
میں پائی جاتی ہے غیر منقولات میں نہیں پائی جاتی، صاحب بدایہ اور صاحب تہمین نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ  
ممانعت کی حدیث معلوم بعلة ہے اور علت یہ ہے کہ قبل القبض بلاکت کی صورت میں عقداً اول کے فتح ہو جانے کا دھوکا  
اور غرہ ہے اس طور سے کہ بقدر کرنے سے پہلے مجع ہلاک ہو جائے تو باائع اور مشتری کے درمیان عقد فتح ہو جانے کا اور وہ  
چیز باائع کی ملکیت میں عور کر آجائے گی مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکے گی اب اگر مشتری کو بیع کی بلاکت کا علم نہ ہو  
اور بیع کو فروخت کر دے تو غیر کی چیز کو فروخت کرنے والا لازم آئے گا لیکن اگر بقدر کر چکا ہے تو فروخت کرنے میں اپنی  
چیز کا فروخت کرنے والا ہو گا، توجہ بقدر کرنے سے پہلے پڑتی نہیں کہ بیع تام ہوئی یا نہیں اب اسی صورت میں  
فروخت کر دے تو اپنی چیز کو فروخت کرنے والا ہو گا یا بلاکت کی وجہ سے عقداً اول فتح ہو گیا ہو غیر کی چیز کا فروخت کرنے  
والا ہو گا اور یہی غر اور دھوکہ ہے جبکہ یہی کریمہ ﷺ نے غر اور دھوکے سے منع فرمایا ہے لیکن اگر متعین ہے کہ بقدر سے پہلے

میں ہلاک نہیں ہو گی جیسے عتارز میں وغیرہ تو قبل القبض بیع جائز ہے اس لئے کہ یہاں اپنی ملکیت کا بیچنے والا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے اور حدیث کے معلول بعلة ہونے پر دلیل بھی موجود ہے، مثلاً تمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف بیع وغیرہ باکل جائز ہے اس لئے تمن میں بلاکت کا اندیشہ نہیں کیونکہ وہ مشتری کے ذمہ میں باقی رہے گا، (یعنی واجب رہے گا اور وہ ہلاک نہیں ہو سکتا ہے) اسی طرح یہوئی کا مہر شوہر کے اوپر ہے اور یہوئی نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے لیکن اس مہر میں کچھ تصرف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ یہاں بلاکت کا اندیشہ نہیں، اسی طرح میراث پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر تصرف بیع کرنا چاہے تو جائز و درست ہے اس لئے کہ فتح مقدمہ کے ذریعہ بلاکت وغیرہ کا اندیشہ نہیں، حاصل یہ ہے کہ حدیث معلول بعلة ہے اور وہ ملت قبل القبض بلاکت کی وجہ سے عقد اول کے فتح کا غررا و راحوک ہے نیز حدیث کے معلول ہونے پر حضرت عبد اللہ بن عمر کی حدیث بھی دلیل ہے بلکہ اس میں قبل القبض بیع کے عدم جواز کی عملت بھی جناب نبی کریم ﷺ نے خود بیان فرمادی اور کہا لا ربح مالم یضم بیع بیع تک ثمان و احرار میں نہ آئے فائدہ حاصل کرنا حال نہیں، اور وہ چیز جو غالباً ہلاک ہو جاتی ہے وہ بعیدہ قبضہ کے ہوئے ثمان و احرار میں نہیں کر سکتی اور وہ اشیاء منقولہ ہیں نہ کہ غیر منقولہ لہذا عدم جواز صرف منقولہ کے ساتھ خاص ہو گا عام نہیں ہو کا و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### قبل القبض بیع کے مسائل اور اس کے احکام:

اشیاء منقولہ پر قبضہ کے بغیر فروخت کر دینا ناجائز ہے اور حضرات اخناف کے نزدیک اس کا شمار بیع فاسد میں ہوتا ہے جیسا کہ مسلک حنفی کی ترجمانی کرتے ہوئے صاحب الفقه علی المذاہب الاربعہ بیان فرماتے ہیں الحنفیہ قالوا فی البيع الفاسد بیع الأعیان المنقولۃ قبل قبضہا (الفقہ المذاہب الاربعہ) چنانچہ قبل القبض بیع و شراء کے احکام ذکر کئے جانے سے پہلے قبضہ کی حقیقت از روئے شرع بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس پر احکام کی تفریق ہو سکے۔

### حقیقت قبضہ:

جاننا چاہئے کہ اختلاف اشیاء کے انتصار سے حقیقت قبضہ میں بھی انہی کا اختلاف ہو گیا ہے، لہذا حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام محمد اور حضرت امام شافعی کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اشیاء غیر منقولہ مثلاً دار واراثتی، اس پر قبضہ کی حقیقت صرف تخلیہ ہے یعنی باائع کا میع کو مشتری کے لئے اس طرح چھوڑ دینا کہ وہ آزادانہ اس پر تصرف کر سکے لیکن اشیاء منقولہ کے سلسلے میں باہم انہی میں اختلاف ہو گیا ہے حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ تمام منقولات کے لئے قبضہ کی حقیقت لقل و تحویل مع اخليہ ہے یعنی تخلیہ کے ساتھ ساتھ جہاں سے خریدا ہے وہاں سے دوسرا جگہ لے جانا قبضہ کہلاتا ہے (اعلام السنن) لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ دراهم و دناییر میں قبضہ کی حقیقت ہاتھ سے پکڑ لینا ہے اور کچھ یا مطعومات کی مجاز فہرست میں حقیقت قبضہ لقل و تحویل ہے اور کسی چیز کو ناپ کر خریدنے کی سورت میں قبضہ بذریعہ ناپ ہو گا اور غلام اور جانوروں کو خریدنے میں اس کی جگہ سے لے آنا قبضہ کہلاتے ہے (بدائع الصنائع ۲۲۶)

البت امام الائمه حضرت امام ابوحنینیہ اور آپ کے جمیع اصحاب کے نزدیک بلا تغیریق منقول وغیر منقول میں حقیقت قبضہ تخلیہ اور مشتری کے لئے آزادانہ طور پر تصرف کرنے کی قدرت دیدیا ہے، چنانچہ صاحب بدائع فرماتے ہیں: لا خلاف بین اصحابنا فی أصل القبض يحصل بالتخلية فی سائر الأموال.

دوسری جگہ حقیقت قبضہ کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب بدائع نہایت اچھوتے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ قبضہ کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ ساتھ میں لے لینے کی شرط ہو بلکہ عرف وعادت کے مطابق صرف مشتری کو تصرف کی قدرت دیدیں اور اس کے لئے موقع کو ختم کر دینے کا نام قبضہ ہے لا یشرط بالبراجم لأن معنی القبض هو التمکین والتخلي وارتفاع المواقع عرفاً وعادةً اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تسلیم نام ہے کسی کے لئے کسی چیز کو خالص اور خاص کر دینے کا کہا جاتا ہے یہ سلیم فلاں لفلان ای خلص لہ، تو مبیع کو مشتری کے سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمیع کو مشتری کے لئے اس طرح خالص کر دیا کہ غیر کو اس میں تازع کا حق نہ ہو اور یہ چیز تظییہ سے محاصل ہے لہذا قبضہ و تقسیم کی تعریف تخلیہ سے کرنا درست ہے۔ صاحب تکملہ فتح المهم قبضہ کی تعریف میں فرماتے ہیں: أما القبض فهو أن ياتي الشيء في أحرازه وضمائه ، قبضہ صرف حفاظت وزمان واري میں آنے کا نام ہے، اس تعریف اور صاحب بدائع کی بیان کردہ تعریف میں بظاہر کوئی فرق نہیں اس لئے کہ جب بائع اشیاءً مبیعہ کا تخلیہ کر کے مشتری کے لئے خالص کر دے اور اس کو آزادانہ تصرف کرنے کی قدرت دیوے تو یقیناً وہ چیز مشتری کے زمان واحراز میں آجائے گی اور بائع کے زمان واحراز سے نکل جائے گی اور اس پر فقة کا جزو یہ بھی موجود ہے خود صاحب بدائع فرماتے ہیں: إن باع مكایلة أو موازنة في المكيل والموزون وخلی فلا خلاف فی أن المبيع بخرج بحق ضمان البائع وبه حق فی ضمان المشتری.

حاصل کلام یہ ہے کہ عرف وعادت کے مطابق جس طرح بھی اشیاءً مبیعہ بائع کے زمان سے نکل کر مشتری کے زمان میں داخل ہو جائیں اور اس طرح خالص ہو جائیں کہ غیر کا تازع نہ ہو سکے از روئے شروع قبضہ کہلانے کا، البت خلاف اشیاء کے صرف پر غور کرتے ہوئے قبضہ کی دو قسمیں ہیں (۱) قبضہ کامل (۲) قبضہ ناقص۔

قبضہ کی دونوں قسموں میں بیع بائع کے زمان سے نکل کر مشتری کے زمان میں داخل ہو جاتی ہے لیکن قبضہ تمام کی صورت میں تصرف بیع کی اجازت نہیں ہوتی ہے اب اختلاف اشیاء کی صورت میں کامل اور ناقص کے ماہین فرق کی تفصیل حسب ذیل ہے:

اشیاء، غیر مثلى جیسے تمام مذروعات کے قبیل کی چیزیں مثلاً کپڑا اور غیرہ یا معدودات متفاوتہ جیسے جاؤر وغیرہ یا اشیاء، مثلى جو کیل و وزن سے فروخت نہ کی گئی ہوں بلکہ اندازے سے فروخت کی گئی ہوں، ان تمام چیزوں میں صرف تخلیہ اور مشتری کے زمان میں داخل ہو جانے سے بالاتفاق قبضہ تمام کا حصول ہو جاتا ہے، اور مشتری کو دوبارہ تماریا وزن وکیل کے بغیر رقم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے جیسا کہ صاحب بدائع بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، فیان کان مملا مثلاً له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض تمام بلا خلاف

حتیٰ لو اشتري ملروغاً أو معدوداً مدارعة أو معاددة ووجدت التخلية بخرج عن صمان البالع وبحوز له بیع والاسفاع به قبل الذرع والعدد (بدائع ۲۲۲/۵) اور اشیائے مثلی یعنی مکملی اور موزوںی چیزیں جو وزن وکیل کے ذریعہ فروخت ہوتی ہوں تو کسی کے صرف تکلیف سے باع کے نہان سے نکل کر مشتری کے نہان وحافظت میں داخل تو ہو جائیں گی لیکن صرف حفاظت و نہان میں آئے سے قبضہ تمام حاصل نہ ہو گا بلکہ قبضہ تمام کے لئے مشتری کا دوبارہ کہیں وزن گرانا ضروری ہو گا اس کی پیادگی وجہ یہ ہے کہ جو مکملی اور موزوںی چیزیں کیل اور وزن کے انعام سے خریدی گئی ہوں ان میں مقدار معموقہ علیہ ہوتی ہے بھی وجہ سے کہ اگر مقدار سے زائد ہو جائیں تو ان کا لینا جال ممکن بلکہ واپس کرنا یا اس کا نہن دینا ضروری ہے اور اگر کم ہو جائیں تو نہن کی اتنی مقدار کم کر دینا چاہئے ہے۔

اور مقدار کی معرفت کیل وزن کے ذریعہ ہی مقصود ہے اب اگر کیل وزن نہ لیا جائے تو مقدار سے کم یا زائد ہونے کے اختلاف کی وجہ سے معموقہ علیہ کی مقدار پر کامل قبضہ متحقیق نہیں ہو گا لیکن دوبارہ کیل وزن کر لیا جائے تو کامل قبضہ کے لئے مثلی اشیاء کو جو کیل وزن کے ذریعہ فروخت کی جائیں دوبارہ کیل وزن گرانا ضروری قرار دیا کیونکہ جس طرح اشیائے معموقہ کی بیان بالکل قبضہ ہونے کی صورت میں ناجائز ہے اسی طرح ناقص قبضہ کی صورت میں بھی ناجائز ہے اس لئے کہ حدیث نبوی ﷺ نہیں غیر مالم یقین میں مطلق قبضہ ہونے کی صورت میں ممانعت آئی ہے اور مطلق قبضہ سے قبضہ کامل ہی مراہبے (بدائع ۲۲۳/۵)۔

البتہ وہ چیزیں جو غیر مثلی ہوں، مثلاً مزروعات وغیرہ کے قبیل کی چیزیں تو یہاں مقدار معموقہ علیہ نہیں ہے بلکہ وصف کے قائم مقام ہے اور اہضاف معموقہ علیہ مبنی گی عملاً ہیت نہیں رکھتے، بھی وجہ ہے کہ اگر متعین مقدار سے زائد ہو جائے تو وہ مشتری کا ہوتا ہے اور اگر کم ہو جائے تو نہن میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، اس لئے وہاں صرف مشتری کے نہان میں آئے سے قبضہ تمام کا حصول ہو جاتا ہے دوبارہ شمار یا پیمائش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی (بدائع الصنائع ۲۲۵) یہ سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ہمارے اصحاب احتجاف کا کوئی اختلاف نہیں تاہم اشیاء مثلی میں سے معدودات متقارب ہو چکے انتہار سے خریدی جائیں ان پر قبضہ تمام کی کیفیت کے حصول میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین علیہما الرحمۃ اختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہ اس کو بھی اشیاء، مکملی و موزوںی کے تحت داخل فرمائ کر قبضہ تمام کے لئے دوبارہ مدد و شمار کی شرط متعلق فرماتے ہیں، اس کے برخلاف حضرات صاحبین علیہما الرحمۃ ان کو اشیاء نے غیر مثلی کے تحت رکھ کر قبضہ تمام کے لئے صرف بالع کے نہان سے نکل کر مشتری کے نہان میں آجانا کافی سمجھتے ہیں، دوبارہ نہن شمار کرنے کی شرط متعین نہیں کرتے اور دلیل قیاس کے ذریعہ پیش فرماتے ہیں کہ معدودات متقارب کی قبیل کی چیزیں دربوی نہیں ہیں جس طرح از قبیل مزروعات اشیائے ربوی نہیں ہیں، بھی وجہ ہے کہ اس میں جواز عقد کے لئے مساوات کی شرط نہیں رکھی جاتی جس طرح سے مزروعاتی چیزوں میں مساوات کی شرط نہیں رکھی جاتی، تو جو حکم از قبیل مزروعات اشیاء، ٹاہوکا وقت حکم معدودات متقارب کا بھی ہو گا، لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معدودات کی چیزوں میں بھی قدر معموقہ علیہ ہے اور اس کی معرفت دوبارہ شمار کرنے سے ہی ہوگی اگر دوبارہ شمار نہ کیا جائے تو قبضہ کامل نہ ہو گا

بلکہ ناقص ہوگا، جس طرح مکملات اور موزونات کی چیزوں میں قدر معقول علیہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عدد متعین سے زائد ہو جائے تو اس کو بلائم دئے ہوئے مشتری اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا اور کم ہونے کی صورت میں اتنی مقدار میں سے کم کرنے کا حق رکھتا ہے، معلوم ہوا کہ قبضہ تام کے لئے دوبارہ شمار کرنا ضروری ہے (حوالہ سابق)۔

صاحب بداع نے امام ابوحنیفہ کے قول دلیل کو اخیر میں ذکر فرمائ کر اس کی راجحیت کی طرف اشارہ فرمایا جیسا کہ اصول سے معلوم ہوا۔

مذکورہ بالتفصیل سے حسب ذیل باتیں سامنے آئیں:

(۱) اشیاء غیر مثلى میں صرف تخلیہ سے قبضہ تام ہو جاتا ہے لہذا دوبارہ پیمائش و شمار کئے بغیر مشتری رقم کا تصرف کر سکتا ہے اور یہی حکم اشیاء مثلى کا ہے جب بغیر کیل اندازہ سے پیچی جائے۔

(۲) اشیاء مثلى یعنی ملکی و موزونی سے اگر وزن و کیل کر کے پیچی جائے اور اندازہ سے نہ پیچی جائے تو صرف تخلیہ سے بیع باائع کے خان سے نکل کر مشتری کے خان میں داخل ہو جائے گی مگر قبضہ تام حاصل نہ ہوگا اس لئے دوبارہ کیل وزن کرنا ضروری ہوگا اس کے بعد ہی تصرف بیع وغیرہ کی اجازت ہوگی۔

(۳) معدودات متقاربہ جو شمار کر کے پیچی جائیں میں اندازے سے نہیں مثلاً اندازے وغیرہ تو ایسی چیزیں مختلف فیہ ہیں، امام ابوحنیفہ کے نزدیک قبضہ تام کے لئے دوبارہ شمار کرنا ضروری ہوگا، تب ہی تصرف کی اجازت ہوگی، تاہم صاحبین کے نزدیک صرف تخلیہ سے قبضہ تام ہو جائے گا اور تصرف بیع وغیرہ کرنے کی اجازت ہوگی، دوبارہ شمار کرنا ضروری نہیں۔

اب اسی اصول کو سامنے رکھ کر موجودہ زمانہ کی تمام تجارتیں کو دیکھنا ہوگا کہ آیا مروجہ تجارت میں بالکل قبضہ نہیں پایا جاتا یا پایا جاتا ہے، اور قبضہ تام ہے یا ناقص، تو بندہ نے اس سلسلے میں باضابطہ کمپنی والوں سے مل کر مروجہ تجارت کی حقیقت کچھی اور انہوں نے مال فروخت کرنے کے دو طریقے بیان فرمائے (۱) فورڈشمینیشن - (For-Destenation) (۲) ایکس فیکٹری (Ex-Factory) سوال میں ذکر کردہ صورت تجارت کا تعلق اسی "ایکس فیکٹری" سے ہے جس کے احکام بعد میں درج ہوں گے، پہلے فورڈشمینیشن (For-Destenation) کی حقیقت اور ادکام درج کئے جاتے ہیں۔

### (۱) فورڈشمینیشن (For-Destenation):

کی صورت یہ ہے کہ جب دکاندار کمپنی کو فورڈشمینیشن کے ذریعہ اپنے خریدار کے پاس مال بھیجنے کو کہتا ہے تو کمپنی خریدار نمبر (۲) کو دکاندار کے توسط سے روانہ کر دیتی ہے لیکن یہ مال دکاندار نمبر (۲) کے پاس پہنچنے تک کمپنی ہی کے قبضہ اور خان میں رہتا ہے کسی وقت بھی دکاندار کے قبضہ میں نہیں جاتا، لہذا اور میان میں مال ہلاک ہو جائے یا سیز (Seize) کر دیا جائے بہر صورت کمپنی کی ملکیت میں ہلاک ہوگا دکاندار پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔

اب اس طریقہ تجارت پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فورڈشمینیشن (For-Destenation)

کے ذریعہ مال خریدار نمبر (۲) کے پاس بھجوانے میں دکاندار کا نہ تو صی قبضہ ہو ساتا ہے اور نہ معنوی، بلکہ قبضہ اور رضامن میں آنے سے قبل بھی مال سے منفعت حاصل کر لیتا ہے جواز روئے شرع ناجائز و حرام ہے، جیسا کہ حدیث بنویں ﷺ سے معلوم ہوتا ہے عن حکیم بن حرام قال سنت اشتری طعاما فاربح فيه قبل ان أقضه فسألت السی سلسلہ فقال لا تبعه حتى تقبضه (طحاوی شریف ۲۱۲، ۲) لہذا دکاندار کا فوراً سمجھیش کے ذریعہ خریدار نمبر (۲) کے پاس مال بھجوا کر منفعت حاصلی کرنا جائز نہیں ہو سکا، البتہ بیع کی اس قسم کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ دکاندار بعضی خریدار نمبر (۲) کو صرف دلال اور راہبران لیا جائے اور بیع کی نیکتری میں معین شدہ رقم سے زائد کو دلال کی اجرت مان لی جائے تو ایسی صورت میں اصل خریدار نمبر (۲) اسی ہوگا اور دکاندار صرف ایک وسیلہ ہوگا اور قبل القبض بیع کا تحقق نہیں ہوگا۔

#### (۲) ایکس فیکٹری (Ex-Factory):

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب دکاندار کمپنی یا نیکٹری سے تیلیفون کے ذریعہ خرید و فروخت کرتا ہے اور ایکس فیکٹری کے ذریعہ اپنے خریدار کے پاس مال بھیج کر رکھتا ہے تو کمپنی دکاندار کے توسط سے اس کے خریدار کے پاس مال بھیج دیتی ہے لیکن کمپنی اور فیکٹری کا اس خریدار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ دکاندار اسے ہوتا ہے، لہذا جب تک مال کمپنی کے پاس ہے کمپنی کا شمار ہوتا ہے اور جیسے ہی کمپنی نے ٹرانسپورٹ کے گذاؤن (Godown) میں پہنچا دیا گویا دکاندار کے گذاؤن میں پہنچا دیا، اب مال بلاک ہو جائے یا سیز (Seize) کر دیا جائے، سب دکاندار کی خمائی و ملکیت میں ہوگا اور اسی کا مال بلاک ہوگا، اگر دکاندار بلاکت کے بعد عدم تعلق کا انہصار کر کے عائد ہونے والے تقاضاں سے بری ہونا چاہیے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے مال ایکس فیکٹری (Ex-Factory) کے ذریعہ بھجوایا ہے جو تاجر و ملکیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ مال کمپنی کی خمائی و ملکیت سے انکل کر دکاندار کی خمائی و ملکیت میں جا پکتا ہے، لہذا تقاضا اس سے ہی اٹھانا پڑیں گے، اب یہ صورت مروج جو سوال نامہ کا ایک جزو ہے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاکت مال کی صورت میں (عقد اول کے فتح کا غرر) جو عقیق قبل القبض کے منوع ہونے کی علت ہے مفقوڈ ہے، نیز قبل القبض بیع کی علت کو حضرت ابن عمرؓؓ کی حدیث لا بحل ربع مالا يضم (بیع کا ضمان میں آنے سے قبل نفع حاصل کر لیتا حلال نہیں ہے) یہ بھی موجود نہیں، اس لئے کہ معنوی طور پر عرف و عادت میں موجود ہے، کیونکہ بیع دکاندار کی خمائی میں آچکی ہے اگرچہ صی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے صی قبضہ کو شرط قرار نہیں دیا بلکہ عرف و عادت میں جس کو قبضہ کہا جاتا ہے اس کا بھی اعتبار کیا ہے، جیسا کہ قبضہ کی تعریف میں علامہ کاسانی سے لفظ کیا گیا ہے لآن معنی القبض هو التمكين والتحلى وارتفاع المواقع عرفا وعادة اور يبيان عرفا وعادة

ایکس فیکٹری کے ذریعہ مال بھیجا تا جوں کی اصطلاح میں قبضہ شمار ہوتا ہے تو گویا مال دکاندار کے قبضہ میں ہو نجٹے کے بعد پھر اس کے خریدار کے پاس چاہا ہے، لہذا دکاندار کے ضمان میں آکر اس کے خریدار کے پاس جانا "ایجاد" اور خریدار نمبر (۲) کو اس کو چھڑا لینا "قبول" اور اس تاویل کے ذریعہ بیع جائز ہے اور جس وقت خریدار نمبر (۲) نے دکاندار سے بات چیت کی تھی اس کو ایجاد تسلیم نہ کیا جائے اس لئے کہ اس وقت دکاندار کے پاس بیع موجود نہیں تھی اور اسی

صورت میں ایجاد و قبول یعنی (بیع درست نہیں) حاصل یہ ہے کہ اس طریقہ تجارت کو اس طریقہ سے جائز کیا جائے گا۔ لیکن مذکورہ بالا میں اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ایکس فیکٹری (Ex-Factory) کے ذریعہ قبضہ کا حصول کن چیزوں میں قبضہ تام بولکر بیع کی اجازت دیتا اور کن چیزوں میں قبضہ ناقص ہونے کی وجہ سے بیع کے ناجائز ہونے کا باعث ہے۔

لہذا مذکورہ اصول نمبر (۱) کے مطابق اشیائے غیر مثالی یعنی معدودات متفاوتہ مزروعات میں صرف اور صرف بیع ضمان میں آجائے سے قبضہ تام حاصل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے تصرفات کی اجازت ہو جاتی ہے چنانچہ دکاندار کے لئے اشیاء غیر مثالی، انار، بھی، کپڑے جیسی مزروعی اور معدودات متفاوتہ کی بیع ایکس فیکٹری کے ذریعہ جائز و درست ہوگی کیونکہ اس طریقہ سے اشیاء دکاندار کے ضمان میں آجائی ہیں اور ان چیزوں میں صرف ضمان میں آجائے سے قبضہ تام ہو جاتا ہے۔

لہذا بیع جائز ہوگی اور منفعت بھی درست ہوگی اور یہی حکم اشیاء مثالی میں سے ان چیزوں کا ہوگا جو بلانا پ توں صرف اندازہ سے پچی جائیں۔


البتہ اشیاء مثالی میں وہ چیزیں جو بلانا پ توں کے ذریعہ پچی جائیں اس طریقہ تجارت سے جائز نہیں ہوں گی اور منفعت حاصل کرنا بھی درست نہیں ہوگا، ان چیزوں کا دکاندار کے صرف ضمان میں آجانا قبضہ تام اور تصرف کے لئے کافی نہیں، بلکہ ضمان میں آنے کے بعد مشتری کا دوبارہ کیل و وزن کر لینا قبضہ تام اور تصرف بیع کے لئے ضروری ہے اور یہاں دکاندار کے ضمان و قبضہ میں اگرچہ ایکس فیکٹری کے ذریعہ مال آپکا ہے، مگر دوبارہ وزن یا کیل کے بغیر خریدار نمبر (۲) کے پاس جا رہا ہے لہذا جائز نہیں واللہ اعلم با الصواب۔

اور بات روی عدد متفاہی، اخروت، اندے جیسی چیزوں کی جو عدد کے ذریعہ پچی جائیں تو ایکس فیکٹری کے ذریعہ امام صاحبین کے نزدیک جائز ہوں گی، کیونکہ قبضہ تام صرف ضمان میں آجائے سے ہو جاتا ہے اور وہ یہاں موجود ہے، لیکن امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں، اس لئے کہ دوبارہ شمار کرنا ضروری ہے اور اس صورت میں تجارت موجود نہیں۔

ہندہ کا خیال ہے کہ لوگوں کو مشقت سے بچانے اور اس پر تعامل الناس ہونے کی وجہ سے اس صورت میں حضرات صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا چاہئے۔

اسی وضاحتی تفصیل سے ہین الاقوامی تجارت کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ شپنگ کے بعد اگر خریدار نمبر (۱) کے ضمان و قبضہ میں آنے والی ایسی چیزیں ہیں، جن پر قبضہ تام صرف ضمان میں آجائے سے حاصل ہو جاتا ہے تو بیع جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم با الصواب



## بيع قبل القبض

مولانا عبد الله جولم

### معنى القبض في اللغة:

القبض في اللغة بمعنى الأخذ ، قال الجوهرى: قبضت الشئ قبضاً أخذته ، وقال ابن منظور: والقبض التاول للشئ بيدك ملامسة .  
وبمعنى الجمع: ومنه قبض الطائر جناحه ، جمعه ، وقال ابن منظور: والقبض تحويلك المtauع إلى حيزك ، وبمعنى التملك قال الجوهرى: يقال صار الشئ في قبضتك أى في ملكك ، وقال ابن الأعرابى: القبض قبولاًك المtauع وإن لم تحوله .  
والقبض خلاف البسط منه قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط ) ( سورة البقرة / ٢٣٥ ) ( الصاحح ، لسان العرب ).

### معنى القبض في الاصطلاح:

اتفق العلماء على أن القبض في الأشياء غير المنقوله يكون بالتخلية بينها وبين من يستقل به الملك بحيث يتمكن من الانتفاع به ( بدائع الصنائع ٢٣٣ / ٥ ، المجموع ٢٨٣ / ٩ )

أما في المنقوله تختلفوا فيه إلى قولين:

١. ذهب الحنفية إلى أن القبض في كل شئ يكون بالتخلية ، ثم فرقوا بين القبض التام والقبض الناقص ، قال الكاساني: لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية فيسائر الأموال واختلفوا في أنها هل هي قبض تام فيها أم لا؟ وجملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما أن يكون مملاً له مثل ، وإما أن يكون مما لا مثل له ، فإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف ، وإن كان مما له مثل حتى لو اشتري مذروعات مذارعة أو معدوداً معاددة ووجدت التخلية يخرج عن ضمان البائع ويجوز له بيعه والانتفاع به قبل الدفع والعد بلا خلاف ، وإن كان مما له مثل فإن باعه مجازفة فكذلك لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة ، وإن باع مكايلاً أو موازنة في المكيل والموزون وخلال فلا

خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتري، حتى لو هلك بعد التخلية قبل الكيل والوزن بهلك على المشتري، وكذا لا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه والانتفاع به قبل الكيل والوزن (بدائع الصنائع ٥/٢٣٣).

والخلاصة أن المشتري يملك جميع أنواع التصرف في القبض التام، بخلاف القبض الناقص فإنه يصير ضاماً فيه ولكن لا يصح له التصرف فيه.

والقول بأن القبض في جميع الأشياء التخلية، نقله النووي عن الإمام مالك (المجموع ٩/٢٨٣) وهو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة: "وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز" (المغني ٣/٢٥).

٢. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التخلية في المنقول لا تكون قبضاً، وإنما القبض في المنقول بالنقل، وفي المتناول باليد بالتناول، وفي المكيل والموزون بالكيل والوزن، قال الإمام الشافعى: "ومن ابتاع طعاماً كيلاً فقبضه أن يكتاله، ومن ابتاع جزاً فقبضه أن ينقله من مواضعه إذا كان مثله ينقل" (الأم ٣/٣٠).

وقال النووي: "قال أصحابنا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام، أحدها: العقار والثمر على الشجرة فقبضه بالتخلية، والثاني: ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ونحوها فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، والثالث: ما يتناول باليد كالدرارهم والدنانير ..... فقبضه بالتناول بلا خلاف (المجموع ٩/٢٧٥) وقال ابن قدامة: "وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه" (المغني ٣/٢٥)، وقال البهوتى: "ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع بذلك، أي بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع ..... ويحصل القبض في صيرة بنقلها، ويحصل القبض فيما ينقل كالثياب والحيوان بنقله كالصبرة ..... ويحصل فيما يتناول كالأثمان والجوائز بتناوله، إذا العرف فيه ذلك" (كتشاف القناع ٣/٢٣٦).

### الأدلة:

الذين قالوا: إن القبض في جميع الأشياء بالتخلية استدلوا بما يأتي :

- عن ابن عمر قال كنا مع النبي ﷺ في سفر فكثت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي ﷺ لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ بعنيه، فباعه من رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (البخاري ٣٣٣/٣ مع الفتح).

قال ابن حجر : وقد احتجت به المالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية ، وإليه مال البخاري كما يقدم له في "باب شراء الدواب والحمير إذا اشتري دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟"

وأجاب عنه ابن حجر بأنه "يتحمل أن يكون ابن عمر كان وكيلًا في القبض قبل الهبة ، وهو اختيار البغوي" قال : إذا أذن المشترى للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبة بعده (فتح الباري ٣٣٥/٣) ويمكن أن يقال بأن مثبت فيه عن النبي ﷺ هو النصرف بالهبة وهذا لا يدل على وجود القبض ، بل يدل على أن الهبة يصح قبل القبض.

٢. "إن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالماً خالصاً ، يقال سلم فلان لفلان أي خلص له ، وقال الله تعالى : (ورجلاً سلماً لرجل) أي سالماً خالصاً لا يشركه فيه أحد ، فتسليم المبيع إلى المشترى هو جعل المبيع سالماً للمشتري أي خالصاً له بحيث لا ينبع عليه فيه غيره ، وهذا يحصل بالتخلية ، وكانت التخلية تسليماً من البائع ، والتخلّي قبضاً من المشترى ، وكذا هذا في تسليم الثمن إلى البائع ، لأن التسليم واجب ، ومن عليه الواجب لا بد أن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه ، والذى في وسعه هو التخلية ورفع الموانع ، فاما الإقاض فليس في وسعه ، لأن القبض بالبرامج فعل اختياري للقاپض ، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب ، وهذا لا يجوز" (بدائع الصنائع ٤٢٢/٥).

ويمكن أن يقال : إن التسليم والقبض أمران مختلفان ، فتسليم المبيع يكون من البائع وقبضه يكون من المشترى ، فالبائع يعتبر مسلماً بالتخلية ، فلا يكون ضامناً بهلاك المبيع بعد التخلية ، وإن لم يقبضه المشترى فعلاً ، لأن البائع قد أدى ما وجب عليه وهو التسليم بالتخلية .

٣. القياس على العقار ، قالوا كما أن القبض يحصل بالتخلية في العقار كذلك يحصل في غيره (آخر جه أبو داؤد ، انظر المغني ١٢٥/٣) واجب بأن في العقار لا يمكن القبض بالحمل والنقل ، فاعتبر التخلية قبضاً له ، بخلاف غيره من المنقول .

### دليل القول الثاني :

أما الذين فرقوا في القبض بين المنقول وبين غيره فاستدلوا بما يأتي :

١. عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (أبو داؤد كتاب البيوع ٢٤٥/٣ ، فتح الباري ٣٥٠/٣).

استدل به الشيرازي ، وقال النووي : "رواه أبو داؤد ياسناد صحيح إلا أنه من روایة محمد ابن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد ، وأبن إسحاق مختلف في الاحتجاج به وهو مدلس ،

وقد قال عن أبي الزناد ، والمدلس إذا قال عن لا يحج به ، لكن لم يضعف أبو داؤد هذا الحديث وقد سبق أن ماله يضعفه فهو حجة عنده ، فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبي الزناد ” (٩/٢٧) .

٢. عن عثمان<sup>رض</sup> أن النبي<sup>صلوات الله عليه</sup> قال: إذا بعت فكل وإذا ابعت فاكتل (البخاري  
فتح الباري ٣٢٣/٣، ٣٢٥/٢).

٣. عن جابر قال نهى رسول الله<sup>صلوات الله عليه</sup> عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشترى (ابن ماجة كتاب التجرات ٢/٥٠، ٧٥٠/٢ بسنده ضعيف)  
استدل بهما ابن قدامة ثم قال هذا فيما بيع كيلا وإن بيع جزاً فقبضه نقله لأن ابن عمر قال: كانوا يضربون على عهد رسول الله<sup>صلوات الله عليه</sup> إذا اشتروا طعاماً جزاً أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (البخاري رقم الحديث ٢١٣٧ كتاب البيوع).

٤. العرف ، قال الشيرازي : لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه ، فحمل على العرف ،  
والعرف فيما ينقل الثقل وفيما لا ينقل التخلية ، (المهذب ٩/٢٧٥ بيع المجموع) ونوقشت  
بأن الأحاديث المذكورة تدل على منع البيع قبل النقل ، لأن حقيقة القبض هو النقل ، أما العرف  
فيتغير بالزمان والمكان فلا يكون عرف بلد وزمن حجة لبلد وزمن آخر .  
**البيع قبل القبض :**

اختلاف العلماء في البيع قبل القبض إلى خمسة أقوال :

١. لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه ، وإليه ذهب ابن عباس والشافعى ومحمد بن الحسن .

٢. يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا المكيل والموزون ، وإليه ذهب عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزواعى وأحمد وإسحاق .

٣. لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف .

٤. يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب ، وإليه ذهب مالك وأبو ثور وأحمد في رواية ، قال: ابن المنذر وهو أصح المذاهب .

٥. يجوز بيع كل شيء قبل قبضه ، وهو مروي عن عثمان البى (بدائع الصنائع ٦٦١/٧، المغني ١٢١/٣، المجموع ٩/٢٧٠، نيل الأوطار ٥/٨٧، الكافي ٧/٦١).

**الأدلة :**

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :

١. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري ببوعا فما يحل لى منها وما يحرم على ، قال ماذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه (مسند الإمام أحمد ٢٠٢٣، نيل الأوطار ٨٥/٧١، المجموع ٩٢٨).

٢. عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (أبوداؤد في البيوع ٢٥٣/٦٧، الدارقطني ١٣٣).

وجه الاستدلال أن لفظ "شيء" و "السلع" عام فيحمل على العموم ، أما ذكر الطعام في بعض الأحاديث فلا يخصص به ، لأنه من قبيل التبيه من الأعلى إلى الأدنى ، فإنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل القبض مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى (المجموع ٩٢١).

وهذا الذي فهمه ابن عباس ، فإنه روى عن طاوس أنه قال سمعت ابن عباس أنه يقول ، أما الذي نهى عن النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (البخاري، البيوع ٣٢٩/٣).

### دليل القول الثاني :

١. عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من اشتري طعاماً بكيل أو وزن فلا يباع حتى يقبضه (آخر جهه أحمد في مسنده ١١١/١).

٢. وعنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعاماً إشراه بكيل حتى يستوفيه (أبوداؤد كتاب البيوع رقم الحديث ٣٢٩٥، النسائي ٧٢٨).

٣. وعن عثمان أن النبي ﷺ قال: له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل (الدارقطني في البيوع ٨٣/٦٢، أحمد ١٣٢، البخاري ٣٢٣/٢ مع الفتح).

### دليل القول الثالث :

دليل منع المتنقل هي الأحاديث السابقة ، أما دليل استثناء الدور فاستدلوا بعموم الكتاب وهو قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (البقرة ٢٧٥).

"ولأن الأصل في ركن البيع إذا صدر من الأهل في المحل هو الصحة ، والامتانع لعارض الغرر ، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه ، ولا يتوهم هلاك العقار فلا يتقرر الغرر فيبقى بيعه على حكم الأصل" (بدائع الصنائع ٥/١٨١).

### دليل القول الرابع :

عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال من ابتعت طعاماً فلا يباع حتى يقبضه (البخاري ٣٢٣/٢، مسلم ١٣٢٥) وعنه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون جزافاً

يعنى الطعام يضربون أن يباعوه فى مكانهم حتى يزوره إلى رحالهم (البخارى ٣٥٠/٣، مسلم ٣٢٨/١) وعن جابر قال قال رسول الله ﷺ إذا ابعت طعاماً فلا يباعه حتى تستوفيه (مسلم ٤٣٢٨/١).

قالوا فالتصيص فى هذه الأحاديث على الطعام يدل على أن غيره بخلافه ، واستدلوا أيضاً بالقياس على الإعناق والإجارة قبل القبض ، وأجاب النوى عن الأحاديث بجوابين :  
الأول : أن هذا استدلال بداخل الخطاب والتبيه مقدم عليه ، فإنه إذا نهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى .

والثانى : أن النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حكيم ، وحديث زيد ، وأجاب عن القياس على الميراث والوصية بأن الملك فيهما مستقر بخلاف المبيع ، وأما القياس على الإعناق فلا يصح ، لأن للاعناق قوقة وسرابية لا يوجد في غيره ، ولأن العنق إتلاف للمالية والإتلاف قبض ، وأما الإجارة فلا يصح قبل القبض على الصحيح ، لأنها بيع (المجموع ٢٦٥،٣٧١/٩).

#### دليل القول الخامس :

عموم قوله تعالى (وأحل الله البيع (البقرة ٢٧٥).

ويحاب بأن الحديث قد خصصه ، فلا يصح الاستدلال به .

#### علة منع بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه :

اختلف العلماء في أن الأحاديث المتعلقة ، بالنهي قبل القبض معللة أم غير معللة إلى قولين ، فمنهم من يرى أن الأحاديث غير معللة ، وإليه ذهب الحنفية ، قال كاساني : "قال بعض مشايخنا أنها ، أى حرمة التصرف قبل الكيل أو الوزن ، تثبت شرعاً غير معقول المعنى" (بدائع الصنائع ٢٣٣/٥).

ومنهم من يرى أنها معللة ، وهؤلاء اختلفوا في بيان العلة إلى عدة أقوال ، فمنهم من يرى أن علة غرر انفاسخ العقد بهلاك المعقود عليه ، وإليه ذهب أكثر الحنفية والشافعية والحنابلة (بدائع الصنائع ١٨٠/٥) المهدب مع المجموع ٢٦٣/٩ ، المغني ١٢٨/٣) ومنهم من يرى أن علته انعدام القبض التام و منهم من يرى أن علته كونه من قبيل "ربح مالم يضمن" ، وإليه ذهب الشافعى (الأم ٣٠/٢) ومنهم من يرى أن علته عجز المشتري عن تسليمه ، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه .


لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح ، فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في

الفصح ، وبه قال ابن تيمية (الاختيارات الفقهية ١٢٢).

ومنهم من يرى أن علته الربا ، وإليه ذهب ابن عباس<sup>رض</sup> فعن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه ، قلت لابن عباس : كيف ذاك؟ قال : أراهم بدرًاهم والطعام مرجأ (صحيح البخاري كتاب البيوع ٣٢٧/٣ مع الفتح).

**الترجح :**

بالنظر إلى الأدلة والعلل التي بينها العلماء يبدو لي أن القول الأول وهو منع بيع أي شيء اشتراه قبل قبضه هو الراجح ، والمنع خاص بالبيع ، أما مسواده من التصرف مثل العتق والهبة فهو جائز كما يدل عليه هبة النبي ﷺ لابن عمر البكر الصعب قبل القبض .



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مفتی اسماعیل بھڑکو درودی

عام طور پر جو چیزیں خرید و فروخت کے معاملے میں بیع بنتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں: پہلی قسم اشیاء منقول ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہیں اور کی جاتی ہیں، جیسے جانور، غله، کپڑا اور گھر بیو استعمال کی چیزیں وغیرہ۔ دوسری قسم کی اشیاء غیر منقول یعنی وہ چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جاتیں بلکہ استعمال کرنے والا ان چیزوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کئے بغیر ان کو استعمال کرتا ہے، اور انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے کھیت، دوکان، مکان وغیرہ۔

جو شخص کسی غیر منقول چیز کو خریدتا ہے تو خریدار کے لیے اس چیز پر قبضہ کرنے سے قبل اس کا بیچنا امام ابو حنیف، امام ابو یوسف، امام مالک اور امام احمدؓ کے نزدیک جائز ہے، اور امام شافعیؓ و امام محمدؓ کے نزدیک خریدار کے بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا بیچنا ناجائز ہے۔

اور جو شخص کسی منقول چیز کو خریدتا ہے تو امام ابو حنیفؓ اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک خریدار کے لئے اس بیع منقول کو قبل القبض بیچنا ناجائز اور عقد فاسد ہے، چاہے وہ بیع منقول از قبیل طعام وغیر طعام ہو، یا مکمل و موزون و معدود ہو، یا اسکے علاوہ، اور یہی مسلک امام محمدؓ و امام شافعیؓ کا ہے۔ امام احمدؓ فرماتے ہیں کہ اگر بیع منقول از قبیل طعام ہو تو اسکی قبل القبض بیع ناجائز ہے، اور اگر بیع منقول از قبیل غیر طعام ہو تو اسکی قبل القبض بیع ناجائز ہے۔ امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ بیع منقول اگر مکمل یا موزون طعام ہو تو خریدار کے لئے قبل القبض اسکی بیع ناجائز ہے اور اگر بیع منقول کیلی یا وزنی طعام نہ ہو تو قبل القبض اسکی بیع ناجائز ہے، اگر بیع منقول غیر طعام ہو تو بھی قبل القبض جائز ہے۔

مسلسلہ مذکورہ میں حضرات ائمہ اربعہ حبهم اللہ کے اقوال حضرت مولانا مشتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی شرح مسلم کی عبارت ذیل سے ماخوذ ہیں:

وَ فِي الْمُسْأَلَةِ أَقْوَالُ تَالِيَةٍ :

**الأول :** قال عثمان البني: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنّة والحجّة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثل هذا لا يلتفت إليه، كذا في المغني لابن قدامة (١١٣/٣).

**الثاني :** قال الشافعی و محمد بن الحسن من الحنفية: يحرم بيع كل شيء قبل قبضه، طعاماً كان أو غيره، منقولاً كان أو غير منقول وهو ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما و هو روایة ابن عقیل عن أحمد كما في المغني.

**الثالث :** قال أحمد بن حنبل في أظهر روايته: إنما يختص النهي بالطعام، فلا يجوز بيعه قبل

قبضہ و بحوزہ فیما سواہ کما حققه ابن قدامة

**الرابع :** قال مالک رحمه الله : إنما يمتنع البيع قبل القبض في المكيل والموزن ، من الطعام خاصة وقال سحنون وابن حبيب من المالكية : إنه ممتنع في كل مكيل أو موزن أو معدود ثم هل يختص بالطعام أو بالربويات ؟ فيه قولان حكاهما الأبي .

**الخامس :** قال أبو حنيفة و أبو يوسف يمتنع البيع قبل القبض فيسائر المفولات و بحوزة في العقار الذي لا يخشى هلاكه كما في فتح القيبر ۵/۲۶۶ . ( تتمة فتح اليمام ۳۵۰ ) .

بع قبل القبض کی تھی سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں، اور وہ علت معمود علیہ کے ہلاک ہونے کے احتمال کی وجہ سے عقداول کے فتح کا غرر ہے، جیسا کہ ”الفقه الاسلامی“ میں یہ علت مذکور ہے جس میں حنفی کا مسلک ذکر کیا گیا ہے اور اس علت کو صاحبہدایہ نے بھی متدرجہ ذیل عبارت میں ذکر کیا ہے :

و بحوزة بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد لا يجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبار بالمتقول وصار كالإجارة ولهمما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المتقول والغرر المنهي عنه غرر الفساح العقد والحديث معلوم به عملا بدلائل الجواز (ہدایا خیرین ۲۷) .

یہاں پر قبل القبض بع کی تھی کی حکمتوں کا ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے، لہذا ان حکمتوں کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) بع کے قبل القبض بچنے کی صورت میں اگر عقد ثالثی مشتری کے حق میں زیادہ نفع بخش ثابت ہو تو باع اول عقداول کو فتح کرنے کی لگے اور بع کو پرداز کرنے میں مثال م Howell نے کرے۔

(۲) اگر اشیاء منتقلہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے تو عام بازار میں بہت سی اشیاء کی قیمتیں حد سے بڑھ جائیں گی۔ لہذا اجو چیزوں ایک ملک سے دوسرے ملک میں بین الاقوامی تجارت کی صورت میں برآمد در آمد ہوتی ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے سے پہلے اس پر مختلف اور متعدد تاجردوں کے سودے واقع ہوتے ہیں اور ہر تاجر دوسرے تاجر کو اپنا نفع چڑھا کر بیچتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتداءً پسند روپیوں میں بکی ہوئی چیزوں عام بازار میں سیکڑوں کی بن کر یہ ہو چکتی ہے، اگر حضرت نبی ﷺ کی مدد و نصیحت کے ارشاد کے مطابق ایسی چیزوں کے بیچنے میں باع کا قبضہ شرط قرار دیا جائے گا تو عام بازار میں اشیاء کی قیمتیں سستی اور معتدل رہیں گی ( و مکہم فتح الیام ۳۵۲ ) .

(۳) حضرت ابن عباس نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو نفع صرف کے مشابہ قرار دیکر اسکے نفع کو ربوا کے مشابہ قرار دیا ہے۔

عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه فلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدر اهم والطعام مرجا (بخاری)

میں پر بقدر کی حقیقت یہ ہے کہ باع میع سے اپنے مالکان تعلقات ختم کر دے اور مشتری کو اس میں ہر طرح کے اتفاق کرنے کی قدرت دی دے، ہر قسم کی میع کے مذکورہ حالت میں ہونے کو بقدر کہتے ہیں، بقدر میع کی مختلف جزئیات جو فقہاء کرام نے کتب فقہ میں ذکر فرمائی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیہ میع کی کوئی ایک شکل اور نوعیت متعین نہیں ہے اور اس کا مدار عرف و عادت پر ہے۔

وَأَمَّا تَفْسِيرُ التَّسْلِيمِ وَالْقِبْضِ فَالْتَّسْلِيمُ وَالْقِبْضُ عِنْدَنَا هُوَ التَّخْلِيَةُ وَالتَّحْلِيَةُ وَهُوَ أَنْ  
يَخْلِي الْبَاعِعُ بَيْنَ الْمَبْيَعِ وَبَيْنَ الْمَشْتَرِيِّ بِرْفَعِ الْحَالِلِ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْمَشْتَرِيُّ مِنْ  
الْتَّصْرِيفِ فِيهِ فَيَجْعَلُ الْبَاعِعُ مُسْلِمًا لِلْمَبْيَعِ وَالْمَشْتَرِيُّ قَابِضًا لَهُ وَكَذَا تَسْلِيمُ الشَّمْنِ مِنَ الْمَشْتَرِيِّ  
إِلَى الْبَاعِعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْقِبْضُ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ وَالشَّجَرِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَأَمَّا فِي الدِّرَاهِمِ وَالدِّنَارِ  
فَتَوَالِهِمَا بِالرَّاجِمِ وَفِي الثِّيَابِ بِالنَّقْلِ وَكَذَا فِي الْطَّعَامِ إِذَا اشْتَرَاهُ مَحَازِفَةً فَإِذَا اشْتَرَاهُ مَكَايِلَةً  
فِي الْكِيلِ وَفِي الْعِيدِ وَالْبَهِيمَةِ بِالسِّيرِ مِنْ مَكَانِهِ (بدائع الصنائع ۵/۲۲۳).

۶۔ خریدار اول کے لئے میع منتقل کو دوسرا کے ہاتھ میع کے جواز کے لئے باع کی جانب سے خریدار اول کے سامنے یا اسکے نائب کے سامنے میع کا ایسا تخلیہ کروہ اس میں اصالۃ، یا نیایۃ ہر قسم کے اتفاق پر قادر ہو یہ ضروری ہے، لہذا صورت مسؤولہ میں خریدار اول کا مال فیکٹری سے لے کر خریدار ثانی تک پہنچانے والا اگر خریدار اول کا اجیر وکیل ہے، تو خریدار اول کی جانب سے مال مذکور کی فروختی کو بعد القبض ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا جائیگا، اور اگر خریدار ثانی تک مال پہنچانے والا شخص فیکٹری کا ملازم واجیر ہے تو اس صورت میں خریدار اول کے مختص خانہ میں قبول کر لینے کو اس کا بقدر ثہیں سمجھا جائے گا، اور یہ عقد ثانی قبل القبض ہونے کی وجہ سے ناجائز شمار ہو گا اور خریدار اول کے قبضے سے پہلے میع کے نقصان کی ذمہ داری خریدار اول پر ڈالنے کی شرط طے کرنا بھی جائز نہ ہو گا، بلکہ فیکٹری کے خریدار تک مال پہنچنے سے پہلے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار فیکٹری کے مال کا باع شمار ہو گا، جیسا کہ مشتری کے قبضے سے پہلے میع کے ہلاک ہونے کی صورت میں باع کے ذمہ دار شمان عائد ہونے کے جزئیات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے (فتاویٰ ہند یہ جلد ۳)۔

۷۔ اگر خریدار اول نے اصل باع کو مال بردار کمپنی کے ذریعہ خرید کر دو ماں سمجھنے کے لئے کہا اور مال برداری کا کرایہ خریدار اول کے ذمہ طے ہوا تو خریدار اول کا مال مذکور کو خریدار ثانی کے ہاتھ فروخت کرنا تو جائز ہے، مگر مال کے شائع ہوئیکی صورت میں خریدار ثانی کو ضامن بناتا شرعاً جائز نہیں ہے، اور خریدار ثانی تک مال پہنچنے سے پہلے مال کے شائع ہونے کی صورت میں خریدار اول ہی ضامن رہے گا، کیونکہ مال اس کے وکیل کے ضامن میں شائع ہوا ہے، ابھی اس مال پر خریدار ثانی کا بقدر ثہیں ہونے کی وجہ سے اس کے ضامن میں داخل نہیں ہوا، لہذا اس کو ضامن بناتا جائز نہیں ہے (عاملگیری ۱۹/۳، احسن الفتاویٰ ۵۲۶/۶)۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مفتی شکیل احمد سیستانی پوری

عن زید بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن يباع السلع حيث يباع حتى يحوزها التجار إلى رجالهم (أبوداود، الدارقطني).

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال من ابْتَاع طَعَامًا فَلَا يَبْعُدْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ (رواوا الجماعة إلا الترمذ، ثليل الأوطار جلد ۵).

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ سامان جس جگہ خریدا جائے اسی جگہ بیج لیا جائے، تاوقتیکہ خریدار اس کو اپنی قیام گاوتک نہ لائے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کی چیز یا غلہ خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں قبضہ کا حکم طعام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر چیز کیلئے یہی حکم ہے۔

نبی ﷺ کی علت:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کی نظر یہ ہے کہ اس میں ربالازم آتا ہے، اس لئے کہ میع پر قبضہ ہونے سے پہلے جب اس کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو یہ در پردہ بیع الامان بالامان تفاصلا ہے، یعنی جب میع قبضہ میں نہیں آتی ہے اور وہ فروخت کر دی گئی ہے تو گویا باائع ثانی نے میع کے بجائے اپنے ثمن کو مشتری ثانی کے ہاتھ زیادہ ثمن کے بد لے فروخت کر دیا، امام شوکانی لکھتے ہیں: أَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ عَنْ طَاؤسَ قَالَ قَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ دِرَاهِمَ بِدِرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مِرْجَأً، اسْتَفْهَمَهُ عَنْ سَبْبِ النَّهْيِ فَأَجَابَهُ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِيُّ قَبْلَ الْقِبْضِ وَتَأْخِرَ الْمَبْيَعَ فِي يَدِ الْبَايِعِ فَكَانَهُ بَاعَ دِرَاهِمَ بِدِرَاهِمٍ وَبَيْسِنَ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَا سَأَلَهُ طَاؤسٌ إِلَّا تَرَاهُمْ يَبَاعُونَ بِالْذَّهَبِ وَالطَّعَامَ مِرْجَأً، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا بِمَانَةٍ دِينَارٍ وَدَفَعَهَا لِلْبَايِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ الطَّعَامَ ثُمَّ بَاعَ الطَّعَامَ إِلَى آخر بِمَانَةٍ وَعِشْرِينَ مِثْلًا فَكَانَهُ اشْتَرَى بِذَهَبٍ ذَهَبًا أَكْثَرَ مِنْهُ (ثليل الأوطار ۱۶۰/۵).

امام سرسی نے حنفیہ کی جو ترجیحی کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میع پر جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے نہ اس کی بیع کی جائے نہ اس میں شرکت کا عقد کیا جائے، نہ عقد تو لیے کیا جائے، نیز امام سرسی اس جانب مائل نظر آتے ہیں کہ

حضری منقول اور غیر منقول کسی بھی شی کی بیع قبل القبض کے قائل نہیں ہیں، جس طرح منقول کی بیع کیلئے اس پر قبضہ ضروری ہے اسی طرح غیر منقول کیلئے بھی قبضہ ضروری ہے۔

باں یہ فرق ضرور ہے کہ منقول پر قبضہ یہ ہے کہ اس کو اس جگہ سے منتقل کر کے اپنی جگہ اور اپنی حفاظت میں لے لیا جائے، اور غیر منقول پر قبضہ یہ ہے کہ باائع اول اس کا تخلیٰ کروے، و من اشتراطی شیٹا فلا یحوز له ان بی بعدہ قبل ان یقپضه ولا یولیه احداً ولا یشترک فيه (المبسوط ۱۲۸).

اہن رشد کہتے ہیں کہ اشتراط قبضہ اور عدم اشتراط قبضہ میں سات مسلک سامنے آتے ہیں: الأول فی الطعام الربوی فقط، والثانی فی الطعام باطلاق، الثالث فی الطعام المکبل والموزون، الرابع فی کل شیٰ بستقل، الخامس فی کل شیٰ، السادس فی المکبل والموزون، السابع فی المکبل والموزون والمعدود. پہلا مسلک یہ ہے کہ ان مطعومات و ما کولات کی بیع میں قبضہ شرط ہے جن کے باہم تبادلہ میں ربا کا حقن ممکن ہے، دوسرا مسلک یہ ہے کہ ہر مطعوم و ما کول کی بیع کیلئے قبضہ شرط ہے خواہ ربوبی ہو خواہ غیر ربوبی، تیسرا مسلک یہ ہے کہ طعام مکبل اور طعام موزون کیلئے قبضہ ضروری ہے، چوتھا مسلک یہ ہے کہ اشیاء منقول میں قبضہ شرط ہے، پانچواں مسلک یہ ہے کہ ہر شیٰ میں قبضہ ضروری ہے، چھٹا مسلک یہ ہے کہ مکملات و موزونات میں قبضہ ضروری ہے، ساتواں مسلک یہ ہے کہ مکملات و موزونات اور معدودات میں قبضہ ضروری ہے۔ اہن رشد نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی کے تزویہ مشری کے خمائن میں اسی وقت آتی ہے جب پہلے اس پر قبضہ ہو جائے (بدایہ الحجہ ۱۲۵)۔

**بعض اسلاف کا مسلک:**

سوالاتے میں انجائے گئے سوالات یعنی فیکٹریوں سے نکلے ہوئے مال کی بیع اور سامان سے لدے ہوئے بحری جہاز کی اثناہ طریق میں قردنگی، امام ابو حییف اور امام شافعی کے مسلک کے مطابق درست نہیں معلوم ہوتی، اعلیٰ کوہ بیع غیر مقبوض بھی ہے اور بیع غیر مضمون بھی، اور یہ کہنا کہ فیکٹری کا مال یا جہاز کا سامان مشری کے خمائن میں ہوتا ہے خواہ وہ قبضہ کرے، شریعت میں معین نہیں، اس لئے کہ شریعت میں خمائن قبضہ کے بعد ہوتا ہے خواہ لوگوں کا معمول اس کے خلاف ہو اور خواہ لوگ کوئی نئی اصطلاح قائم کر لیں، امام مالک اور امام احمد کے یہاں مطعومات مکملہ و موزونہ کے علاوہ کی بیع قبضہ سے پہلے درست ہے، بیع غیر مقبوض اور بیع غیر مضمون کے سلسلہ میں احادیث اور ان کی شروح نیز انہی اعلام کے ممالک اور ان کے استدلالات کا مطالعہ کرنے کے بعد تا ثریغ موما عدم جواز ہی کا پیدا ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر اس سے کاروبار کی راہیں مسدود ہو رہی ہیں اور امت مسلمہ جریج میں ہڑ رہی ہے تو امام مالک اور امام احمد کے مسلک پر عمل کرنے میں غور کیا جا سکتا ہے، ان کے تزویہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت اشیاء خور و فنی کے ساتھ مخصوص ہے، اور اہن قدامہ کے مطابق اشیاء خور دنی بھی اگر کیل اور وزن کے عنوان سے نہیں فروخت کی گئی ہیں تو ان کی بیع بھی قبضہ سے پہلے جائز ہے، چنانچہ باائع نے اگر غلہ کا پورا ذہیر یا پوری گاڑی ہاپ اور توں متعین کے بغیر فروخت کر دی اور مشری نے خرید لی تو وہ پورا ذہیر اور پوری گاڑی قبضہ کے بغیر مشری کے خمائن میں

آنگئی، ابن قدامہ نے امام احمد کے حوالہ سے دو جز یعنی نقل کئے ہیں: رجل اشتری طعاماً فطلب من بحمله فرجع وقد احترق الطعام فهو من مال المشترى، ایک شخص نے غلہ خریدا، اور جمال کو ڈھونڈتے اکلا اور جب واپس ہوا تو غلہ جمل کر خاک ہو چکا تھا تو یا احتراق مشتری کے خمان میں ہوا۔ من اشترى ما فى السفينة صبرة ولم يسم كيلاً فلاماس ان يشرك فيها ويسع ما شاء، جس نے پوری کشتی کا اثاثج خرید لیا اور ناپ اور تول کا کوئی ذکر نہیں آیا تو کوئی مصالحتیں ہے کہ وہ بغیر قبضہ کئے دوسرے کو فروخت کر دے (مغنی ابن قدامہ ۱۲۳)۔

امام احمد کی ترجمانی کرتے ہوئے ابن قدامہ نے کہا ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت ان اشیاء خوردنی کے ساتھ خاص ہے جو کیلا یا وزنا فروخت کی گئی ہوں، کیونکہ اس ممانعت کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ اندازہ اور تنخیلہ لگا کر انکل سے غلہ اور اثاثج کی بیع کر دیتے تھے، جب رسول اللہ ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے اس سے بیع فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس کو ناپ تول لیا کرو اور بغیر ناپے تو لے دوسرے سے اس کی بیع نہ کرو، لہذا دیگر اشیاء کی بیع بغیر قبضہ کے ہو سکتی ہے، بلکہ اشیاء خوردنی بھی اگر کیل و وزن کے عنوان سے نہیں خریدی گئی ہیں تو قبل اتفاق ان کی بیع بھی درست ہے، ابن قدامہ کی تحقیق کے مطابق یہی مسلک حضرت عثمان بن عفان، حسن بصری، سعید بن میتب اور حماد بن ابی سلیمان کا بھی ہے۔

### قبضہ کے معنی:

وقبض کل شئ بحسبه فإن كان مكيلًا و موزوناً فقبضه بكله وزنه وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة التخلية فى ذلك قبض وروى عن أحمد أن القبض فى كل شئ بالتخلية مع التمييز لأنه خلى بيته وبين المبيع من غير حائل فكان قبضًا له كالعقار (المغنی ۱۲۵/۲)

- ہر چیز کا قبضہ اس کے حسب حال ہوتا ہے، کمیل و موزون کا قبضہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا کیل اور وزن کر لیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک تخلیہ اور تمییز ہے یعنی بیع کو الگ متاز کر کے رکھ لینا اور باائع کے تصرف سے اس کو علیحدہ کر لینا۔

اگر قبضہ کے ان معاملی پر نظر مرکوز کی جائے تو نیکشی سے حاصل کئے ہوئے مال اور بحری جہاز کے مال پر اس طرح کا قبضہ متحقق ہو جاتا ہے، الغرض اس ملک میں جہاں اقتدار اور وسائل معاش پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، اگر وہ بحق اماموں کے مسلک پر غور و خوض کر کے مسلمانوں کیلئے کوئی راہ نکال لی جائے تو امید ہے کہ مثلاً شرع کے خلاف نہ ہو گا۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عمومی یا خصوصی؟

### ائمه کرام کے اقوال و آراء اور ادله

مولانا اشتیاق احمد عظیمی

بیع قبل القبض کی ممانعت مختلف احادیث میں وارد ہے، کہیں یہ نہیں بالکل عام ہے، اور کہیں خاص، جس کے باعث فقہاء امت کے درمیان بیع قبل القبض کے بارے میں اقوال و آراء کا اختلاف ایک فطری امر ہے، ذیل میں ہم فقہاء کرام کے آراء و اقوال بیان کرتے ہیں، پھر ہر ایک کے دلائل پیش کریں گے۔

**پہلا قول احناف کا ہے:**

احناف نے بیع قبل القبض کے تعلق سے اشیاء منقولہ وغیر منقولہ کے درمیان فرق کیا ہے۔

جمہور حنفیہ کے نزدیک مشتری کیلئے اشیاء منقولہ پر قبضہ سے پہلے اس کی بیع کرنا درست ہے، رہا غیر منقولہ اشیاء کا معاملہ، جیسے عقار، دارا اور جھروغیرہ تو اس میں قبضہ سے پہلے بھی مشتری کیلئے بیع جائز ہوگی، ائمہ احناف میں سے حضرات شیخین (امام ابو حیفہ اور ابو یوسف رحمہما اللہ) کا یہ مسلک ہے، لیکن احناف ہی میں سے امام محمد وزفر، نیز امام شافعی "غیر منقولہ اشیاء کے اندر بھی بیع قبل القبض کے عدم جواز ہی کے قائل ہیں (بدائع الصنائع ۱۸۰/۲، ۱۸۱/۲، مجمع الاتہری شرح ملتقی الاجر ۲/۸۰)۔

**دوسراؤل مالکیہ اور ابن حزم طاہری کا ہے:**

ان حضرات کے یہاں ہر قسم کی چیزوں کی بیع، خواہ وہ منقول ہو یا غیر منقول، جائز ہے، اس عموم سے ان کے یہاں صرف طعام مستثنی ہے، لیکن مالکیہ کے نزدیک طعام سے مراد صرف گندم ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ضمن میں دیگر مطعومات، مثلاً فاکہ وغیرہ بھی آتے ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک گندم اور فاکہ کی بھی بیع قبل القبض جائز نہ ہوگی، مگر علامہ ابن حزم طاہری کے نزدیک، طعام سے مراد صرف گندم ہے، اس لئے گندم کی بیع ان کے نزدیک قبضہ سے پہلے بالکل درست نہ ہوگی (الفقہ علی المذاہب الاربعة ۲/۲۳۵، الحکی لابن حزم ۸/۵۱۸)۔

**تیسرا قول شافعیہ کا ہے :**

شوافع کے نزدیک بیع قبل القبض کی نہیں بالکل عام ہے، ان کے یہاں اشیاء منقولہ وغیر منقولہ دونوں ہی کی بیع درست نہیں ہے، یہی امام احمد کی بھی ایک روایت ہے، اور ابن عقیل نے اسی کو اختیار کیا ہے، مفہی میں ہے: و عن احمد روایۃ اخیری: لا يجوز بیع شی قبل قبضہ، اختارہا ابن عقیل (المفتی ۲/۱۲۱)۔

## چو تھا قول حنابلہ کا ہے :

ان حضرات کے نزدیک قبضہ سے پہلے بیع کے اندر تصرف جائز ہے، بشرطیکہ مبیع کیلی، وزنی، یا عددی نہ ہو، لیکن اگر مبیع انواع مذکورہ میں سے کسی بھی نوع کی ہوگی تو اس میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہوگا (المغنى ۱۲۱/۳، الفتن حلی المذاہب الاربعہ ۲۳۶/۲)۔

## پانچواں قول عثمان البقی کا ہے :

ان کے نزدیک ہر طرح کی اشیاء کی بیع قبل القبض جائز ہے، انه قال: لا بأس بيع كل شيء قبل قبضه (المغنى لابن قدامة ۱۲۷/۲)۔

## احناف اور شوافع کے ادله:

احناف اشیاء منقولہ، اور شوافع اشیاء منقولہ وغیر منقولہ کے اندر قبضہ سے پہلے تصرف کے عدم جواز کے قائل ہیں، اس سلسلہ میں ان دونوں جماعتوں کے اولہ ایک ہی ہیں، اور ذیل کی وہ روایتیں ہیں جس میں عمومی طور سے قبضہ سے پہلے کسی بھی شی کی بیع سے روکا گیا ہے:

۱. ما رواه أبو داؤد عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (سن أبي داؤد مع البذل ۲۸۵، ونيل الأوطان ۱۵/۵)۔

۲. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: يأتيني الرجل فيسألني أن أبيع ما ليس بيدي أبىأ تباع له من السوق ثم أبىعه، قال: لا تباع ما ليس عندك (ترمذی ۱۲۸/۱)۔

۳. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (رواہ الحسن بن علي بن مسلم السلام ۸۰۹/۳)۔

احناف نے اشیاء منقولہ وغیر منقولہ کے درمیان جو فرق کیا ہے، اس کی بیانی وجہ مذکورہ بالا احادیث کے اندر موجود ہلت نہیں ہے، اور وہ ہلت "غور انفساخ العقد على اعتبار الها لاك" ہے، اور یہ ہلت منقولہ اشیاء کے اندر قبضہ سے پہلے موجود ہوا کرتی ہے، اس لئے منقولہ اشیاء کے اندر بیع قبل القبض کو احناف نے ناجائز کہا، اور غیر منقولہ اشیاء کے اندر بلاکت چونکہ نادر الواقع ہے، اس لئے عدم تحقق ہلت کے باعث حنفی نے ان کی بیع قبضہ سے پہلے بھی جائز قرار دی، لیکن مکان و جائد وغیرہ اگر ایسی ہوں جن کے اندر بلاکت کا اندریشہ موجود ہو، مثلاً زمین جو دریا کے دہانے پر واقع ہو تو فتحہا، احناف نے اس طرح کی چیزوں کو قبضہ سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، چنانچہ عینی میں ہے: فاما فی موضع لا یؤمن بذلك فلا يجوز (معنی شرح بدایہ ۱۳۷/۳)۔

احناف کی دوسری دلیل وہ قاعدة اور اصول ہے، جسے علامہ عینی نے "ایجاج" کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے:

”کل عرض ملک بعقد ینفسخ العقد فیه بہلاکہ قبل القبض ولم یجز التصرف فیه کالمبیع و الأجرة إذا كانت عیناً و ما لا ینفسخ العقد بہلاکہ فالتصرف فیه جائز قبل القبض کالمهر وبدل الخلع . (عینی ۱۳۷/۳)۔

اس قاعدة کا حاصل یہ ہے کہ ہر عرض جس کا کسی عقد سے مالک بنا جاتا ہو اور اس عرض کی ہلاکت کے باعث اس میں منعقدہ عقد منقطع ہو جاتا ہو تو ایسے عرض میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہوگا، جیسے میع اور اجرت جب کہ میعنی شی ہو اور جہاں اس عرض کی ہلاکت کے باوجود عقد منقطع نہ ہوتا ہو تو اس میں قبضہ سے پہلے بھی تصرف جائز ہوا کرے گا۔

اس ضابطہ کی رو سے اشیاء منقولہ وغیر منقولہ، دونوں ہی کے اندر قبضہ سے پہلے تصرف ناجائز ہونا چاہئے، لیکن غیر منقولہ اشیاء کے اندر ہلاکت کے نادر ہونے کے باعث اس میں قبضہ سے پہلے بھی جمہور احناف نے تصرف کو جائز قرار دیا۔

احناف میں سے حضرت امام محمد وزفر ”نے غیر منقولہ کی بیع کو بھی قبضہ سے پہلے ناجائز قرار دیا ہے، ان حضرات کی دلیل مذکورہ بالا وہ روایتیں ہیں جن کے اندر کلمہ ”ما“ وارد ہوا ہے (لاتبع ما ليس عندك“ اور ”ولا بيع ما ليس عندك“) اور کلمہ ”ما“ عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لئے اس میں منقول وغیر منقول کی کوئی تخصیص نہ ہوگی۔

دوسری دلیل یہ کہ امام محمد وغیرہ نے بیع کو اجارہ پر قیاس کیا ہے، چونکہ عقار وغیرہ کا اجارہ قبل القبض درست نہیں، اس لئے عقار کی بیع بھی قبل القبض درست نہ ہوگی، یعنی میں مذکور ہے: ”وصار كالإجارة فإنها في العقار لا يجوز قبل القبض“ (عینی شرح بدایہ ۱۳۷/۳)۔

### مالکیہ اور ابن حزم کے دلائل:

ان حضرات کے اولہ وہ روایتیں ہیں جن میں طعام کا لفظ وارد ہوا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں:

۱. عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : إذا ابتعدت طعاماً فلا تبعه حتى يستوفيه (رواه احمد و مسلم بحوالہ نیل الاوطار ۵/۱۵)

۲. عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ﷺ أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي (رواه احمد و مسلم بحوالہ نیل الاوطار ۵/۱۵)

۳. عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفي (نیل الاوطار ۵/۱۵)

ان جیسی حدیثوں میں چونکہ خاص طور سے طعام کی قبل القبض بیع سے روکا گیا ہے، اس لئے طعام کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہ ہوگی، لیکن اس کے ماسواہ ہر چیز کی بیع، قبضہ سے پہلے جائز ہوگی، فیان تخصیصہ الطعام بالنهی

عن بیعه قبل قبضه یدل علی اباحة ذلک فی ما سواه.

باں مالکیہ نے طعام سے مراد صرف گندم نہیں لیا ہے، بلکہ و مگر مطعومات، جیسے فا کہہ وغیرہ کو بھی طعام کے شمن میں لے لیا ہے، لیکن علامہ ابن حزم طاہری نے کہا کہ لفظ طعام بغیر اضافت کے کام عرب میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے صرف "فُحْ" گندم مراد ہوا کرتا ہے، اور اس سلسلہ میں عربوں کے کام سے استشهاد پیش فرمایا ہے، چونکہ احادیث مذکورہ بالا میں لفظ طعام بدون اضافت استعمال ہوا ہے، اس لئے عربوں کے استعمال کے بوجب اس سے مراد گندم (فُحْ) ہی ہو گا۔ (المحلی لابن حزم ۵۲۱/۸)

### حنابلہ کی دلیل:

حنابلہ کی دلیل بھی وہ ساری احادیث ہیں جن میں قبضہ سے پہلے طعام کی بیع سے روکا گیا ہے، چونکہ مطعومات کیلی، وزنی یا عددی ہونے سے خارج نہیں ہوا کرتے، اس لئے نبی کا تعلق ان تمام انواع مجمع سے ہو گا جو کیلی، وزن، یا عدد کے ضمん میں آتی ہوں، علامہ ابن قدامہ حنبلی نے اسے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

"إِنَّ الْطَّعَامَ الْمُنْهَى عَنْهُ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ كُونِهِ مَكِيلًا أَوْ مُوَزَّوْنًا أَوْ مَعْدُودًا فَتَعْلَقُ الْحُكْمُ بِذلِكَ" (المغنی ۲/۱۲۳).

### عثمان البیتی کی دلیل:

عثمان البیتی نے ہر طرح کی اشیاء میں قبضہ سے پہلے جو بیع کے جواز کا قول پیش کیا ہے، بظاہر ان کی کوئی دلیل سمجھی میں نہیں آتی، سو اس کے کہیے کہا جائے کہ ان گوئے کو مذکورہ بالا احادیث نہیں پہنچ سکی ہو گی، جس کی بنابر انہوں نے جواز کا عمومی قول پیش کر دیا، جیسا کہ علامہ ابن عبد البر نے ان کے بارے میں اسی خیال کا اظہار فرمایا ہے:

قال ابن عبد البر: وهذا (ای قول عثمان البیتی) مردود بالسنة والحجۃ المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه هذا الحديث، ومثله هذا لا يلتفت إلیه (المغنی ۲/۱۲۷).

شرع اسلامی کے اعتبار سے بیع قبل القبض جائز ہے یا ناجائز؟ اور ناجائز ہے تو اس کا شمار بیع باطل میں ہے، یا بیع فاسد میں، یا بیع مکروہ میں۔

اسلامی شریعت کی رو سے بیع قبل القبض فی الجملہ ناجائز ہے "لقوله عليه السلام: لا تبع ما ليس عدك" دوسرے اس وجہ سے بھی کہیں کہ بیع کے بلاک ہونے کے اعتبار سے عقد بھی کے فتح ہو جانے کا غرر موجود ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیع غرر سے بھی منع فرمایا ہے، اس لئے بھی بیع قبل القبض فی الجملہ درست نہ ہو گی (مجموع الانہرینی شرح ملتقی الأ بحوث ۲/۹۷)۔

ربما یہ امر کہ بیع قبل القبض فاسد ہے یا باطل، تو حناف کے یہاں یہ بیع فاسد ہے، اور شوافع کے نزدیک باطل، الفتن علی المذاہب الاربعة میں ہے: الحنفیہ قالوا: من البيع الفاسد بيع الأعیان المنقوله قبل القبض (۲/۲۲۳).

مذکورہ بالاحوالہ کے اندر یہ بھی مذکور ہے: والشافعیہ قالو: لا يصح للمشتري أن يتصرف في البيع قبل قبضه..... فإذا اشتري شيئاً منقولاً كان أو غيره ولم يستلمه ثم باعه وقع البيع باطلأ (الفقه على المذاهب الأربعة ۲۲۳/۲).

لیکن باعتبار مال کے دونوں قولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ شوافع کے نزدیک فساد اور بطلان ایک ہی امر ہے: والفساد والباطل بمعنى واحد في عقود البيع فكل فاسد باطل وبالعكس (الفقه على المذاهب الأربعة ۲۲۳/۲).

**بیع قبل القبض کی نہی سے متعلق حادیث معلول بالعلة ہیں یا نہیں؟**  
بیع قبل القبض کی نہی سے متعلق احادیث معلول بالعلة ہیں، لیکن فقہاء کرام کے درمیان علت کے استزاد میں اختلاف ہے۔

(۱) حنفیہ کے نزدیک علت نہی: "غرض انفساخ العقد على اعتبار الہلاک" ہے (ہدایۃ ۵۹/۳).

(۲) مالکیہ کے اس سلسلہ میں ہمیں دو قول ملتے ہیں:  
۱۔ یہ کہ یہ احادیث معلول بالعلة ہیں۔  
۲۔ یہ کہ یہ احادیث معلول بالعلة نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک امر تبعیدی ہے۔  
بہر کیف نہی کی علت ان احادیث کے اندر مالکیہ کے یہاں عمال کی منفعت کا ضیاع اور بر بادی ہے، جیسا کہ سے علامہ جزیری نے "الفقه على المذاهب الأربعة" میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:  
وقد قيل في علة النهي: إن في قبضه منفعة للعمال إذ ينتفعون بكيله وحمله وزنه  
وغير ذلك بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك المنفعة وقيل: إنه أمر  
تبعدي. (الفقه على المذاهب الأربعة ۲۳۵/۲).

**قبضہ کی حقیقت:**  
احتلاف کے یہاں قبضہ کی اصل اور حقیقت تمام اموال میں تخلیہ ہے، علامہ کاسانی "بدائع الصنائع" میں تحریر فرماتے ہیں: ثم لا خلاف بين أصحابنا أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (بدائع الصنائع ۲۲۳/۵).

تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع، بیع اور مشتری کے درمیان تمام موائع اور رکاوٹوں کو اس طور پر ختم کر دے کہ مشتری بیع کے اندر ہر طرح کے تصرف پر پوری طرح قادر ہو جائے، علامہ کاسانی نے تسلیم اور قبضہ کے مفہوم کی وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے:

أما تفسير التسلیم والقبض عندنا هو التخلیة والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبيع

و بین المشتری برفع الحال بینها على وجه يتمکن المشتری من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبیع والمشتری قابضًا له (بدائع ۲۲۲/۵).

صاحب بداع کی اس عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ احتاف کے نزدیک اصل حوالگی مبیع، باعث کی طرف سے تخلیٰ اور مشتری کی طرف سے تخلیٰ ہے، ہاں تخلیٰ کی نوعیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، جبکہ مبیع کے انواع میں اختلاف ہو، اور تخلیٰ کی نوعیت، اس تبدیلی کا دار و مدار عرف و عادت پر محمول ہو گا، چنانچہ جس مقام پر جس طرح کے استعمال، کو وہاں کے عرف میں قبضہ ممکن ہو گا، اسی کو اس معاملہ میں شرعاً قبضہ مانا جائے گا۔

علام شامیؒ بحکمہ حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: حاصلہ ان التخلیة قبض حکماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبیع (شامی ۵۹/۲)۔

اور بداع میں ہے: لأن معنی القبض هو التمکین والتخلی وارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة (بدائع ۱۲۸/۵)۔

### تخلیٰ سے متعلق شرطیں:

صاحب درخشار نے تخلیٰ کیلئے تین شرطیں ذکر فرمائی ہیں جن کی طرف اشارہ "بداع" کی مذکورہ بالا عبارت (۲۲۲/۵) میں بھی ہو چکا ہے، وہ شرطیں درخشار کے الفاظ میں یوں ہیں:

ثم التسلیم يكون بالتخلیة على وجه يتمکن من القبض بلا مانع ولا حائل وشرط في الأجناس شرطاً ثالثاً وهو أن يقول: خلیت بینك و بین المبیع، فلو لم یقله أو كان بعيداً لم یصر قابضاً (درخشار مع الشامی ۵۸-۵۹/۲)۔

درخشار کی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ مبیع کی تسلیم و پرسوگی تخلیٰ کی صورت میں اس وقت مکمل مانی جائے گی جبکہ مشتری مبیع پر بلا کسی مانع اور حائل کے تصرف پر قادر ہو جائے، "اجناس" کے اندر ایک تیسرا شرط یہ بھی لگائی ہے کہ باعث مشتری سے کہہ کر خلیت بینك و بین المبیع۔

چنانچہ علام شامیؒ نے اس کے ذیل میں جو مثال پیش کی ہے وہ یہ کہ اگر مشتری نے کسی مکان کے اندر موجود گیوں خریدا اور باعث نے اس مکان کی کنجی مشتری کے حوالہ کر دی اور کہا کہ: "خلیت بینك و بینها" تو اس صورت میں قبضہ نہیں ہو گا۔

تجھیکے اندر "بلا مانع ولا حائل" کی شرط کا مفہوم یہ ہے کہ مبیع بالکل طیبہ، الگ تحلیل اس انداز سے ہو کہ اس سے غیر کا حق متعلق نہ ہو (یا ان یکون عفرزاً غیر مشغول بحق غیرہ (شامی ۵۹/۲)۔

چنانچہ اگر کسی نے گھر بیجا اور اسے مشتری کے حوالہ کجی کر دیا، لیکن اس مکان کے اندر تھوڑا ایسا زیادہ، باعث کا سامان موجود ہے، تو اس صورت میں مبیع کی حوالگی اور تسلیم اس وقت تک نہ ہو گی جب تک کہ باعث اس مکان کو مکمل خالی نہ کر دے۔

الغرض شریعت نے قبضہ کی اصل اور حقیقت، تخلیہ کی شکل میں معین کر دی ہے، لیکن اس کی نوعیت میں مکان اور میمع کے اختلاف کے باعث اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہو گا، اس کی مختلف صورتوں کا ذکر علامہ شامی نے ان لفظوں میں فرمایا ہے:

فُقْيٌ نَحْوُ حِنْطَةٍ فِي بَيْتٍ مُثَلًا فَدْفَعَ الْمَفْتَاحَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ قَبْضٌ، وَفِي نَحْوٍ  
دَارٍ فَالْقَدْرَةِ عَلَى إِغْلَاقِهَا قَبْضٌ، وَنَحْوُ بَقْرٍ فِي مَرْعَى فَكُونَهُ بِحِيثِ بِرَى وَيُشَارَ إِلَيْهِ قَبْضٌ وَفِي  
نَحْوِ ثُوبٍ فَكُونَهُ بِحِيثِ لَوْ مَدِيدَهُ تَصُلُّ إِلَيْهِ قَبْضٌ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (شامی ۵۹/۲)۔

**اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت ایک ہو گی یا مختلف؟**

اختلاف کے یہاں تمام اموال میں تسلیم و قبضہ کی حقیقت ایک ہی ہے، یعنی تخلیہ و تخلی، لیکن تخلیہ کی نوعیت اشیاء منقولہ کے اندر بھی مختلف چیزوں میں مختلف ہو سکتی ہے، اور غیر منقولہ میں بھی حالات کے اعتبار سے مختلف ہو گی، جیسا کہ شامی کے حوالہ سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ میمع کے اختلاف سے تخلیہ کی صورتیں اور نوعیتیں مختلف ہو اکرتی ہیں "لَكِنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحِسْبِ حَالِ الْمَبْيَعِ"، مثلاً کسی مکان کے اندر موجود گہوں خریدا تو باعث کا مشتری کو اس مکان کی کنجی اس طور پر حوالہ کر دینا کہ وہ اس کو بلا کسی تردود کے کھول سکے، مشتری کے حق میں قبضہ مانا جائے گا، فی نحْوِ حِنْطَةٍ فِي بَيْتٍ مُثَلًا فَدْفَعَ الْمَفْتَاحَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةٍ قَبْضٌ (شامی ۵۹/۲)۔

اور اگر کسی نے گھر خریدا اور باعث اس کی کنجی مشتری کو دیدے کہ وہ اس گھر کو بند کر سکے تو اس صورت میں مشتری کا کنجی پالیٹا ہی قبضہ ہو گا، بشرطیکہ وہ گھر اس شہر میں ہو، وفی نحْوِ دَارٍ فَالْقَدْرَةِ عَلَى إِغْلَاقِهَا قَبْضٌ ای  
بَانٌ تَكُونُ فِي الْبَلْدِ فِيمَا يَظْهَرُ (شامی ۵۹/۲)۔

مذکورہ بالامثالوں سے واضح ہو گیا کہ باعث کی طرف سے حوالگی کی ایسی صورت سامنے آجائے، جس کے بعد مشتری میمع پر قابض و متصرف ہو سکے تو اس کی طرف سے تسلیم کی یہ صورت تخلیہ ہو گی اور مشتری کے حق تخلی یعنی قبضہ ہو گا، خواہ میمع منقول ہو یا غیر منقول، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہوا۔

البَةُ غَيْرُ مَنْقُولٍ مِبْيَعٍ كَجَاءَ وَقَوْعَ أَكْرَبَعِيدَهُ وَتَقْبِضُ مَحْضٍ تَخْلِيَهُ سَنْهُ وَكَانَ بَعْدَهُ  
لَا يَتَصَوَّرُ الْقَبْضُ فِي الْحَالِ فَلَا تَقْأَمُ التَّخْلِيَةُ مَقْأَمُ الْقَبْضِ (۵۹/۲)۔

**شوانع اور حنابلہ کے یہاں منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت:**

شوانع اور حنابلہ کے یہاں بھی غیر منقول اشیاء کے اندر قبضہ تخلیہ ہی ہوتا ہے، چنانچہ بدائع میں مذکور ہے:  
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْقَبْضُ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ وَالشَّجَرَةِ بِالتَّخْلِيَةِ (۲۳۲/۵)۔

اور مخفی میں علامہ ابن قدامة حنبلی رقم طراز ہیں: وَإِنْ كَانَ مَمَالِيْكًا لَا يَنْقُلُ وَيَحْوُلُ فَقَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ  
بِنَهُ وَبَيْنَ مَشْتَرِيهِ لَا حَائِلَ دُونَهُ (المخفی ۱۲۶/۳)۔

اور منقول اشیاء میں قبضہ ان حضرات کے یہاں مختلف شکل سے ہوا کرتا ہے، چنانچہ مخفی میں مذکور ہے:

وفرض کل شیء بحسب (۱۲۵/۲) اس لئے اگر بیع در رہم و دینار کی ہو تو قبضہ کی صورت "اخذ بالید" یا "تناول بالبراجم" یعنی با تھہ میں لینے سے ہو گی، اور اگر مجمع کپڑا ہو، یا طعام ہو اور اسے مجاز نہ ہو، پچا جائے تو قبضہ اس کے متعلق کرنے سے ہو گا، اور اگر حیوان ہو تو اسے اس کے مقام سے چلا کر قبضہ ہو گا، مفہی میں ہے: وَإِنْ كَانَ الْمُبَيعُ دِرَاهِمَ أَوْ دَنَابِرَ فَقَبضَهَا بِالْيَدِ وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا فَقَبضَهَا نَقْلَهَا وَإِنْ كَانَ حَيْوَانًا فَقَبضَهُ تَمْشِيهً مِنْ مَكَانِهِ (المفہی ۱۲۶/۲).

اور اگر مجمع کیلی یا وزنی ہو اور بیع بھی کیلہ یا وزن کی گئی ہو تو قبضہ کیل و وزن سے ہو گا، جیسا کہ مفہی میں ہے:

فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مُوزَوْنَابِعَ كِيلًا وَوَزْنَابِعَ كِيلَهُ وَوَزْنَهُ وَبِهِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (المفہی ۱۲۵/۲)۔

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار (۲) کو روان کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ طے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار (۲) کے پاس پہنچنے سے پہلے، اگر درمیان میں مال بلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری نہ فیکٹری پر آتی ہے، نہ خریدار (۲) پر، بلکہ یہ اس شخص یعنی خریدار (۱) کا نقصان قرار پاتا ہے۔۔۔۔۔ اس صورت معاملہ میں فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص کا اس مال پر اگرچہ حصی قبضہ نہیں ہوا، لیکن اس کے ضمان کو قبضہ حصی کا قائم مقام مان کر اس کی بیع و شراء کو درست اور جائز قرار دیا جانا چاہئے، بشرطیکہ خریدار (۱) نے فیکٹری سے معاملہ اولاً طے کیا ہو، اور فیکٹری سے مال کی روائی کے بعد خریدار (۲) سے معاملہ طے ہوا ہو، اس صورت میں خریدار (۱) کے حق میں تخلیہ مال کی روائی کے بعد ثابت ہو جائے گا، جو قبضہ کی اساس و بنیاد ہے، تخلیہ کے حصول کے بعد خریدار (۱) کا بیع کے اندر تصرف صحیح ہو گا، اس لئے اس کی بیع خریدار (۲) کے حق میں درست ہو گی، خصوصاً جبکہ وہ ضمان بھی قبول کر رہا ہے۔

رہنمہ کورہ بالاصورت معاملہ میں تخلیہ سے قبضہ کا ثبوت، تو بدائع میں مذکور ہے کہ:

فَتَسْلِيمُ الْمَبْيَعِ إِلَى الْمُشْتَرِيِّ هُو جَعْلُ الْمَبْيَعِ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِيِّ إِذَا خَالَصَاهُ لِهِ بِحِثٍ لَا يَسْأَعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَهَذَا يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فَكَانَتِ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا مِنَ الْبَاعِثِ وَالتَّخْلِيَ قَبْضًا مِنَ الْمُشْتَرِيِّ (بدائع ۵/۲۲۲)۔

مذکورہ بالاصورت معاملہ میں فیکٹری سے مال کی روائی باعث کی طرف سے تسلیم میں یعنی تخلیہ پایا گیا، اور مجمع کی یہ پر دگی مشتری کے حق میں تخلیی یعنی قبضہ متصور ہو گی۔

اور بدائع میں یہ بھی مذکور ہے: حتیٰ لو اشتري مذروا عما مذارعة او معدوداً معاداده و وجدت التخلية تخرج عن ضمان الباع و بحوز له بيعه والانتفاع به قبل الزرع والعد بلا خلاف وإن كان مملا له مثل فإن باعه مجازفة فكذلك (بدائع ۵/۲۲۶)۔

مذکورہ بالاعبارت کی روشنی میں فیکٹری سے خریدا ہو اسکے خواہ مثلى ہو یا غیر مثلى، دونوں صورتوں میں تخلیہ کی بنیاد پر، مشتری کے قبضہ میں ہو جائے گا، مذکورہ بالاصورت معاملہ میں فیکٹری کی طرف سے مال کی روائی تخلیہ مانی جائے

گی، اور بائع کے خمائن سے نکل کر مشتری کے خمائن میں داخل ہو جائے گی، اور یہاں تو مشتری خود بخوبی خمائن قبول کر رہا ہے، اس لئے مشتری کا اس بیع کو تاپنے اور شمار کرنے سے پہلے اس سے انتخاب اور اس کی بیع درست ہو گی۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ بائع کا بیع کے اندر مشتری کے امر سے کوئی بھی تصرف مشتری ہی کا تصرف مانا جاتا ہے، اس لئے اس صورت معاملہ میں بائع کا مشتری کے امر سے فیکٹری سے مال کو ردانہ کرنا خود اس کے قبضہ کے متراوف ہو گا، بائع میں ہے: و كذلك لو فعل البائع شيئاً من ذلك بأمر المشترى لأن فعله بأمر المشترى بمنزلة فعل المشترى بنفسه (بائع ۵/۲۳۶)۔

مذکورہ بالا پوری بحث سے یہ امر واضح ہو گیا کہ مشتری اول کا مشتری ثانی کو مذکورہ بالا صورت معاملہ میں مال کو فروخت کرنا درست ہو گا۔

ے۔ و صورت معاملہ جس میں مین الاقوامی تجارت میں شینپنگ کے بعد اصل بائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مال مشتری تک پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جاتا ہے تو بائع اس کا خمائن نہیں لیتا۔

تو اس صورت معاملہ میں چونکہ بائع کی طرف سے تسلیم بیع پایا گیا اور وہ یہاں پر مال کی شینپنگ ہے، اس لئے اس صورت میں بائع کا فارغ الذمہ ہونا ہی قرین قیاس ہے، اور یہ بیع بھی درست ہو گی، کیونکہ بائع کی طرف سے بیع کی تسلیم بصورت شینپنگ موجود ہے۔

اب اگر یہ مشتری اس مال کو اپنے خمائن میں لے لیتا اور پھر کسی کے ہاتھ سے فروخت کرتا تو یہ بیع بھی درست مانی جاتی، لیکن یہاں صورت معاملہ اس کے بر عکس ہے، کیونکہ مشتری اول جواب بیع کر رہا ہے، وہ مال کو سمندر میں رہتے ہوئے، بغیر خمائن لئے ہوئے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے، تو بیع کی یہ صورت جائز نہ ہو گی، کیونکہ یہ "رُبْ مَالٍ يَصْمِنْ" کی نکل بن رہی ہے جو کہ منہی عنہ فساد عقد کی مقتضی ہے، بل السلام میں یہ روایت ہے:

عَنْ عُمَرِ بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحْلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رَبْعٌ مَالٌ يَصْمِنْ ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ( سِلَامٌ ۳۰۹ )۔

علامہ صنعاوی "ولاربع مالم یضمون" کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں: قبیل معناہ: مالم یقیض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشترى إذا تلفت ، تلفت من مال البائع . اور یہاں صورت حال اس کے بر عکس ہے، وہ یہ کہ مشتری اول سمندر میں موجود مال کو مشتری ثانی تک پہنچنے کا خمائن قبول کئے بغیر بیع کر رہا ہے، اس لئے یہ بیع ناجائز ہو گی۔

هذا ما عندى والله اعلم بالصواب

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا عبدالجلیل قاسمی

۱۔ بیع قبل القبض عام طور پر جائز نہیں ہے، کچھ متنیات اور فتاویٰ، کے اختلافات ہیں جن کا ذکر آگے آرہا ہے، فتاویٰ، اختلاف نے بیع باطل و فاسد و مکروہ کی جو تعریف کی ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض بیع فاسد ہے، الموسوعۃ الفقہیۃ میں ابن عابدین، زیلیعی کی تبیین الحقائق، بدائع اور فتح القدر وغیرہ کے حوالہ سے بیع باطل و فاسد و مکروہ کی تعریف، اور ان کے احکام تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

**والبیع الباطل عند الحنیفۃ هو : مالم یشرع لا باصله ولا بوصفه (الموسوعۃ الفقہیۃ**

(۵۲۹)

**والبیع الفاسد فی الاصطلاح :** ما یکون مشروعاً أصلًاً وصفاً والمراد بالأصل: الصیغة، والعقدان، والمعقود عليه، وبالوصف: ما عدا ذلك (الموسوعۃ الفقہیۃ ۹۸/۹)۔

والباطل هو ما لا یکون صحيحاً أصلًاً وصفاً، والفاسد هو ما لا یصح وصفاً، وكل ما أورث خللاً فی رکن البيع فهو مبطل وما أورثه فی غيره كالتسليم والتسلیم الواجبین به، والانتفاع المقصود منه، وعدم الإطلاق عن شرط لا یقتضيه وغير ذلك فهو مفسد (عنایی علی فتح القدر ۲۰۲/۶)۔

یہی وجہ ہے کہ "موسوعہ" میں شامی کے حوالے سے بیع قبل القبض کو بیع فاسد میں شامل کیا ہے۔

وعدم الصحة هنا، یعنی الفاسد لا البطلان وإن كان نفي الصحة يحملهما لكن الظاهر عند الحنیفۃ هو الفساد لأن علة الفساد هي الغرر مع وجود رکن البيع وكثيراً ما یطلق الباطل على الفاسد (الموسوعۃ الفقہیۃ ۱۲۵/۹)۔

علامہ ابن ہمام نے باطل و فاسد کی بیع اور اس کے احکام کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض ان کے نزدیک بیع فاسد ہے، لکھتے ہیں:

(لأن فيه غرر انفساخ العقد) الأول (على اعتبار الهالاك المبيع) قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك العين بغير إذنه وذلك مفسد للعقد (فتح القدر ۵۱۲/۶) والفساد بمعنى البطلان إلا في السلم أو مع الملك لكن قبل قبضه (فتح القدر ۲۰۲/۶)۔

فقہاء الحنفی کی کتابوں میں جہاں بھی بیع قبل القبض کی بحث کی گئی ہے تقریباً تمام ہی حضرات نے اس کو بیع فاسد ہی میں شمار کیا ہے۔

۲۔ قبضہ کی کوئی خاص حقیقت معین نہیں ہے، بلکہ عرف و معاودت پر موقوف ہے، جس چیز کے بارے میں جس درجہ کا استیلاء اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے گا، وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے گا۔

علامہ حسکفی نے شش و بیع کی پروردگی پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پروردگی یہ ہے کہ تقلید اس طرح ہو کہ بغیر کسی رکاوٹ و دشواری کے قبضہ ممکن ہو۔

ثُمَّ التَّسْلِيمُ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَبْضِ بِلَا مَانِعٍ وَلَا حَاجَةٍ (در مختار علی رد المحتار ۵۲۰/۳)۔

علامہ شاہی نے اس عبارت پر ”بجز“ کے حوالہ سے تفصیلات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:  
وحاصلہ: أَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ حَكْمًا لَوْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كَلْفَةٍ لَكِنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ حَالِ الْمُبَيِّعِ (رد المختار ۵۲۱/۲)۔

صاحب ”بذل الجھوڑ“ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار پوری تحریر فرماتے ہیں: قال الخطابی القروض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في نفسها، فمنها ما يكون بآن يوضع في يد صاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشترى، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بآن يكتال (بذل الجھوڑ ۲۸۲/۲)۔

مذهب المالکیۃ والشافعیۃ والحنابلۃ أن قبض كل شيء بحسبه: فإن كان مکيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً فقبضه بالکيل أو الوزن أو العدد أو الذرع.  
والمالکیۃ شرطوا في قبض المثل تسليمہ للمشتري وتفریغہ فی اوعیته.

وإن كان جزافاً فقبضه نقله ..... وإن كان منقولاً من عروض وأنعام فقبضه بالعرف الجاری بين الناس كما يقول المالکیۃ: كاحتیاز الثوب وتسليم مقدوم الدابة ..... وإن كان عقاراً فقبضه بالتخلية بينه وبين المشترى بلا حائل دونه تمکینه من التصرف فيه بتسليمہ المفتاح وإن وجد ..... ولم يفصل الحنفیۃ ..... بل اعتبروا التخلية وهي رفع الموانع والتمکین من القبض قبضاً حکماً على ظاهر الروایة ..... نص الحنفیۃ على مذهبهم هذا في الرهن في التخلية بينه وبين المرتهن وقالوا: إن التخلية فيه قبض كما هي في البيع فإنها فيه أيضاً قبض وقالوا: لأنها تسليم فمن ضرورته الحكم بالقبض فيترتب عليه ما يترتب على القبض الحقيقي وهذا هو الأصح (الموسوعة الفقهیۃ ۱۳۲/۹-۱۳۳)۔

خلاصة الفتاوی، فتح القدر، الحرامات میں بھی تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔

۳۔ اور کل تفصیلات سے واضح ہے کہ اشیاء منقول وغیر منقول میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔

۴۔ نبی قبل القبض کے سلسلہ میں جواhadیث مروی ہیں وہ معلول بالعلة ہیں۔

علامہ مرغینانی فرماتے ہیں:

والحدیث معلول به عملاً بدلائل الجواز (بدایہ ۵۸۳)۔

نبی کریم ﷺ نے قبضہ سے پہلے بیع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور خود آپ نے شن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے کی اجازت دی ہے۔

عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقاء فابيع بالدناير و آخذ الدرارهم وأبيع بالدرارهم و آخذ الدناير فأثبتت النبی ﷺ وهو ي يريد أن يدخل حجرته فأخذت بشيء فسألته فقال: إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارفك و بشك وبينه بيع (فتح القدر ۱۹۶)۔

اس سے واضح ہے کہ جب آپ نے "بیع قبل قبض المبيع" سے منع فرمایا اور "بیع قبل قبض الشمن" کی اجازت دی، تو منع کرنے کی کوئی خاص وجہ ضرور ہے جو بیع "قبل قبض المبيع" میں پائی جا رہی ہے، اسلئے آپ منع فرم رہے ہیں، اور بیع "قبل قبض الشمن" میں نہیں پائی جا رہی ہے، اسلئے اس میں آپ اجازت دے رہے ہیں، اور وہ وجہ غرہ ہے، یعنی "غير انفاس العقد الاول" ہے، فی الصحاح أنه ﷺ نهى عن بيع الغرہ (فتح القدر ۵۱۲) یعنی اگر مبیع قبضہ سے قبل بلاک ہو جائے تو ای منسون خ ہو جائیگی، مشتری کو معلوم نہیں ہے کہ جس مال کو اس نے خریدا ہے وہ قبضہ میں آئے گا یا نہیں، بلکہ بلاک ہونے کی صورت میں بیع ہی منسون خ ہو جائے گی، اسلئے اس کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ قبضہ میں آنے سے پہلے اس کو فروخت کرے، لیکن شن کے بلاک ہونے کا اثر بیع پر نہیں پڑتا ہے، اسلئے کہ اگر شن متعین بھی ہے تو اس کے بلاک ہونے کی صورت میں بیع منسون نہیں ہوگی، بلکہ مشتری پر لازم ہو گا کہ اس متعین شن کی قیمت بالعکس کو ادا کرے۔

نہیں سے فقہاء نے یہ استنباط کیا ہے کہ ہر وہ عقد جس میں قبضہ سے پہلے بدل کے بلاک ہونے سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہاں اس بدل میں قبضہ سے پہلے بھی تصرف کی اجازت ہے۔

مثلاً عورت کیلئے مہر، زوج کیلئے بدل خلع، حق علی مال، دم عمد میں صلح کا بدل، یہ سب وہ عکتوں ہیں کہ بدل کے بلاک ہونے سے عقد منسون نہیں ہوتا، بلکہ اگر بدل متعین ہو تو بلاک ہونے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرائی جاتی ہے، اسلئے ان سب میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔

فصار الأصل أن كل عقد ينفع بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبیع فی البيع والأجرة إذا كانت عينا فی الإجارة وبدل الصلح عن الدین إذا كان عينا لا يجوز بیع شیء من ذلك... و ما لا یتف Sanchez العوض فالصرف فيه

قبل القبض جائز کالمهر إذا كان دينا وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائر التصرفات في قول أبي يوسف ولو أوصى به قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصية بالإجماع لأن الوصية اخت العيراث ولو مات قبل القبض ورث عنه فكذا إذا أوصى به (فتح القدر ۵۱۲/۶).

ان کل عوض ملک بعقد يفسخ بهلاکہ قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه وما لا يفسخ بهلاکہ جاز التصرف فيه قبل قبضه فمثال الأول المبيع والأجرة وبدل الصلح عن الدین إذا كان الشمن والأجر والبدل عينا ..... ومثال الآخر المهر إذا كان عينا ..... وكذا بدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد (الموسوعة الفقهية ۱۲۸/۹-۱۲۹).

یہاں پر حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کا عقار کے سلسلہ میں بعث قبل القبض کی اجازت دینا بھی صحیح میں آتا ہے، کہ جس طرح ثمن میں قبض کے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں "غرة" نہیں ہے، اور مہر وغیرہ میں بھی غرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تصرف قبل القبض کی اجازت ہے، اسی طرح عقار میں بھی چونکہ "غرة" کا اندر یہ نہیں ہے، اسلئے کہ اس کا خالع ہونا نادر ہے، اور "النادر لا عبرة به" قبل القبض کی اجازت دی گئی ہے۔

البیت خود ان حضرات نے بھی کہا ہے کہ اراضی لب دریا ہو، یا ایسی جگہ ہو کہ ریت کے مجر جانے کا اندر یہ شہر ہو تو وہاں چونکہ زمین کے ہلاک ہونے کا اندر یہ شہر ہے، وہاں "غرة الفساح" موجود ہے تو وہاں بھی بعث قبل القبض کی اجازت نہیں دی جائے گی، حتیٰ قال بعض المشائخ ان جواب ابی حنیفة فی موضع لا يخشى عليه أن يصیر بحراً أو يغلب عليه الرمال، فاما فی موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز كما فی المتنقول ذكره المحبوبی، وفي الاختیار: حتى لو کان علی شط البحر او کان المبيع علوأ لا يجوز بيعه قبل القبض (فتح القدر ۵۱۳/۶).

۵۔ بعث قبل القبض کی تفصیلات میں حضرات ائمہ کرام میں اختلافات ہیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد نے خطابی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل علم کا اجماع اس پر ہے کہ طعام کی بعث قبل القبض جائز نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری اشیاء میں اختلافات ہیں۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف مکاتات اور اراضی کی بعث قبل القبض جائز قرار دیتے ہیں، باقی تمام طعام "غير طعام" غیر طعام میں ناجائز قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی اور امام محمد طعام وغیر طعام، مکاتات اور اراضی تمام ہی چیزوں میں بعث قبل القبض کو ناجائز کہتے ہیں۔ امام مالک مأکول ومشروب کے علاوہ تمام اشیاء میں بعث قبل القبض کو جائز مانتے ہیں۔ اوزاعی، احمد بن حنبل، الحنفی، بن راہب وی مکیل و موزوں کے علاوہ تمام چیزوں میں بعث قبل القبض کو جائز کہتے ہیں۔ یہی ابن المسیب، حسن بصری، حکم اور حماد سے مردی ہے (بدل الحجود ۲۸۳/۳)۔ "الموسوعة الفقهية" میں پوری تفصیل مذکور ہے۔

حضرت امام مالکؓ نے اس کو طعام کے ساتھ مخصوص کیا ہے جبکہ وہ معاوضہ لے کر حاصل کیا گیا ہو، اور کیلیں یا وزن کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو، اگر بلا معاوضہ حاصل ہوا ہے، یا تجھیں سے خریدا گیا ہے تو اس میں بھی بیع قبل القبض کی اجازت دیتے ہیں، دوسری تمام چیزوں میں وہ بیع قبل القبض کی اجازت دیتے ہیں۔

**ومذهب المالكية أن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل قبضه، سواء كان الطعام ربويا كالقمح أم غير ربوى كالتفاح عندهم ، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه وذلك لحديث ابن عباس المتقدم من ابتاع طعاما فلا يعده حتى يقبضه ولغلبة تغير الطعام دون مسوأة ، لكنهم شرطوا الفساد هذا النوع من البيع شرطين:**

(الف) أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة اي في مقابلة شيء باجارة أو شراء أو صلح أو إرش جنابة ... فهذا الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه إما لو صار إليه الطعام ببهة أو ميراث مما ليس أخذة بعوض فيجوز بيعه قبل قبضه

(ب) وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد في شريه بكيل وبيعه قبل قبضه ... أما لو اشتراه جزافا ثم باعه قبل قبضه فيكون جائز (الموسوعة الفقهية ١٢٦/٩).

موسوعہ میں امام احمدؓ سے مختلف روایتیں منقول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ طعام کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اسلئے کہ حضور اکرم ﷺ نے جس چیز میں بیع قبل القبض سے منع کیا ہے وہ طعام ہے، اس کا مطلب ہوا کہ طعام کے علاوہ دوسری چیزوں میں بیع قبل القبض جائز ہوگی۔

الأصح أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام، وذلك لأن النبي ﷺ "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه" فمفهومه إباحة ما سواه قبل قبضه (الموسوعة الفقهية ١٢٧/٩).

اس کے ساتھ ہی ان روایات کا بھی مذکور ہے جن میں طعام میں بیع قبل القبض سے مختلف الفاظ میں منع کیا گیا ہے، ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ مکمل و موزون، معدود و مدرود میں مشتری کا تصرف قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سہارپوری نے نقل کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ حدیث میں طعام قبل القبض سے منع کیا گیا ہے، اور اس زمانہ میں غالباً طعام کا لفظ کمیل و موزون میں ہی استعمال کیا جاتا تھا، معدود و مدرود کو اس پر قیاس کیا گیا ہے۔

ان الحديث المذكور نهى عن بيع الطعام قبل قبضه و كان الطعام يومئذ مستعملا غالباً فيما يكال ويوزن وفيه عليها المعدود والمدرود لاحتياجهما إلى حق التوفيق (حوالہ سابق ١٢٨/٩).

ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ کسی چیز کی بیع قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہما اللہ کا نہ ہے:

وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه وهي التي وافق فيها

### الإمام الشافعی وغیره (حوالہ سابق)۔

امام محمد اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی چیز کی بیع قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے، طعام ہو غیر طعام ہو، منقول ہو یا غیر منقول اراضی وغیرہ ہو، ان کا مستدل وہ روایات ہیں جن میں مطابقاً قبضے سے پہلے بیع سے منع کیا گیا ہے۔

وذلك لحديث حكيم بن حرام قال : قلت: يا رسول الله إني أشتري بيعاً فما يحل لى منها و ما يحرم على؟ قال : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (حوالہ سابق ۱۴۲/۹)۔  
نیز طعام میں بیع قبل القبض کی نہیں کے راوی حضرت ابن عباس سے منقول ہے: ”ولا أحسب كل شئ إلا مثله“ (مشکوٰۃ ر/۲۲۷) ابو داؤد کے الفاظ ہیں: و قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام (ابوداؤد ۱۰۲/۲)۔

حضرت امام اعظم وابو یوسف نے طعام کے ساتھ تمام منقول اشیاء میں بیع قبل القبض کو ناجائز کہا ہے، اراضی و مکانات وغیرہ غیر منقول اشیاء میں وہ بیع قبل القبض کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جواب (۲) میں اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔

۶۔ فیکثری کا مال بیچنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص فیکثری کا ایجٹ ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، خریداروں سے بات کرتا ہے، ان سے آرڈر لیتا ہے، اور پھر فیکثری سے آرڈر کے مطابق خریداروں کو مال روانہ کر دیا جاتا ہے، اور اس شخص کو فیکثری کی طرف سے کمیشن ملتا ہے، اس صورت میں وہ فیکثری کا وکیل ہوتا ہے، یہ بیع قبل القبض نہیں ہے، اسلئے جائز ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص فیکثری کے ساتھ معاملہ طے کر لیتا ہے، ہر ماہ میں مجھے اتنا مال ملنا چاہئے، اور وہ سفر کر کے خریدار تیار کرتا ہے، اور مال کی قیمت اس کو معلوم ہے، اسی میں اپنا منافع رکھ کر خریدار سے بات کر لیتا ہے، اور فیکثری سے مال اس کو روانہ کر دیتا ہے، اس صورت میں تو بیع قبل القبض ہی نہیں بلکہ ”بیع مالیں عنده“ ہے، یعنی ابھی تو اس نے فیکثری سے خریداری نہیں کی اور مال کا مالک نہیں بنا اور فروخت کر دیا، یہ بیع قبل الملک ہے، اور سراسر ناجائز ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے مال فیکثری سے خرید لیا، پھر اس میں دو صورتیں ہیں:

اول یہ ہے کہ فیکثری کے اموال میں سے خرید کردہ مال جدا کر کے ایک جگہ محفوظ کر دیا، پھر اس نے کسی خریدار سے بات کی، اور فیکثری سے اس کو برادرست مال روانہ کر دیا، میرے خیال سے فیکثری سے خرید کردہ مال کو جدا کر کے رکھوادیا قبضہ مانا جائے گا، اسلئے اس بیع کو صحیح قرار دیا جائے گا، یہ ”بیع بعد القبض“ ہے نہ کہ ”قبل القبض“۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے فیکثری سے مال خرید لیا، اور ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا، اور کسی دوسرے خریدار کے پاتھ فروخت کر کے فیکثری سے مال برادرست دوسرے خریدار کو بخیج دیا، جیسا کہ سوال میں مذکور ہے تو یہ

صورت بع قبض کی ہے اور ناجائز ہے۔

یہ کہنا کہ جب مال فیکٹری سے روانہ ہوتا ہے تو خریدار اول کے ہمان میں آ جاتا ہے اور یہ "ربع مالم یضمون" نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ "ربع مالم یضمون" کا معنی بع قبض ہے، ومعنی "ربع مالم یضمون، ربع مابع قبض" مثل: ان یشتري متاعاً و یبیعه إلی آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل وربما لا یجوز لأن البيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشترى منه لعدم القبض (الموسوعة الفقهية ۱۴۲/۹)۔

جس وقت اس نے فروخت کیا مال اس کے قبضہ میں نہیں تھا، بعد میں اس کے قبضہ میں آیا، اسلئے یہ جائز نہیں ہوگا، البتہ چونکہ اس طرح سے بع و شراء کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے، اسلئے امام مالکؓ کے قول کے مطابق اگر طعام نہ ہو تو اس طرح بع و شراء کی اجازت دی جاسکتی ہے، عموم بلویؓ کی وجہ سے دوسرے ائمہ کے مسلک کو اختیار کرنے کی اجازت فقہاء دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ فقه و فتاویٰ کی کتابوں میں معروف ہے۔


ماضی قریب کے مشہور فقیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک استفتہ کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: یہ معاملہ حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے..... چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، لہذا امام شافعیؒ کے قول پر عمل کی گنجائش ہے (امداد الفتاوی ۲۱/۳)۔

اس طرح چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، اسلئے میرے خیال میں امام مالکؓ کے قول پر عمل کی گنجائش دی جاسکتی ہے۔

۔۔۔ جب مشتری نے مال کی خریداری کے بعد بالع کو کہدیا کہ میرا مال فلاں جہاز پر لا دیا جائے اور باع نے اس کے حکم کے مطابق مال جہاز پر بھیج دیا، تو اب وہ مال مشتری کے ہمان میں آ گیا اور جہاز پر لا دینا مشتری کا قبضہ مانا جائے گا، اور جب اس کے قبضہ اور ہمان میں آ گیا تو اس کے لئے اس میں ہر طرح کا تصرف کرنا بھی جائز قرار پائے گا، اسلئے اگر اس نے اس مال کو فروخت کر دیا تو یہ فروختگی جائز قرار پائے گی۔

ای طرح اجر کا قبضہ متناجر کا قبضہ قرار دیا جائے گا، اور صاحب جہاز اجر ہے، اس کا قبضہ مالک کا قبضہ قرار پائے گا، تو جس طرح مالک جہاز کا قبضہ مشتری اول کا قبضہ مانا جائے گا، اسی طرح مالک جہاز کا قبضہ مشتری ثانی کا قبضہ بھی مانا جائے گا، اور مشتری ثانی کیلئے بھی جائز ہو گا کہ وہ کسی تیسرے کے ہاتھ فروخت کر دے..... میری رائے ہے کہ اس صورت کو جائز ہونا چاہئے۔

ہدایت اللہ عنده علم الصواب۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شرعی حکم

محمد عزیز اختر القاسمی

### ۱۔ بیع قبل القبض شریعت کی روشنی میں:

حدیث اور فقہ و فتاویٰ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیع قبل القبض ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں عتاب بن اسید کا واقعہ لکھا ہے کہ جب انہیں مکہ کا امیر بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جاؤ بیت اللہ والوں کی طرف اور انہیں چار چیزوں سے روکو، ان میں سے پہلی چیز قبل القبض ہے (فتح القدر ۶/۱۳۶)۔

اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے: ”قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، اور اس کے آگے حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول مذکور ہے کہ ”أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثلك“ (مشکوٰۃ ارجاء ۲۲۷)۔

اور اس کے علاوہ مختلف محدثین نے اپنی اپنی تالیفات میں بہت سی دوسری احادیث نقل کی ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض درست نہیں ہے۔

علامہ بریان الدین نے بھی ایسی عبارت درج فرمائی ہے جن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض ناجائز ہے (ہدایۃ معفتح ۱۳۵/۲، البحر الرائق ۱۱۶/۶)۔ چنانچہ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ اشیاء جسے منتقل کرنا ممکن ہو قبضہ سے قبل فروخت کرنا ناجائز نہیں ہے۔

ہدایہ کے مذکورہ بالا اقتباس سے جہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ منقولہ اشیاء کی خرید و فروخت قبضہ سے قبل ناجائز ہے وہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیر منقولہ اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہے، جیسے زمین۔

حضرت امام محمد گرجی رائے اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ قبضہ سے قبل اس کا فروخت کرنا ناجائز نہیں، ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حدیث میں مطلقاً غیر مقبولہ اشیاء کی بیع سے منع کیا گیا ہے، لہذا حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے تمام اشیاء غیر مقبولہ کی بیع کو شامل ہو گی، خواہ وہ شی از قبیل منقولات ہو، یا غیر منقولات، سب کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہو گی۔

لیکن حضرات شیخینؓ کی رائے کہ ہے کہ حدیث تمام اشیاء کو عام نہیں ہے بلکہ صرف منقولہ اشیاء کا حکم حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اشیاء جو غیر منقولہ ہیں اس کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہو گی، ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حدیث مذکور معلل بعلت ہے، یعنی شبہ ”غرض“ لہذا جہاں کہیں یہ بعلت ہو گی، بیع قبل القبض ناجائز اور جہاں بعلت معدوم

وہاں بیع قبل القبض جائز ہوگی، (البحر الرائق ۱۱۶/۲) علامہ شامی نے بھی یہ تفصیل ذکر فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے جو فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ:

ہر دہشتی جو نقل نہ کی جاسکتی ہو اس کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہوگی لیکن جو نقل کی جاسکتی ہو اس کی بیع قبضہ سے قبل درست نہیں ہے، عبارت اس طرح ہے:

صح بيع عقار لا يخشى هلاك قبل قبضه من باائعه لعدم الغر لقدرة هلاك العقار  
حتى لو كان على نهر ونحوه كان كمنقول فلا يصح اتفاقا ككتابة وإجارة وبائع  
منقول قبل قبضه (در مختار ۲۲۳/۳).

ذکرورہ عبارت سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیع قبل القبض کے جائز و ناجائز ہونے کا مدار منقول اور غیر منقول اشیاء ہونے پر نہیں ہے بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر دہشتی جس پر مشتری ثالثی یا ثالث کی ملکیت اور قبضہ متحقق ہونے سے قبل اس بیع کا ہلاک ہونا نادر ہو، خواہ یہ ندرت کسی وجہ سے بھی ہو اس کی بیع قبضہ سے قبل جائز ہوگی، خواہ وہ منقول ہی کیوں نہ ہو، اور ہر دہشتی جس پر مشتری ثالثی کی ملکیت و قبضہ سے قبل ہلاک ہونا اکثر ہو تو اس کی بیع قبضہ سے قبل درست نہیں ہے۔

### بیع قبل القبض باطل ہے یا فاسد:

وہ اشیاء کہ جن کی بیع قبضہ سے قبل ناجائز ہے تو اگر کہیں اس قسم کی بیع کا تحقیق ہوتا سے باطل کہا جائے گا، یا فاسد، یا مکروہ؟

فقہاء محققین نے بیع منہ کی عموماً تین قسم ذکر فرمائی ہے: باطل، فاسد اور مکروہ۔

فاسد وہ بیع ہے جو اپنے اصل کے اعتبار سے صحیح اور وصف کے اعتبار سے غیر م مشروع ہو، اور باطل وہ بیع ہے جو اصل و وصف دونوں اعتبار سے غیر م مشروع ہو، اور مکروہ بیع وہ ہے جو اصل و وصف دونوں اعتبار سے مشروع ہو لیکن کسی شی مجاور کی وجہ سے اس قسم کی بیع سے روک دیا ہو، جیسے بیع بوقت اذان جمع کے ایسی بیع اپنے اصل و وصف کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن "معنی الجمع" بجواہ جب ہے، کاچون کہ ترک لازم آتا ہے اس لئے ایسی بیع مکروہ ہوگی، یعنی وجہ ہے کہ اگر "معنی الجمع" کا ترک لازم نہ آوے اور بیع بھی ہو تو بااتفاق فقہاء اس میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے، جیسے باائع اور مشتری کسی کشتمی میں سوار ہو کر جامع مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور درمیان راہ بیع بھی ہو تو یہ جائز ہوگی (نور الانوار ۶۲/۲).

بیع باطل اور فاسد میں فرق و امتیاز اس طرح آسان ہو گا کہ عوامیں میں سے کوئی ایک یا دونوں موجودہ شریعت یا سابقہ شریعت میں مال نہ ہو تو بیع باطل ہوگی، جیسے مردار اور خون کی بیع، لیکن اگر عوامیں میں سے کوئی ایک سابقہ شریعت میں مال تو تھا لیکن موجودہ شریعت میں مال نہیں ہے اور اسے کسی ایسی شی کے ذریعہ فروخت کیا جا رہا ہے جو اموال کے قبیل سے ہے اثماں کے قبیل سے نہ ہو تو اسکی بیع فاسد ہوگی، اور اگر اس کا عکس ہو، یا اثماں کے ذریعہ

خرید اجارہ ہو تو یہ بیع باطل ہوگی (ردمختار ۱۳۸/۲)۔

بیع باطل و فاسد کی حقیقت اور فرق واضح ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہو گیا، چنانچہ بیع قبل القبض میں عاقدین اہل ہوں، اور عوضین میں سے ہر ایک موجودہ شریعت میں مال ہے تو ایسی بیع فاسد ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ہو تو ایسی بیع باطل ہوگی، چنانچہ متقدیں بزرگوں نے بھی اسی تفصیل کے مطابق بیع قبل القبض کو فاسد و باطل قرار دیا ہے، شرح عنایہ حاشیہ فتح القدر میں عبارت اس طرح درج ہے:

”واللهی یقتضی الفساد فیکون الیبع فاسداً قبیل القبض (فتح القدر ۱۳۷/۶) اور در مختار کی عبارت سے پڑھتا ہے کہ بیع قبل القبض باطل ہے، عبارت اس طرح ہے: بخلاف بیعہ فبلہ فإنه باطل مطلقاً“ (در مختار ۲۲۵/۳)، اور الجواہر الخیرۃ کی عبارت سے بھی یہی صحیح میں آرہا ہے، عبارت ملاحظہ ہو: لا یجوز بیعہ قبل القبض لا من بالعه ولا من غیرہ فیان باعه فالیبع الثانی باطل والیبع الأول على حاله جائز (۲۱۰/۱)۔

مذکورہ دونوں عبارتوں سے پڑھتا ہے کہ بیع قبل القبض باطل ہے، لیکن اصل وہی ہے جو بحوالہ ”فتح القدر“ اور ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث میں صحبت بیع کی جوئی ہے وہ گرچہ باطل اور فاسد دونوں قسم کو شامل ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ ایسی بیع فاسد ہے، باطل تو اس صورت میں ہوتی جب عوضین میں سے کوئی ایک مال ہی نہ ہوتا، اور یہاں مفروضہ مسئلہ میں عوضین میں سے ہر ایک مال کا ہوتا فرض کیا گیا، ہے اور عاقدین امیت بھی رکھتے ہوں، صرف منع تھے ”غراہی“ کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور متقدیں نے جو باطل قرار دیا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ بیع فاسد ہوگی، باطل نہیں، اور علامہ شافعی نے یہی محاکمہ بھی فرمایا ہے کہ باطل سے فاسد ہی مراد ہے باطل نہیں، عبارت اس طرح ہے: الواقع في المتن يتحملهما أى يتحمل البطلان والفساد والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما هو مع وجود ركسي البيع وكثيرا ما يطلق على الفاسد (در مختار ۲۲۶/۲)۔

## ۲۔ قبضہ کی حقیقت:

قبضہ باعیار لغت از ”صوب یضرب“ قبض قضاً الشی وعلی الشی، کسی شی کو کپڑا، قبضہ میں لینا اور سینا وغیرہ، اور اسلامی شریعت میں قبضہ کا حاصل یہ ہے، مالک اموال اپنی ملکیت سے اس طرح دست بردار ہو جائے اور علاحدہ ہو جائے کہ وہ شی کسی شی کے ساتھ مشغول ہو اور وہ شی مالک اول کے کسی چیز کے ساتھ متصل ہو اور غیر کا اس پر استیلا، ہو جائے، نیز مالک اول ان باتوں کو اپنی زبان سے ظاہر بھی کر رہا ہو کہ میں نے مال تمہارے حوالہ کیا، جیسا کہ ”در مختار“ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، عبارت اس طرح ہے: ثم التسلیم یکون بالتخلبۃ علی وجه یتمکن من القبض بلا مانع و حائل و شرط فی الأجناس شرطًا ثالثاً وهو أن يقول: خلیت بیسک و بین المبع (در مختار ۵۸/۳)۔

علامہ ابن قیم مصری نے قبضہ کی حقیقت جوڑ کر فرمائی ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے، ان کی ذکر کردہ عبارت

اس طرح ہے واما ما یصیر بہ قابضہ حقیقت ففی التحرید تسلیم المبیع ان يخلی بینه وین المبیع  
علی وجہ یتمکن من قبضہ بغیر حائل (بجرالرائق ۳۰۸/۵)۔

مذکورہ اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبضہ کی حقیقت متحقق ہونے کیلئے تن چیزوں کا وجود ضروری ہے،  
ایک یہ ہے کہ مالک مال غیر سے یوں کہے کہ میں نے مال تیرے حوالہ کیا، دوسرا یہ کہ یہ قول اس غیر کی موجودگی میں  
اس طرح ہو کہ اس شخص کیلئے مال پر استیلا، کلی ممکن ہوا اور کوئی چیز اس کے استیلا، سے مانع نہ ہو اور تیسرا چیز یہ ہے کہ وہ  
اس طرح عادہ ہو کہ وہ شی نہ کسی حق کے ساتھ مشغول ہو اور نہ کسی شی کے ساتھ متصل ہو، اور شخص غیر یہ کہے کہ "میں  
نے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا" یا اس کی طرف سے کوئی ایسا فعل ہونا ضروری ہے جس سے قبضہ پر دلالت ہوتی ہو۔  
لہذا اگر باائع یہ نہ کہے کہ میں نے یہ مال تیرے حوالہ کیا، یا غیر کیلئے فی الحال اس مال پر کسی وجہ سے استیلا،  
ممکن نہ ہو، یا وہ مال کسی کے حق کے ساتھ مشغول ہو، یا کسی شی کے ساتھ متصل ہو تو ان تمام صورتوں میں قبضہ کا تحقق نہ  
ہو گا، جیسا کہ "البجرالرائق" کی ہمارت سے سمجھی میں آ رہا ہے، عبارت اس طرح شروع ہوئی ہے: ان دفعہ ولم بقل  
شنا الح (۳۰۸/۵)۔

### قبضہ کی کوئی معین صورت نہیں ہے:

شریعت کے اعتبار سے قبضہ کے تحقق کیلئے کوئی خاص شکل معین نہیں ہے کہ اس کے علاوہ صورت میں قبضہ  
کا تحقق نہ ہو، بلکہ عرف و عادات کے لحاظ سے قبضہ کی جو شکل بھی معروف و متعارف ہو اور متصور ہو سکتی ہو، وہی شکل  
باختصار شرع معتبر ہوگی، بھی وجہ ہے کہ بیان تعالیٰ کا روانج قائم ہے اور شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، اگر باختصار شرع  
قبضہ کی کوئی خاص شکل معین ہوتی تو قیاس کا تناقض یہ تھا کہ اس طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہوتی اور اس کے ذریعہ  
حاصل ہونے والا مال خبیث ملک ہوتا، لیکن فقه و فتاویٰ کی تمام کتابوں میں تقریباً اس کے جواز کا تذکرہ ملتا ہے، اور  
اسے غاف قیاس بھی نہیں کہا گیا ہے (البجرالرائق ۵/۲۰۷)۔

نیز اسی وجہ سے کہ قبضہ کی کوئی شکل باختصار شرع معین نہیں بلکہ اسے عرف و عادات پر منی قرار دیا گیا ہے،  
مختلف اشیاء میں مختلف طرق سے قبضہ کا تحقق ہوتا ہے، چنانچہ علامہ ابن الجهم نے "البجرالرائق" میں قدرتے اس کی  
تفصیل ذکر فرمائی ہے، مثلاً وہ پھل جو درخت پر ہوتے ہوئے فروخت کئے گئے ہیں تو گرچہ یہ پھل باائع کے درخت  
کے ساتھ متصل ہے لیکن جب حوالہ کرنا اور مشتری کا دیکھنا پایا گیا تو قبضہ ہو جائے گا، اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی  
مکان فروخت کیا اور اس کا پکھا مال و اسباب اس میں ہے اور اسی حال میں باائع نے مکان کا تالا مشتری کے حوالہ کر دیا تو  
یہاں قبضہ کا تحقق نہ ہو گا، یا گندم، یا اور کوئی ثانی مشتری کے حوالہ اس طرح کیا کہ وہ باائع کی تھیلی میں ہے تو قبضہ کا تحقق  
نہ ہو گا (رب المحتار ۳/۵۸، بجرالرائق ۵/۳۰۹)۔

اور کسی جگہ قبضہ کا تحقق اس طرح ہو گا کہ مشتری کے حوالہ اس طرح ہو گا کہ مشتری مبیع کو اپنی جگہ، یا اپنے  
مکان کی طرف منتقل کر لے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، ابن عمرؓ، راویت میں ہے: "فَنَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

عن بیعہ فی مکانه حتی ینقلوہ” تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبضہ کے تحقیق کیلئے ”نقل الشی من مکان الی مکان“ کافی ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے، اس میں ”حتی تقبض“ کا لفظ ہے، جس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مطلقاً قبضہ ضروری ہے، چاہے جس صورت سے ہو اور چاہے ”نقل الشی من مکان الی مکان“ کا وجود ہو یا نہ ہو (مشکوٰۃ شریف ۱/۲۷۴)۔

نیز شریعت نے بھی اس کو عرف و عادت ہی پر چھوڑ دیا ہے اس کی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی ہے، چنانچہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک زمین خریدی اور وہ زمین مشتری کی نگاہ سے اچھل کے پھر بھی قبضہ کا تحقیق ہو جائے گا، اس کے برخلاف کسی نے کوئی مکان خریدا اور وہ مکان مشتری کی نگاہ سے دور ہے تو بعیض صحیح ہو گی لیکن قبضہ کا تحقیق نہ ہو گا، علامہ ابن حکیم نے بصراحت یہ مسئلہ لکھا ہے، الْجَرَارَاقِ میں عبارت اس طرح ہے: ”وَفِی جَامِعِ شَمْسِ الْأَئمَّةِ يَصْحُقُ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ غَايَةً عَنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ“ اور دوسری جگہ عبارت اس طرح ہے: وَلَوْ بَاعَ دَارًا غَائِبَةً فَقَالَ سَلِمَتْهَا إِلَیَّكَ فَقَالَ قَبْضُهَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا الْخَ (الْجَرَارَاقِ ۵/۳۰۸)۔

۳۔ منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء کے قبضہ میں فرق ہے:

قبضہ کی حقیقت جواہی ذکر کی گئی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء کے قبضہ میں قدرے اشتراک ہے، کیونکہ جہاں کہیں قبضہ کے تصور و تحقیق کا ذکر ہے وہاں ایسی عبارت ملتی ہے: تسلیم المبیع ان یخلی بینہ و بین المبیع علی وجہ یتممکن من قبضہ بغیر حائل (الْجَرَارَاقِ)۔

ذکورہ عبارت میں منبع عام ہے، خواہ منقول ہو، یا غیر منقول، البتہ حدیث میں جو عبارت ملتی ہے اس سے پہلے چلتا ہے کہ منقولہ اشیاء کی بیع قبضہ سے قبل جائز نہیں، اور اس کی غایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ مشتری اس کو ایسی جگہ منتقل کر لے جہاں باع کا کوئی تعلق نہ ہو، روایت اس طرح ہے: عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مکانه فهأتم رسول الله ﷺ عن بيعه في مکانه حتی ینقلوہ (مشکوٰۃ ار ۲۷۶)۔

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منقولہ اشیاء میں قبضہ کا تحقیق اس طرح ہو گا کہ مشتری بیع کو کل خریداری سے اپنی جگہ اور اپنے مکان کی طرف منتقل کر لے، لیکن غیر منقولہ اشیاء میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے صاحب ”جز“ نے یہ نقل کیا ہے کہ منقولہ اشیاء میں تحقیق قبضہ کیلئے ضروری ہو گا کہ مشتری کی طرف سے بیع کو منتقل کرنا پایا جائے، عبارت اس طرح ہے: ”وَفِی الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَالنَّقْلِ إِلَى مَکَانٍ لَا يَخْتَصُ بِالْبَانِعِ“۔

مزید وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تسلیم المبیع کی صحت کیلئے تین چیزوں کی ضرورت ہے، عبارت اس طرح ہے: ”وَفِی الْأَجْنَاسِ يَعْتَبَرُ فِی صَحَّةِ التَّسْلِيمِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ، أَنْ يَقُولَ: خَلِيلٌ بَنِيكَ وَبَيْنَ الْمَبْيَعِ، وَأَنْ يَكُونَ يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي عَلَى صَفَةِ يَتَأْتَى فِيهِ الْفَعْلُ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ، وَأَنْ يَكُونَ مَفْرَزاً غَيْرَ مَشغُولٍ بِحَقٍ“ (الْجَرَارَاقِ ۵/۳۰۹-۳۱۰)۔

اور غیر منقول اشیاء میں تحقیق قبضہ کیلئے تینوں باتوں کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اول کی دو باتیں یعنی تخلیٰ کا قول و فعل اور مشتری کا حاضر ہونا کافی ہے، عبارت اس طرح ہے: وَفِي النهايةَ مَعْزِيْا إِلَى الْغَايَةِ أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْعَقَارِ بِالْتَّسْلِيَةِ ، اور حضور مشتری کا اضافہ اس لئے کیا گیا کہ اگر نہ مشتری ہوا وہ اس کا کوئی وکیل اور نہ کوئی نائب ہو تو بیٹھنے پر قبضہ جو مشتری کا فعل ہے، کا تحقیق نہیں ہو سکتا ہے، گویا تحقیق قبضہ کیلئے مشتری کا اس پر قبضہ کرنا ممکن ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ اگر کسی جگہ ایسا ممکن نہ ہو، باہم طور کے مشتری موجود ہو لیکن میج کے مشتری سے دور ہونے کی بنا پر مشتری کیلئے اس پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے تو قبضہ کا تحقیق نہ ہو سکے گا، حرام اہن حجۃم وغیرہ بزرگان امت نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک قطعاً راضی فروخت کیا اور اس کی طرف سے تخلیٰ کا بھی تحقیق ہوا مگر یہ قطعاً راضی مشتری کے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے تو قبضہ کا تحقیق نہ ہوگا، عبارت اس طرح ہے

"ذَكْرُ فِي النَّوَادِرِ إِذَا بَاعَ ضَبْعَةً وَخَلَى بَيْهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ إِنْ كَانَ يَقْرُبُ مِنْهَا بِصَرِيفٍ قَابِضاً، وَإِنْ كَانَ يَعْدُ لَا يَصِيرُ قَابِضاً (الْحِرَارَاتِ ۵/۳۰۸، رَدِّ الْمُتَّارَ ۵/۵۹)۔

قرب و بعد کا یہ معیار قائم کیا گیا ہے کہ اگر اس میج پر مشتری کیلئے وہاں پر رہتے ہوئے قبضہ کرنا با تکلف ممکن ہوتا ہے اور اگر با تکلف ممکن نہ ہوتا ہو بعد ہے، مثلاً کسی شخص نے ایک مکان خریدا اور باعث نے اس مکان کی تامیل مشتری کے حوالہ کر دی تو مشتری کیلئے اگر اس مکان کو کھولنا اور اس کو بند کرنا با تکلف ممکن ہوتا ہو قبضہ کا تحقیق ہوگا اور اگر با تکلف کھولنا بند کرنا ممکن نہ ہوتا تو قبضہ کا تحقیق نہ ہوگا، گرچہ امام عظیم اور حضرات صاحبین کا اس میں قادرے اختلاف ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ زمین پر قبضہ کے تحقیق کیلئے مشتری کا زمین کے قریب ہونا ضروری نہیں، دور ہو تو بھی قبضہ کا تحقیق ہو جائے گا، البتہ بالعکس کی طرف سے تخلیٰ ہونا چاہئے، لیکن حضرت امام صاحب کا یہ قول مرجوح ہے، جیسا کہ طاوس شامی نے تذکرہ فرمایا ہے۔

"وَفِي الْمَحِيطِ وَجَامِعِ شَمْسِ الْأَنْتَمَةِ أَنَّهُ بِالْتَّخْلِيَةِ يَصِحُّ الْقَبْضُ، وَإِنْ كَانَ الْعَقَارَ بَعْدَهُ عَالِيَا عَنْهُمَا عَنِدَ أَبِي حِنْفَةَ خَلَافًا لِِهِمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ (رَدِّ الْمُتَّارَ ۵/۵۹)۔

اور صاحب "بحر" نے بھی یہ مساحت کی ہے کہ امام صاحب کا یہ قول ضعیف ہے، عبارت اس طرح ہے: فَقَدْ عَلِمْتُ ضَعْفَ مَا فِي الْمَحِيطِ وَجَامِعِ شَمْسِ الْأَنْتَمَةِ الْخَ (الْحِرَارَاتِ ۵/۳۰۹)۔

"الموسوعۃ الفقیریۃ" کے مطابع سے بھی تجویں آتا ہے کہ منتول اور غیر منتول اشیاء کے قبضہ میں برا فرق ہے، چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر شی پر قبضہ اسی کی حیثیت سے ہوتا ہے، عبارت یوں ہے: "إِنَّ قَبْضَنَ كُلَّ شَيْءٍ بِحَسِيبٍ" آگے مزید تفصیل یوں ذکر کی گئی ہے کہ اگر بیچ کیلی ہو تو قبضہ بذریعہ کیلی ہوگا، اور وزنی ہے تو قبضہ بذریعہ وزن ہوگا، اور اگر عددی یا ذرائی ہے تو قبضہ شمارکر کے، یا ناپ کر کے تحقیق ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ دوسری کوئی منتول شی ہو تو اس پر قبضہ کا تحقیق عرف جاری کے ذریعہ ہوگا، لہذا جس چیز پر قبضہ کا جو تصور اور جو طریقہ معروف و متعارف ہوگا اسی طریقہ کے مطابق قبضہ کا تحقیق ہوگا، ساری چیزوں پر قبضہ کی ایک اتنی شکل لازم و ضروری نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ منقول اور غیر منقول اشیاء میں قبضہ کی نوعیت کے انقبار سے بہتر فرق ہے۔

### ۱۲۔ حدیث نبی معلول ہے:

خرید و فروخت کی صحت کیلئے جہاں اور بہت سی شرطیں ہیں وہیں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا دھوکہ اور مشتری کے قبضہ میں آنے سے قبل بلا کسٹ منع کا کوئی خطرہ نہ ہو، اگر اس طرح کا کہیں کسی طرح کا خطرہ پیدا ہو جائے تو خرید و فروخت ناجائز ہو جائے گی، چنانچہ علامہ ابن ہمام نے "فتح القدر" میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے خرید و فروخت میں دھوکہ بازی سے منع فرمایا ہے، الفاظ اس طرح ہیں: أنه طلاقه نبھی عن بيع الغرر (فتح القدر، مشکوہ ۱/۷۴)۔

اس سے صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر وہ بیع جس میں "غیر" کا امکان ہو وہ بیع ناجائز ہو گی، گونکہ خرید و فروخت کے متعلق اپنے خاص وجود دھوکہ ہی نہیں بلکہ امکانی دھوکہ کا سد باب بھی متھود ہے، اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں راجح ہیوں میں سے جس بیع کے اندر امکانی دھوکہ کا تصور ہوا اس سے منع کر دیا گیا، اور دھوکہ بازی کرنے والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: "من غش فليس هنا، اور" لہی رسول اللہ ﷺ عن المحاقلة والمرابنة والمحابرة والمعاودة" وغیرہ احادیث سے صاف طور پر یہی ثابت ہوتا ہے کہ دھوکہ کا امکان جس بیع میں ہو گا وہ بیع ناجائز ہو گی، اور جو شخص دھوکہ بازی کرے گا وہ امت کا فرد ہی نہ ہو گا۔

ای طرح بیع قبل القبض کے متعلق جو روایتیں مختلف مندوں اور متنوں کے ساتھ پائی جاتی ہیں وہ ممنوع صرف اسی بنا پر نہیں ہے کہ فروخت کی جانے والی شی بائع کے قبضہ میں نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی بیع قبل القبض کا تصور ہواستہ ناجائز قرار دیدیا جائے، بلکہ بیع قبل القبض کی ممانعت اس جگہ ہو گی جہاں دھوکہ کا امکان ہو، گویا کہ ہر وہ حدیث جس میں بیع قبل القبض سے تھی آئی ہے وہ مطلقاً نہیں بلکہ معلول ہے کسی علت کے ساتھ، اور اس کی علت حضرت امام عظیم ابو حذیفۃؓ کے نزدیک "غیر" یعنی امکانی دھوکہ ہے، گویا ممانعت فرمایا کہ امکانی دھوکہ کا بھی سد باب کرو یا گیا۔

اور علت نبھی "غیر" یعنی امکانی دھوکہ ہی ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اس لئے کہ بعد استقراء و تبع یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ معاملہ جہاں امکانی دھوکہ کا تصور ہوا تو اس سے ممانعت کر دی گئی اور جہاں کہیں جس معاملہ میں امکانی دھوکہ کا تصور نہیں اس معاملہ کو درست قرار دیا گیا، جیسے کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی اور مہر میں غلام مقرر کیا گیا، تو عورت کیلئے اس پر قبضہ شرعی کے متعلق ہونے سے قبل ہی جائز ہے کہ وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کر سکے، چاہے اسے آزاد کر دے، چاہے تو اسے بچ دے وغیرہ، اور اس کے خلاصہ اور بہت سی املاک ایسی ہیں کہ ان پر قبضہ سے قبل قبلي تصرف جائز ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ وہاں امکانی دھوکہ کا تصور نہیں ہے، علامہ ابن حبیم نے عبارت اس طرح ذکر فرمائی ہیں:

"أراد بالمنقول المبيع المنقول ، فجاز غيره كالمهر وبدل الخلع" .

اور اس کے بعد ایک شابطہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ عوض جو کسی ایسے عقد کے ذریعہ ملکیت میں آیا ہو کہ عوض کے باک ہونے کی وجہ سے عقد ہی ختم ہو جائے تو ایسے عوض میں قبضہ صحیح ہو گا، عبارت اس طرح ہے: "والاصل كما في الإباح أن كل عوض ملك بعقد تفريح بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز" (البحر الرائق ۱۱۷/۶)۔

تو حاصل یہ تکاکرہ بیع قبل القبض کی نبی حس حدیث میں آئی ہے وہ مطلقانہیں ہے بلکہ معلول بالعملت ہے اور اس کی ملت "غرا الفساح للبيع" ہے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے عبارت اس طرح ذکر فرمائی ہے: "خلاف المستقول والغرر المنهی غرر انفاسخ العقد والحدث معلول به عملاً بدلالل الجواز" (البحر الرائق ۱۱۹/۶)۔

اور صاحب ہدایہ نے بھی بعینہ یہی عبارت ذکر فرمائی ہے (۵۸/۳) علامہ ابن ہمام صاحب "فتح القدر" نے بیع قبل القبض سے متعلق نبی کیلئے بہت سی حدیثیں مختلف سندوں سے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ بیع قبل القبض کی ممانعت پر حدیث مطلقاجماعت ہے، جیسا کہ امام محمد کا مسلک ہے، البتہ احضرات شیخین کے مذہب کے اعتبار سے دلیل تخصیص کی جستجو کی ضرورت محسوس کی گئی تا کہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ وارد ہونے والی یہ نبی قطعہ ارشادی کے علاوہ کیلئے ہے، تو انہوں نے صاحب ہدایہ کے قول کے متعلق فرمایا کہ وہی عملت ہے جو صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ "قبضہ سے قبل بیع کے باک ہونے کی صورت میں عقداً اول کے فتح ہو جانے کا خطرہ بیع قبل القبض کے ممانعت کی عملت ہے" البتہ اگر عقداً اول فتح ہو جائے تو باعث ہانی غیر کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر فروخت کرنے والا ہو جائے گا جو جائز نہیں ہے، مختصر یہ کہ علامہ برہان صاحب، ہدایہ، علامہ ابن ہمام صاحب "فتح القدر"، علامہ ابن تیمیہ مصری صاحب البحر الرائق اور علامہ شامی صاحب، ردا المختار وغیرہ اکابر امت کی متفقہ رائے ہے کہ حدیث نبی معلول بالعادة ہے اور عملت "غدر انفاسخ العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع" ہے (فتح القدر ۱۳۶/۶)۔

##### ۵۔ بیع قبل القبض عام ہے یا خاص:

بیع قبل القبض کے متعلق انہیں کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم ممنوع تمام چیز ہوں کو عام ہے، یا یہ حکم کسی خاص چیز کے بارے میں ہے، چنانچہ "حضرت امام شافعی" کی رائے یہ ہے کہ تمام اشیاء کو شامل ہے، کسی بھی شی کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، خواہ وہ از قبیل مطعمات ہو، یا ملبوسات اور خواہ وہ از قبیل منقولات ہو، یا غیر منقول اور اقریب یا اتنی ادناف میں سے حضرت امام محمدؓ کی بھی یہی رائے ہے۔

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ حکم تمام اشیاء کو عام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شی جو از قبیل مطعمات ہے، اس کو قبضہ سے قبل خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، گویا ان کے نزدیک یہ حکم ممنوع اشیاء خوردنی کے ساتھ خاص ہے، اور جو اشیاء خوردنی نہیں ہے جو ملبوسات میں سے ہو، یا اور کوئی چیز اس کی خرید و فروخت قبضہ سے قبل جائز ہو گی۔

حضرات شیخین امام عظیم ابوحنین اور امام ابو یوسف کے یہاں قدرے تفصیل ہے، ان حضرات کی رائے یہ

ہے کہ یہ حکم منوع ان تمام اشیاء کو شامل ہو گا جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہو، اور ہر وہ شی جس کا حل و نقل ممکن نہیں وہ اس حکم منوع میں داخل نہیں، یعنی غیر منقول اشیاء کی خرید و فروخت قبضے قبل بلا کراہت جائز ہوگی، گویا حضرت امام شافعی اور حضرت امام محمد نے حدیث کے عموم پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکم تمام اشیاء کو عام ہو گا، اور وہ حدیثیں جن میں خاص چیزوں کا ذکر ہے اس کو اس حدیث میں ضم کر دیا جس میں عموم پر دلالت ہو رہی ہے، اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا، کیونکہ جہاں کہیں دو حکم ایک طرح کے دو جگہ وارد ہوں اور ان میں سے ایک عموم پر دلالت کرتا ہو اور دوسرا خصوص پر تو دونوں حکموں میں تطبیق دینے کیلئے اسی طرح کیا جاتا ہے کہ خصوص پر دلالت کرنے والے حکم کو عموم پر دلالت کرنے والے حکم کے ساتھ ضم کروتے ہیں، اور ایسا امام عظیم ابوحنیفہ کے نزدیک بھی بہت ہوتا ہے جیسے فاسخ نمازوں کی قضاۓ متعلق و طرح کی روایت ملتی ہے، ایک روایت میں صرف اقامت کے ساتھ نمازوں کرنے کا حکم ملتا ہے اور دوسری روایت میں اذان و اقامت دونوں کا تذکرہ ہے تو ائمہ احناف نے اذان و اقامت دونوں پر عمل فرمایا اور یہ کہا کہ وہ حدیث جس میں صرف اقامت کا تذکرہ ہے اسے اس حدیث کے ساتھ ضم کر دیا جائے گا جس میں اذان و اقامت دونوں کا تذکرہ ہے، اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، گرچہ امام شافعی اس خاص مسئلہ میں اس مذکورہ رائے سے متفق نہیں ہیں۔

مالکیہ نے ان حدیثوں کو اصل قرار دیا ہے جن میں صرف غذائی اشیاء پر قبضے فروخت کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے اور وہ حدیثیں جن میں غذائی اشیاء کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ حکم ممانعت مطلق ہے اس میں مختلف تاویلیں کی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ حدیثیں جن میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں بلکہ حکم مطلق ہے اس سے مراد اشیاء خود رہی ہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

ان سب باتوں سے الگ ہو کر ائمہ احناف میں سے حضرات شیخین نے غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ برآمد گیا کہ مسئلہ کی اصل روح اور شریعت کا متصد و مشارک کیا ہے اس پر نگاہ رکھی تو ان حضرات نے فرمایا کہ جہاں بس اس طرح کی خرید و فروخت میں امکانی و حکم کا بھی تصور ہو وہ بع قبضہ ناجائز اور جہاں یہ تصور نہ ہو وہاں بع قبضہ کے جائز ہونے کا حکم دیا جائے گا کویا ان کے نزدیک امکانی و حکم کا سد باب مقصود ہے (حلال و حرام)۔

### اختلاف ائمہ کی وجہ:

ائمہ کرام کے درمیان اختلاف اس لئے پیدا ہو گیا کہ بع قبضہ کی ممانعت کی جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہیں، چنانچہ امام بخاریؓ نے ابن عمرؓ سے جو روایت نقل فرمائی ہیں وہ اس طرح ہے: "ان رسول اللہ ﷺ قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" اور ابن حبان اور مسند احمد میں حکیم ابن حزام سے جو روایت منقول ہے وہ اس طرح ہے "قال قلت يا رسول الله اىي رجل ابتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لى منها وما يحرم قال لا تبيع شيئا حتى تقبضه" تو حضرات شوافعیؓ نے ابن حبان والی روایت کے عموم پر نگاہ ڈالی اور جمل اشیاء، خواہ منقولہ ہو، یا غیر منقول سب کی بع کی ممانعت کا حکم دیدیا، اور مالکیہ حضرات نے

شیخین کی روایت کو اصل قرار دیا اور نہدالی چیزوں کی بیع قبل القبض کی ممانعت کا حکم دیا (فتح القدر ۱۳۶/۲)۔

احناف کے نزدیک یہ بات پیش نظر رہی کہ مقصود نہیں "غیر" یعنی امکانی وحکم کا سد باب ہو، تو حکم دیا کہ جب تک کوئی شی قبضہ میں نہ آجائے احتمال موجود ہے کہ شاید قبضہ ہی میں وہ شی نہ آپائے، اسکی شکل میں وہ شخص اپنے عہد کو پورا نہ کر سکے گا، مثقال اشیاء میں اس طرح کا احتمال اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ وہ شی قبضہ میں نہ آجائے، لیکن اشیاء غیر مقولہ میں اس طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ شی قبضہ میں آنے سے قبل بلاک ہو جائے، یا گم ہو جائے، یا چاری جائے، اسلئے صرف مقول اشیاء تھی کے فروخت کرنے کیلئے اس قبضہ کو ضروری قرار دیا، اور اس کے ملاواہ اشیاء کیلئے یہ حکم نہ ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جگہ قطعہ اراضی میں اس طرح کا احتمال موجود ہو تو اس قطعہ اراضی کی بیع بھی قبضہ سے قبل ناجائز ہو گی، چنانچہ صاحب "فتح القدر" نے بحوالہ "محبوبی" یہ جزئی نقل کیا، عبارت اس طرح ہے: قال بعض المذاخ أن حراب أبي حنيفة في موضع لا يخشى عليه أن يصير بحرا أو يغلب عليه الرمال فاما في موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز كما في المتفق ذكره المحبوبی (فتح القدر ۱۳۷)۔

اور اس بات کی دلیل کہ بیع قبل القبض کے متعلق وارو ہوئے والی شی میں اصل و بنیادی چیز یہ ہے کہ امکانی وحکم کا سد باب ہو جائے، یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی عقد میں بیع کے ضایع کے باوجود عقداً ول کے فتح ہونے اور امکانی وحکم کا تصور نہیں وہاں منتحوں اور غیر مقول تمام اشیاء کی بیع قبل القبض جائز ہے، مثلاً تمدن میں قبضہ سے قبل تصرف کرنا اور اس کی بیع کرنا یا یقین جائز ہے، اسی طرح مہر کے اندر متعین کی ہوئی شی پر قبضہ کرنے سے قبل ہر طرح کا تصرف کرنا جائز ہے، علامہ ابن حکیم نے اس طرح عبارت ذکر فرمائی ہے: "واراد بالمنقول بالمعيّن المنقول فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع الخ" (البحر الرائق ۱۱/۲)۔ اور علامہ ابن ہمام نے بھی اسی قسم کی بات لکھی ہے، اگرچہ ایک سوال کے جواب میں عبارت یوں ہے: أنه خص منها أشياء منها جواز التصرف في الشمن قبل قبضه وكذا المهر بحوز لها بعده الخ (فتح القدر ۱۳۸/۶) اور علامہ شامی نے یہ شایطہ تھی ذکر فرمایا ہے، عبارت اس طرح ہے: "والأصل فيه أن كل عوض ملك بعقد ينفع به إلا كه قبل قبضه فالصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني" (وریutar ۲/۲۲۵)۔

اسی طرح ہر وہ تصرفات جو عقداً ول کے فتح ہو جائے کے باوجود نافذ ہوتے ہیں وہ قبضہ سے قبل منتحوں اشیاء کے اندر بھی جائز ہوں گے، جیسے خریدے ہوئے خلام کو قبضہ سے قبل آزاد کرنا وغیرہ۔

اس لئے یقین کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ حدیث نبی جو وارو ہے اس کے نہ القاطع مقصود ہیں اور نہ اس کا عموم، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ خریدار کو کسی طرح کا کوئی وحکم نہ ہونا چاہئے، لہذا کہیں وحکم کا امکان ہو اس جگہ بیع کو ناجائز اور جہاں وحکم کا امکان نہ ہو اس جگہ دوسرے تصرفات کی طرح بیع وحکم

جانز قرار دیا جائے گا۔

۶۔ فیکٹری وغیرہ سے خریدا ہو امال یعنی کیلئے قبضہ حسی کی ضرورت نہیں ہے، موجودہ دور میں تجارت کی ایسی شکمیں وجود پذیر ہو رہی ہیں جس کا زمانہ قدیم میں تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس قسم کے معاملات کے احکام بھی فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں بصراحت نہ کوئی نہیں ہیں، لیکن معتقد میں نے ایسے اصول و صوابط ثابت فرمادے ہیں جن کی روشنی میں پیش آمدہ چدید مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے، چنانچہ کار و بار کی کثی شکاؤں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کارخانے سے کوئی خام، یا پختہ تیار مال خریدتا ہے اور مال بردار گزاریوں پر سوار کردا ہے اور قبل اس کے کہ یہ خریدار اس خریدے ہوئے مال پر حساب قبضہ کر لے دوسرا کسی شخص کے معرفت فروخت کر دیتا ہے اور مال فیکٹری سے برادر اسٹریڈار نمبر ۲ کے بیباں سمجھوادیتا ہے اور درمیان راہ میں اس مال کے ہاگ ہونے کی ذمہ داری خریدار نمبر (۱) اپنے اوپر رکھتا ہے اور عام طور پر اس قسم کا کار و بار بہت اسی قابل اعتماد اور بھروسہ مند ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض پیشہ ور لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ مال خریدار نمبر (۲) تک پہنچنے کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور عموماً اسی مقررہ وقت پر مال پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کر خال خال مال بردار گزاری کسی حادثہ کا بھی شکار ہو جاتی ہے، لیکن عدم حادثہ کے مقابلہ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے جو بہر حال کسی درجہ میں غیر معین بھی ہو سکتے ہیں، تو اس قسم کا معاملہ شرعاً کیا ہیئت رکھتا ہے؟

شریعت نے خرید و فروخت کی صحت کیلئے بہت تفصیلی شرائط کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں موجود تفصیل و شرائط اس کی شابد عدل ہے، متحملہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میع کیلئے ضروری ہے کہ وہ شی اس باائع کی ملکیت میں ہو جو اپنے لئے اپنے کار و بار ہو، یہی وجہ ہے کہ وہ شی اگر باائع کی ملکیت میں نہ ہو تو اس کا فروخت کرنا درست نہ ہو گا، دوسری شرط وہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بصراحت موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی عقد بیع کا تصور ہو تو ضروری ہے کہ اس جا "غزو" یعنی وصول بازی کا امکانی تصور بھی نہ ہو، یعنی ان نے اسی معنی میں یہ حدیث نقل فرمائی ہیں: "نہی رسول اللہ ﷺ عن بيع الغزو" اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس میع پر فی الحال باائع کا قبضہ بھی ہو، اس پر حدیث کے یہ الفاظ والالت کرتے ہیں: "الاتبعه حتى تقبضه" (مشکوٰۃ شریف، فتح القدر ۱۳۶، ۱۳۶) اور اس کے ہاوا و اور و سری بہت سی شرطوں کا فقہاء نے تذکرہ کیا ہے (روا مختار ۲۰۷-۹)۔

اس سلسلہ میں خاص بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت میع پر باائع کا قبضہ ہونا ضروری ہے، تو یہ شرط تمام اشیاء کیلئے ضروری ہے، یا خاص چیزوں کیلئے، تو حضرات فقہاء کرام کا اس میں قدرے اختلاف ہے جو اپر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ امام مالکؓ کے نزدیک صرف اشیاء خوردنی میں یہ شرط ہے، و مگر اشیاء میں نہیں، اگرچہ شوافع کے نزدیک تمام اشیاء میں قبضہ ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے لیکن اختلاف گے نزدیک بھی خاص ہے، لیکن غذائی اشیاء کے ساتھ نہیں بلکہ منقول اشیاء کے ساتھ اس شرط کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں وارد ہونے والی ممانعت کی جو حدیث ہے اس کی ملت نکالی گئی ہے۔

نہ کو رہ بالا صورت مسئلہ کو دیکھنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی بیع ناجائز ہوگی، کیونکہ حدیث میں وارد ہونے والی نبی کے صراحت خلاف ہے، نیز بظاہر شرط صحبت بیع کے بھی خلاف ہے، کیونکہ مجملہ شرائط کے ایک شرط یہ ہے کہ وہ منقول شی جس کو فروخت کیا جا رہا ہے خود رئی ہے کہ وہ باائع کے قبضہ میں ہوا اور یہاں اس کے قبضہ میں صاف نہیں ہے۔

مگر یہیں یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس صورت بیع کو جائز قرار دیا جائے جس کی چند وجوہ ہو سکتی ہیں۔  
 (۱) فقہاء اختلاف نے بیع قبل القبض کی نبی کو اس کے ظاہر پر نہیں لکھا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس قسم کی حدیث معلوم ہے چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری نے "البحر الرائق" میں، علامہ ابن حمام حنفی نے "فتح القدیر" میں، مولانا جمال الدین گرمانی نے "کفایہ" میں اور علامہ برہان الدین مرغینانی نے "بدایہ" میں اور ان کے علاوہ دیگر فقہاء گرام نے مختلف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث معلوم ہے، اور اس کی علت بیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بیع اول کے ختم ہو جانے کا "غیرہ" ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیع کا باائع ثانی کی ملکیت میں آئے کا کسی طرح یقین ہو، یا نہیں، اگر کسی طرح باائع ثانی کی ملکیت میں آئے کا یقین ہو جائے تو بیع ثانی درست ہوگی، ورنہ بیع ثانی صحیح نہ ہوگی۔

اور کسی شئ بیع کے ملکیت میں آئے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ خریدار اول اس بیع کو اپنی جائے استقرار کی طرف منتقل کر لے، جیسا کہ حدیث میں ہے "نہی ان تباع السلع حبّت تباع حتى يحوزها التجار إلى حالهم"۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری اول کا اس پر کسی قبضہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے ظاہر لفظ سے معلوم ہوتا ہے "لاتيعلن شيئاً حتى تقبضه"۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ چراگاہ میں خریدا ہوا تو اس طرح ہو کہ اس کو خریدار اچھی طرح دیکھ رہا ہوا اور اس کی طرف اشارہ ہو یہ ممکن ہو اور باائع نے قبضہ کی اجازت دیدی ہو تو اس صورت میں بھی وہ جانور مشتری اول کی ملکیت میں آجائے گا، اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک پر نہدہ اس حال میں خریدا کہ وہ ایک مکان میں بندھتا اور باائع نے اس پر قبضہ کی اجازت دیدی تو وہ پر نہدہ مشتری کے مکان کھولتے ہی کیوں نہ اڑ جائے وہ پر نہدہ مشتری کی ملک میں شمار ہو گا، "البحر الرائق" میں اس طرح عبارت درج ہے "ولو اشتري طير أفي بيته والباب مغلق فامر له البائع بالقبض فلم يقبض حتى هبت الريح ففتحت الباب فطار لا يصح التسليم وإن فتحه فطار صحيحة التسليم" (بجز ۱۳۰۹)

تو اسی طرح یہ کیوں نہ ہوگا کہ خریدار کا رخات سے مال خریدے اور خریدار اتمیر (۲) کو مال بردار گاڑی کے ذریعہ مال روائے کر دے تو میری سمجھ میں ایسا آ رہا ہے کہ اس صورت میں بھی خریدار اتمیر (۱) کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ فتاویٰ کی کتابوں میں مذکورہ جزئیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے گھر میں بندگن دم خریدا اور باائع نے اس مکان کی چاہبھی مشتری کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ گندم میں نے آپ کے حوالہ کیا تو باائع کا یہ فعل ہی مشتری کے قبضہ، ملکیت کیلئے کافی ہے، عبارت اس طرح ہے "لو اشتري حنطة فسي دار ودفع البائع

المفتاح إلبه وقال: خليت بيتك وبيتها فهو قبض " میری سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ پچھائی ہی صورت مذکورہ بالاشکل یعنی فیکٹری سے مال خرید کرنے کی شکل میں ہوتی ہے کہ باائع اول مال کو مال بردارگارڈنی پر لاو نے کے بعد اپنے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے، اور صراحت، یا عرقاً باائع اول مشتری اول سے یہ کہتا ہے کہ مال بردارگارڈنی پر لاو اہو مال آپ کا ہے اور آپ ہی اس کے ذمہ دار و مالک ہیں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا افراد تکلیٰ حکم کی مذکورہ بالاصورت پر قیاس کرتے ہوئے اس خاص صورت میں باائع ثانی کے اس طرح ثابت شدہ قبضہ کو تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی مانع نہ ہونا چاہئے۔

اور اس طرح جب باائع ثانی کا قبضہ فیکٹری سے لئے مال پر ثابت ہو گیا تو یہ خاص صورت پر قبل القبض کی صورت نہ رہی بلکہ پر بعده القبض کی صورت ہو گئی جو یا تفاق فقہاء کرام چاہئے۔

(۲) دوسرے اس وجہ سے کہ تحقیق قبضہ کیلئے شریعت نے کوئی خاص شکل متعین نہیں کی ہے کہ اس خاص طریقہ سے قبضہ ہو تو قبضہ شرعی کا تحقق ہو گا اور نہ قبضہ کا تتحقق نہ ہو گا، بلکہ قبضہ کا تتحقق عرف پر منی ہے، عرف میں جو قبضہ کی شکل ہو سکتی ہے وہ سب عورتوں میں قبضہ شرعی شمار کیا جائے گا، جیسا کہ مالکیہ کی رائے "الموسوعة الفقهية" میں نقل کی گئی ہے، مبارکہ اس طرح ہے: "إن كان منقولاً من عروض وأنعام فقبضته بالعرف الجارى بين الناس" تو کیا مفہماً تقدیم کیا جائے کہ خریدے ہوئے سامان کو مال بردارگارڈنی پر سوار کروادیں ہی باعتبار عرف کے قبضہ شمار کیا جائے، اور عرف کے اثبات کیلئے یہ کافی ہے کہ اس طرح کا قبضہ اگر کلی نہ ہو تو کم از کم اکثری اور کثیر الاستعمال تھی ہو، تو میری سمجھ میں یہ آرہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ گرچہ کلی اور عمومی ہونے کی دلیل میں مال کو ہو لیکن یہ نہیں الاقوامی تجارت میں ایسا ضرور ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، کیونکہ ایسی، ذمی طریقہ فون نے اس پھیلی ہوئی دنیا کو سمیت کر کیجا کروایا ہے اور موجودہ دور میں کارخانہ وغیرہ سے مال کی خریداری اکثر ویشتر اسی طرح ہو رہی ہے کہ نیلیغیوں سے خرید و فروخت ہو گئی اور قبیط کی ادائیگی ڈرافٹ کے ذریعہ اور میک اور صوی مال بردارگارڈنی کے ذریعہ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ خریدار نمبر (۱) یہ چاہتا ہے کہ مال یہاں آکر رک نہ جائے اسلئے یہ کسی دوسرے شخص سے بات چیت کرتا ہے کہ میر افلاں قسم کا مال ہر کوئی سے آرہا ہے اور پھر مال کی پوری تفصیل بیان کر کے دوسرے شخص کی خواہش جب معلوم ہو جاتی ہے تو اسی کے ہاتھ یہ خریدار نمبر (۱) مال فروخت کر دیتا ہے، پھر مال کو خریدار نمبر (۱) اپنے یہاں منتگوانے کے بجائے فوراً کارخانہ وار سے بات چیت کرتا ہے کہ وہ مال جو میں نے آپ سے خریدا ہے وہ فلاں جاگہ بھجوادیں، چنانچہ وہ مال خریدار نمبر (۲) کے پاس دفت موعود پر پہنچ جاتا ہے۔

اور اس زمانہ میں اس طرح کا معاملہ اکثر ویشتر ہو رہا ہے اور جماعت تجارت کے عرف میں اس قسم کی تجارت نے اپنا ایک مقام بنالیا ہے، نفوں تجارت اس سے ما نوس اور طبائع سلیمانی کے نزدیک مقبول ہو گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاملے نے عرف و عادات کا م تمام حاصل کر لیا ہے، لہذا صورت مذکورہ میں گرچہ مشتری اول کا حصہ قبضہ نہ ہو لیکن عرقاً اس کا قبضہ ہو گیا، اور جب عرقاً مشتری اول کا قبضہ ثابت ہو گیا تو یہ خاص صورت پر قبل القبض کی فہرست

سے خارج ہوئی۔

اسی طرح "الموسوعۃ الفقہیہ" میں ایک عبارت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز کا قبضہ یہاں نہیں ہوتا، بلکہ ہر شی یہ قبضہ اسی کی حیثیت سے ہوتا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ عددی اشیاء پر قبضہ شی کو شمار کرنے، مکملی و موزونی اشیاء، پر قبضہ اس کے کیلیں اور وزن کرنے اور ذرا اسی اشیاء پر قبضہ لگز کے ذریعہ نامانے سے ہوتا ہے، لیکن کہیں یہ نظر نہ آیا کہ خریدی ہوئی شی کو فروخت کرنے کیلئے اس پر حساب قبضہ ضروری ہے، لہذا امال بردار گاڑی پر لادی جانے والی شی پر قبضہ کی یہ صورت ہوگی کہ اس کو مال بردار گاڑی پر لاد دیا جائے، تو ایسی صورت میں قبضہ کے تحقیق کو مانتے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے۔

اور اگر بالغہ یہ مان لیا جائے کہ یہ صورت بیع قبل القبض کی ہے جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے تو عرض یہ ہے کہ فقہاء متفقہ میں نے لکھا ہے کہ بیع قبل القبض کے ممانعت والی حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، بلکہ ایک ملت کے ذریعہ خاص کریں گئی ہے اور وہ ملت "غیر النفاسخ البيع الأول" ہے تو جہاں یہ ملت پائی جائے گی وہاں بیع قبل القبض ممنوع اور جہاں یہ ملت معدوم ہو وہاں بیع قبل القبض جائز ہوگی، اس کی مثال میں سابقہ زمانہ میں منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اپلا غدار سال کے ایسے تیز رفتار ذرائع وجود میں آچکے ہیں کہ جس کے ذریعہ اشیاء کی منتقلی صد فیصد نہیں تو کم از کم اتنی فیصد ایسی ضرورت ہوگئی ہے کہ جہاں بلاکت مبیع کا خطرہ بھی نہیں گزرتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ملت نبھی کے معدوم، یا نادر ہونے کے باوجود عدم جواز بیع کا حکم دیا جائے، اگر بھی بات ہے تو پھر متفقہ میں فقہاء کرام نے ملت کے معدوم ہونے کی صورت میں قطعاً ارشی کی بیع قبل القبض کی اجازت کیوں دی ہے؟ فقہاء کرام کا اراضی کی بیع قبل القبض کو جائز قرار دینا صرف ملت کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہے تو ایسی طرح اس صورت میں ملت معدوم، یا نادر ہے تو عدم جواز بیع کا حکم نہیں بلکہ جواز بیع کا حکم دیا جائے گا۔

مختلف ممالک، مختلف عاقوں اور مختلف زمانوں میں کبھی ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جن میں عتل صحیح اور صحیح سلیم پسند گرتی ہے اور وہ روح شریعت کے مخالف نہیں ہوتیں، جیسے عربوں میں مہماں نوازی کا رواج وغیرہ، دوسری اچھی باتیں تو ایسی باتوں کو عرف و معروف کہا جاتا ہے اور اگر وہ روح شریعت کے مخالف ہوں تو اسے منکر کہا جاتا ہے۔

تمام اقوام عالم کو اس بات کا کلی اعتراف ہے اور کسی کو انکار کی لوگی کنجائی نہیں اس بات سے کہ موجودہ دور ترقی میں جہاں تمام شعبہ جاۓ زندگی میں خاصی ترقی ہوئی اور ہو رہی ہے اسی طرح تجارتی لائن میں بھی خاصی ترقی ہو رہی ہے اور نہ نے طریقے بھیش سامنے آ رہے ہیں، اور اوہر موالاتی نظام بر قی نے اور بھی خنی خنی شکل تجارت کو جنم دیا ہے اور دسے رہی ہے، اسی ترقی یافتہ صورت حال میں سے ایک طریقہ یہی ہے جو اور پر مذکور ہوا، تو دیکھایو ہے کہ اس قسم کا رواج تجارت روح شریعت کے خلاف ہے، یا نہیں، اگر روح شریعت کے خلاف نہیں تو جائز اور روح شریعت کے خلاف ہے تو ناجائز قرار دیا جائے۔

بع قبیل القبض کی ممانعت میں روح شریعت امکانی دھوکہ کا سد باب ہے، لہذا جہاں کہیں امکانی دھوکہ ہو  
بع قبیل القبض ناجائز اور جہاں امکانی دھوکہ نہیں وہاں بیع جائز ہوگی۔

تو عرض یہ ہے کہ صورت مسولہ میں اکثر ویژترا ایسا ہوتا ہے کہ امکانی دھوکہ کا تصور نہیں ہوتا بلکہ معاملات  
ٹھیک اور صحیح طریقہ سے وعدہ کے مطابق جائے وعدہ پر پہنچ کر، یا پہنچا کر ہو رہے ہیں، ساتھ ہی اس قسم کے  
معاملات میں دھوکہ بازی نادر اور سہولتیں زیادہ حاصل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے معاملہ بیع نے مقبول  
عام ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے، اس لئے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے معاملات جائز ہوں گے۔

— ”تجارت بذریعہ شپنگ“ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی مال کسی فیکٹری سے خریداً اور باائع نے  
مشتری کے حکم کے مطابق مال کو بذریعہ جہاز مشتری کے پاس بھیجنے کا اہتمام کیا، ساتھ ہی باائع نے یہ طے کیا کہ مال کو  
جهاز پر سوار کر دینے کے بعد میں اس کی ذمہ داری سے بری ہوں، اگر یہ مال بلاک ہو جائے تو آپ جانیں، ہم پر اس کا  
کوئی خمام نہ ہو گا، اور مشتری نے اسے تسلیم کر لیا، پھر اس مشتری نے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا جب کہ  
مال درمیان سفر ہے، اور یہ طے کیا کہ مال یہاں پہنچنے کے بعد یارا وہی سے مشتری ثالثی کے یہاں پہنچوادیتا ہے، اور  
اس نے بھی بھی طے کیا کہ جب بات طے ہو گئی اور مال آپ کے یہاں جانے کی حالت میں ہو گیا تو اب میں اس کی  
جملہ ذمہ داریوں سے بری ہوں۔

مذکورہ صورت مسئلہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

مال کو جہاز وغیرہ پر سوار کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری سے بری ہونا طے کرتا ہے، مال جہاز وغیرہ پر سوار  
ہوتے ہی مشتری کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، پھر وہ مشتری مال کو دیکھے بغیر کسی تیرے شخص کے معرفت فروخت کر دیتا  
ہے، دراں حالیہ وہ مال درمیان سفر ہے، اور صاحب مال یہ طے کرتا ہے کہ مال درمیان سفر ہونے کے باوجود آپ کا  
ہو گیا اور میں اس کی ذمہ داری سے بری ہوں، اگر کسی طرح کا تقسیم ہوا تو وہ آپ کا ہو گا میں اس کا ضامن نہیں ہوں۔  
پہلی بات یہ کہ بیع جائز ہے اس لئے کہ کسی مال کو خریدنے کیلئے دیکھنا ضروری نہیں اور بغیر دیکھے ہوئے مال  
کو فروخت کرنے کیلئے بھی دیکھنا ضروری نہیں، ”فتاویٰ ہندیہ“ میں عبارت اس طرح: ”شراء مالم یره جائز“ اور  
دوسری عبارت اس طرح ہے: ”ولو باع شيئاً لم تره بان ورث شيئاً لم تره حتى باعه جاز البيع (ہندیہ  
۳۷۵۸-۵۸)۔

وہ جہاز یا مال بردار گاڑی مشتری اول کا ذاتی ہے، یا اس نے اجارہ پر لے کر مال لانے کیلئے بھیجا ہے، یا  
مشتری نے باائع کو حکم دیا کہ اجرت پر کسی گاڑی کو لے کر مال ہمیج دیں اور باائع مال اس طرح کی گاڑی پر لا د دیتا ہے، تو  
ان تمام صورتوں میں مشتری اول کا قبضہ ہو جائے گا اور جب مال مشتری اول کے قبضہ میں آگیا تو اس کیلئے اس میں ہر  
طرح کا تصرف کرنا بھی جائز ہو جائے گا، لہذا وہ مشتری اول اس کو فروخت کرنے کا بھی مستحق ہو گا۔

یہاں یہ شبہ ہو گا کہ مشتری نے ایسی شی سے نفع اٹھایا ہے جو اس کے خمام میں نہیں آتا ہے، کیونکہ معاملہ

ہی اس طرح ملے ہوا تھا کہ مال کے آپ خود صاحب ہوں گے، گویا یہ مال مشتری اول کی خانات میں بھی آپ کا ہے، اس طرح "رَحْمَةُ الْمُرْسَمِ" کی بھی صورت نہ ہوتی۔

اول کی دو صورتوں میں جبکہ مال بردار گاڑی مشتری کی ہے، یا اس نے کرایہ پر لے کر بھیجا ہے، مشتری کا قبضہ تو ہوتی جائے گا تیری صورت میں جبکہ باعث اول نے خود بھیجنے کا اہتمام کیا ہے اس صورت میں بھی مشتری اول کا قبضہ ہو جائے گا، کیونکہ اجر کا قبضہ مشتری کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں یہ جزویہ لکھا ہے، کہ اگر کسی نے کوئی مال خریداً اور باعث کو یہ حکم دیا کہ مال کرایہ پر گاڑی لے کر ہمارے یہاں بیٹھ دیں تو یہ قبضہ مشتری کا ہو گا، اور ہلاک ہونے کی صورت میں باعث اس کا صاحب نہیں ہو گا، عبارت اس طرح ہے، الا ان يقول: استاجر عنی من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه (ہندیہ ۱۹/۳)۔

ہاں اگر مشتری نے مطابقًا بھیجا نے کو کہا اور اجر کا کوئی تذکرہ نہ کیا تو اس صورت میں اجر کا قبضہ مشتری کا قبضہ نہ ہو گا (ہندیہ ۹۱/۳) لہذا وہ صورت کہ جس میں اجر کا قبضہ مشتری کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے، اگر مشتری اول کسی دوسرے شخص کے معرفت فروخت کر دیتا ہے تو اگرچہ یہ مال دوران سفر ہے بیچ جائز ہو گی، اسلئے یہ شی مشتری اول کے قبضہ میں آگئی ہے جو اس جگہ ضروری تھا، البتہ اس نے نہ دیکھا تو اس سے کوئی فرق پیدا نہ ہو گا، کیوں کہ بے دیکھی ہوئی شی فروخت کرنا جائز ہے (ہندیہ ۵۸/۳)۔

لیکن وہ صورت کہ جس میں وہ شی مشتری اول کے قبضہ میں نہ آئی ہے تو اس کا بیچنا درست نہ ہو گا واللہ اعلم بالصواب۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مفتی عبدالرحیم قاسمی، جھوپال

۱۔ شرع میں قبل القبض بیع فاسد ہے۔ يتحمل البطلان والفساد والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغدر كما مر مع وجود رکن البيع (شامی ۱۶۳/۲)۔

۲۔ شریعت نے قبضہ کی حقیقت کو کسی خاص کیفیت کے ساتھ متعین نہیں کیا ہے، باائع کی جانب سے پردوگی تسلط اور تخلیہ اور مشتری کا تسلط واستعمال، قدرت و غلبہ جس طرح بھی ہو فقہاء نے اپنے اپنے زمانہ کے عرف و عادت کے مطابق اس کی مختلف صورتوں پر قبضہ کے احکام مرتب کئے ہیں، دار میراث کے تالے کی جانب پرداز کرنے کو گھر کی پردوگی کے متراوف قرار دیا ہے "دفع المفتاح فى بيع الدار تسليم إذا تهيا له بلا كلفة" تخلیہ کو بھی بعض شرائط کے ساتھ قبضہ کے قائم مقام مانا ہے، البائع إذا حلى بين البيع وبين المشتري بحيث يتمكن المشتري من قبضه يصير المشتري قابضا للبيع حتى لو هلك قبل أن يقبضه حقيقة يهلك عليه (خانیہ علی هامش الہندیہ ۲۵۶/۲)۔

۳۔ منقولات میں ظاہری تسلط کی زیادہ اہمیت ہے فقہاء نے مکملات میں کیل کو، موزو نات میں وزن کو، معدودات میں عدد کو، قبضہ کا تتمہ بتایا ہے، نیز عقد کے وقت مرغی میں موجود جانور کی تعمیں پر قبضہ کا حکم لگا کر اس میں توسع ظاہر فرمایا ہے۔ والصحيح أن القرة إن كانت بقر بهما بحيث يتمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو قابض لها (فتاویٰ ہندیہ ۱۸/۳)۔

۴۔ عقار پر ظاہری قبضہ سے پہلے مشتری کے بیع اور ہبہ جیسے تصرفات کو صحیح قرار دینے اور اس کی طرف سے موبوب لہ، یا مشتری ثانی کے قبضے کو کافی سمجھے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء غیر منقولہ میں حکمی قبضہ پر اتفاق کیا جاتا ہے، صحیح بیع عقار، إلى قوله "لحصول القبض بقبض الموهوب له" (شامی ۱۶۲/۲)۔

عقارات دین کی نظر میں سے غائب اور ورہونے کے باوجود تخلیہ اور اس تک پہنچنے کے لئے مناسب وقت گذر جانے کو بھی قبضہ تصور کیا گیا ہے۔ أنه بالتخليه يصح القبض وإن كان العقار بعيداً غائباً عنهما عند ابي حنيفة خلافاً لهم... إلى قوله "انه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاً" (رواختار ۳۳/۲)۔

اگرچہ یہ ظاہر المراد یہ نہیں لیکن مذکورہ عبارت سے کم از کم یہ تو واضح ہوتا ہے کہ اشیاء منقولہ کے مقابلہ میں عقار پر قبضہ کی نوعیت میں وسعت اختیار کی گئی ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے تجی کی احادیث معلول بالعلة ہیں اور معقود علیہ ضائع ہو کر عقد فتح ہو جانے کا غرر علت ہے۔ والقرر المنہی عنہ غرر إنفصال العقد والحدیث معلول به عملاً بدلالت

الجواز (بداية ۵۸۳)۔

۵۔ مشتری کا قبل القبض عقار کو بینا شیخین کے نزدیک اتحاداً جائز ہے، اور امام محمد و زفر و شافعیؓ کے نزدیک قیاساً ناجائز ہے، مانعین نے روایت نبیؐ کے نہوم سے استدلال کیا ہے، شیخین کے متدلات قرآن پاک میں بع کے عمومی احکام ہیں اور قرآنؐ کے عمومی حکم کی تخصیص خبر واحد سے ہمارے یہاں درست نہیں، باسلوب دیگر یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ دلائل کوتا قبض سے بچائے اور تطبیق کیلئے ہم نبیؐ کی روایت کو منقول پر محمول کرتے، ہیں اور بعیج ابل سے محل پر صادر ہو تو اس کا صحیح بونا اصل ہے، معقول و علیہ کے ضالع ہونے سے عقد شیخ ہو جانے کی بناء پر غرر لاحق ہو جانے کے خطرہ کی وجہ سے ممانعت عارضی تھی اور عقار کے ضالع ہونے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا حکم اصل پر برقرار رہے گا۔ (خلاصہ بدائع الصنائع ۱۸۱/۵)۔

بالغاظ دیگر یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے، امام مالکؓ طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبیؐ کو مخصوص مذکور تک ہی محدود رکھتے ہیں حالانکہ خود راوی حدیث حضرت عبد اللہ بن عباسؓ "واحسب کل شیء مثله" افرماتے ہیں اور حضرت امام اعظمؓ حدیث نبیؐ "عن بعث مالم بقبض" سے استدلال فرماتے ہیں، حضرت غیاث ابن اسدؓ کو مکہ کا قاضی ہنا کر روانہ کرتے وقت حضور ﷺ نے ان کو روایت فرمائی تھی کہ لوگوں کو قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے منع کر دیں۔

امام شافعیؓ اس ممانعت میں منقولات و عقار وغیرہ سب کو شامل فرماتے ہیں، امام اعظمؓ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ حضور ﷺ نے بعیج غرر سے منع فرمایا ہے اور قبل القبض منقول کی ملکیت میں غرر ہے، کیونکہ اس کے ضالع ہو جانے کی بناء پر بعیج میں نقش ہو سکتا ہے اور مشتری کی ملکیت باطل ہو سکتی ہے، اس کے قبضہ سے یہ غرر مشغی ہو جائے گا، اب اتحققاق کے ظہور سے صرف معنوی غرر کا اندر یہ باقی رہا جس سے احتراز ناممکن، یہ لیکن عقار قبل القبض کی ملکیت میں اس کے ضالع ہونے اور بعیج شیخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، صرف اتحققاق کی حیثیت سے غرر متصور ہو سکتا ہے جس سے احتراز ناممکن نہیں، نیز اجماع نے ثمن و صداق میں تصرف کے جواز کو عام حدیث میں سے خاص کر دیا ہے، تو اس قسم کے عام کو قیاس شے ذریعہ بھی مخصوص کرنے کی گنجائش ہے، لہذا قبل القبض حق شفعت ثابت ہونے کی بناء پر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبیؐ کو منقول پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ (خلاصہ مہسوط مرجمی ۱۰-۹-۸)

۶۔ فیکٹری سے خریداً بومال ہو، یا شپنگ کا جہاز پر چڑھایا ہو مال جو راستے میں ہو، مشہوری اول قبضہ سے پہلے اس کو فروخت کر دے تو "بعیج الکالی بالکالی" میں شامل ہونے کی بناء پر اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز معلوم ہوتی ہے۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا احمد دیلوی

دارالعلوم مائٹی والا بھروسج، گجرات

ا۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف:

**احناف:** امام ابوحنیفہ کے نزدیک اشیاء منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں اور غیر منقولہ جائداد وغیرہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔

**شوافع:** استقرار (قبضہ) سے پہلے بیع درست نہیں، خواہ اشیاء منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، امام محمد کا بھی یہی مسلک ہے۔

**مالكیہ:** صرف طعام کی بیع قبل القبض جائز نہیں اس کے علاوہ میں جائز ہے۔

**حنابلہ:** مکملی و موزونی اور معدودی اشیاء کی بیع قبل القبض جائز نہیں، اس کے علاوہ میں جائز ہے۔ مولانا ظفر احمد تھانوی شرح مہذب کے حوالے سے اختلاف ائمہ ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

قد ذکرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقاً سواء كان طعاماً أو غيره وبه قال ابن عباس وثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن.

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشتري طعاماً فليس له بيعه حتى أن يقبضه

قال اختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:

**أحداها:** لا يجوز بيع شئٍ قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله

الشافعی ومحمد بن الحسن.

**والثاني:** يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان

وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

**والثالث:** لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.

**والرابع:** بحور بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكل والمشروب قاله مالک

وأبي ثور (الماء، ۲۲۷، الفتن، ۲۲۷، مذہب الاربعة ۲۳۲، ۲۳۳)۔

لائیک یہ باطل ہے جیسے کہ امام نووی کی عبارت "قد ذکرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقاً" کے مطابق ہے۔ الفتن میں ائمہ اہب الأربعة میں بھی باطل کا ہی لفظ ہے: فإذا اشتري شيئاً منقولاً

کان او غیرہ ولم یسلمہ ثم باعه وقع البيع باطلًا (۲۳۳/۲)۔  
احناف نے اسے بع فاسد میں سے شمار کیا ہے۔

## ۲۔ قبضہ کی حقیقت:

فہمیائے احناف کے نزدیک قبضہ کا مفہوم وسیع ہے۔ عند الاحناف قبضہ کا حاصل صرف تخلیہ ہے، اور تخلیہ کا حاصل ہے کہ باائع اور مشتری کے درمیان باعتبار حقیقت یا باعتبار عرف و عادت کے ایسا کوئی مانع اور حائل نہ ہو جو عرفی قبضہ اور تصرف کرنے سے مانع ہو بلکہ ممکن اس حال میں ہو کہ مشتری اگر اس میں تصرف کرنا چاہے تو آزادی کے ساتھ تصرف کر سکے گو۔ ممکن ابھی باائع کے پاس موجود ہو۔

وأما تفسير التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو ان يخلی البائع بين المبيع وبين المشتری برفع الحالی بینهما على وجه یتمكن المشتری من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتری قابضاً (بدائع ۲۲۲/۵)۔

وسری جد ہے: لأن معنی القبض هو التمکین والتخلی وارتفاع الموانع عرفاً و عادةً حقيقة (بدائع ۱۲۸/۵)۔

ولهذا كانت التخلية تسلیماً وقبضاً فيما لا مثيل له (بدائع ۲۲۲/۵)۔

ایک شئی کے باائع کے پاس ہونے کے باوجود مشتری کا قبضہ شمار کیا جاتا ہے جبکہ معاملہ ہو چکا ہو۔ بدائع میں ایک مسئلہ ہے: ولو اشتري من إنسان كرآ بعينه و دفع غرائزه و أمره بأن يوكل فيها ففعل فصار قابضاً سواء كان المشتری حاضراً أو غائباً لأن المعقود عليه معین وقدملکه المشتری بنفس العقد فصح أمر المشتری لأنہ بتناول عیناً ہو ملکہ فصح أمرہ و صار البائع وكلاً له و صارت يده يد المشتری وكذلك الطحن إذا طحنه البائع بأمر المشتری صار قابضاً (بدائع ۲۲۷/۵)۔

بجرائق میں ہے: وذكر في الذخیرۃ إذا اشترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية فإنه لا يکون قابضاً إلا إذا ذهب المودع أو المستعير إلى العين وانتهى إلى مكان یتمكن من قبضها فيصير الآن قابضاً بالتخلية۔

(الحرارۃ ۲۷۸، رد المحتار ۱۱۲/۳)۔

شوافع کے یہاں قبضہ کی تفسیر بع کو مختل کر کے اپنے مقام تک پہنچانے کی ہے۔

وقال الشافعی القبض في الدار والعقار والشجر بالتخلية وأما في الدرارهم والدناریں فتناولها بالبراجم وفي الثياب بالنقل (بدائع ۱۲۸/۵)۔

مولانا ظہرا حمد تھانوی فرماتے ہیں: قال الموفق في "المعنی" وقبض كل شئ بحسبه فإن كان مکلاً أو موزوناً قبضه بكله وزنه وبهذا قال الشافعی وقال أبو حیفة التخلية في ذلك قبض وقد

روی ابو الخطاب عن احمد رواية أخرى إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز لأنه خلي بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضًا له (اعلاء ۱۵۲/۱۳).

### ۳۔ منقول اور غیر منقول اشیاء میں فرق:

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں، البتہ غیر منقولی اشیاء کی بیع جائز ہے۔ امام محمدؐ کے نزدیک دونوں کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، شیخین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جاندار وغیرہ میں ہلاکت شاذ و نادر ہوتی ہے، اس کے برخلاف منقولی اشیاء میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

ہدایہ میں ہے: ولا غرر فيه لأن الھلاك في العقار نادر بخلاف المنقول والغرر المنهي عنه  
غرض الانفاسخ العقد۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر منقول اشیاء میں قبل القبض جواز کی حلت ہلاکت کے خطرہ کا کم ہونا اور عقد کو فتح کرنے والے عذر کا نہ ہونا ہے۔

ماقبل میں قبض کی تحقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ عند الاحناف قبضہ کی تعریف میں بہت وسعت ہے، لہذا اباظہ ہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ منقول اشیاء کے قبضہ میں ہلاکت کا خطرہ اور فتح کی شکل کا امکان ہے، لہذا اسکیمیں اس پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے قبضہ کی تعمین کی جائے گی جبکہ غیر منقولی اشیاء میں وسعت کا پہلو زیادہ ہو گا۔ ان اسباب مذکورہ کے نہ ہونے کی وجہ سے علامہ ابن حمam غیر منقولی اشیاء کو بھی منقولی کی طرح (ہلاکت کے خطرہ کی شکل میں) قبل القبض فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ وهذا لأنه لا يتصور هلاكه إلا إذا صار بحراً لو يغلب حتى قال بعض المشائخ إن جواب أبي حنيفة في موضع لا يخشى عليه أن يصير بحراً لو يغلب عليه الرمال فاما في موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز كما في المنقول ذكره المحبوبى وفي الاختيار حتى لو كان على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض.

لہذا منقول اور غیر منقول اشیاء میں تنوع اور کیفیات کے بدلتے سے حکم میں تبدیلی آسکتی ہے اگرچہ عام حالات میں کوئی فرق نہیں ہو گا۔

### ۴۔ احادیث کا معلول بالعلة ہونا:

صاحب ہدایہ نے بیع العقار میں شیخین کے دلائل ذکر کرتے ہوئے امام محمدؐ کے جواب میں فرمایا کہ حدیث معلول بالعلة ہے۔ والحدیث معلول به عملاً بدلائل الجواز.

علامہ ابن حمam نے اسکی حلت میں فرمایا: (معلول به) أى بغير الانفاسخ والدليل عليه أن التصرف الذى لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه (فتح القدر ۱۳/۶)۔

صاحب عنایہ نے وضاحت کے ساتھ حلت (غرض) کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب زمین

وغيره میں بلاکت نادر ہے تو عقد کے شیخ ہونے کا غرجرس سے روکا گیا وہ معنی ہو جائیگا، اور حدیث شریف معلوم بالنساخ ہے لہذا جامد اسکیں داخل ہوگی اور اسکی بعث قبل القبض جائز ہوگی، کتاب و سنت و اجماع کی دلیل جواز پر عمل کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں: وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَعْلُولاً بَغْرِ الْأَنْفَاسَخَ لَا يَحْتَمِلُ تَناولَ مَالِبِسٍ فِي ذَلِكَ (عن أبي مع الشَّقَاقِ ۵۱۳/۲).

### ۵۔ بقدر سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت:

اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ کے الفاظ مختلف ہیں، اور فقهاء کرام نے اسکی تخصیص کر کے بہت سی اشیاء کو حکم سے خارج کیا ہے جیسا کہ گذشتہ صنایع میں اُنقل مذاہب کے سلسلہ میں گذر چکا۔

امام مالک مسٹر ف نے میں ناجائز اور بقیہ تمام چیزوں میں جائز قرار دیتے ہیں: كُلُّ مَا اشترىتْ مِنَ الْعِروضِ كُلُّهَا حَيْوانٌ وَالْعَقَارُ وَالثِّيَابُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَا حَلَّا الْمُبَيعُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْكِبَلِ فَلَا يَأْتِي  
عَنْ مَالِكٍ أَنْ تَبَعَ ذَلِكَ كَلَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبَضَهُ.

مُراس میں عجلت کرنی چاہئے تا خیر ہے۔ إِذَا تَعْجَلْتَ ذَلِكَ وَلَمْ تُؤْخِرْهُ (کتاب  
الکافی ۲۲۲/۲)۔

امام مالک کی دلیل حضرت ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو اپنی کتاب مؤطامیں بیان کی ہے: آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کوئی انج خریدا تو وادے فروخت نہ کرے جب تک وہ اس پر پوری طرح قابض نہ ہو جائے۔ عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ (مؤطما امام مالک کتاب المجموع ۲۲۲)۔

عن حکیم بن حزام قال قلت يا رسول الله إنِّي رجل مبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم قال لا تبيع شيئاً حتى تقبضه (فتح القدیر ۲/۵۱۱، اعلاء السنن ۱۳/۲۲۳)۔ اس میں تمام چیزوں کی بعث قبل القبض ناجائز و حرام فرمایا، نیز حضرت ابن عباسؓ کا اجتہادی قول بھی یہی ہے کہ غیر طعام کو بھی طعام کی طرح قبل القبض نیچنا جائز نہیں ہے۔

ابن حمام فرماتے ہیں: قلتا قد رواه ابن عباس أيضاً قال: وَاحْسَبْ كُلَّ شَيْءٍ هُنْشَأَ الطَّعَامُ أَخْرَجَهُ عَنِ الْأَنْسَةِ الْكِتَبِ الْمُتَّسَةِ (فتح القدیر ۲/۵۱۱)۔ امام عظیمؓ اور ابو یوسفؓ منقولی اشیاء کو نہیں عن بعث مالمیقابض کی وجہ سے ناجائز فرماتے ہیں اور غیر منقولی کو علت عدم غرر کی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں۔

امام صاحب کی دلیل حضرت عثمانؓ، ابن عفانؓ کی روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی کوفہ میں بغیر دینیے فروخت کی، یہ دلیل ہے کہ آپ نے قبل القبض نیچی کوئنکہ قبض رؤیت کو تلزم ہے۔

وَلَا نَفْتَرْ أَحْمَدَ سَادَبَ اعْتَرَاضَ اُنْقَلَّتْ ہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عثمانؓ نے وکیل کے واسطے قبض کیا ہوا تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ وکیل کی روایت بھی مؤکل کی اہی روایت ہے اور جبکہ روایت میں خود اس

احتمال کو دور کرنے والا لفظ ہے، حضرت عثمانؓ نے فرمایا: بعنک مالم اورہ قبطل احتمال رؤیتہ بواسطہ الوکیل و قبضہ بقبضہ۔ حضرت عثمانؓ کی روایت امام نووی شرح مہذب میں مسلم شریف کے والے سے نقل کر کے اس میں ایک راوی کے مجھوں اور مختلف الاتجاح ہونے کو ذکر کیا ہے۔ مولانا تفسیر احمد صاحب اسکے جواب میں فرماتے ہیں: قلت و مسلم لا بروی عن مجھوں ولا لمجھوں فالحدیث حسن حجة (اعلاء ۳۲۹۰)۔

اسی طرح کی روایت ابو داؤد میں بھی حضرت ابن عمرؓ سے مردی سے جس میں نہیں عن بع مالم یقض کے الفاظ ہیں..... (نصب الرای ۳۲۱۹/۳) شوافع کی متدل روایت حدیث حکیم بن حزم پر محمد بن نے کلام کیا ہے، لیکن ابن حام نے رجال پر نکلو کرتے ہوئے حدیث بالا کو جنت قرار دیا ہے، والحق أن الحديث حجة والذى قبله كذلك۔

پھر اس کی تخصیص کی دلیل کو ذکر کیا ہے: وال الحاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقار لأبي حنيفة بذكر هناك والأحاديث كثيرة في هذا المعنى (فتح القدر ۵۱۲/۲)۔

## ۶۔ قبضہ غمان:

فقہاء کرام نے قبضہ کی جو شریع کی ہے اور اس سلسلہ میں بہت سے جزئیات ذکر فرمائے ہیں ان سے بخوبی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبضہ صی کا ہونا ضروری نہیں ہے (شامی ۳۷۸-۳۷۹)۔

قبضہ کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فقہاء کرام نے اسکی مختلف فئیں بیان فرمائی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ قبضہ کی دو فئیں ہیں: ۱۔ قبضہ امانت، ۲۔ قبضہ غمان۔

پھر قبضہ غمان کی دو فئیں ہیں: غمان بنفس، غمان بغیرہ۔ اور ہر ایک کا حکم بھی جدا گاہ ہے۔

(۱) مشتری کو اگر مبیع پر پہلے سے قبضہ حاصل ہے اور وہ قبضہ غمان بنفس کا ہے، مثلاً مالک سب کا قبضہ شی مخصوصہ پر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مبیع موجود ہو یا نہیں، بہر حال سابق قبضہ جدیدہ قبضہ کے لئے کافی ہو گا اور تجدیدہ قبضہ کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ غاصب کا قبضہ غمان بنفس ہے، اور مخصوصہ شی بہر صورت مخصوصہ غمان بنفس ہے۔

(۲) اگر مبیع پر مشتری کا قبضہ غمان بغیرہ کا ہے، مثلاً اسی مرہون پر رائمن کا قبضہ تو رائمن امانت ہوتا ہے، البتہ مخصوصہ بغیر (قرض کی وجہ سے) ہوتا ہے گویا یہ مخصوصہ بنفس نہیں بلکہ بغیر ہے۔ اسکا حکم یہ ہے کہ اگر شی مرہون موجود ہو تو یہ قبضہ جدیدہ قبضہ کی طرف سے کافی ہو گا ورنہ نہیں۔

(۳) اگر مبیع پر مشتری کا قبضہ قبضہ امانت ہو مثلاً عاریت، ودیعت، وکالت، اجارہ کا قبضہ، کہ یہ سارے قبضے قبضہ امانت کہلاتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ امانت والے قبضے غمان والے قبضے (بیع کے لئے) کافی نہ ہوں گے، بلکہ تجدیدہ قبضہ شرط ہے۔ (بدائع الصنائع ۲۲۸، شامی ۳۷۸-۳۷۹)۔

ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اگر باائع نے ضی قبضہ نہ کیا ہو یعنی غامن ہو گیا تو اسکو قبضہ غمان کے

درجہ میں شمار کر کے خرید و فروخت جائز قرار دیا جائے گا۔

۔ صورت مسولہ میں جب مشتری کا کسی قسم کا قبضہ پایا نہیں جاتا اس سے پہلے ہی باع اپنے خان سے بری ہو جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، لہذا باع کے لئے ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے، اور جب مشتری اسکا مالک نہیں ہوتا تو بع معدوم ہاں عندر اور مالم مقبض کے درجہ میں رکھتے ہوئے اسکے لئے بھی تیرے کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

ثامی میں ہے: اشتري بقرۃ مریضۃ و خلاها فی منزل البائع فائلا ان هلکت فمنی و ماتت فمن البائع لعدم القبض و کذا لو قال للبائع سقها إلى منزلک فاذهب فاستلمها فهلکت حال سوق البائع فان ادعى البائع التسلیم فالقول للمشتری۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے: اشتري وعاء بن خائر فی السوق فأمر البائع ببنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلی البائع إن لم يقبضه المشتری (۲۸/۳) ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اصل باع کا ذمہ مشتری کے قبضہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور بلاکت کی نسبت باع کی طرف ہوتی ہے نہ کہ مشتری کی طرف، اور تیرا خریدار کیے ضامن ہو سکتا ہے جبکہ باع اور مشتری کے درمیان ہی بع صحیح نہ ہوئی، لہذا اس قسم کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہوگی۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا ابوسفیان مفتاحی، منو

۱۔ شرع اسلامی کے اقتدار سے بیع قبل القبض ناجائز ہے، چنانچہ حدیث میں ہے: عن حکیم بن حزام قال نهانی رسول اللہ ﷺ ان أبيع ما ليس عندی، رواه الترمذی، وفي روایة له ولابی داؤد والنمسانی قال، قلت: يا رسول الله يأتينی الرجل فيريد مني البيع و ليس عندي فابتاع له من السوق ، قال: لاتبع ما ليس عندك (مشکوٰۃ علی المرقاۃ ۳۲۳/۳)۔

مطلوب یہ ہے کہ جو چیز خرید و فروخت کے وقت اپنی ملکیت میں نہ ہو اور قبضہ میں نہ ہو اس کا یقیناً جائز نہیں، اب اس کی دو صورتیں ہیں: اول یہ کہ وہ چیز نہ تو اپنی ملکیت میں ہو اور نہ تو قبضہ میں ہو، اس صورت میں اس کی بیع صحیح نہ ہوگی بلکہ باطل ہوگی، دوم یہ کہ وہ اپنی ملکیت میں نہیں ہے، ایک دوسرا شخص اس کا مالک ہے، لیکن ہے وہ اپنے ہی پاس، اس صورت میں بھی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی بیع درست نہیں ہے۔

پہلی صورت کے حکم میں اس چیز کی بیع داخل ہے جس پر قبضہ حاصل نہ ہو ہو، یعنی قبضہ سے پہلے بیع ہو رہی ہو، یا وہ چیز گم ہو گئی ہو، یا بھاگ گئی ہو، جیسے خلام وغیرہ، یا اس کو خریدار کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو، جیسے ہو ایں اڑتی ہوئی چڑیا اور وہ محچلی جو ابھی دریا یا تالاب سے نکالی نہ گئی ہو (مرقاۃ ۳۲۳/۳)۔

علام ابن حکیم رحمہ اللہ شرائط معقود علیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وأما شرائط المعقود عليه فأن يكون موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم (بحر ۵/۲۷۹) یعنی معقود علیہ کیلئے شرط ہے کہ موجود مال متقوماً مملوک ہو، اور بائع کی ملکیت میں نہ ہو، اور مقدور اتسلیم ہو۔

صاحب درخت اور دارالحکار نے لکھا ہے کہ جو چیز ملکیت اور قبضہ میں نہ ہو اس کی بیع باطل ہے، اور دلیل میں بحر الرائق کی عبارت پیش کیا ہے جو اوپر مذکور ہوئی (شامی ۲/۱۱۸)۔

۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ بیع کو خریدنے کے بعد اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے چاہے دوسری جگہ کتنی ہی قریب ہو، مرقاۃ کی عبارت یوں ہے: فیان القبض فيه بالنقل عن مكانه قال ابن الملك : وفيه أن قبض المتنقول بالنقل و التحويل من موضع إلى موضع (مرقاۃ ۳/۳۱۸)۔

منظار حق میں ہے: یہ بات مخواہر ہے کہ اگر اس چیز کو پیان یا وزن کے ذریعہ لیا ہے تو پیانہ میں نپوا کر، یا وزن کرانے کے بعد ہی اسے انھا لے، اور اگر بغیر پیانہ یا وزن لیا ہے تو پھر اس کے بغیر ہی انھا کر رکھ دے، حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اشیاء منقولہ میں سے کوئی چیز خریدے اور پھر اسے کسی دوسرے کو فروخت کرنا چاہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو قبضہ میں لے اس کے بعد اسے فروخت کرے، کیونکہ بیع اشیاء منقولہ میں قبل قبضہ کے دوسری بیع جائز نہیں ہے (۱۲۳/۱۲۴)۔

اس مسلمہ میں صاحب درمنار رحم اللہ قطر از ہیں: ثم التسلیم بکون بالتخالیة على وجه يمكن من القبض بلا مانع ولا حائل ، و شرط في الأجناس شرطا ثالثاً وهو أن يقول: حللت بيتك وبين المبيع ، فلو لم يقله أو كان بعيداً لم يصر قابضاً (۲۸/۳۷) اس کا حاصل یہ ہے کہ میمع پر قبضہ کیلئے کوئی مانع دحائل نہ ہو، باس طور کے باع کہدے کہ میں نے تمہارے اور میمع کے درمیان چھوڑ دیا اسے لے اور اگر یہ نہ کہے تو مشتری قابض نہ ہوگا۔

علامہ شامی رحمہ اللہ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ شریعت میں قبضہ کی حقیقت میمع کے حال کے اعتبار سے مختلف ہے، اگر اشیاء منقول ہوں تو گھر کے اندر گیہوں جیسی چیز کی بیع میں باع کا تجھی دیدینا جلد گھر کا سکوننا بغیر تلف ممکن ہو، قبضہ ہے، اور جہاگاہ کے اندر گائے جیسی چیز کی بیع میں گائے کا اس طرح ہونا کہ وہ تکھی جائے اور اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے، قبضہ ہے، اور کپڑا جیسی چیز کی بیع میں کپڑے کا اس طرح ہونا کہ خریدار اپنا ہاتھ بڑھاتے تو کپڑے سک کپڑوں تجھی جائے، قبضہ ہے، اور گھر کے اندر گھوڑا یا چڑیا جیسی چیز کی بیع میں بغیر مددگار کے اسے پکڑ لینا ممکن ہو، قبضہ ہے۔

اور اگر اشیاء غیر منقول ہوں تو گھر جیسی چیز کی بیع میں گھر کوتالا ہند کرنے پر قادر ہونا قبضہ ہے، اور بازار و دوکان میں غل وغیرہ پر قبضہ یہ ہے کہ خریدار کیلئے باع کی طرف سے میمع کو لے لینے میں کوئی مانع نہ ہو (شامی ۲۷/۲)۔

سنت میں صرف بیع طعام میں حقیقت قبضہ متعدد کی گئی ہے

سنت رسول ﷺ میں قبضہ سے پہلے بیع کی ممانعت وارد ہے اور بیع طعام کے باب میں حقیقت قبضہ یہ متعدد کی گئی ہے کہ طعام کو مکان بیع سے منتقل کر لیا جائے، عن ابن عمر قال كانوا يتعاونون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فلهماهم رسول الله ﷺ عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه (رواہ ابو داؤد)۔

منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے قبضہ میں لے لیں، اور اشیاء منقولہ کا قبضہ میں لینا یہ ہے کہ اس کو خریدنے کے بعد اس کی جگہ سے انھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے، چاہے وہ دوسری جگہ کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو (منظار حق ۱۲۳/۱۲۴)۔

ایک دوسری حدیث: عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يعده حتى يستوفيه ، وفي رواية ابن عباس حتى يكتاله، متفق عليه ، ایک اور حدیث: عن ابن عباس قال أما الذي لهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقضى ، قال

ابن عباس : ولا أحس كُل شَيْءَ إِلَّا مُثُلَهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ،

حضرت ابن عباس کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ترس طریقہ اول قبل قبضہ یعنی جائز نہیں سے اسی طرح کسی جیز کو اس وقت تک یعنی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ قبضہ میں نہ آ جائے، یہ کویا حضرت ابن عباس کا اپنا مکان و خیال ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں تسلیم یہ نہیں کیا ہے (مخاتیر حق ۳۱۵)۔

اور علامہ خطابی کے کام کا حاصل یہ ہے کہ ملک امامیت نے قبل القبض با تحقق ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ اشیاء میں اختلاف ہے، چنانچہ امام ابو حینیہ اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک کھر اور میمن و جاندہ ایشیا نے قبل القبض جائز ہے اور اشیاء منقولہ میں ناجائز ہے، اور امام شافعیؓ کے نزدیک اشیاء منقولہ وغیرہ منقولہ میں سے ایک نے قبل القبض ناجائز ہے، اور امام مالکؓ کے نزدیک ماکول و مشروب کے عادوں ہر چیز کی نئی قبضے قبل القبض جائز ہے اور امام احمدؓ کے نزدیک کھلیل و موزوں کے عادوں ہر چیز کی نئی قبضے قبل القبض جائز ہے۔ (بدل ۲۸۳/۲)۔

بیز علامہ خطابی قبضہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں *الستَّوْصِ يَخْلُفُ فِي الْأَشْيَا*  
 حسب اختلافہا فی أَنْفُسِهَا فَمِنْهَا مَا يَكُونُ بَأَنْ يُوْسِعَ لِسَعْيَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ  
 بِالْتَّحْلِيلِ بَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ وَ بَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِالْتَّحْلِيلِ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بَأَنْ يُكَثَّلَ وَ  
 ذَلِكَ فِيمَا يَبْعَدُ مِنَ الْمَكِيلِ كِيلًا، فَإِنَّمَا مَا يَبْعَدُ جَرَا فَاصْبَرْةً مَصْبُوبَةً عَلَى الْأَرْضِ فَالْقُبْضُ أَنْ يَغْلِلُ  
 وَ يَحْوُلُ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنْ ابْتَاعَ طَعَاماً كِيلًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْيَعِهِ بِالْكِيلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدْ حَمِيَّةً يَكِيلُهُ عَلَى  
 الْمُشْتَرِيِّ ثَانِيَا (بدل ۲۸۳/۲)۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اشیاء میں قبضہ ان کی ذات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، چنانچہ کبھی قبضہ مشتری کے ہاتھ میں رکھ دینے سے ہوتا ہے، اور کبھی جمیع کو مشتری اور جمیع کے درمیان چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، اور کبھی جمیع کی جگہ سے انتقال سے ہوتا ہے اور کبھی کیل سے ہوتا ہے۔

اور علامہ ابن قدامہؓ نے کہا ہے: ہر چیز کا قبضہ اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اگر کیل، یا موزوں ہے اور کیل و وزن سے بیع کی جا رہی ہے تو قبضہ کیل و وزن سے ہوگا، و قبض کل شی بحسبہ فان کان مکيلاً او موزوں بیع کیلاً او وزناً فقبضہ بکیله و وزنه (معنی ۱۲۵/۲)۔

۳۔ اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے فرق مندرجہ ذیل ہے:

علامہ خطابیؓ لکھتے ہیں *الْمَقْبُوضُ يَخْتَلِفُ فِي الْأَشْيَا حَسْبَ اخْتِلَافِهَا فِي أَنْفُسِهَا فَمِنْهَا مَا*  
 یَكُونُ بَأَنْ يُوْسِعَ الْمَبْيَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ بِالْتَّحْلِيلِ بَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ وَ بَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ، وَ مِنْهَا مَا  
 یَكُونُ بِالنَّقْلِ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ مِنْهَا بَأَنْ يُكَثَّلَ وَ ذَلِكَ فِيمَا يَبْعَدُ مِنَ الْمَكِيلِ كِيلًا (بدل ۲۸۳/۲)۔  
 یعنی اشیاء منقولہ میں قبضہ یہ ہے کہ جمیع کو مشتری کے ہاتھ رکھ دی جائے، اور بعض میں جمیع کو مکان بیع سے  
 منتقل کرونا قبضہ ہے اور بعض میں کیل کرنا قبضہ ہے۔

اور اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ ہے کہ بائع مشتری اور بیع کے درمیان چھوڑے اور قبضہ سے مانع نہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اشیاء منقولہ میں قبضہ کی پندرہ انواع ہیں: (۱) گھر کے اندر گھریوں جیسی کچی بیع میں گھر کی کنجی دینا جبکہ گھر کو بغیر تکلف کھولنا ممکن ہو۔ (۲) گائے جیسی کچی بیع میں گائے کا دیکھا جانا اور اس کی طرف اشارہ کیا جانا ممکن ہو۔ (۳) کیڑا جیسی کچی بیع میں کیڑے کا اس طرح ہونا کہ مشتری با تحد بڑھانے تو وہاں تک ہوئی جائے۔ (۴) گھر کے اندر گھوڑا یا چیز یا جیسی کچی بیع میں بغیر بدگار کے کپڑلینا ممکن ہو، اور اشیاء غیر منقولہ میں گھر اور زمین جیسی کچی بیع میں گھر کو تالا بند کرنے پر قادر ہونا اور پھر اس کو بغیر تکلف کھولنا ممکن ہو اس طرح کہ بائع مشتری کو کنجی دیدے قبضہ ہے، اور زمین و جاندار میں تصرف پر قادر ہونا قبضہ ہے (شامی ۲۷۸، ۲۸۰) واللہ اعلم۔

۴۔ بیع قبل القبض سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں اور علت نبی غرر ہے، چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ لأن علة الفساد الغرر (شامی ۱۸۲/۳)۔

اور نبی غرر ناجائز ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے: عن أیٰ هریرۃ قَالَ: نَهِیَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَیْعِ الْغَرِرِ۔

اور نبی غرر اس بیع کو کہتے ہیں جس میں بیع مجہول، یا بائع کے قبضہ و قدرت سے باہر ہو، جیسے پانی میں مجھلی کی نبی، یا ہوا میں اڑتی چیز یا کی نبی، اور عبد آبی کی نبی، ای ما لا يعلم عاقبة من الخطر الذي لا يدری ایکون ام لا كبيع الآبق و الطير في الماء والسمك في الماء والغائب المجهول، و مجمله أن يكون المعقود عليه مجهولاً و معجزاً عنه (مرقاۃ ۳۲۰/۳)۔

اور امام نوویؒ نے بیع غرر مقدوراً لتسليم کو بھی شمار کیا ہے (لووی ۲/۲) اور ظاہر ہے کہ قبضہ سے پہلے غیر مقدوراً لتسليم ہوتی ہے اور سخت بیع کیلئے بیع کاملوں و مقدوراً لتسليم دونوں ہوتا شرط ہے۔

امام نوویؒ کی عبارت یوں ہے: و يدخل فيه مسائل كثيرة غير مختصرة كبيع الآبق و المعدوم و المجهول و ما لا يقدر على تسليمه و ما لا يتم ملك البائع عليه، و بيع السمك في الماء الكثير الخ فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة (۲/۲)۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت طعام کے باب میں تمام ائمۃ رضی اللہ عنہم کے نزدیک عام ہے، اور اس کے علاوہ اشیاء کی بیع قبل القبض میں ائمۃ کے نزدیک کچھ استثناءات و تخصیصات ہیں، اس باب میں ائمۃ کی آراء مع دلائل متفروجہ ذیل ہیں:

علامہ خطابی لکھتے ہیں: طعام کی بیع قبل القبض ناجائز ہے، اسی پر علماء کا اجماع ہے، اور امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ اس حکم سے گھرا اور زمین و جاندار کا استثناء و تخصیص کرتے ہوئے ان کو قبضہ سے پہلے ناجائز کہتے ہیں۔ اور امام شافعی اور امام محمدؓ اس ممانعت کو عام رکھتے ہوئے بیع قبل القبض کو مطابق ناجائز کہتے ہیں، اس میں کچھ استثناء و تخصیص نہیں کرتے ہیں اور امام مالکؓ طعام میں بیع قبل القبض کو ناجائز کہتے ہیں، اور اس حکم سے غیر طعام کا استثناء و تخصیص

کرتے ہیں۔ اور امام احمد وغیرہ مکمل اور موزوں میں بعْ قبْلِ القَبْض کو ناجائز کہتے ہیں، اور اس حکم سے مکمل و موزوں کے علاوہ کا استثناء و تخصیص کرتے ہیں، یہ علماء حرمہم اللہ کی آراء ہیں۔ (دیکھئے: نووی ۵/۲)۔

اور حدیث میں طعام سے مراد تمام دانے ہیں، پھر تجھے علامہ شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: والمراد به في کلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله كلا و جزافا (شامی ۳۰/۲، البحر الرائق ۳۰۵/۵)۔

### دلائل ائمہ:

طعام کے سلسلہ میں بعْ قبْلِ القَبْض کی ممانعت عام ہے، اس پر اجماع ہے، دلیل: عن ابن عمر أن دَسُولَ اللَّهِ مَسْكُنَةً قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبْعَدْهُ حَتَّى يَسْتَرْفِيهِ وَ كَذَارُوا عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ؛ وَ الْمَرْوِيُّ عَنْهُمَا رَوَاهُيَاتٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (۵/۲) (فی أَبْنَيْ دَوْدَمَعَ الْبَذَلَ ۲۸۵/۳)۔

### استثناءات و تخصیصات کے سلسلہ میں دلائل ائمہ:

علامہ شامی، امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صح ببع عقار لا يخشى هلاكته قبل قضته من باائعه لعدم الغرر أى غرر انفصال العقد على تقدير الها لاك وعلله لصدره هلاك العقار حتى لو كان علوا أو على شط نهر، تفریع على مفهوم قوله "لا يخشى هلاكته و نحوه" "بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال كان كمنقول أى بمتزلكه من حيث لحق الغرر بحالكه ليصح البيع لكنه يتوقف (شامی ۲/۱۸۱)۔

یعنی زمین و جائد وغیر منقول کی بعْ قبْلِ القَبْض جائز ہے، عقد کے شنج ہونے کے غررو و حوكاہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی ہلاکت نادر و شاذ ہے، اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اگر ہلاکت کا اندیشه باس طور ہو کہ زمین و جائد کا محل و قوع ایسا ہے کہ اس پر ریت کے غلبہ کا خطرہ ہے تو اس کی بعْ قبْلِ القَبْض صحیح ہو جائے گی، لیکن موقوف رہے گی، اسی طرح گھرو زمین و جائد و جس کے قبض و دخل میں خطرہ ہے تو اس کی بعْ قبْلِ القَبْض صحیح ہو گی لیکن نافذ نہ ہو کر موقوف رہے گی۔

### امام شافعی کی دلیل:

عن ابن عباس قال أَمَا الَّذِي نَهَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبْعَدْ قَبْلَ أَنْ يَفْقَضَ، قال ابن عباس: وَ لَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ، مُتَفَقُ عَلَيْهِ (مسلم ۲/۵، ابو داؤد و مسلم البذل ۲۸۵/۳)۔

یعنی امام شافعی کے نزدیک بعْ قبْلِ القَبْض مطلقاً ناجائز ہے، اس میں کچھ بھی استثناء و تخصیص نہیں ہے، اور حدیث ابن عباس دلیل ہے۔

امام مالک ماکول و مشروب کے علاوہ ہر چیز کی بعْ قبْلِ القَبْض جائز کہتے ہیں، اور ماکول و مشروب کا استثناء کرتے ہیں، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کرتے ہیں: وجہ ذلك ما روى الأوزاعي عن

البرهانى عن حمزة بن عبد الله بن عمر يقول مقتدى السنى إن أدركته الصفة حيا محموا ف فهو  
من مال الميت (رواوه البخارى) تعليقاً عن ابن عمر وقول الصحابى "مقتدى السنى" بقصوى  
سنة النبي ﷺ ولأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفيقه فكان من مال المشترى كغير المكيل  
والمورون (مختصر ۱۲۲/۱۲۳).-

وعلى الإمام مالك نفسه في المدونة قال: لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى  
يسمى وهي عبء على الكل والورن وكل شيء ما حلا الطعام والشراب فهو جائز أن تسعه قبل  
أن تصرفه إن كانت اثربته وزناً أو كيلاً أو جرافاً فهو سواء وإن كان الحديث إنما جاء في  
الطعام بحدة (المدونة ۱۹۶/۳).-

إمام أحمد مكيل اور موزوں کی بیع قبل التقبیش کو ناجائز ہے ہیں، اور ان کے علاوہ کا استثناء تخصیص کرتے ہیں  
اور دلیل بیان کرتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں: ولنا قول النبي ﷺ الخراج بالضمان،  
وهذا المبيع إنما للمشتري فضمانه، وقول ابن عمر "مقتدى السنى" إن ما أدركته الصفة حيا  
محموا ف فهو من مال الميت "ولأنه لا يتعلق به حق توفيقه و تخصیص النبي صلى الله عليه وسلم  
الطعام بالسہی عن بیعه قبل قبضه دلیل على مخالفۃ غیرہ له (مختصر ۱۲۵/۲).-

طريق استدلال یوں ہے کہ ہبھی کائن قبل التقبیش کی معاہت میں مطعم کی تخصیص کرنا اس بات کی  
دلیل ہے کہ مطعم کے علاوہ کی بیع قبل التقبیش جائز ہے۔

۶۔ چونکہ فیکثری سے خریداری کرنے والے طرف سے قبضہ نہیں پایا جائے تو جواز بیع کیلئے شرعاً، لہذا  
دوسرے شخص کے باتحاد خریدار کی فرمانی کو ناجائز قرار دیا جائے گا، اور غمان تقبیش کے قائم مقام مت恂ور ہو گا، اور  
مشتری نمبر (۱) کا یہ غمان درست نہیں، چنانچہ علامہ شامي فرماتے ہیں:-

وفي الفتح والدر المنسقى لو هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر  
سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقوضاً، وإن هلك بفعل المشترى فعليه ثمنه إن كان  
البيع مطلقاً أو بشرط الخيار له، وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً لزمه ضمان مثله إن  
كان مثلياً وقيمة إن كان قيمياً (شامي ۳۲/۳).-

یعنی اگر جمیع بالع کے فعل سے (مثلاً کوتاہی، یا غیر معتمد علیہ آئینی کے ذریعہ سے پارسل وغیرہ ہو) باک  
ہو جائے، یا کسی امر سماوي کی وجہ سے ہو تو بیع باطل ہو جائے گی، اور بالع قیمت واپس کرے گا اگر اس نے قیمت لے لی  
ہے، اور اگر مبيع خریدار کے فعل (مثلاً پارسل چھڑانے میں کوتاہی وغیرہ کے ذریعہ) سے بلاکت ہوئی ہو تو خریدار کے  
ذمہ قیمت ادا کرنا واجب رہے گا۔

اور قبضہ سے پہلے عدم جواز بیع کے باب میں علامہ شامي فرماتے ہیں: محمد بن يعقوب عن أبي

حنیفة قال إذا اشتريت شيئاً كما يکال أو يوزن أو يعده عدا فلابتعه حتى تکيله و تزنه و تعدد ، فإن بعده قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن ، قلت: و ظاهره أن الفاسد هو البيع الثاني وهو بيع المشترى قبل كيله وأن الأول وقع صحيحاً لامر من أن العلة كون الكيل من تمام القبض فإذا باعه قبل كيله فكانه باعه قبل القبض ، وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح ( شامی ۱۸۳/۲ )۔

یعنی امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جب تم کیل، یا وزن، یا عددی چیز خرید تو کیل، یا وزن، یا عدد سے خریدو، پھر اس کو بغیر کیل یا وزن یا عدد کے یعنی بغیر قبضہ سے مت بنو، پس اگر تم نے اس کو بغیر کیل، یا وزن، یا عدد کے یعنی بغیر قبضہ کے نفع دیا تو دوسرا نفع فاسد ہے اور نفع اول نہیں، لیونکہ کیل یا وزن سے پہلے یہنا قبضہ سے پہلے یہنا ہے، اور منقول کی نفع قبضہ سے پہلے صحیح نہیں ہے۔

یہ عرف کہ جس میں جن الاقوامی تجارت میں جہاز پر مال چڑھانے کے بعد باع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جبکہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ مال کو فروخت کر دیتا ہے، اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن نہیں ہوتا، بلکہ تیرا خریدار ضامن ہوتا ہے۔

یہ صورت شرعاً جائز ہوگی، جیسا کہ سوال (۲) کے جواب میں تحریر کیا جا چکا، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ نص اقویٰ من العرف ہوتی ہے، لہذا نص کے مقابلے میں یہ عرف شرعاً معتبر نہیں، علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لأن العرف جاز أن يكون على الباطل، ولأن حجية العرف على الذين تعارفوه  
والترمود فقط والنص حجة على الكل فهو أقوى، ولأن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله  
صلوات الله عليه ما رأاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (شامی ۲۰۲/۲)۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

ڈاکٹر عبدالعزیزم اصلانی

۱۔ بعْ قبْلِ القبْض ناجائز ہے، ربا الفضل و ربا النسیبہ کے تحت آنے والے مبادلات میں فوری قبضہ نہ ہونے کی شکل میں یہ بعْ یا مبادله باطل ہوگا، دیگر اشیاء میں قبضہ کی نوعیت کے مطابق بعْ فاسد یا مکروہ ہوگی۔

۲۔ کتاب اللہ اس سلسلہ میں بالکل خاموش ہے۔ اور سنت میں طعام کو ناپ لینے روزانہ کر لینے یا خرید کی جگہ سے منتقل کر لینے کو قبضہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، بقیہ اشیاء کے سلسلہ میں کوئی ذکر نہیں ہے اس لئے اس عرف و عادت پر چھوڑ دینا چاہئے، اور یہ صحیح ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استعمال اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے۔

۳۔ مذکورہ بالا اصول کے مطابق نہ صرف اشیائے منقولہ وغیر منقولہ بلکہ ہر چیز کی نوعیت و مزاج کے مطابق قبضہ کی شکل میں فرق ہوگا۔

۴۔ بعْ قبْلِ القبْض کی نہی کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، جہاں تک علت کا سوال ہے جن لوگوں نے اسے مطعمات تک محدود کیا ہے ان کے نزدیک علت "طعام" ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک کیلی، وزنی یا عددی ہونا ہے، بعْ قبْلِ القبْض کی نہی کا عموم اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ نفس بعْ یا مبادله بالمال ہی کو علت مانا جائے۔

۵۔ بعْ قبْلِ القبْض کے متعلق ائمہ مجتہدین سے سات طرح کے اقوال منقول ہیں۔ (۱) یہ نہی صرف مطعمات ربویہ تک محدود ہے (۲) مطلق مطعمات میں ہے (۳) ان مطعمات میں ہے جو کیلی یا وزنی ہیں (۴) ہر اس چیز میں جو قابل انتقال ہو (۵) بلا قید ہر چیز میں قبضہ شرط ہے (۶) ہر اس چیز میں جو کیلی یا وزنی، (۷) ہر اس چیز میں جو کیلی، وزنی یا عددی ہو (ازبدایہ ابن رشد)۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ خود روایات اس سلسلہ میں مختلف یا مجمل ہیں۔

۶۔ اس سلسلہ میں اگر کوئی کمرشیل روول (تجاری قانون) نہیں ہے تو عرف و عادت کے مطابق ضمان کو قبضہ حسی کا قائم مقام سمجھ کر اس خرید و فروخت و جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

۷۔ یہ شکل مذکورہ بالا سے متفاض ہے لیکن چونکہ بر کے بجائے بحر کا معاملہ ہے اس وجہ سے دستاویزات کے تباہی کو قبضہ کا قائم مقام سمجھا جاسکتا ہے پھر بھی چونکہ اس میں تلقی جلب کی صورت پائی جاتی ہے اس لئے کراہیت سے خالی نہیں۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا قاری ظفر الاسلام عظیمی

ا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک بع قبل القبض فاسد ہے اور یہ صورت "رَحْ مَالْ يَضْمَنْ" میں شامل ہے، اس کی صورت یہ ہے "أَنْ يَشْتَرِي مَتَاعًا وَيَبْيَعُهُ مِنْ آخِرِ قَبْضَهِ"۔ صاحب "اعلا اسنن" لکھتے ہیں: فهذا البيع باطل وربحة لا يجوز (اعلا اسنن ۱۲۰۷۱) آگے مؤلف مذکور نے ابطال کی وجہ بھی بیان کر دی ہے، وہ یہ کہ ابھی بیع پہلے شخص ہی کے ضمان میں ہے مشتری کے قبضہ میں نہ آنے کے باعث ضمان میں واصل نہیں ہوئی، اس کے عدم جواز میں وہ حدیث بھی پیش کی جاسکتی ہے جس میں رسول اکرم نے حضرت عتاب بن اسید گواہل مکہ کی جانب بھیجا کر وہ یہ چار باتیں ان تک پہنچا دیں، (۱) ان لا يصلح شرطان فی بیع (۲) ولا بیع و سلف (۳) ولا بیع مالا یملک (۴) ولا ربع مالا یضمن، حضرت عبد اللہ بن عمر و سے بھی یہ روایت موجود ہے جس کی اصحاب خمسہ نے بجز ابن ماجہ کے تخریج کی ہے، اس مضمون کی دیگر مرویات باختلاف یسیر ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حاکم نے متدرک میں، نسائی نے سنن کبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مند میں نقل کی ہیں (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: مغنى لابن قدامة ۲۲۰/۳، محدثی لابن حزم ۵۲۲/۸)۔

علام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: فمذهب أبى حنيفة لا يدخل المبيع كله فى ضمان المشتري إلا بالقبض إلا العقار و عند الشافعى العقار وغيره سواء وهو رواية عن أحمد (فتاویٰ لابن تیمیہ ۲۹/۵۰۵) عبد الرحمن الجزيري نقل فرماتے ہیں: الحنفية قالوا من البيع الفاسد بيع الأعian المنقوله قبل قبضها، حضرت امام شافعی کے نزدیک بیع منقول ہو یا غیر منقول، قدرت على التسلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بع باطل ہوگی "فإذا اشتري منقولاً كان أو غيره ولم يسلم ثم باعه وقع البيع باطلًا" (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۶/۲)۔

اس طرح کی بع متعلق ہمارے بعض علماء نے بھی باطل کا قول کیا ہے، چونکہ باطل اور فاسد میں تعارض ہے، اسلئے اس کا جواب اگر یوں دیدیا جائے کہ یہاں پر باطل بمعنی فاسد ہے تو اب تعارض نہ رہ جائے گا، نیز اس کے نظام انصوص فقہاء میں موجود بھی ہیں، دوسرا جواب اس عبارت سے بھی دیا جاسکتا ہے جو درج ذیل ہے:

الحنفية قالوا إذا اصطاد طيراً فكان في يده ثم أرسله في الهواء فإن بيعه في هذه الحالة يكون فاسداً لعدم القدرة على التسليم، أما إذا باع الطير في الهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل

لا يعقد أصلاً لعدم الملك (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۳۲).

حکی کہتے ہیں کہ اگر شکار کے چڑیا پس باتھ میں لے رکھا اور پھر فضا میں چھوڑ دیا تو اس صورت میں یعنی فاسد ہو گئی قدرت ملی اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر شکار سے پہلے فضا میں بیٹھ کر لی گئی تو یعنی باطل ہو گئی ملکیت نہ ہوتی کی وجہ سے۔

لیہ افساد کی وجہ عدم تسلیم للقدرة ہے اور ابطال کی وجہ عدم ملکیت ہے۔

حامہ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں:

فالشافعی یمنعه مطلقاً ويقول هو من ضمان البائع وهو رواية ضعيفة عن أحمد و أبو حنيفة یمنعه إلا العقار ويقول هو من ضمان البائع وهو لاء يعللون بتوالي الضمانين (فتاویٰ لامن تیمیہ ۵۰۹/۲۹)۔

امام ارباع میں سے حضرت امام مالکؓ کے نزدیک یعنی قبل القبض اعیان منقول میں ہو یا غیر منقول میں سوائے طعام کے سچے ہے، المالکیہ قالوا: یصح للمشتری ان يتصرف في المبيع قبل قصده بالبيع سواء كان المبيع أعياناً منقولاً أو أعياناً ثابتة كالأرض والتحيل ونحوهما إلا الطعام كالفسح والفاكهة (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۵/۲) و قال مالکؓ: يحوز لأن الشيء منحصر الطعام بالذكر عند النهي (مبسوط للسرخی ۸/۱۳) و نقل عن احمد: أن المطعم لا يحوز بعده قبل قصده سواء كان مكيناً أو موزوناً أو لم يكن (معنى لامن تیمیہ ۱۱۵/۲) الحابلة: قالوا یصح التصرف في المبيع بالبيع قبل قصده، إذا كان غير مكيناً أو موزوناً أو معدود (الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۶/۲)۔

مذکورہ مذاہب کی روشنی میں یہ بحث میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک کے یہاں جواز میں توسع ہے تو حضرت امام شافعی کے یہاں عدم جواز میں، حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک اعیان منقول میں غیر سچے اور اعیان غیر منقول میں سچے، پھر اگر کسی نے اعیان منقول میں عدم جواز کے باوجود قبل القبض بیع کر لی تو وہ بیع فاسد ہو گی، علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: ومما القصص في بيع المشترى المنقول فلا يصح بعده قبل القصر لماروى الشيء منه بغيره عن بيع مالم بقى، والنهي بوجوب فساد المنهي ولا به بيع فيه غرر الانفصال به لامك المعمور عليه (بدائع الصنائع ۱۸۰/۵)۔

لختہ میں ایک مسئلہ ہے کہ قبل القبض اگر کر لی گئی تو اس کا حکم یا ہے، حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک تو یعنی سمرے سے فاسد ہے، چاہے یعنی والے کوئی کیوں نہ سچے ہیں لیکن یعنی میں وہ تنخیل نہیں ہے، علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: وقد نهى رسول الله عن بيع فيه غرر سواء باعده عن زانه باعده او من باعده لأن النبي مطلق لا يوحى الفضل بين البيع من غير مانعه أو من المدعى من زانه وكذا امعنى الغرر لا يفصل بينهما (بدائع الصنائع ۱۸۰/۵) علامہ عبد الرحمن الجازري تحریر میں:

سواء باعها لمن اشتراها عنه أو لغيره (الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۲/۲) حضرت امام شافعیؓ کے نزدیک بیع قبل القبض جائز نہیں، مگر چند صورتوں میں، جن میں سے پہلی صورت یہ ہے: الاول ان ییعنی قبضہ لمن اشتراہ منه بنفس الشمن الذی اشتراہ به بدون زیادة (کتاب الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۲/۲)۔

مذکورہ بالاعبارت سے واضح ہو گیا کہ حضرت امام شافعیؓ کے مسلک میں بیع قبل القبض اولاً تو جائز نہیں لیکن اگر مشتری نے خود بالع کو ہی ثمن اول کے ساتھ بیع دیا تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، حضرت امام احمد بن حبیلؓ کے یہاں بھی بیع کی صحت کی چند صورتیں ہیں۔

اول یہ کہ اگر بالع نے خود خرید تو یہ صحیح نہ ہو گی، الایہ کہ بالع کے باپ، یا خادم، یا بیوی نے اسے خرید لیا۔

(۱) فیاذا اشتراها ابنہ او أبوہ او خادمه او زوجہ فانہ یصح إذا لم یکن ذلک حبلة یتوصل بها إلى الشراء.

(۲) فیاذا اشتراها بمثیل ثمنها او أكثر فانہ یصح.

(۳) أما إذا لم یکن من جنس ثمن الأول كما إذا باعها بفقد ثم اشتراها بعرض تجارة فانہ یصح (کتاب الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۶/۲)۔

اس میں کچھ اور تفصیلات ہیں جو مخفی لابن قدامة ۱۸۲/۲ راجحہ ۲، بدایۃ الجہد ۱۳۲/۲ پر دیکھی جاسکتی ہیں۔

اب ائمہ اربعہ کا مسلک اس طرح ہو گا:

امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک بیع قبل القبض فاسد ہے سوائے غیر منقول کے، یہ بیع خود بالع سے ہو، یا بالع کے علاوہ کسی اور سے۔

امام مالکؓ کے نزدیک بیع قبل القبض اعیان منقولہ و غیر منقولہ دونوں میں صحیح ہے بجز طعام کے، امام شافعیؓ کے نزدیک بیع قبل القبض منقول و غیر منقول دونوں میں صحیح نہیں، الایہ کہ مشتری خود بالع کو ہی ثمن اول کے ساتھ بیع دے۔

حضرت امام احمد بن حبیلؓ کے نزدیک غیر مکمل و غیر موزون و غیر معدود و غیر مدروع میں قبل القبض ہے، اس کے مساویں نہیں۔

حبلی مسلک کی ایک روایت جو قوی ہے وہ حضرت امام ابوحنیفہؓ کی مواید ہے، اور ایک ضعیف روایت حضرت امام شافعیؓ کی۔

**خلاصہ کلام:**  
بیع قبل القبض نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ ناجائز، نیز اگر بیع کر لی گئی تو فاسد ہو گی اعیان منقولہ میں، اور صحیح ہو گی

غیر منقولہ میں۔

۲۔ کتاب و سنت و نصوص فقہاء کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ ایک مجہد فیہ مسئلہ ہے، حالات، زمان و مکان و بیع کے اختلاف سے قبضہ کی نوعیتیں جدا گانہ ہوں گی۔

پس اولاً عرض ہے کہ فقہاء نے قبضہ کی دو قسمیں کی ہیں: حقیقی اور حکمی۔ حقیقی قبضہ تو جس اور تسلیم سے ہوگا، اور حکمی استیلاء، تمکن، اشارہ، تخلیہ و تمیز سے، ابن قدامہ کی درج ذیل عبارت سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے مراد استیلاء ہی ہے جو لوگوں کے بینج متعارف ہو۔

وَكُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى قِبْضٍ إِذَا اشْتَرَاهُ لَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (مُغْنِيُّ لِابْنِ قَدَّامَةِ ۲۲۰/۳).

علام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ثُمَّ قَالَ الْخُرْقَى وَمَنْ اشْتَرَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى قِبْضَهُ لَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقِبْضِ وَمَا لَا يَحْتَاجُ فَمَا لَا يَحْتَاجُ يَكْفِي فِيهِ التَّمْكِنُ (فَتاویٰ لِابْنِ تیمیہ ۵۰۸-۵۰۹/۲۹).

اسی رائے کی تائید ابن قدامہ کی اس تحریر سے بھی ہو رہی ہے: وَقَبْضٌ كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ فَإِنْ كَانَ مَكْيَلاً أَوْ مَوْزُونًا فَقِبْضُهُ بِكِيلِهِ وَوْزُونِهِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّخْلِيَةُ فِي ذَلِكَ قِبْضٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو الْخَطَابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الْقِبْضَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالْتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيزِ (مُغْنِيُّ لِابْنِ قَدَّامَةِ ۲۲۰/۳)۔

ہر چیز کا قبضہ بیع کے شایان شان ہوگا، چنانچہ اگر بیع از قبیل کمیل یا موزون ہے تو اس پر قبضہ کیل اور وزن سے ہوگا اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے، اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اس پر قبضہ تخلیہ سے ہوگا، ایک روایت ابو الخطاب نے حضرت امام احمد بن حنبل سے نقل کی ہے کہ صرف تخلیہ سے ہی قبضہ نہ ہوگا تا وقتیکہ خریدی ہوئی شی متمیز نہ ہو جائے۔

یہاں پر تخلیہ سے مراد قبضہ کی اجازت دیدیا ہے نہ کہ تخلیہ کا معنی مخصوص، قوله ان يقول خليت الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية.

وہ چیزیں جو جزا فا اور اندازہ سے خریدی جاتی ہیں ان کا قبضہ نقل ہے۔ وَإِنْ بَيْعَ جَزَافًا فَقِبْضُهُ نَقلٌ (مُغْنِيُّ لِابْنِ قَدَّامَةِ ۲۲۰/۳)۔

حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہر وہ تصرف جس میں بدون قبضہ کے جواز ہواں میں اگر مشتری قبضہ سے قبل تصرف کرے تو وہ جائز نہ ہوگا، اور ہر وہ تصرف جس میں تصرف قبضہ کے علاوہ جائز نہیں اس میں مشتری قبضہ سے پہلے تصرف کرے تو وہ جائز ہوگا۔

كُلُّ تَصْرِفٍ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ قِبْضٍ إِذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقِبْضِ لَا يَجُوزُ وَكُلُّ مَالٍ يَجُوزُ إِلَى الْقِبْضِ كَالْهَبَةِ إِذَا فَعَلَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقِبْضِ جَازَ وَيُصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُ (شامی ۲/۲۳).

(۵۶۱)

علامہ نصی کی بھی تحریر پیش خدمت ہے: قال محمد کل تصرف لا يتم إلا بالقبض فذلك  
جائز في المبيع قبل قبضه إذا سلطه على قبضه فيقبضه (الرسو ط ۸/۱۳)۔

علامہ شامی نے قبض کی بہت ساری صورتیں تحریر فرمائی ہیں جن میں سے چند ہیں:

ومنه مالو اشتري دها ودفع قارورة يزنها فيها فوزنه فيها بحضور المشترى فهو قبض،  
وكذا بغيرته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكانه أو وزنه فيه بأمره ومنه  
مالو غصب شيئاً ثم اشتراه صار قابضاً (روائع ر ۵۱۲/۵)۔

حضرت امام احمدؓ کے نزدیک قبض سے مراد تمکن ہے نہ کہ نفس قبض: فظاہر مذهب احمد ان الناقل  
للضمان إلى المشترى هو التمکن من القبض لا نفس القبض (فتاویٰ لابن تیمیہ ۵۰۷/۲۹)۔

صاحب "روائع ر" نے تخلیہ کو حکماً قبضہ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں: "وحاصله أن التخلية قبض حكماً"  
آگے علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ قبضہ کی مختلف صورتیں ہیں: لکن ذلک بختلف بحسب حال المبيع ففي  
نحو حنطة في بيع مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على  
إغلاقها قبض، وفي نحو بقر في مرجعي فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض.... وفي المقطف ولو  
بائع داراً وسلمها إلى المشترى دار فيها متاع قليل أو كثير لا يكون تسلیماً حتى يسلمها فارغة  
(روائع ر ۵۲۲/۳)۔

ملک العلماء ابو بکر کاسانی تحریر فرماتے ہیں: أما الحديث فظاہر قوله عليه السلام يداً بيد  
فحملها على التعین (بدائع الصنائع ۲۱۹/۵)۔

ابن حزم تحریر فرماتے ہیں کہ جب شی کسی خاص کی ہو جائے تو اسے قبض کہیں گے: لهذا عمر يقول  
 بذلك ويبين أن القبض هو الذي يكون الشئ للمرء (تخلی لابن حزم ۵۲۰/۸)۔

علامہ کاسانی نے قبض کی تفسیر اس طرح کی ہے: واما تفسير التسلیم والقبض فالتسليم والتسلیم والقبض  
عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبيع وبين المشترى برفع الحال بینهما  
على وجه يتسمکن المشترى من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشترى قابضاً له  
وكلما تسلیم الشئ من المشترى إلى البائع (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵)۔

تسلیم اور قبضہ ہمارے نزدیک تخلیہ ہے اور تخلیہ یہ ہے کہ باائع مجیع اور مشتری کے درمیان موائع کو اس طرح  
دور کر دے کہ مشتری تصرف پر قادر ہو جائے، لہذا باائع مجیع کو سوچنے والا اور مشتری اس پر قبضہ کرنے والا ہو جائے، ایسے  
ہی شئ مشتری سے نکل کر باائع کے پاس چلا جائے، صاحب "بدائع" اسی مفہوم کو ایک مقام پر اس طرح بیان کرتے  
ہیں: لأن معنى القبض هو التمکن والتخلی وارتفاع الموانع عرقاً وعادةً حقيقة (بدائع الصنائع ۵/۱۵)

مذکورہ بالاقضی کی تائید قواعد الفقد کی اس عبارت سے بھی ہو رہی ہے: التخلیة فی البيع هو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع عند عدم وجود مانع من تسليم المشترى إياه (قواعد الفقد از سید عیم الاحسان، ۲۲۳/۲۲۳) تخلیہ فی البيع یہ ہے کہ باع مشتری کو بیع پر قبضہ کی اجازت دیدے اور اس کیلئے جمیع کو سوچنے سے کوئی شی مانع نہ ہو۔

بہر کیف مذکورہ تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء نے جس میمع کے قبضہ کیلئے جو صورتیں بیان فرمائی ہیں وہی معمول بہابوں گی، اور جہاں کوئی صراحة نہیں ہے، تعامل اور عرف کے مطابق عمل ہوگا۔

۳۔ قبضہ کی توکیت اعیان منقولہ اور غیر منقولہ کے اعتبار سے جدا گانہ ہے، لہذا اگر میمع از قبل عقار ہو کر جائزہ اور غیرہ ہو تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اسے فصل سے خالی کر کے مشتری کے حوالہ کر دیا جائے، اور اگر مکان ہو تو اسے باپ سے خالی کر کے تالہ اور کنجی خریدار کے حوالہ کر دیا جائے، یہی حمکن اور یہ کے مراد ہے، لیکن اگر منقولات سے ہوں تو اس میں تفصیل ہے، حضرت امام احمد بن حنبلؓ کے نزدیک نقل اور تحویل کے ذریعہ قبضہ ہوگا اور حضرت امام ابوحنیفؓ اور امام مالکؓ کے نزدیک قبضہ تخلیہ سے ہوگا، غالباً حضرت امام شافعیؓ کی بھی تخلیہ سے یہی مراد ہے۔

جواب (۲) کے ضمن میں تخلیہ کی تعریف اور اس سلسلہ میں فقہاء کی نصوص مفصلہ بیان کردی گئی ہیں۔

علام ابن رشد قطبی تحریر فرماتے ہیں: وَإِنَّمَا اسْتَخْنَى أَبُو حَنِيفَةَ مَا يَحُولُ وَيَنْقُلُ عَنْهُ مِمَّا لَا يَنْقُلُ لَا يَنْقُلُ الْقِبْضُ عَنْهُ فِيهِ هِيَ التَّخْلِيَةُ (بدایہ الحجہ ۲/۱۳۵)۔

حضرت امام ابوحنیفؓ نے اشیاء منقولہ کے حکم کو اعیان غیر منقولہ سے الگ کر دیا ہے کیونکہ اعیان منقولہ میں حضرت الامام کے نزدیک قبضہ شرط ہے جو تخلیہ کے مراد ہے۔

۴۔ احادیث مبارکہ جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام احادیث معلوم بالعلة ہیں، اور علت نبی "غرة" ہے، نبی رسول اللہ عن بيع مالم يقبض، وعن ربع مالم يضمن، ونہی عن بيع الطعام قبل قبضه" یا اس کے علاوہ دیگر مردیات میں نبی کی علت قدرے مشترک کے طور پر "غرة" ہے کیونکہ ایک دوسری روایت صریحاً بھی موجود ہے، جو اس علت منع کی وضاحت کر رہی ہے "نہی النبی عن بيع الغرر" صاحب "بدائع الصنائع" تحریر فرماتے ہیں: نبی رسول اللہ عن بيع فيه غرر وبين تمکن الغرر ان الغرر هو الخطط (بدائع الصنائع ۵/۱۶۳)۔

ابن حزم نقل فرماتے ہیں: عن أبي هريرة قال: نبی رسول اللہ عن بيع الطعام حتى یجري فيه الصاعان فیکون لصاحبہ الزیادة وعلیه النقصان (مکمل لابن حزم ۸/۵۲۳)۔

حضرت امام ابوحنیفؓ اور حضرت امام شافعیؓ نے جو عدم جواز کا قول کیا ہے اس کی وجہ علماء ابن تیمیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ: اگر میمع تلف ہوئی تو دونوں شخص اس کے ضامن نہ ہوں گے، بلکہ وہی ہوگا جس نے اسے بیجا

ہے، یعنی باعث اول "و هن لاء يعللون المتن بتوالي الضمانين (فتاوى لابن تيمية ۵۰۶/۲۹)۔

اسی طرح علامہ جزیری عدم جواز کی علت یوں تحریر کرتے ہیں: و قد قيل في علة النهي إن في قبضه منفعة للعمال إذ يستعملون بكتلته و حمله وزنته وغير ذلك بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضرع تلك المنفعة وقيل إنه أمر تعبدى (كتاب الفقہ على المذاهب الاربعة ۲۳۵/۲)۔

نگی کی علت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ممکن پر قبضہ کرنے سے عاملین کا نفع ہے، اسلئے کہ وہ لوگ کیل، وزن اور بار برداری سے نفع حاصل کرتے ہیں، برخلاف اس صورت کے جبکہ ممکن پر قبضہ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ منفعت ضائع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسری علت یہ بھی ہے کہ وہ امر تعبدی ہے۔

**خلاصہ کلام:** جب قبضہ امر تعبدی ہے تو اس کی شرط وہ ہیں گئے کی جہاں حدیث موجود ہے، کیونکہ یہ امر غیر مردک بالقياس ہونے کے باعث "يقتصر على مورد النص " ہو گا۔

گئے ہاتھوں علامہ ابن رشد قرطسی کا بھی عند یہ معلوم کرتے چلیں، وہ اس منع کی علت یوں تحریر کرتے ہیں: و من طريق المعنى إن بيع مالم يقبض يتطرق منه إلى الربا (بداية الجحده ۱۳۵/۲)۔

اسی طرح ایک مقام پر علامہ جزیری فتاویٰ کی انواع بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ومنها بيع الغرر وهو التردد بين أمرين أحدهما يوافق الفرض والآخر يخالفه (كتاب الفقہ على المذاهب الاربعة ۲۳۲)۔

صاحب قواعد الفقہ "غرر" کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں نہایا کون مجہول العاقبة لا یدری ان یکون ام لا (قواعد الفقہ ۳۹۹) یعنی جس کا نتیجہ نامعلوم ہو آیا مرتب ہو گا یا نہیں، مندرجہ بالا حدیث جسے پہلے قبل القبض کے عدم جواز کی علت بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس سے استدلال اس وقت ہو گا جبکہ "غرر" بمعنی خطر ہو، لیکن اگر "غرر" غرر سے مشتق نہیں، یا "غرر فی صلب العقد" پر محول کریں تو استدلال صحیح نہ ہو گا، علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: الغرر هو الخطر الذي استوى فيه الطرف والوجود والعدم بمنزلة الشك، وأما الحديث فيحمل أن يكون الغرر هو الخطر ويتحمل أن يكون من الغرور فلا يكون حجة أو نحمله على الغرر في صلب العقد بالتعلق بشرط أو بالإضافة إلى وقت (بائع الصالح ۱۶۳/۵)۔

عند الفتاویٰ "غرر" کی دو تسمیں ہیں: غرر یسر، غرر کثیر، غرر یسر کی فقہاء کے یہاں گنجائش ہے، اس سے پھر کے جواز میں خلل واقع نہیں ہوتا، جیسا کہ "كتاب الفقہ" میں موجود ہے:

ويختصر الغرر اليسر للضرورة و كما جائز لها بمشاهدة مع احتمال نقصان الشهر و زياذتها بخلاف ما إذا كان الغرر كثيراً كبيع الطبر في الهواء (كتاب الفقہ على المذاهب الاربعة ۲۳۳)۔

ضرورت غرر قبیل کی گنجائش ہے، جیسے مہینوں کی ایام کے اعتبار سے کمی و بیشی کے باوجود اجارہ کا صحیح ہوتا،

البت غر كثیر کی گنجائش نہیں، جیسے فضایل چیزوں کی بحث وغیرہ۔

ایک مقام پر علامہ ابن القیم جوزی کا قول مفتی ظفر احمد صاحب تھانوی نقل فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ہر "غرض" تحریم کا باعث نہیں ہوتا، اگر "غرض" بسیر ہو تو مصلحتِ manus اس کے جواز کا قول کرنا چاہئے۔ اور اسے مانع صحیت عقد قرار نہیں دینا چاہئے: ولو قدر ان فی ذلک غررا فھو غرر بسیر یغتفر فی جنب المصلحة العامة الشی لابد للناس منها فليس کل غرر سبی للتحريم والغرر إذا كان بسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعاً من صحة العقد (اعلام، السنن ۱۲۲/۱۳)۔

جب بیع کے عدم جواز کی وجہ غر کثیر کا وجود ہے تو ان صورتوں میں بیع بدون کسی زبانگی کے صحیح ہو جائے گی، جہاں غر کلیہ مفقوہ ہو، جیسے غیر منقول کہ اس میں غر کا شایبہ تک نہیں، اور اگر غر ہے بھی تو یہ غر نادر ہے اور نادر کا اعتبار نہیں، واحتجج أبو حنيفة بان الحكم معلل بغرض انفاسخ العقد بهلاک المبيع والهلاک في غير المتفق عليه نادر والنادر كالمعدوم (اعلام، السنن ۱۲۵/۱۳)۔

۵۔ علامہ ابن رشد قرطجی مجمع کی انواع اور انہ کے نہادہ بیان کرنے کے بعد قبضہ کی شرطوں کا سات اقوال میں احاطہ فرماتے ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں: فی تحمل فی اشتراط القبض سبعۃ اقوال: الاول فی الطعام الربوی فقط، والثانی فی الطعام باطلاق، والثالث فی الطعام المکیل والموزون، الرابع فی كل شی یتنقل، الخامس فی كل شی، السادس فی المکیل والموزون، السابع فی المکیل والموزون والمعدوم (بدایہ الحجۃ ۱۲۵/۲)۔

مندرجہ بالا اقوال میں سے صرف پانچوں قول جس میں بیع کی صحیت کیلئے ہر طرح کی بیع پر قبضہ شرط ہے جس کے قائل حضرت امام شافعی اور سفیان ثوری ہیں، عام ہے، بقیے سارے اقوال میں کسی نہ کسی درجہ کی تخصیص ہے۔ بہر کیف جمہور انہ کے نزدیک بیع قبل القبض کی ممانعت خاص ہے، مند احمد کی ایک روایت سے ہے حضرت عبد اللہ بن عمر نے مرفوعاً نقل کیا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ من اشترى طعاماً اشتراه بکبل او وزن فلا يسعه حتى تقبضه، ووسرى مردیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مگر الفاظ مختلف ہیں، نسائی کی روایت میں "حتى يستوفيه" اور دارقطنی میں "حتى يجري فيه الصاعان" ہے، ظاہر ہے "استيفاء" اور "يجری الصاعان" کا تعلق مکیل اور موزون سے ہی ہے۔

ابن رشد قرطجی لکھتے ہیں: والما استیفاء ابو حنیفة ما یحول وینقل عنده مما لا ینقل (بدایہ الحجۃ ۱۲۵/۲)۔

فالحاصل حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف نے نصوص کو خاص کیا ہے منقول کے ماتحت، نیز یہ ممانعت معلول بالعلة ہے، اور امام شافعی نے ان نصوص کو عدم جواز میں عموم پر محظوظ کیا ہے، بشرطیکہ وہ بیع متجزہ ہو، حضرت امام محمدؓ کے نزدیک بھی نبھی سے عمومی نہیں ہے، حضرت مولانا مفتی ظفر احمد صاحب تھانوی تحریر فرماتے ہیں: إلا

ان ابا حنيفة وابا يوسف خصا النصوص بالمنقول بعلة البهی و هو غرر انفاس العقد بالبهلاک قبل القبض، ومحمد اجر اها على عمومها ، والشافعی خصها بما لم يكن متسبباً، وهو اختلاف الاجتہاد (اعلام السنن ۲۲۳/۱۲) حضرت امام احمد بن حبیل کا مسلک بھی تخصیص ہی کا ہے: و نقل عن احمد ان المطعم لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مكيناً أو موزوناً أو لم يكن (مغنى لابن قدامة ۱۱۵/۲).

ذکر کردہ عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکین اور موزون میں بیع قبل القبض صحیح نہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت بعض فقہاء اس طرح کرتے ہیں: وقال القاضی واصحابه المراد بالمکیل والموزون والمعدود ما ليس بمتعن کالقفیز من صبرة والرطل من زبدۃ فاما المتعین فيدخل فی ضمان المشتری كالصبرة بیبعها من غير تسمیة (مغنى لابن قدامة ۱۱۵/۳) قاضی اور ان کے اصحاب نے فرمایا ہے کہ مکین، موزون اور معدود سے مراد جو متعن نہ ہو، جیسے غلڈ کی بوریوں سے ایک بوری اور سکے سے ایک رطل، پس بہر حال جو متعن ہو گا وہ مشتری کے نہان میں داخل ہو گا، جیسے صبرہ کو بغیر تسمیہ کے کوئی نہیں۔

بیع قبل القبض کی تخصیص کا پتہ ظاہر روایت سے بھی چلتا ہے، علام ابن قدامہ لکھتے ہیں: ظاهر المذهب أن المکیل والموزون لا يدخل فی ضمان المشتری إلا بقبضه (مغنى ۲/۱۱۵) اس سلسلہ میں عبدالحسن الجزری کی بھی تحریر ملاحظہ فرمائیں: أما بیع الأعیان غير المنقولۃ قبل قبضها کبیع الأرض والضیاع والتخيیل والدور و نحو ذلك من الأشیاء الثابتة التي لا يخشی هلاکها فإنه یصح (كتاب الفقه على المذاہب الاربعة ۲۳۲/۲).

۶۔ صورت مسؤولہ میں اگر درج ذیل صابطے مخوذ ہوں تو مسئلہ کی وضاحت میں قدرے رہنمائی مل سکتی ہے، علام ابن قدامہ تحریر فرماتے ہیں: وكل عوض ملك بعقد ينفع بهلاکه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه... وما لا ينفع العقد بهلاکه جاز التصرف فيه قبل قبضه (مغنى لابن قدامة ۲/۲۲۱) و قال ابو حنیفة کل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاکه فلا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع والإجارة إلا العقار (محلی لابن حزم ۵۰۸/۲) حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ معاملہ جس میں انسان عقد کے ساتھ مالک ہو اگر وہ معاملہ ہلاکت سے ختم ہو گیا تو اس کی بیع و شراء قبل القبض جائز نہیں ہے۔

علامہ کاسانی کی رائے اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو: والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفع فيه العقد بهلاکه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه كالبيع والإجارة إذا كان منقولاً علينا وكل عوض ملك بعقد لا ينفع العقد فيه بهلاکه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه كالمهر وبدل الخلع (بدائع الصنائع ۱۸۱/۵).

اگر ان صابطوں کو سوال (۲) کے ساتھ مسلک کر دیا جائے تو یہ بات صحیح میں آتی ہے کہ بیع کی ہلاکت سے خریدار (۱) کا معاملہ باائع سے یا فیکٹری سے ختم نہیں ہوتا ہے، اسلئے خریدار (۱) کا تصرف بھی صحیح ہونا چاہئے۔

سب سے اہلی بات تو یہ ہے کہ صورتِ مسئول میں بعْض قبل القبض کا ثبوت بھی ہوا کہ نہیں، میری فہم تا قص میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب قبضہ کی بہت ساری فرمیں ہیں تو قبضہ حکمی مان کر جواز کا قول کر دینا چاہئے، کیونکہ جب مشتری، یا اسکے وکیل نے معاملہ میں بعْض کر لیا تو کم از کم قبضہ حکمی اشارہ اور تیز ضرور ہو گا، نیز یہ صورت تو "ریح مالم یضم" میں بھی داخل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مشتری اول تو نفع و نقصان دونوں کا صامنہ ہو رہا ہے، اور مشتری ٹانی کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، پھر علت نہیں تو "غزر" ہے اور یہاں سرے سے غرہی نہیں، کیونکہ نت نے تاپ قول کے آلات ایسے ایجاد ہو گئے ہیں کہ ان پر غرہ کا شائہ تک نہیں ہے، خصوصاً اس زمانہ میں جب کہ ساری دنیا میں اکثریت کے ساتھ وزن ہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور جدید ترین وزن کے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن میں ذرہ برابر قلت و زیادت کا شائہ نہیں، اسلئے جب بیچ ایک بار قول لی گئی تو پھر تانیا وزن کی ضرورت نہیں، علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: *ولو کاله البائع أو وزنه بحضور المشترى كان ذلك كافيا ولا يحتاج الى إعادة الكيل لأن المقصود بكتله مرة واحدة بحضور المشترى ( صالح بدائع ۲۳۵/۵).*

نیز اگر بیچ پر حقیقت قبضہ کی شرط لگائی جائے تو یہ مشتری پر ایک طرح کا جرم ہو گا، کیونکہ اس طرح کے آلات اول تو ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتے، اور اگر دستیاب ہوں بھی تو بیچ کے انتقال پر کتنا صرف اور غیر ضروری خرچ ہو گا جسے بجز زیر باری کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا "لا ضرر ولا ضرار، الحرج مدفوع" کے تحت اس معاملہ کو جائز قرار دینا چاہئے۔

بہر حال نص کا خشاء اور متحضری تو صرف یہ تھا کہ غرہ سے بچا جائے چنانچہ صورتِ مسئول کے جواز میں "غزر" تو کجا شائہ "غزر" بھی نہیں، اور اگر "غزر" سے مراد "غزر فی صلب العقد بالتعليق بشرط او بالاضافة الى وقت" لیا جائے تو اس معاملہ کی صحت اور بے غبار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، ساتھ ہی بعْض قبل القبض کے جواز میں دو تابعی کی بھی روایتیں موجود ہیں، کیا ان روایتوں کی موجودگی میں حکم کی شدت پر اثر نہیں پڑ سکتا؟ (۱) عن سعید بن المسيب أنه كان لا يرى بأس أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن يبعده قبل أن يقبضه (۲) ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن ابن سيرين قال لا بأس بإن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن ب النقد ثم يبعده قبل أن يقبضه وهو قول الحكم وإبراهيم وحماد بن أبي سليمان وذكره الشعبي عن لقى وقال عطاء جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض (مخلى لابن حزم ۵۲۰/۸)۔

واضح ہو کر میں نے تابعی سے دونوں روایتوں کو ذکر کر کے اسے مخالف پر جھٹ شرعیہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ محسن یہ ثابت کرتا ہے کہ ان دونوں حلیل القدر تابعی کا بھی یہی قول ہے، مذکورہ بالاعبار توں سے اگر اس مسئلہ میں توسع پیدا کر دیا جائے تو میری فہم تا قص میں کوئی حرج نہ ہو گا، نیز ائمہ کا اختلاف خود اس کا موضع ہے کہ اس کے حکم میں تخفیف ہوئی چاہئے، ابن قدامہ حلیل کی اس عبارت: "فاما المعین فيدخل في ضمان المشترى" سے بھی

بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی بیع اور اس کا تصرف صحیح ہوگا، کیونکہ جس میع میں تصرف کی جا رہی ہے وہ میع معلوم و متعین ہے نہ کہ میع مجهول۔

علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: فَكَانَتِ التَّخْلِيَةُ فِيهَا قِبْضًا تَامًا فَيُكْتَفِي بِهَا لِمَى جُوازُ التَّصْرِيفِ فِي الْذَرْعِ بِخَلْفِ الْمَكْيَلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ عَلَىٰ مَا بَيْنَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِالتَّخْلِيَةِ نَفْسَهَا لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِأَصْلِهِ وَالْخَرُوجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ الْقَبْضِ لَا بِوَصْفِ الْكَمَالِ (بدائع الصنائع ۲۲۵/۵).

تجیلہ قبضہ تام کے مراد ہے اور اس میں تصرف ہو سکتا ہے ذرع سے پہلے پہلے، بخلاف مکیلات و موزوںات کے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، مگر یہ کہ وہ میع باع کے ضمان سے کل جاتی ہے نفس تجیلہ ہی سے قبضہ کے پائے جانے کی وجہ سے، اور باع کے ضمان سے میع کا خارج ہو جانا اصل قبضہ پر منحصر ہے نہ کہ قبضہ کاملہ پر۔ اور اگر بیع میں بالدین ہو تو قبضہ کی شرط بھی نہیں ہے، جیسا کہ صاحب بدائع لکھتے ہیں: وَمِنْهَا مَا لَا يَشْرُطُ فِيهِ الْقَبْضُ أَصْلًا كَبِيعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ مَمَّا سُوِيَ الْذَهَبُ وَالْفَضَّةُ وَبَيعُ الْعَيْنِ بِالْدِينِ مَمَّا لَا يَتَضَمَّنُ رِبَا النِّسَاء كَبِيعُ الْحَنْطَةِ بِالدِّرَاهِمِ (بدائع الصنائع ۲۳۷/۵).

چنانچہ صورت مسؤول میں بیع میں بالدین ہی تو ہے، اسلئے قبضہ کی شرط نہیں لگے گی، اگر علامہ ابن رشد قرطسی کی وہ تفصیلی بحث جو غررو یورع غرر سے متعلق ہے گوش گذار کر لیا جائے تو اس سے صورت مسؤول کا شافی جواب دیا سکتا ہے۔

علامہ مذکور تحریر فرماتے ہیں: الْغَرْرُ يَوْجَدُ الْمَعِيَّاتُ مِنْ جِهَةِ الْجَهَلِ عَلَىٰ أُوْجَهٖ (۱) وَمِنْ جِهَةِ الْجَهَلِ بِتَعْيِينِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (۲) جِهَالَةُ تَعْيِينِ الْعَقْدِ (۳) أَوْ مِنْ جِهَةِ الْجَهَلِ بِوَصْفِ الشَّمْنِ وَالْمَثْمُونِ الْمَبِيعِ (۴) أَوْ جِهَالَةُ قَدْرِهِ أَوْ أَجْلِهِ إِنْ كَانَ هَالِكَ أَجْلٌ (۵) مِنْ جِهَةِ الْجَهَلِ بِوَجْهِهِ أَوْ نَعْدَرِ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ (۶) مِنْ جِهَةِ الْجَهَلِ بِسَلَامَتِهِ (بدایۃ الجہد ۱۳۸/۲).

(۱) معقود عليه کی تعین میں جہالت (۲) تعین عقد کی جہالت (۳) شمن و مثمن کے وصف کی جہالت (۴) قدر اور مدت کی جہالت (۵) میع کے وہود اور قدرت علی التسلیم کی جہالت (۶) میع کی سلامتی اور اس کے بقای کی جہالت۔

اب سوال یہ ہے کہ صورت مسؤول میں نہ تو اسیاب غرر سے ہی کوئی سبب پایا جاتا ہے، اور نہ وہ بیع یورع غرر سے ہی شمار کی جاتی ہے، جن میں علت مذکور یا غیر مذکور ہو، اسلئے ضمان کو قبضہ حسی مان کر جائز قرار دیدیں چاہئے، نیز اس کے جواز میں اصول فقہ کے قاعدة مشہورہ کو بھی مستدل بنایا جاسکتا ہے۔ الاصل عندنا ان جواز البيع يتبع الضمان فکل ما كان مضمونا بالخلاف جاز بيعه وما لا يضمن ياتلاف لا يجوز بيعه (قواعد الفقه) ۲۸) چونکہ میع کی بلاکت کی صورت میں بالع ضامن ہے اسلئے اس کا فروخت کرنا صحیح ہوگا۔


۔ اگر قبضہ حقیقی یا حکمی پائے جانے کے بعد شینگ کیا گیا ہے تو اس صورت میں ہلاکت سے باعث اول ضامن نہیں ہوگا، علامہ کاسانی تحریر فرماتے ہیں: إلا أنه يخرج من ضمان البائع بالتخلية نفسها لوجود القبض بأصله والخروج عن ضمان البائع يتعلق بأصل القبض لا بوصف الكمال (بدائع الصنائع ۲۲۵/۵) اس کے جواز کی دوسری دلیل فتنہ کا قاعدة مشہور ہے: الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد الأمرين إما بأحد أو بشرط يعني بشرط قبول العقد (قواعد الفقه ۱۵/۱)۔

ظاہر ہے اس صورت میں دونوں (أخذ یا قبول عقد) میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، اسلئے مبیع باعث کے ضامن سے نکل کر مشتری کے ضامن میں داخل ہو جائے گی اور یہ معاملہ درست ہوگا، لیکن اگر قبضہ کفریہ مفقود ہے تو یہ بیع درج ذیل اصل کی بنیاد پر ملکیت نہ پائے جانے کی وجہ سے باطل ہوگی: أما إذا باع الطير في الهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل أصلاً لعدم الملك (كتاب الفقه على المذاهب الاربع ۲۳۳/۲) چنانچہ جب مشتری اول (جو من وجہ باعث اور مشتری دونوں ہے) کی بیع باطل ہوگی تو مشتری ثانی کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے، بناءً فاسد على الفاسد فاسد ہے نہ کہ بناءً فاسد على الفاسد صحیح، نیز یہ صورت توانہناف کے اس قاعدة مسلمہ سے بھی متفاہم ہے جس میں تصرف کی شرط بوقت ہلاکت ضامن قرار دیا گیا ہے۔

”إذا فات الشرط فات المشرط“ کے تحت جب یہاں ضامن نہیں تو پھر تصرف بھی نہیں، الأصل عندنا أن جواز البيع يتعين الضمان فكل ما كان مضمونا بالاتفاق جاز بيعه وما لا يضمن بالاتفاق لا يجوز بيعه (قواعد الفقه ۳۸/۳)۔

نیز اس میں غر کشیر بھی ہے ”والغُرُّ الْكَثِيرُ لَا يغْفَرُ“، اور غر کے اعتبار کرنے اور نہ کرنے کی بابت مفصلًا جواب (۲) کے ذیل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ سرخی یوں تحریر فرماتے ہیں: وفي المنقول قبل القبض في الملك غرر لأن بهلاکہ ینتقض البيع ويعطل ملك المشترى فإذا قبضه انتفى هذا الغرر (مبسوط للمرخصي ۹/۱۳)۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا سلطان احمد اصلاحی

۱۔ فقہ اسلامی میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں تقسیم ہے، حضرات حنفیہ کے بیہاں ہر دو چیزیں جسے ایک جگہ سے ہٹایا اور منتقل کیا جاسکتا ہو، کسی خرید نے والے کیلئے ایسی چیز کا بینچنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کے قبضہ میں نہ آجائے، حدیث میں اس کی ممانعت کے علاوہ اس کی دوسری وجہ اس کے ہلاک یا ضائع ہو جانے پر اس عقد کے ختم ہونے کا دھوکہ ہے، و من اشتري شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه لأنه نهى عن بيع ما لم يقبض ولا ن في غرر انفاسخ العقد على اعتبار الها لاك (بدایہ ۳/۵۸)، البته مکان اور دکان جیسی غیر منقولہ چیزوں (عقار) کی بیع قبضہ سے پہلے حضرات شیخین امام ابوحنیف اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، امام محمد کے نزدیک البہت یہ بھی جائز نہیں ہے (حوالہ سابق)، دیگر فقہاء کے مالک کی تفصیل میں حضرات مالکیہ کے بیہاں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کی قبضہ سے پہلے بیع جائز ہے، اس میں ان کے بیہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

واما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته (بدایہ الجہد ۱۲۲/۲) کھانے پینے کی چیزوں کی ممانعت میں ان حضرات کی بنائے استدلال آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ: جو کوئی کھانے پینے کی چیز خریدے تو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اس پر اس کا قبضہ نہ ہو جائے: من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يقبضه (حوالہ سابق)، البہت حضرت امام شافعی کے نزدیک کسی فرق کے بغیر جو چیز بھی بیچی جائے اس سے پہلے قبضہ اس کیلئے شرط ہے، یہی رائے امام ثوری کی ہے، حضرات صحابہ میں اس کی روایت حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس سے بھی کی گئی ہے، ہاں ابو عبید اور اسحاق کا یہ ضرور کہنا ہے کہ تمام وہ چیزوں جنہیں ناپ کر کے یا تول کر کے نہ بیچا جاتا ہو تو قبضہ ہونے سے پہلے ان کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے (حوالہ مذکور) قبضہ سے پہلے بیع کی ممانعت کے سلسلہ میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: لا يحل بيع و سلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (بدایہ الجہد ۱۲۵/۲)، حضرت حکیم بن حرام کی روایت میں آپ ﷺ کا ارشاد یہاں اخیری إذا اشتريت بيعا فلاتبعه حتى تقبضه (حوالہ سابق)، اوپر حضرات شیخین کی مکان اور دوکان وغیرہ کے سلسلہ میں جو اس سے بہت کر رائے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ احادیث مطلق نہیں، بلکہ معلوم بالعلة ہیں، یعنی کہ سامان کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں عقد کے شیخ ہو جانے کا دھوکہ، لیکن چونکہ اشیاء

غیر منقول میں اس کا امکان نادر ہے اس نے ان حضرات کے بیہاں اس کا احتمال نہیں کیا گیا ہے (بدایہ ۱۵۸/۲)۔ دوسری توجیہ کے مطابق دریں صورت حضرت امام اعظم کے نزدیک مکان و دوکان کا خالی ہو جانا، ہی قبضہ کے قائم مقام ہے، لأن ما لا ينقل القبض عنده فيه التخلية (بدایہ الجہد ۱۳۵/۲)۔

(مسئلہ کی اس تفصیل سے جبکہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا مطلق عدم جواز ہی محل نظر ہو، اس کے باطل، فاسد یا مکروہ ہونے کی بحث کوئی خاص معنویت نہیں رکھتی، تاہم مأخذ میں اس کو فاسد اور باطل دونوں (نسل الا وطار ۳/۶، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۸۰) نیز مکروہ (المغنى لابن قدامة ۳/۲۲۳، ۲۲۴، محوہ بالا) اسی طرح اس کے دوسرے نظائر کو بھی فاسد اور باطل کہا گیا ہے (نسل الا وطار ۳/۷، ۳۲۳، بدایہ ۳/۳۲۸، ۳۲۹، المغنى ۳/۲۵۰) بنابریں بالخصوص حضرات حنفی کے مطابق اشیاء غیر منقولہ کی قبل اقبضہ بیع میں معاملہ کی نوعیت اور اس کی خفت اور غلطت کے پہلو سے اس میں باطل، فاسد اور بیع مکروہ تینوں کے ادکام وارد کئے جاسکتے ہیں)۔

۲۔ اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ چیز خریدنے والے کی تحويل میں اس طرح آجائے کہ کسی اور سے معاملہ کرنے کی صورت میں اس کو حوالہ کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، لیکن مسئلہ کی تمام تفصیلات اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس قبضہ کا یہ مطلب نہیں کہ چیز لازماً آدمی کے ہاتھ اور اس کے دکان میں آجائے، عرف کا اس میں دخل ہونا چاہئے، اور جس درجہ کے استحلاء اور عمل دخل کو عرف میں قبضہ تصور کیا جائے شریعت اسلامی کی رو سے بھی اسے ہی جائز قبضہ تصور کیا جائے گا۔

۳۔ اشیاء منقولہ و غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں فرق ہے جس کی تفصیل جواب (۱) میں آچکی ہے۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں، اور علت نہیں یہی ہے کہ چیز کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں عقد کا بیع کرنا لازم آئے گا جس سے اس میں دھوکہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، جواب (۱) میں اس کی تفصیل بھی آچکی ہے۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام نہیں بلکہ اس میں استثناءات اور تحریکات ہیں، اس کی تفصیل بھی جواب نمبر (۱) میں کی جا چکی ہے۔


۶۔ فیکٹری سے مال خریدنے والے خریدار نمبر (۱) کی ضمانت کو قبضہ حسی کے قائم مقام مان کر اس کیلئے خریدار نمبر (۲) کے لئے اس مال کا فروخت کرتا جائز ہو گا، ضمانت کو نظر انداز کر کے صرف قبضہ حسی پر اصرار کرنا درست نہ ہو گا۔

۷۔ جہاز پر مال چڑھ جانے کے بعد اصل بائع کا ذمہ فارغ ہو جانے سے جو مشتری اس مال کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کیلئے حسی قبضہ کے بجائے اسی ضمانت کی بنیاد پر اس مال کا تیرے شخص کیلئے بیچتا جائز ہو گا، جو کہ اس سودے کے بعد اس کا ضمانت تیرے خریدار کا ہو جائے اور بیع کے دوسرے خریدار کا کوئی ضمانت باقی نہ رہے، دراصل اس مسئلہ کی تجویزی اسی مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔

آج کی میں الاقوای تجارت میں اشیاء غیر منقولہ میں بیع کی صحت کیلئے اگر ہر حال میں قبضہ حسی کو شرط قرار

دیا جائے تو یہ چیز عام الناس کیلئے زحمت اور تنگی کا باعث ہو گی، آج کے بڑھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کی قوت سے اپنے کا رندوں کے ذریعہ سفر کی کسی بھی منزل میں مال کی نوعیت اور کیفیت کا اطمینان کر لینا دشوار نہیں، جہاں تک نقصان اور دھوکے کا سوال ہے وہ سامنے کی تھوک خریداری کی صورت میں بھی اسی طرح برابر بناتا ہے، ایک ہزار کو تسلی گیہوں ر چاول کا سودا کرنے والا کاروباری اس کی ہر بوری اور اس کے ایک ایک دانے کو پر کھنے کا اطمینان نہیں کر سکتا، جس درجہ کا اطمینان آدمی سامنے کی اس طرح کی تھوک خریداری میں کرتا ہے، اس سے کم اطمینان وہ اپنے معتیر پیشہ ور کارندوں کے ذریعہ شینپنگ کے سامان کا نہیں کرتا، اس کے باوجود ہر حال میں یہ اصرار کہ سامان اتر کر پہلے خریدار کے گودام میں آجائے، اس کے بعد ہی اس کیلئے دوسرے خریدار سے اس کا سودا کرنا ممکن ہو سکے بوجوہ دشواری اور نقصان کا موجب ہے، اس میں خواہ خواہ کی مشقت کا مالی خسارہ اور کام کا پھیلاو ہو گا، اسلامی شریعت جو مصلحتوں کی محافظہ اور نقصان اور ضرر کے سخت خلاف ہے، بدلتے حالات میں ان نصوص میں اس کا رویہ سخت گیر اور بالکل بے لپک نہیں ہو سکتا۔  
پس غیر ضروری توسع سے بچتے ہوئے جدید شینپنگ کی اس طرح کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہو گی۔

والله أعلم بالصواب



## قبضہ سے پہلے بیع و شراء کا شرعی حکم

مولانا عبدالقیوم پالنپوری

۱۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابویوسفؓ کے نزدیک مشتری کا قبل القبض بیع منقول کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بیع قاسد ہے، اور بیع غیر منقول کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، قال أبو حنیفہ و أبو یوسفؓ یمتع الیع قبل القبض فی سائر المنقولات ویجوز فی العقار الذی لا یخشی هلاکہ کما فی (فتح القدیر ۳۵۱/۱، تکملة فتح الہم ۲۶۶/۵) صح بیع عقار لا یخشی هلاکہ قبل قبضہ ... لعدم الغرر لشدة هلاک العقار ... بخلاف بیعه (المنقول) قبله فإنه باطل مطلقاً قلت فی المواهب وفسد بیع المنقول قبل قبضه انتہی، و نفی الصحة بحتملهما "الدر المختار" (قوله نفی الصحة) ای الواقع فی المتن بحتملهما ای بحتمل البطلان و الفساد، والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود رکنی البيع، و كثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد، أفاده ط (رداختار مع الدر ۲۲۵/۲-۲۲۶/۲)۔

۲۔ قبضہ و طرح کا ہوتا ہے ایک حصی اور دوسرا حکمی، اشیاء منقولہ و غیر منقولہ میں حصی قبضہ ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ حکمی قبضہ بھی کافی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ بیع کرنے کے بعد بیع کے سامنے، یا قریب ہونے کی حالت میں بالع مشتری کو کہدے کہ اس کو لو، پھر چاہے مشتری اس بیع کو اٹھائے، یا نہ اٹھائے (یا تصرف میں لائے، یا نہ لائے) حکمی قبضہ ہو جائے گا اور بیع مشتری کے شمان میں داخل ہو جائے گی، اشیاء منقولہ یا غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ درختار اور رداختار میں ہے۔

ہر چیز کے قبضہ کا طریقہ عرف سے متعین ہوتا ہے، یعنی عرف میں جس کو قبضہ تصور کیا جائے گا وہی شرعاً قبضہ مانا جائے گا بشرطیکہ بیع مقدر اسلامیم ہو اور دورنہ ہو، حضرت مولانا فتح محمد صاحب تائب لکھنؤی لکھتے ہیں: "پھر اس امر میں کہ قبضہ معتبر کس طور کا ہے، فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، جن سب کا مرجع عرف پر ہے اور ہے بھی یہی بات کہ قبضہ کوئی شرعی ایجاد نہیں، جسے لوگ قبضہ سمجھتے آئے وہی شرع میں بھی قبضہ سمجھا گیا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں اعتبار قبضہ کو وسعت دینے کی سخت ضرورت ہے، مثلاً چکڑے والوں سے بھرے آتے ہیں اور کھڑے کھڑے کئی بار پک کر آخر کا رمال اتارا جاتا ہے، تو ہر بار کسی قسم کی نقل و حرکت میں غالباً مصارف اصل کے قریب، یا زیادہ بڑھ جائیں گے، پس

ضروری ہے (۱) بُلٹی (۲) قول قبضہ، سمجھ لیا جائے، مثلاً مال کی بُلٹی پر دستخط کر کے جوالے کر دے، یا نیچ کر کر کہد یا کہم لے لو، یہ قبضہ ہے، کیونکہ عرف موجودہ میں یہ تمام امور قبضہ جائز متصور ہوتے ہیں، اور ان سے مشتری کو باقاعدہ تصرف کا اختیار ہو جاتا ہے، (عطر البدایہ ۲۸)۔

اور حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ لکھتے ہیں "ہر چیز کے قبضہ کا طریقہ عرف سے معین ہوتا ہے" (اسلام اور حدید معاشرت و تجارت ۹۲)۔

۲۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں، اور اس بیع کی ممانعت کا مدارد و علوں پر ہے، ایک یہ ہے کہ قبضے سے پہلے میمع مقدور لتسنیم نہیں ہوتی، لہذا یہ بات لینچنی نہیں کہ وہ مشتری کو ضرور قبض کر دے گا، یہ غرر ہے جس کی وجہ سے جائز نہیں، اور دوسری علت ممانعت یہ ہے کہ قبضے سے پہلے میمع باائع کے ہمان میں نہیں آتی، اور "ریح مالم یضم من" جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مدظلہ تحریر فرماتے ہیں: قبضے سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کا مدارد و وجوہ پر ہے (۱) قبضے سے پہلے میمع مقدور لتسنیم نہیں ہوتی۔

لہذا یہ بات لینچنی نہیں کہ وہ مشتری کو ضرور قبض کر دے گا، یہ غرر ہے جس کی بناء پر جائز نہیں، بیع کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں یہ غرر کی وجہ نہیں پائی جاتی، باوجود اس کے میمع حاصل میغوش نہیں لیکن حکما وہ مشتری کے تصرف میں آجائی ہے، لہذا ایسی صورتوں میں قبضے سے پہلے خرید و فروخت نہیں پائی جائے گی۔

(۲) قبضے سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے میمع باائع کے ہمان میں نہیں آتی اور "ریح مالم یضم من" جائز نہیں (اسلام اور حدید معاشرت و تجارت ۹۱)۔

اور حضور ﷺ کی احادیث: "لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبِعْ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمِنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" (آخر جه الترمذی) اور إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْبَيْعِ الْحَصَّةِ وَعَنِ الْبَيْعِ الْغَرْرِ (رواہ الجماعة إلا البخاری (إجماع أئمّة السنّة ۱۱۶/۱۲)۔

دلالت کرتی ہیں کہ قبل القبض بیع کی نہیں علت یہ ہے کہ یہ غرر، یا "ریح مالم یضم من" کو تلزم ہے، و اسما العلة المتصوقة في ذلك ما روينا في حديث عبد الله بن عمرو وهو أن البيع قبل القبض يتضمن ربح مالم يضمن (تکملۃ فتح الہم ۳۵۳/۱۲)۔

وقال ابن الہمام "والحدیث معلول به أی بغير الانفساخ ، والدلیل عليه ان التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في البيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه (فتح الہم ۲۶۵/۲۶ عن تکملۃ فتح الہم ۳۵۳/۱۲)۔

۵۔ (۱) امام احمدی اظہر روایت یہ ہے کہ نہی صرف طعام کے ساتھ خاص ہے، لہذا اطعام کی قبضے سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ جائز ہے، (۲) اور امام مالک فرماتے ہیں کہ صرف طعام میں سے مکملات و

موزوںات میں قبل القبض ناجائز ہے، مالکیہ میں سے حجوان وابن حبیب فرماتے ہیں کہ ہر مکملی و موزوںی اور عددی میں ناجائز ہے، پھر کیا وہ طعام کے ساتھ خاص ہے ان کے یہاں یا ربوبیات کے ساتھ؟ تو اس میں دو قول ہیں جن کو اپنے بیان کیا ہے (تکملہ ارجمند ۳۵۰-۳۵۱)۔

ان حضرات نے حضور ﷺ کے ارشاد "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفي" (رواه مسلم) سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ممانعت طعام ہی پختھر ہے، اس لئے کہ حضور ﷺ نے اس میں طعام کی صراحت کی ہے (تکملہ ارجمند ۳۵۱)۔

(۳) امام شافعی اور امام محمدؓ کے نزدیک ہر چیز کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت۔ (خواہ وہ طعام ہو، یا غیر طعام، منقول ہو، یا غیر منقول) حرام ہے اور یہی امام احمدؓ کی ایک روایت ہے۔

ان حضرات نے حضور ﷺ کی حدیث "فَإِن رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى" نہیں کہ تباع السلع حيث تباع، حتی يحوزها التجار إلى رحالهم" (رواه ابو داؤد) اور حکیم ابن حزام کے جواب میں منقول حضور ﷺ کا ارشاد "يَا أَيُّهُ الْبَشَرُونَ لَا تَبْيَعُنْ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ" وفی روایة أبیان : إِذَا اشْتَرَيْتَ بِبَعْدِ فَلَمْ يَكُنْ تَبَاعَ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه البیهقی، وابن حبان و احمد فی مسندہ) سے استدلال کیا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں حکم، طعام اور منقول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں حکم عام ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمر و کی حدیث لا یحل سلف و بیع و لا شرطان فی بیع و لا ربح مالم یضمون و لا بیع مالم یضمون سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضور ﷺ نے اس میں "ربح مالم یضمون" سے منع کیا ہے اور قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اس کو مضمون ہے، اور یہ علت طعام اور غیر طعام کو عام ہے (تکملہ ارجمند ۳۵۲)۔

(۴) امام ابو حیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ تمام منقولات میں قبل القبض بیع ناجائز ہے، اور اس عقار میں جس میں ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے جائز ہے کما فی (فتح القدر ۵/۲۶۶)

شیخین انہی تین احادیث سے استدلال کرتے ہیں (جن سے امام شافعی اور امام محمدؓ استدلال کرتے ہیں) لیکن عقار و غیر منقول کو عموم نبی سے مشتمل قرار دیتے ہیں، اسلئے کہ نبی کی علت اس میں مشتمل ہے، اسلئے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر و کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ قبل القبض بیع کی بیع سے نبی میں علت یہ ہے کہ یہ بیع "ربح مالم یضمون" کو مسئلکزم ہے، اور انسان صرف اس چیز کا ضامن ہوتا ہے جس میں ہلاکت کا خوف ہو اور عقار میں اس کا خوف نہیں ہے مگر نادر حقی، کہ اگر اس میں ہلاک ہونے کا خوف ہو تو قبل القبض بیع جائز نہیں، جیسے سند رکے کنارے پر جو عقار ہو اس میں قبل القبض بیع جائز نہیں، جیسا کہ فتح القدر میں ہے: (تکملہ فتح الہیم ۵/۳۵۲-۳۵۳ للشيخ محمد تقی عثمانی مدظلہ)

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے فون، یا فیکٹس کے ذریعہ مال خرید کر اپنے قبضہ میں لے بغیر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور مال برآہ راست فیکٹری سے مشتری ٹالی کے یہاں روائہ کر دیتا ہے، اس صورت میں اس

شخص کا دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینا قبل القبض جائز نہیں ہے (۱)، چاہے تجارتی اصول کے مطابق وہ مال اس شخص کے خواں میں سمجھا جاتا ہو، اسلئے کہ اس صورت میں قبضہ حسی اور حکمی، یعنی تخلیہ سے قبل بیچنا ہے، کیونکہ قبضہ حکمی کیلئے بھی بیع کا عاقدین سے اتنا قریب ہونا ضروری ہے کہ قبضہ حسی کا تحقیق ہو سکے، جیسا کہ علامہ شامی<sup>۱</sup> اور حنفی<sup>۲</sup> کی ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے، جو سوال (۳،۲) کے جواب میں تحریر کی جا چکی ہیں، فی البحر والخانیة ... لأن إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقى فى الحال ، فتقام التخلية مقام القبض ، أما إذا كان بعيداً لا يتصور فيه القبض فى الحال فلا تقام التخلية مقام القبض اه لأن المعتبر فيها القرب الذى يتصور معه حقيقة القبض كما علمته من كلام الخانية (رداختار ۵۹/۳-۶۰).

۷۔ یہ صورت بھی سوال نمبر (۲) میں مذکور صورت کی طرح ناجائز ہے، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مظلہ العالی نے اس جیسی صورتوں کے جواز کی وہ صورتیں تحریر فرمائی ہیں، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

(۱) جہاں مال خریدا ہے، وہاں کسی کو، یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے، اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے (۲) (جس شخص کے یہاں مال پہنچ رہا ہے اس کو وکیل بالقبض بنادے اور مال پہنچنے سے پہلے بیع نہ کرے، بلکہ وعدہ بیع کرے، بیع مال پہنچنے کے بعد کرے، اس صورت میں جانبین سے کوئی انکار کر دے تو صرف وعدہ خانی کا گناہ ہو گا، اگرچہ مشتری نے کسی خاص کمپنی کی تعیین نہ کی ہو، کمپنی کی تحویل میں آجائے کے بعد بیع جائز ہو گی۔

قال في الهندية : إذا قال المشتري للبائع أبعث إلى ابني واستاجر البائع رجلاً يحمله إلى ابني، فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استاجر من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشتري ، إن صدقه أنه استأجره ودفع إليه وإن أنكر استيجاره و الدفع إليه ، فالقول قوله كذا في التخاريخ (عامگیریہ ۱۹/۳، حسن الفتاوى ۵۲۶/۲)۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی بحث

مولانا ابوالحسن علی بھروس، گجرات

۱۔ بیع قبل القبض کے سلسلہ میں ائمہ کرام کا اختلاف:  
احناف کی رائے:

امام ابوحنیفہ کے نزدیک اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اور غیر منقولہ جائز داد وغیرہ کی بیع قبل القبض جائز ہے۔

شافعی کی رائے:

استقرار (قبضہ) سے پہلے بیع درست نہیں ہے، خواہ اشیاء منقولہ ہو یا غیر منقولہ، احناف میں سے امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے۔

مالكیہ:

صرف طعام کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کی بیع جائز ہے۔

حنابلہ:

مکملی اور موزوںی اور معدودی اشیاء کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں جائز ہے۔

حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی نے شرح مہذب کے حوالے سے اختلاف ائمہ کا تفصیلی ذکر کیا ہے (اعلاء

اسنن ۲۲۷، ۱۳۰۷ء)۔

شافعی کے نزدیک یہ باطل ہے جیسے کہ امام نوہی کی عبارت: "وقد ذکرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقاً" کے الفاظ سے ظاہر ہے "الفقہ على المذاهب الاربعة" میں بھی باطل ہی کا الفاظ ہے: فبادا اشتري شيئاً منقولاً كان أو غيره ولم يتسلمه ثم باعه وقع البيع باطلا (۲۳۲/۲)۔  
مگر احناف نے اس کو بیع فاسد میں شمار کیا ہے۔

۲۔ قبضہ کی حقیقت:

فقیہاء احناف کے نزدیک قبضہ کا مفہوم وسیع ہے، کیونکہ عند احناف قبضہ کا حاصل صرف تنخیل ہے، اور تنخیل کا حاصل یہ ہے کہ بیع اور مشتری کے درمیان باقمار حقیقت، یا باقمار عرف و عادات ایسا کوئی مانع اور حائل نہ ہو جو مشتری کو

عرفی قبضہ کرنے سے اور اس میں تصرف کرنے سے روک سکے، بلکہ بیع اس حال میں ہو کہ مشتری اگر اس میں تصرف کرنا چاہے تو آزادی کے ساتھ اس میں تصرف کر سکے اگرچہ بیع ابھی باائع کے پاس ہی موجود ہو۔

واما تفسیر التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبيع وبين المشتری برفع الحالی بينهما على وجه یتمكن المشتری من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتری قابضاً (بدائع ۲۲۲/۵).

اور دوسری جگہ لکھا ہے: لأن معنی القبض هو التمکین والتخلی وارتفاع الموضع عرفاً عادة حقيقة (بدائع ۱۳۸/۵).

ولهذا كانت التخلية تسليماً و قبضاً فيما لا مثل له (بدائع ۲۲۲/۵).

ایک شی بائع کے پاس ہونے کے باوجود اس پر مشتری کا قبضہ شمارکیا جا سکتا ہے جبکہ معاملہ ہو چکا ہوا رکھیلہ بھی ہو، بدائع میں ایک مسئلہ لکھا ہے: ولو اشتري من إنسان كرآ بعنه وقع غرائزه وأمره بان يكيل فيها ففعل صار قابضاً سواء كان المشترى حاضراً أو غائباً لأن المعقود عليه معين وقد ملکه المشترى بنفس العقد فصح أمر المشترى لأنه تناول عيناً هو ملکه فصح أمره وصار البائع وكيله و صارت يده يد المشترى و كذلك الطحن إذا طحنه البائع بأمر المشترى صار قابضاً (بدائع ۲۲۲/۵).

اور بحر الرائق میں ہے: و ذكر في الذخيرة إذا اشتري ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية فإنه لا يكون قابضاً إلا إذا ذهب المودع أو المستعير إلى العين وانتهى إلى مكان یتمكن من قبضها فيصير الآن قابضاً بالتخلية، (بحر الرائق ۸۷/۶، وكذا في روايتي روايتي رقم ۱۱۲/۳).

شافعی کے یہاں قبضہ کی تفسیر بیع کو اس کی جگہ سے منتقل کر کے اپنے مقام تک پہونچانے سے کی جاتی ہے: وقال الشافعی القبض في الدار والعقار والشجر بالتخلية واما في الدرارم والدنار فتناولها بالبراجم وفي الثياب بالنقل (بدائع ۱۳۸/۵).

حضرت مولانا ناظر احمد تھانوی فرماتے ہیں: قال الموفق في المغنى و قبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله وزنه وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة: التخلية في ذلك قبض، وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز لأنه خلى بيته وبين المبيع من غير حائل فكان قبضًا له (اعلاء السنن ۱۵۲/۱۲).

حاصل یہ ہے کہ کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص صورت تو متعین نہیں کیا ہے لیکن ایسے اصول و قواعد اور اس کی مثالیں ضرور بیان کر دیا ہے جن سے ہر زمانہ میں ہم اس کی تعین کر سکتے ہیں، اور اس کا زیادہ تر مدار عرف و عادت پر ہے، لیکن اس میں عرف کی حیثیت شرعیہ ملحوظ رکھتے ہوئے اعتبار ہو گا، مطلقاً عرف کا اعتبار نہیں ہو گا۔

### ۳۔ منقولہ اور غیر منقولہ اشیاء میں فرق:

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، البتہ غیر منقولہ چیزوں کی بیع قبل القبض بھی جائز ہے، اور امام محمد کے نزدیک دونوں کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، شیخین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ زمین جائد وغیرہ میں ہلاکت شاذ و نادر ہے، اسلئے اس کی بیع قبل القبض بھی جائز ہے، اور اشیاء منقولہ میں ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہے، اس لئے اس کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہوگی، ہدایہ میں ہے: *و لا غرر فيه لأن الهاك في العقار نادر بخلاف المنقول ، والغرر المنهي عنه غرر الانفاسخ العقد*.

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ غیر منقول اشیاء میں بیع قبل القبض کے جواز کی علت ہلاکت کے خطرہ کا کم ہونا ہے، اور عقد کو فتح کرنے والے غرر کا نہ ہونا ہے، اور ما قبل میں قبضہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ عند الاحناف قبضہ کی تعریف میں بہت وسعت ہے، لہذا بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

البتہ منقول اشیاء کے اندر ہلاکت کا خطرہ اور فتح بیع کا امکان زیادہ ہے، اسلئے اس میں اس پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے قبضہ کی تعین کی جائے گی جبکہ غیر منقول اشیاء کے اندر وسعت کا پہلو ملاحظہ ہے گا اسباب مذکورہ کے معبدوم ہونے کی وجہ سے، لیکن علامہ ابن ہمام نے اشیاء غیر منقول کو بھی اشیاء منقولہ کی طرح (ہلاکت کے خطرہ کی صورت میں) قبل القبض بیع کرنے سے منع فرمایا ہے: *و هذا لأنه لا يتصور هلاكه إلا إذا صار بحراً أو نحوه حتى قال بعض المشائخ إن جواب أبي حنيفة في موضع لا يخشى عليه أن يصير بحراً أو يغلب عليه الرمال ، فاما في موضع لا يؤمن عليه ذلك فلا يجوز كما في المنقول ذكره المحبوبى ، وفي الاختيار حتى لو كان على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض (فتح القدر ۵۱۲/۶ مطبوعہ دار الفکر)*۔

لہذا منقول اور غیر منقول اشیاء میں تنوع اور کیفیات کے بدلتے سے حکم میں تبدلی بھی آنکھی ہے، اگرچہ عام حالات میں دونوں کے درمیان حکم میں فرق ہی رہے گا۔

### ۴۔ احادیث کا معلول بالعلة ہوتا:

صاحب ہدایہ نے بیع العقار میں شیخین کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد کے جواب میں فرمایا کہ حدیث معلول بالعلة ہے، والحدیث معلول به عملاً بدلائل الجواز۔

علامہ ابن ہمام نے اس کی علت میں فرمایا: (معلول به) ای بغرر الانفساخ، والدلیل علیہ ان التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ فی البيع قبل القبض وهو العق و التزوج علیه (فتح القدر ۵۱۲/۶)۔

صاحب عنایتے وضاحت کے ساتھ علت غرر کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب زمین وغیرہ میں ہلاکت نادر ہے تو عقد کے فتح ہونے کا غرر جس سے روکا گیا ہے وہ منفی رہے گا، اور حدیث شریف "معلول بالانفساخ"

ہے، لہذا جائیداد اس میں داخل ہوگی اور اس کی بیع قبل القبض جائز ہوگی، کتاب و سنت اور اجماع کی دلیل جواز پر عمل کرنے کی وجہ سے۔

اس کے آگے فرماتے ہیں: *وإذا كان الحديث معمولاً بغير الانفصال لا يتحمل تناوله*  
لیس فیہ ذلک (عنایتی معنی *فتح الہجۃ* ۵۱۲/۶)۔

#### ۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت:

اس سلسلہ میں احادیث مبارکہ کے الفاظ مختلف ہیں، اور فقہاء کرام نے اس میں تخصیص کر کے بہت سی چیزوں کو حکم سے خارج کر دیا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں نقل مذاہب کے سلسلہ میں گذر چکا ہے، امام مالک صرف غد میں ناجائز اور یقینہ تمام چیزوں میں جائز قرار دیتے ہیں، "کل ما اشتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب وغير ذلك ما خلا المبيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند مالك أن تبيع ذلك كله قبل أن تقبضه" البت اس میں عجلت کر کے تاخیر نہ کرے، إذا تعجلت ذلك ولم تؤخره (کتاب الکافی فی فتاویٰ الہدیۃ المأکیۃ ۲۲/۲)۔

امام مالک کی دلیل حضرت ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو آپ نے موطا میں بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے کوئی اناج خریدا تو وہ اس کو فروخت نہ کرے، جب تک کہ وہ اس پر قبضہ پوری طرح نہ حاصل کر لے، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (موطا امام مالک: کتاب البيوع ۲۶۳)۔

امام احمد بھی اسی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ وہ مأکول و مشروب کے مساویں قبل القبض بیع کو جائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک طعام ہو یا عقار ہو، کسی کو بھی قبل القبض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یہ حضرات حکیم ابن حرام کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: عن حکیم بن حرام قال قلت يا رسول الله إلی رجل مبتاع هذه البيوع وأبیعها فما يحل لی منها وما يحرم قال لا تبیع شيئاً حتی تقبضه (فتح القدر ۵۱۱/۳، اعلاء السنن ۲۲۳/۱۳)۔

اس حدیث میں تمام چیزوں کی بیع قبل القبض ناجائز و حرام فرمایا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ اپنی کتاب (کتاب الام ۳۰۰) میں ارشاد فرماتے ہیں: *و بهذا نأخذ فمن ابتاع شيئاً كانا ما كان ليس له أن يبیعه حتی يقبضه*، نیز اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس کا اجتہادی قول بھی یہی ہے کہ غیر طعام کو بھی طعام کی طرح قبل القبض بیچنا جائز نہیں ہے۔

علام ابن ہمام فرماتے ہیں: *قلنا قد رواه ابن عباس أيضاً قال وأحسب كل شيء مثل الطعام آخر جه عنه أنمه الكتب السنة* (فتح القدر ۵۱۱/۶)۔

امام عظیم اور امام ابو یوسف اشیاء متفقون کو "نهی عن بیع مال میقبض" کی وجہ سے ناجائز قرار دیتے ہیں، اور اشیاء غیر متفقون کو عملت عدم غیر کی وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ غیر متفق اشیاء کی بیع میں ایجاد و قبول اہل کی طرف سے محل بیع میں صادر ہوا اور متفق چیزوں میں جو مانع تھا "غیر الفساح العقد" وہ بیان مختصر نہیں ہے، لہذا یہ بیع جائز ہوئی چاہئے۔ (فتح القدر ۶/۱۵)۔

مولانا ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں: إلا أن آبا حبیفة وأبا يوسف خصا النصوص بالمتقول بعلة النهي وهو غرر الفساح العقد بالهلاك قبل القبض و محمد أجر لها على عمومها والشافعی حصها بما لم يكن متسبباً و هو اختلاف الاجتیہاد (اعلام السنن ۲۲۲/۱۲)۔

امام عظیم کی دلیل حضرت عثمان ابن عفان کی روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی کوفہ والی زمین کو دیکھنے بغیر فروخت کر دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو قبل القبض ہی فروخت کر دیا، کیونکہ قبضہ روایت گوئی ہے۔

مولانا ظفر احمد تھانوی اعتراض نقل کرتے ہیں کہ کوئی اگر یوں کہے کہ حضرت عثمان نے وکیل کی معرفت قبضہ کیا ہو گا، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ وکیل کی روایت بھی موکل کی ہی روایت ہے اور جبکہ روایت میں خود اس احتمال کو دور کرنے والا لفظ موجود ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں: "بعثك مال مأره فيطل احتمال رؤيته بواسطه الوکيل و قبضه يقبضه" حضرت عثمان کی روایت کی شرح مہدیہ مسلم شریف کے حوالے سے نقل کر کے اس میں ایک راوی کے مجبول اور مختلف الاجتیہاد ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

مولانا ظفر احمد صاحب اس کے جواب میں فرماتے ہیں: قلت و مسلم لا يروى عن مجہول ولا لمجہول فالحديث حسن حجة (اعلام السنن ۲۲۹/۱۲)۔

امام مالک نے جس حدیث پر اپنے مسلم کی بنیاد رکھی ہے اس کے بارے میں احتجاف کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک خاص حکم سے متعلق ہے، جبکہ اس سلسلہ میں دیگر عام حدیثیں بھی موجود ہیں، کیونکہ حضرت ابن عمر والی حدیث جس سے امام مالک نے استدلال کیا ہے وہ حدیث حضرت ابن عباس سے بھی بخاری و مسلم میں موجود ہے جس میں راوی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں کہ: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (بخاری شریف: کتاب المیوع ار ۲۸۹) پر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف جلد دوم صفحہ ۵ پر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح کی ایک روایت "ابو داؤد" میں بھی ابن عمر سے مردی ہے، جس میں نہیں عن بیع مال میقبض کا لفظ موجود ہے (نصب الرأی ۱۹/۲)۔

شوافع کی متدل روایت جو حکیم ابن حزام سے مردی ہے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ابن حمام نے رجال پر لٹکلوگرتے ہوئے حدیث بالا کو جھٹ قرار دیا ہے "والحق ان الحديث حجة والذى قبله كذلك" لیکن پھر اس کی تخصیص کی دلیل کا ذکر کیا ہے: والحاجة بعد ذلك الى دليل التخصيص لغير العقار لأنبي

حقيقة ما يذکر هنالک ، والاحادیث کثیرة فی هذا المعنى (فتح القدر ۵۱۲/۶).

## ٦ - قبضہ کھمان:

فقہاء کرام نے قبضہ کی تشریع کی ہے اور اس سلسلہ میں جو جزئیات ذکر فرمائے ہیں، اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ قبضہ حسی کا ہونا ضروری نہیں ہے (شامی ۳۷۸، ۳۸۰).

قبضہ کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فقہاء کرام نے اس کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ قبضہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) اول قبضہ کھمان (۲) دوم قبضہ نہمان۔ اور پھر قبضہ نہمان کی دو قسمیں ہیں: (۱) اول نہمان بفسد (۲) دوم نہمان بغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا حکم بھی جدا گانہ ہے۔

۱۔ مشتری کو اگر میمع پر پہلے سے قبضہ حاصل ہے اور وہ قبضہ نہمان بفسد کا ہے، مثلاً غاصب کا قبضہ شی مخصوص پر، تو اس کا حکم یہ ہے کہ میمع موجود ہو یا نہیں، بہر حال سابق قبضہ ہی جدید قبضہ کے لئے کافی ہو گا، اور نئے سرے سے قبضہ کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ غاصب کا نہمان بفسد ہے اور مخصوص شی بصورت نہشہ ہے۔

۲۔ اور اگر میمع پر مشتری کا قبضہ نہمان بغیرہ کا ہے، مثلاً اسی مرہ ہون پر رائین کا قبضہ، تو رائین امانت ہوتا ہے، البتہ مضمون بالغیر ہوتا ہے۔ یعنی فرض کی وجہ سے، گویا کہ وہ مضمون بالغیر تو ہے مگر مضمون بفسد نہیں ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شی مرحون موجود ہو تو یہ قبضہ جدید قبضہ کی طرف سے کافی ہو گا، ورنہ نہیں۔

۳۔ اور اگر میمع پر مشتری کا قبضہ قبضہ امانت ہے، مثلاً عاریت، ودیعت و کالت اور اجارہ کا قبضہ، تو یہ سارے قبضے قبضہ امانت کہلاتے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ یہ امانت والے قبضے نہمان والے (بعن کیلئے) قبضے کیلئے کافی نہ ہوں گے، بلکہ تجدید قبضہ ضروری ہو گا (بدائع الصنائع ۵/۲۲۸، شامی ۳۶۰/۳۸۰).


شامی میں ان تمام جزئیات گوڈ کرنے کے بعد لکھا ہے: و حاصله أن السخالية قبض حکما مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلاً قدفع المفناح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض، أى بأن تكون في البلد فيما يظهر . وفي نحو بقر ففي مراعي فكوه بحيث يرى و يشار اليه قبض الخ" (شامی ۳۸۰/۳۸۰، مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ، کوئٹہ پاکستان)۔

ان تمام مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر باائع نے صی قبضہ نہ کیا ہو، لیکن وہ ضامن ہو گیا ہو تو اس کو قبضہ نہمان کے درجہ میں شمار کر کے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا۔

۷۔ صورت مسئولہ میں جب مشتری کا کسی قسم کا قبضہ پایا تھا نہیں جاتا اور اس سے پہلے ہی باائع اپنے نہمان سے بری ہو جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، لہذا باائع کیلئے ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے، اور جب مشتری اس کا مالک نہیں ہوتا ہے تو یہ "بعن" بع معدوم مالیس عندک" اور "بعن المـلـقـبـش" کے درجہ میں رکھتے ہوئے اس کیلئے بھی کسی تیرے آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہو گا۔

شامی میں لکھا ہے: اشتري بقرة مريضة و خلاها في منزل البائع قائلًا إن هلكت فمسى و ماتت فمن البائع لعدم القبض و كذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فانسلماها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري . اسی طرح کا ایک یہ مسئلہ بھی ہے: اشتري و عادلين خاثر في السوق فامر البائع بتنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري (شامی جلد ۲۸/۲۸)۔

ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اصل بائع کا ذمہ مشتری کے تخلیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، اور بلاکت کی نسبت بائع کی طرف ہی ہوتی ہے، نہ کہ مشتری کی طرف، اور تیسرا خریدار کیسے ضامن ہو سکتا ہے جبکہ بائع اول اور مشتری کے درمیان ہی نفع صحیح نہیں ہوئی ہے، لہذا اس قسم کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہی ہوں گے۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اور اس کا حکم

مولانا عبدالرحمن پالنپوری چھاپی - گجرات

۱۔ اشیاء منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے اور اس کا شمارجع فاسد میں ہوگا۔ اور اشیاء غیر منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت "شیخین" کے نزدیک جائز ہے، بشرطیہ میع کی بلاکت کا اندر یہ نہ ہو، "مجموع الأئمہ في شرح ملتقى الأئمہ" میں ہے: لا يصح بيع الممنقول قبل قبضه لنهیه عليه الصلة و السلام عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفصال العقد على اعتبار الها لاك.... ويصح في العقار أي يصح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه عند الشیخین، خلافاً لمحمدٌ و هو قول زفر والشافعی عملاً بإطلاق الحديث، ولهمما أن ركن البيع صدر عن أهله في محله ولا غرر فيه لأن الها لاك بالعقار نادر حتى إذا تصور هلاكه قبل القبض لا يجوز بيعه (۸۰- ۸۱)۔

اور رد المحتار میں ہے: ( قوله ونفي الصحة ) أي الواقع في المتن يحتملهما أي يتحمل البطلان و الفساد والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركنا البيع و كثيراً ما يطلق الباطل على الفاسد، أفاده ، ط : (شامی مصری ۱۳۸/۵)۔

۲۔ قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ میع قریب میں ہو اور باعِ مشتری اور میع کے درمیان اس طرح تخلیہ کر دے کہ بغیر کسی مانع و حائل کے مشتری کیلئے میع پر قبضہ کرنا ممکن ہو اور باعِ مشتری کو میع لے لینے کا حکم دیدے، تو میع مشتری کے قبضہ میں شمار ہوگی، چاہے مشتری میع کو اپنے تصرف عملِ خل میں نہ لے، درمختار میں ہے: ثم التسلیم يکون بالتخلية على وجه يتتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيداً لم يصر قابضاً (۳۰/۵۶۱- ۵۶۲)

۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں قبضہ کی ایک ہی صورت ہے جو اور پرمذکور ہوئی۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث معلول بالعلة ہیں، قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی کا مداردو و جہوں پر ہے، (۱) قبضہ سے پہلے میع مقدر اسلام نہیں ہوتی، لہذا یہ بات یقینی نہیں کہ وہ مشتری کو ضرور قبضہ کرادے گا، یہ غرر ہے جس کی بناء پر جائز نہیں (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے میع باع کے دھان میں نہیں آتی اور "رُوحَ الْمَيْضَمَنْ" جائز نہیں، (ستفاذ از اسلام اور جدید معیشت و تجارت ۹۱)۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام ہے یا خاص اس سلسلہ میں فقیہاء کرام کی آراء درج ذیل ہیں: طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت پر علماء کا اجماع ہے، طعام کے علاوہ میں چار مذاہب ہیں (۱) امام شافعی

اور امام محمدؐ کے نزدیک کسی چیز کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے (۲) اور امام احمد بن حنبلؓ کی زیادۃ طاہر روایت میں صرف طعام کو قبل القبض بیننا جائز نہیں، طعام کے خارجہ جائز ہے، (۳) امام مالکؐ کے نزدیک صرف طعام میں سے مکملات و موزوںات میں قبل القبض بیع ناجائز ہے اور (۴) امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسفؐ کے نزدیک تمام منقولات میں قبل القبض بیع ناجائز اور غیر منقولات میں سے جس میں بلاکت کا اندریشہ ہوان میں قبل القبض بیع جائز ہے، (اباعلاء السنن ۱۲، ۳۵۰، تکمیلہ فتح الہم ارج ۳۵۰)۔

امام احمد بن حنبلؓ اور امام مالکؐ کے لاکل حدیث ابن عمرؓ، آن الغیۃ قائل: "من ابتاع طعاماً فلا يسعه حتى يقضيه" رواہ البخاری و مسلم، اور حدیث جابرؓ عن جابرؓ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ابتاع طعاماً فلا يسعه حتى تستوفيه" رواہ مسلم، اور حضرت ابن عباسؓ کا فرمان: أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبَاعُ حَتَّى يَقْبَضَ" (اباعلاء السنن ۱۲، ارج ۲۲۸-۲۲۷) وغیرہ مذکورہ احادیث ہے، جن میں نبی طعام ہی پر مقصود ہے، لہذا امام احمد بن حنبلؓ اور امام مالکؐ نے نبی کو طعام کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔

اور امام شافعیؓ اور امام محمدؐ کے لاکل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث: فیان رسول الله ﷺ نبھی ان تباع السلع حيث تباع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" رواہ ابو داؤد، اور حکیم ابن حزم کوحضور ﷺ کا ارشاد یا ابن اختنی، لا تباع شيئاً حتى تقبضه، اور ایمان کی روایت میں ہے: "إذا اشتريت شيئاً فلا يسعه حتى تقبضه" ان احادیث میں نبی کا حکم طعام و منقول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی کا حکم ہر چیز میں ہے، اور امام شافعیؓ و امام محمدؐ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت کو حضور ﷺ کا ارشاد: "لا ربح مالم يضمن" سے استدلال کرتے ہیں، وجہ استدلال اس طرح ہے کہ حضور ﷺ نے "ربح مالم يضمن" سے منع فرمایا ہے، اور "بيع قبل القبض ربح مالم يضمن" کو تضمیں ہے، اس لئے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت مشتری کے خلاف میں آتی ہی نہیں، پس اگر قبل القبض بالربح بیچے گا تو وہ "ربح مالم يضمن" ہو گا اور یہ علت طعام و غیر طعام ہر ایک کو عام ہے، لہذا تمام اشیاء، طعام، یا غیر طعام، منقول، یا غیر منقول سب کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہو گی، (المستفاد من تکمیلہ فتح الہم ۱۱/۳۵۲-۳۵۳)۔

امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسفؐ مذکورہ امام شافعیؓ و امام محمدؐ کے مسند احادیث میں سے استدلال کرتے ہیں، مگر عتار، غیر منقول گوئوم نبھی سے مستثنی قرار دیتے ہیں، اسلئے کہ نبھی کی ملک عتار میں مستثنی ہے، اس لئے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبھی کی علت "ربح مالم يضمن" کا لزوم ہے، اور انسان صرف اسی چیز کا شامن ہوتا ہے جس میں بلاکت کا اندریشہ ہو اور عتار میں بلاکت کا خوف نہیں ہے مگر وہ حقی کہ اگر عتار میں بلاکت کا خوف ہو تو شیخینؓ کے نزدیک قبل القبض اس کی بیع جائز نہیں ہے، جیسے سمندر کے کنارے پر جو عتار ہو اس میں قبل القبض بیع جائز نہیں ہے، (اباعلاء السنن ۱۲، ارج ۲۲۷-۲۳۱ و تکمیلہ فتح الہم ارج ۲۵۰-۲۵۲)۔

۶۔ صورت مسؤول میں بیع خریدار سے قریب نہ ہونے کی وجہ سے خریدار کا نہ حسی قبضہ پایا گیا اور نہ حکمی قبضہ، اس لئے خریدار اول کے لئے دوسرے خریدار کے ہاتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، شامی میں ہے:  
لأن إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقى فتقام التخلية مقام القبض ، أما إذا كان بعيداً لا يتصور فيه القبض فى الحال فلا تقام التخلية مقام القبض ..... لأن المعتبر فيها القرب الذى يتصور معه حقيقة القبض كما علمته من كلام (الخانية ٥٦٢/٣ - ٥٦٣)۔

۷۔ اس صورت میں بھی قبل القبض بیع کرنا ہے، لہذا یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے (حوالہ سابق)۔  
سوال (۶) اور (۷) میں مذکور دونوں صورتوں کے جواز کیلئے وہ صورتیں اختیار کی جائیں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مدظلہ نے احسن الفتاوی میں تحریر فرمائی ہیں کہ (۱) جہاں مال خریدا ہے وہاں کسی کو، یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے، اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے (۲) خریدار کو وکیل بالقبض بنادے اور مال پہنچنے سے پہلے بیع نہ کرے بلکہ وعدہ بیع کرے، بیع مال پہنچنے کے بعد کرے، اس صورت میں جانین میں میں سے کوئی انکار کر دے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہو گا، بیع پر اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اگر خریدار (اول) مال پہنچانے کا کرایہ ادا کرتا ہے تو اس کے اذن سے باع کا کسی بھی مال بردار کمپنی کی تحویل میں مال دیدینا مشتری کا قبضہ ثمار ہو گا، اگرچہ مشتری اس نے کسی خاص کمپنی کی تعین نہ کی ہو، کمپنی کی تحویل میں آجائے کے بعد بیع جائز ہو گی،۔

قال في الهندية : إذا قال المشتري للبائع أبعث ابني واستأجر البائع رجلاً يحمله إلى ابنه ، فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استأجر من يحمله ، فقبض الأجير يكون قبض المشتري إن صدقه أنه استأجره ودفع إليه ، وإن أنكر استيجاره والدفع إليه ، فالقول قوله ، كذا في التمار الخانية (عام ١٩٢٣) (حسن الفتاوى ٥٢٢/٦)۔

والله أعلم بالصواب



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شرعی حکم

مولانا ارشاد قاسمی، ریاض العلوم، جوپور

قبضہ شرعی کے حاصل ہونے سے قبل خریدار کا مال فروخت کر دینا جائز نہیں ہوگا، اور اس کی بیع از روئے شرع یا از روئے قواعد فقہیہ فاسد ہوگی۔ اور اس پر بیع فاسد کے احکام جاری ہوں گے۔

**فاسد ہونے کی دلیل:**

قبضہ شرعی سے قبل فروخت کرنے کی صورت میں فتح عقد کا غرر ہے، کہ بیع (خریدی ہوئی چیز) جو ابھی اس کے قبضہ میں نہیں آئی ہے شاید نہ آ سکے اور ضائع ہونے کی وجہ سے عقد ختم ہو جائے۔ اور غرر کی اس کیفیت سے بیع فاسد ہوگی۔ جیسا کہ غرر اور اس کی تفصیل کے ذیل میں اس کی مفصل بحث کی گئی ہے۔ محقق ابن ہمام فتح القدر میں لکھتے ہیں:

لأن فيه غرر النسخ العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فبيين حيث

أنه باع ملك الغير بغير إذنه و ذلك مفسد للعقد (۵۱۲/۶)۔

علامہ بدر الدین الحنفی اس کی علت فساد پر کام کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبضہ شرعی سے قبل مشتری کا فروخت کرنا ”رنج مالم يضمون“ میں داخل ہے۔ اور شارع علیہ السلام نے خمان میں آنے سے قبل فروخت کرنے اور نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ اور نبی مقتضی فساد ہے، لہذا اس سے بیع فاسد ہوگی۔ چنانچہ ہدایہ کی شرح البنا میں لکھتے ہیں:

والجامع اشتمالهما على ربع مالم يضمن فان المقصود من البيع الرابع والربع مالم يضمن نهی عنہ شرعا والنہی يقتضی الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه كما في الإجارة (۳۲۲/۷)۔

تصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ملت غررو عرف ہے۔ محققین فقہاء کرام اس کی تصریح بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابن ہمام کا قول ابھی گذرا۔ لأن فيه غرر النسخ العقد الأول۔ اسی طرح عنایہ شرح ہدایہ میں ہے:

لأن فيه غرر الانفساخ بالهلاك والاستحقاق (ص ۵۱۲) نبی کی ملت منصوص کی وضاحت کرتے ہوئے خطط عرب کے مشہور محقق فقہیہ علامہ زحلی الفقہ الاسلامی میں لکھتے ہیں: إن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر (۲۲۳/۲۲) اور غرر جب من حيث الوصف ہوتا یہ مفسد ہے۔ چنانچہ علامہ زحلی غرر سے فساد اور ابطال کے ضابط کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: والغرر الذي يبطل البيع هو غرر الوجود وهو كل ما كان البيع فيه محتملا للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع (۲۳۷/۳)۔

معلوم ہوا کہ غرر وجود جس میں بیع کے وجود اور عدم ہی کا علم نہ ہوئے کو باطل کرتا ہے۔ سو یہاں غرر الوجود کا

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیع تو موجود ہے اس کے وجود نے بیع اول کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ یہ احتمال ہے کہ جس کا وجود ثابت ہو چکا ہے آیا قبضہ میں بھی آئندگی یا نہیں، ملے گی یا بلاک ہو جائے گی، یہ غرور صرف ہے۔ اور غرور صرف سے بیع فاسد ہوتی ہے۔ علامہ رحیلی نے اس نبی کو سبب فاسد قرار دیا ہے:

قال الحقيقة لا يجوز التصرف في البيع المقول قبل القبض لأن النبي ﷺ نهى عن  
بيع مالم يقبض والتهي بوجب الفساد المنهي عنه (ص ۲۷۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی شارع کی وجہ  
سے یہ بیع فاسد ہو گی۔ اس سے زیادہ واضح طور پر علامہ رحیلی نے الفتن الاسلامی و ادله کے اس مقام پر بیان کیا ہے  
جہاں وہ ترتیب سے بیع فاسد کو شمار کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے بیع الشی المملوک قبل القبض کو بھی ذکر  
کیا ہے۔ چنانچہ وصفی ۳۷ جلد ۲ میں اسے بیع فاسد کی فہرست میں شمار کرتے ہیں۔

عنای شرح بدایہ میں بھی صراحتاً اس بیع کو بیع فاسد قرار دیا گیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: والتهی بقسطی  
الفساد فيكون البيع فاسدا قبل القبض لأنه لم يدخل في ضمانه (حاشیة فتح القدر ۵۱۲/۶) صاحب در  
مختار علامہ حکفی نے بھی مواہب کے حوالہ سے اسے فاسد ہی قرار دیا ہے۔ وفى الموهاب وفسد بيع المقول  
قبل قبضه (مصری شنید ۱۳۸/۵) علامہ شامی نے بھی غرر کو فاسد کی علت قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں: لأن علة  
الفساد الغرر (۱۳۸/۵) اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی قبل القبض کی علت غرر ہے جو سبب فاسد ہے۔  
محقق طحطاوی نے بھی الدر المختار کے حاشیہ الطحاوی علی الدر میں اسے فاسد قرار دیا ہے۔ چنانچہ صاحب الدر  
کے قول "وفسد بيع المقول" کے تحت لکھتے ہیں:

وابنما جاء الفساد من جهة أخرى وهو الغرر أي غرر انفصال العقد بخلافه (۱۰۰/۳)  
علامہ طحطاوی نے صاحب الدر کے قول فاسد کو صحیح قرار دے کر اس کی علت اور وجہ بیان کی ہے کہ فساد کا سبب غرر ہے۔

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے باطل ہونے پر تحقیق و تینقح:  
خیال ہے کہ بعض فقهاء نے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو باطل بھی قرار دیا ہے۔ مگر تحقیق اور اصول  
کے اعتبار سے درست نہیں۔ اہل تحقیق نے خود اس کی تزوید کی ہے۔ چنانچہ جو ہرہ کے حوالہ سے درمختار میں ہے:  
بعخلاف بیعه قبلہ فإنه باطل مطلقاً - صاحب در مختار علامہ حکفی خود اس سے متفق نہیں، وہ "قلت" سے اپنی تحقیق  
پیش کرتے ہیں: وفى الموهاب وفسد بيع المقول قبل قبضه۔ علامہ شامی دونوں قولوں کو سامنے رکھ کر تحقیق  
فیصلہ فرماتے ہیں۔ والظاهر هو الثاني لأن علة الفساد الغرر كما أمر - اب رہی بات کہ پھر اسے باطل کیوں  
قرار دیا تو علامہ شامی اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وکثیراً ما يطلق الباطل على الفاسد۔

رجح مالم يضممن:

نبی قبل القبض کی ایک علت جس کی وجہ سے یہ نبی واقع ہوئی ہے "رجح مالم يضممن" ہے۔ یعنی تمام میں  
آنے سے قبل اسے فروخت کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں رجح مالم يضممن کی نبی آئی ہے،

چونکہ قبضہ شرعی سے شے ضمان میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی وجہ ہے کہ بعضوں نے قبضہ کی تشریع ضمان سے اور ”لم يقبض“ کی شرح ”لم يضمِن“ کے ساتھ کی ہے۔

**ضمان سے قبضہ کا حق ہو جائے گا:**

کسی شے کا ضمان میں آنا گویا کہ اس کے قبضہ میں آتا ہے۔ چنانچہ ضمان سے قبضہ کو ثابت کرتے ہوئے علامہ زحلی الفقہ الاسلامی میں لکھتے ہیں: فاما ان تكون يد ضمان بنفسه كيد الغاصب فيصير المشترى قابضا للبيع بنفس العقد (۷/۳۲۲) غاصب کے مثل اگر ضمان میں آجائے تو اس سے مشتری قابض ہو جائے گا۔ اس عبارت سے یہ بات بالکل صاف واضح ہوتی ہے۔ ضمان اور قبضہ ایک دوسرے کے لئے معاملات بیع میں لازم و ملزم ہیں۔ اور ضمان میں کسی شے کا آجانا قبضہ کو ثابت کر دیتا ہے۔ اور اس پر خود حدیث پاک شاہد ہے۔ اور اسی کو فقہاء نے بھی جا بجا اختیار کیا ہے جو ان کے بیان کردہ جزئیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ لہذا مشتری کے ضمان میں بیع آجائے تو اس کا بیچنا جائز ہو جائے گا۔

**اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت:**

یہ واضح رہے کہ حدیث پاک میں جو قبضہ سے پہلے فروخت اور بعض تصرفات سے منع کیا گیا ہے اس میں قبضہ سے کیا مراد ہے۔ محض قبضہ حسی یعنی مشتری کے ہاتھ میں آ جانا مراد ہے، یا اس کے مفہوم میں وسعت ہے۔ اور مرادی اعتبار سے قبضہ حسی کو جس طرح یہ شامل ہے اسی طرح تحویل، تسلیم، افزایش، افراغ، ضمان وغیرہ جسے قبضہ حکمی اور معنوی سے بھی موسوم کیا جاتا ہے شامل ہے؟ ذیل میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اولاً قبضہ کے لغوی معنی۔ ثانیاً فقہاء کی اصطلاح میں قبضہ کا مفہوم اور اس بات کی تشریع کے قبضہ سے مراد حسی قبضہ ہی نہیں بلکہ قبضہ معنوی اور حکمی بھی ہے۔ اور دونوں قبضہ میں سے کسی قبضہ کا حق شارع علیہ السلام کی منع کردہ بیع سے خارج کرتے ہوئے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔

**قبضہ لغت میں:**

قبضہ لغت میں متعدد معانی کے لئے آتا ہے۔ جن میں ایک معنی ملک اور تحویل میں آنا اور قبول کرنا بھی ہے (السان العرب ۷/۲۱۲)۔

**محمد شین و فقہاء محققین کے یہاں قبضہ کا مفہوم و مراد:**

علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ بخاری کی شرح فیض الباری میں قبضہ کے مفہوم کی تشریع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وبالجملة أن القبض في البيع والبهبة والرهن يتحقق عندنا بالتخلية والممكنة على القبض ولا يحتاج إلى القبض الحسي والنفل (۳/۲۰۶) حاصل کلام یہ ہے کہ قبضہ، بیع، بہبہ، رہن میں تخلیہ اور تمکین قبضہ سے قبضہ محقق ہو جاتا ہے۔ حسی قبضہ اور منتقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر مزید اس کی وضاحت

کرتے ہوئے فرماتے ہیں: و معاہا عندی رفع علائق ملکہ و تمکنہ للمشتري على أن يقبضه و ذلك قد يكون بالفعل وأخرى بالقبول وتارة بالقرآن.

اور اس تمکین کی شرح ایک مثال سے کرتے ہیں۔ جسے فقہاء اپنے کلام میں تمکین کو قبضہ قرار دیتے ہوئے ذکر کرتے ہیں:

ولو باع فرسا في الصحراء فإن كان المشتري أن يستطيع أن يقبضه بدون إعانة غيره  
تحقق القبض... فكان لهم نظروا إلى الممكنة (۲۰۶/۲) جنگل میں گھوڑا بیچا اگر مشتری کسی دوسرے کی مدد کے بغیر قبضہ کر سکتا ہے تو قبضہ کا حققت ہو جائے گا۔ علامہ ابن ہمام فتح القدیر شرح بدایہ میں محیط کے حوالہ میں لکھتے ہیں: ان بالتخليه يقع القبض وإن كان المبيع بعد عنهما - تخلیہ سے قبضہ ہو جاتا ہے، خواہ بیع وورتی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ابن ہمام فتح القدیر میں ایک مثال سے قبضہ حکمی سے قبضہ شرعی کے واقع ہونے کی تشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولو اشتري فرسا في حظيرة فقال البائع سلمتها إليك ففتح المشتري الباب فذهب الفرس إن أمكنه أخذها من غير عون كان قبضا (۲۹۸/۲).

ویکھئے اس جزئیہ میں محض قدرت اور تمکین کو قبضہ قرار دیا گیا ہے۔ ابن ہمام نے تحرید کے حوالہ سے تسلیم و قبضہ کا ایک قاعدة کیا ہے جس سے مسئلہ مجوہ عنہ کے ثبوت میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

تسلیم المبيع أن يخلی بيته و بين المبيع على وجه يتتمكن من قبضه من غير حائل (۲۹۷/۱) پر دگی مبیع کا مشہوم یہ ہے کہ یائے مشتری کو مبیع اس طرح حوالہ کر دے کہ بغیر کسی مانع کے قبضہ ممکن ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض قدرت اور تمکین ہو جائے کہ وہ اپنے حوالہ اور قبضہ میں جب جس طرح چاہے قبضہ کر سکتے تو اسے قبضہ کہا جائے گا۔

چنانچہ ایک جزئیہ سے اور یہ واضح ہوتا ہے: ولو اشتري حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه و قال خليت بينك وبينها فهو قبض (۲۹۷/۲ بحر الرائق ۳۳۳/۵).

ویکھئے محض کنجی حوالہ کروئنا اور اذن قبضہ دے دینا ہی قبضہ قرار دے دیا گیا۔

ویکھئے قبضہ نہیں کیا مگر اس کے تحت آگیا اور اس کے اختیار میں آگیا کہ جب چاہے وہ قبضہ حٹا بھی کر سکتا ہے۔ گویا یہ اختیار میں آ جانا قبضہ شرعی ہے۔

فقیہ کا سانی بداع الصنائع میں قبضہ اور تسلیم کے مفہوم اور مراد کی تشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبضہ کی کوئی ایک ہی خاص شکل مراہنہیں بلکہ اس کے مفہوم میں وسعت ہے، جسے قبضہ حکمی اور معنوی سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔

التسليم أو القبض. معناه عند الحنفية هو التخلّي أو التخلية. وهو أن يخلّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحال بنيهما على وجه يمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له (مكتبة الفقه الإسلامي ج ۲۸ ص ۲۸).

ابن حميم شرح كنز الدقائق میں لکھتے ہیں اگر بائع کا اس کی طرف اشارہ ہو جائے اور وہ ایسے طور پر ہو کہ وہ اشارہ سے ممتاز ہو جائے تو اسے بھی قبضہ تصور کیا جائے گا۔ مثلاً: وَكَذَا لِوَاشْتَرِي بِقُرَا فِي السَّرَّاجِ فَقَالَ الْبَاعِثُ أَذْهَبْ فَاقْبِضْ إِنْ كَانَ يَرِى بِحِلْثِ يُمْكِنُهُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ يَكُونُ قَبْضًا (۳۲۳/۵)۔

وَكَيْهُ أَغْرِچَرْ آگَاهِ میں جائز ہے اور بائع کے اشارہ سے وہ ممتاز ہو جائے یعنی میمع غیر میمع سے میحد و نمایاں ہو جائے تو اسے قبضہ کہا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قبضہ کے مفہوم میں وسعت ہے اور اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہے کہ قبضہ کو اسی پر مختص کیا جائے۔

علامہ شامی نے بھی قبضہ کو صرف حسی میں منحصر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی مختلف شکلیں جسے قبضہ شرعی سے موسوم کیا جاسکتا ہے، ذکر کیا ہے۔ جس کا حاصل تمکین اور ضمان میں آ جاتا ہے (وَكَيْهُ رِدْمَارِ ۵۶۱/۵)۔

علامہ شامی الدر المختار میں ایک موقع پر تخلیہ کو اجماعاً قبضہ کے معنی میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: أجمعوا على أن التخلية في المبيع العاجز تكون قبضاً (۵۶۲/۳)۔

علامہ شامی نے ایک جزئیہ کا ذکر کیا ہے کہ مشتری نے اگر اپنا برتن بچھ دیا اور وہ خود رہا اور بائع نے اس میں سامان ڈال دیا تو باوجود یہ مشتری یا اس کا کوئی وکیل نہیں ہے پھر بھی قبضہ تصور کیا جائے گا۔ اس لئے کہ تخلیہ اور حوالہ پایا گیا۔ اور اس کے ضمان میں داخل ہو گیا۔

لو اشتري دهنا و دفع فارورة دزنہ فيها فورنه فيها بحضور المشتري فهو قبض و كذا بغيته في الأصح (۵۶۱/۳) اس سے معلوم ہوا کہ مشتری کے عائبانہ میں بھی جبکہ مشتری نے افراد کا حکم دیدیا ہو تو قبضہ شرعی ہے۔

فقہ حنفی کی بیشتر کتابوں میں امام عظیمؐ کے نزدیک تخلیہ کے لئے عموماً ۳ شرطوں کا ذکر ملتا ہے۔ جسے قاضی خاں، علامہ شامی، صاحب بحر الرائق وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

قال أبو حنيفة التخلية بين المبيع والمشتري تكون قبضاً بشرطان: ثلاثة أحدها أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت والثانى أن يكون البيع بحضور المشتري بحيث يصل إلى أحده من غير مانع والثالث أن يكون المبيع مفرزاً غير مشغول بحق الغير (قاضی خاں علی بامش البندی ۳۵۸/۲)۔ حضرت امام عظیم ابو حنیفہؓ نے تخلیہ کے قبضہ ہونے کی ۳ شرطیں ذکر کی ہیں: (۱) بائع خليت کہہ دے (۲) میمع کو مشتری بلا کسی روک و مانع کے قبضہ کر سکے (۳) میمع غیر میمع سے میحدہ اور ممتاز ہو۔ خیال رہے کہ علامہ شامی نے خلیت کے مفہوم میں لکھا ہے کہ مراد یہ لفظ نہیں ہے بلکہ اذن و اجازت

کے کلمات مراویں۔ جن سے حوالہ اور قبضہ دینے کا علم ہو جائے ضروری ہے۔

درمختار نے بھی اس شرط کو ذکر کیا ہے۔ وشرط فی الاجناس شرطاً ثالثاً و هو أن يقول خلیت  
بینك و بين المبيع فلو لم يقله او كان بعيداً لم يصر قابضاً (رس ۵۶) اجناس ناطقی نے یہ شرط لگائی  
ہے کہ قبضہ کا اذن ہو، اگر کچھ نہ کہایا مبین دور ہے تو قبضہ شمارت ہو گا۔ خیال رہے کہ تخلیہ یا قبضہ کے الفاظ کا کہنا ضروری  
نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ باائع کی جانب سے ایسی کوئی بات پائی جائے جو تمکین یا قبضہ دینے کو ثابت کرتی ہو، چنانچہ رسید  
یا کیش میموکا دینا بھی اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی اس احتمال کو دور کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الظاهر هو أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية (۵۶۱۳) مرا و لفظ خلیت  
سے قبضہ کی اجازت ہے نہ کہ لفظ تخلیہ۔ معلوم ہوا کہ اس کی جانب سے اذن و اجازت ہوئی کافی ہے۔ لفظ خلیت ضروری  
نہیں۔ ساری عبارتیں اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قبضہ سے مراد خسی اور باتھی میں آ جاتا ہے۔

اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت اور اس کا فرق:

واضح رہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک منقول اور غیر منقول اشیاء کے درمیان فرق ہے۔ علامہ راغبی کی شرح  
الوجيز کے حوالہ سے اعلاء السنن میں ہے:

إِنْ كَانَ الْمَبْيَعُ مِمَّا لَا يَنْقُلُ كَالْدُورُ وَالْأَرْضُ فَقَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيِ وَ  
تَمْكِنَهُ مِنَ الْبَدْ وَالصَّرْفِ۔

وإنْ كَانَ الْمَبْيَعُ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ فَالْمَذْهَبُ الْمُشْهُورُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيُ فِيهِ  
التَّخْلِيَةُ بِلَ لَا بَدْ مِنَ النَّقْلِ وَالشَّحْوِيلِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حِيْفَةَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ التَّخْلِيَةُ كَمَا فِي  
الْعَقَارِ (۲۳۱۱۲) عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیہ اور تمکن حاصل ہو جائے تو دونوں میں قبضہ کا تحقق ہو جائے گا۔ تخلیہ کا  
مفہوم دونوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ ابن وہبہ زحلی کی عبارت واضح کر رہی ہے: فَإِنَّ الْقَبْضَ عِنْدَ الْحَنْفِيَةِ يَكُونُ  
بِالتَّخْلِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبْيَعُ عَقَاراً أَوْ مَنْقُولاً (۲۱۹۱۲) السید سابق اپنی کتاب الفقہ الشافعی میں قبضہ کی تفصیل  
بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: والقبض فی العقار يکون بالتخلیة بینه و بین من انتقل ملکه اليه علی وجه  
یتمکن معہ من الانتفاع فيما یقصد منه کزرع الأرض و سکنی المنزل والاستظلال بالشجر او  
جنی ثمارہ و نحو ذلك (۱۳۹۱۲)۔

عقار (زمین و کھیت) میں قبضہ کا یہ مفہوم ہے کہ ایسا تخلیہ اور حوالہ ہو جائے جس سے انتفاع تمکن اور قابو میں  
آجائے۔ مثلاً زمین ہو تو کھیت کرے، مکان ہو تو بس جائے، درخت ہو تو سایا اور بچل پر قابو پائے وغیرہ ذلك۔

اور منقول کے قبضہ کی شکل واضح کرتے ہوئے سید سابق الفقہ الشافعی میں ذکر کرتے ہیں:

والقبض فيما یتمكن نقله کا الطعام والثياب والحيوان، و نحو ذلك یکون علی النحو

أولاً باستيقاء القدر كيلاً أو وزناً إن كان مقدراً.

ثانياً: بنقله من مكانه إن كان جزافاً.

ثالثاً: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك (١٣٩/٣).

مطلوب یہ ہے کہ اشیاء متنقل مثلاً غل، کھانے کپڑوں وغیرہ میں قبضہ کی شکل یہ ہوگی کہ کیلی و وزنی چیزوں میں کیل و وزن ہو جائے۔ اگر اندازے اور تخمینہ سے اس کی بیع ہوئی ہو تو اپنی تحويل میں لے لے یا اپنے پاس منتقل کر لے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ عرف میں جس کو قبضہ تصور کیا جاتا ہواں کا وقوع ہو جائے۔ عرف میں قبضہ کی شکل یہ ہوگی کہ کیش میمو اور رسید اس کے نام بن جائے۔ سیل نیکس، اکٹم نیکس کا کاغذ اس کے نام آجائے، کاغذ کے ساتھ لوگوں کی زبان پر بھی آجائے کہ یہ توفلاں کا ہے، اس نیکس پر مت کاغذ پر اس کا نام درج ہو جائے۔

سرکاری موافقہ، راستہ نیکس (چنگی) وغیرہ سب اس سے متعلق ہو جائے۔ یہی خان میں آنے کی علامت ہے۔ اور یہی قبضہ معنوی ہے۔ صاحب الفقه السنہ سید سابق کی اس عرفی قبضہ کے اعتبار سے جسی قبضہ کے بغیر اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا۔

عقار کے قبضہ حکمی کے سلسلے میں فقہاء نے اس امر کا بھی اعتبار کیا ہے کہ اگر قریب ہے تو تخلیہ اور تمکین قبضہ شمار ہوگا، اور اگر بعید ہے تو تخلیہ قبضہ نہ ہوگا۔ عالمہ شامی لکھتے ہیں: *والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريباً يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فلتقام التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيداً لا يتصور القبض في الحال فلاتقام التخلية مقام القبض* (٥٦١/٣) صاحب دریخار نے بھی اسی قریب و بعید کا فرق مخوطر کھا ہے و کان بعيداً لم يصر قابضاً (٥٦١/٣)۔

علامہ شامی لکھتے ہیں کہ محیط و جامع شمس الأئمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیہ مطاقت قبضہ ہے، خواہ قریب ہو یا بعید ہو۔ عالمہ شامی لکھتے ہیں: *و مقابلة ما في المحيط و جامع شمس الأئمۃ أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار بعيداً غالباً عنهما عند أبي حنيفة* (٥٦١/٣)۔

**قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی کی احادیث معلول بالعلة ہیں:**

احادیث پاک میں جو قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی کی روایتیں پائی جاتی ہیں وہ جمیرو فقہاء محمد میں کے تزوییک معلول بالعلة ہیں۔ اور اس پر تمام محققین فقہاء کے آقوال شاہد ہیں جن کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے: صاحب بدایہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی احادیث کو معلول بالعلة قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: *والحدث معلول به عملاً بدلائل الجواز*۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے ابن همام فتح القدر میں لکھتے ہیں: *والحدث الذي استدل به معلول به أي بغير الانفصال* (٥١٢/٦) اور اس معلول بالعلة کی دلیل واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: *والدليل عليه أن التصرف الذي لا يمتع بالغرض نافذ في المبيع قبل القبض وهو العنق والتزوج عليه* (٥١٢/٦)۔

یعنی چونکہ حدیث معلوم بالعلة ہے، کہ عدم جواز کی علت غرر انفصال اور بلاکت ہے۔ اور یہ بات حق اور تزویج میں نہیں پائی جاتی۔ اس علت کے پیش نظر قبل القبض حق اور تزویج جائز ہوگا۔ کیونکہ اس میں غرر اور بلاکت کا اختصار نہیں۔ صاحب عنایہ ابن حکیم مصری اور اکثر اہل علم نے اس حدیث کے معلوم ہونے کی صراحت کی ہے۔

**قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلے میں احناف کا مسلک اور دلائل:**

خیال رہے کہ امام محمد اور امام زفر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی کے سلسلہ میں عموم کے قائل ہیں۔ خواہ منقولات میں سے ہو یا عقار میں سے ہو، کسی کی بھی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ بھی قول حضرت امام شافعی کا ہے۔ امام ابو یوسف کا بھی قول اول یہی ہے۔ ابن ہمام فتح القدری میں امام محمد کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رجوعاً إلى إطلاق الحديث يعني عمومه .. وهو ما في حديث حكيم من قوله ﷺ لا  
تبين شيئاً حتى تقبضه .. وللنبي عن ربع مالم يضمون .. ولو باع العقار بربع يلزم ربح مالم  
يضمون .. ولأن السبب هو البيع إنما يتم بالقبض ولهذا جعل الحادث بعد العقد قبل القبض  
حالhadث عند العقد .. والملك متتأكد بذلك السبب وفي هذا العقار والمنقول سواء۔

مطلوب یہ ہے کہ نبی عام ہے، تمام اشیاء کوشامل ہے۔ مزید یہ کہ اس نبی کی علت خود حدیث پاک میں ہے کہ ربع مالم یضمون ممنوع ہے درست نہیں، لہذا عقار کی بیع قبضہ سے پہلے ربع مالم یضمون میں داخل ہو کر ناجائز ہوگی۔ مزید یہ کہ بیع کا اتمام قبضہ سے ہوتا ہے۔ اور جب قبضہ سے اتمام بیع ہوتا ہے تو اتمام بیع سے قبل اس کا تصرف کیے درست ہوگا۔ تا وقتیکہ ملک جس کا سبب بیع ہے قبضہ سے تام اور مکمل نہ ہوگی، بیع درست نہ ہوگی۔ اور یہ علت منقول اور عقار دونوں کوشامل ہے، لہذا منقول وغیر منقول کسی کی بھی بیع جائز نہ ہوگی۔

**شیخین کا قول مع دلائل:**

حضرات شیخین قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی والی حدیث کو اشیائے منقول کے ساتھ خاص مانتے ہیں۔ اور اس نبی کا محل اشیائے منقول یا جو بلاکت کے گمان غالب میں ہے، اسے مانتے ہیں، اسی وجہ سے زمین و کھیت کی بیع کو قبل القبض جائز قرار دیتے ہیں۔ بھی مسلک حتابہ کا، مالکیہ کا، امام بخاری کا، عثمان الجی کا اور علامہ نووی کے مطابق پیشتر فقہاء کا ہے۔ احناف کے نزدیک یہ حدیث چونکہ علت غرر کے ساتھ معلوم ہے اس لئے جہاں غرر اور بلاکت کا گمان غالب ہوتا ہے وباں بیع اور تصرف قبل القبض کو ممنوع قرار دیتے ہیں، خواہ زمین اور کھیت ہی کیوں نہ ہو جس کی مثال آگے آرہی ہے۔ تکملہ فتح الہم میں شیخین کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

انهما يستثنى العقار من عموم النهي لأن علة النهي متفقة . فإن الحديث الأخير  
حدى عبد الله بن عمرو دل على أن العلة في النهي عن بيع العقار قبل القبض هي أنه يستلزم  
ربح مالم يضمون وإنما يضمون الإنسان ما يحاف فيه الهلاك . وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك

إلا نادراً حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض. كما في فتح القدير (٢٦٦/٥) لأن الهايكل فيه غير قادر (رس ٣٥٣).

أور صاحب بداییہ نے شیخین کے استدلال کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: إن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهايكل في العقار قادر بخلاف المتفق. والغرر المتهى عنه غور انساخ العقد والحديث معلول به عملاً بدلائل الجواز. اس کی شرح میں ابن حام صاحب الشیخ فرماتے ہیں: والدليل عليه أن التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في الجميع قبل القبض وهو العنق والشروع عليه.. ويجوز في الجميع قبل القبض العنق (رس ٥١٢) اس سے معلوم ہوا کہ غرر جہاں نہیں ہے، وہاں ممنوع نہیں ہے۔ چنانچہ حق اور تزوج میں غرر کا سوال پیدائیں ہوتا، اس وجہ سے یہ نافذ ہو جائے گا۔

امام اعظم اور ابو یوسف کی جانب سے یہ جواب محققین احتراف لے دیا ہے۔ جسے صاحب بداییہ نے نقل کیا ہے۔ اس پر ایک اعتراض واقع ہوتا ہے، جسے قریب قریب تمام شزان نے بیان کیا ہے کہ شیخین کا حدیث کو معلول قرار دے کر غرر نہ ہونے کی وجہ سے عقار کا مستحب کرتا یہ تعیل فی مقابلۃ النص ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شیخ نے الہنایہ میں جو بیان کیا ہے اسے یہاں ذکر کیا جاتا ہے: "فإن قيل هذا التعیل معارض لمطلق النص فإن مطلقه يتاول العقار كما بتنا" اور صاحب عنایہ نے شرح بداییہ میں اس طرح اُنقل کیا ہے:

واعتراض بأنه تعیل في موضع النص وهو ما روى أنه عليه الصلة والسلام نهي عن بيع مالم يقض و هو عام والتعليق في موضع النص غير مقبول. صاحب فتح القدير نسبجي اس اعتراض کو ذکر کیا ہے (٥١٢/٦) جواب میں عنایہ کا قول سب سے زیادہ واضح ہے۔ چنانچہ وہ جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: وأجيب بأنه عام دخله الخصوص لا جماعنا على جواز التصرف في الشمن والصداق قبل القبض ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس فتحمله على المتفق كلذا في المسوط.

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ حدیث عام ہے، مگر اجتماع کے ذریعہ اس میں تخصیص ہو چکی ہے، چنانچہ شمن اور مہر پر تصرف بنی قبض سے پہلے اجماعاً جائز ہے۔ جب اجماع سے اس میں تخصیص ہو چکی ہے، اور اجماع نے اس میں تخصیص کر دی ہے تو اس میں تخصیص کا احتمال ثابت ہو گیا۔ چنانچہ قیاس سے تخصیص کر دی گئی کہ متفق کے حق میں ہے، عقار کے حق میں نہیں ہے۔ اور اس قیاس کی بنیاد خود شارع ہی کا قول غرر اور ہلاکت ہے۔ علامہ شیخ الہنایہ شرح بداییہ میں بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: فلماً الحديث مخصوص فإن بيع عقد المهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والميراث والشمن قبل القبض يصح بالاتفاق (٢٦٣/٧)۔

جب حدیث نہیں قبل القبض سے یہ امور اجتماعاً مستحبی ہیں تو اس میں استثناء اور تخصیص کا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ عام حص عنہ البعض کا قاعدة تھی اصول فتویٰ مشہور کتاب اصول الشاشی میں ہے: وأما العام الذي

خص عنه البعض محكمة أنه يجب العمل به في الباقى مع الاحتمالات فإذا قام الدليل على تخصيص الباقى يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، وفيه فإذا قام الدليل الشرعى على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال (ص ٩).

چنانچہ علامہ عینی فرماتے ہیں: فحیث ممکن ہے بحوزہ تخصیص بالقياس۔ والدلیل علیہ ثبوت حق الشفعة قبل القبض والشفیع یتملک. فلو کان العقار قبل القبض لا یحتمل الملک ببدل لما جاز للشفیع الأخذ بالشفعة قبل القبض (٣٢٣/٧).

یعنی جب ایک تخصیص اجماع سے ثابت ہوگئی تو دوسرا تخصیص بھی جائز ہوگی۔ اور تخصیص تو پہلے سے کر دی گئی ہے، چنانچہ حق شفعة قبل القبض ثابت کروایا گیا ہے۔ جس کا تعلق عقار سے ہے۔ اور قبل القبض عقار میں تمлک کی صلاحیت نہ ہوئی تو حق شفعة کا ثبوت اور اخذ قبل القبض جائز نہیں ہوتا۔ لہذا عقار میں ہم نے قبل القبض تصرف اور بیع کو جائز قرار دے دیا۔

خیال رہے کہ زمین کی بیع حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ کے درمیان ثابت ہے جو قبل الرؤیۃ والقبض ہوا تھا۔ چنانچہ نیٹھی کی سنن کبری میں ہے۔ اور طحاوی کی معالم الآثار میں ہے: إن عثمان ابتعث من طلحة أرض بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة فقال عثمان بعتك ماله فقل طلحة إنما النظر لي لأنني ابتعت مغيها وأنت قد رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جابر بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه ابتعث مغيها۔

اس روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے بلاد کیمیہ اسے فروخت فرمادیا۔ ظاہر ہے جب دیکھائیں تو قبضہ کہاں ہوگا کہ قبضہ توریت کو ستلزم ہے۔ لہذا اس سے بیع مالم بقبض کا ثبوت ہوگا۔ چنانچہ اعلام السنن میں ہے: وهو يقتضي جواز بيع العقار قبل القبض فإن عثمان باع أرضا له بالكوفة ولم يرها وهو ظاهري هو أنه باعها ولم يقبضها فإن القبض يستلزم الرؤية حتما (٢٢٩/١٣)۔

### مزید تخصیص کی گنجائش:

اگر غرر اور ہلاکت کا نادر ہونا کسی منقول میں پایا جائے گا تو اس کا بھی استثناء اور اس کی بھی تخصیص جائز ہو جائے گی۔ مثلاً جہاز، موثر، فیکٹریاں، بڑی بڑی فولادی مشینیں، جن میں غرر اور ہلاکت کا احتمال نہیں رہتا۔ ان میں بھی نبی سے مستثنی ہونے کی گنجائش رہے گی۔

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلے میں مختلف ائمہ کی رائے:  
قبل القبض بیع کے سلسلے میں احتلاف کے علاوہ دیگر ائمہ اربعہ وغیرہ کے مختلف آقوال ہیں:

## امام مالک:

او جز المسالک شرح موطا امام مالک میں مالکیہ کا نہ بہ لقل کرتے ہوئے لکھا ہے: یحوز بیعہ قبل قبضہ غیر الطعام (۱۹۹/۱۱) اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری انوار محمود شرح ابو داؤد میں فرماتے ہیں: و قال مالک بن انس: ما عدا الماکول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض (۳۲۸/۲) علامہ نووی نے مالکیہ کا نہ بہ نقل کرتے ہوئے کہا ہے: و قال مالک لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه... و وافقہ کثیر ون (ص/۵) اسی طرح فیض الباری میں ہے: قال مالک: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه (۲۲۲/۳) اور فتح القدير میں ہے: و قال مالک: يحوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض إلا في الطعام (۵۱۱/۶) ان کا حاصل یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے طعام کی تخصیص کر دی ہے۔ چنانچہ فتح القدير میں ہے: لأنَّهُ مُنْتَهٰٰ خصُّ الطَّعَامَ بِالنَّهِيِّ فِي حَدِيثِ رَوَاهُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنَى عُمْرَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اِبْتَاعِ طَعَاماً فَلَا يَبْعُدُ حَتَّىٰ يَسْتَوِيهِ (اخراج الشخان ۵۱۱/۶)۔

## حضرات شوافع کا مسلک:

حضرات شوافع کے نزدیک تمام اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے۔ خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام۔ چنانچہ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں: فقال الشافعی لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غيره (۵۱۲/۲) اسی طرح فیض الباری میں ہے: فقال الشافعی لا يصح سواء كان طعاماً أو عقاراً (۲۲۲/۳) خیال رہے کہ احناف میں امام محمد بن ابی حیان شافعی کے ساتھ ہیں، چنانچہ ابن قدامہ کے حوالہ سے تکملہ فتح الملموم میں ہے: قال الشافعی ومحمد بن الحسن من الحنفية يحرم بيع كل شيء قبل قبضه طعاماً كان أو غيره منقولاً كان أو غيره (ص/۳۵۰) اسی طرح امام زفر من الاحناف بھی اسی مسلک کے حامل ہیں۔ او جز المسالک شرح موطا امام مالک میں ہے: زفرو محمد والشافعی... لا يجوز طعاماً أو غيره (۱۹۹/۱۱) ابن عقیل نے امام احمد کا بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اور یہی قول صحابہ میں حضرت ابن عباس کا ہے: كذا في تكميلة فتح الملموم: وهو ظاهر قول ابن عباس وهو رواية ابن عقيل عن احمد (۳۵۰/۱)۔

## شوافع کے ولائل:

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاماً فلا يباعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحب كل شيء مثله . وفي رواية أخرى واحب كل شيء بمنزلة الطعام (مسلم)۔

عن زید بن ثابت أن رسول الله ﷺ نهى أن تبتاع السلف حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رجالهم (ابوداؤد ۲۹۳) فقد عمم هذا الحديث الحكم فيسائر السلع ولم يقصره على الطعام (تکملہ فتح الملموم ۳۵۲) وعن حکیم بن حرام قلت يا رسول الله إنی ابتاع هذه البيوع فما

يحل لى منها وما يحرم على قال: يا ابن أخي لا تباع شيئاً حتى تقبضه (سنن كبرى ۳۱۳/۵).

### حنابلہ کا مسلک:

حضرات حنبل اپنے بیشتر اقوال میں اسے طعام کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ چنانچہ تکملہ فتح المکمل میں ہے:

قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي أَظْهَرِ رِوَايَتِهِ إِنَّمَا يَخْتَصُ النَّهْيَ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ قِبْضِهِ وَيَجُوزُ فِيمَا سَوَاهُ (أرج ۳۵۰) امام احمد بن حنبل کے اظہر روایت میں ہے کہ نبی طعام کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اس کی نیت جائز نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ کی جائز ہوگی۔ حنابلہ احادیث میں واقع شدہ لفظ طعام کی قید سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف طعام کے ساتھ خاص کرتے ہیں، باقی دیگر اشیاء میں قبل القبض تصرف کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کذا فی التکملة: استدل الحنابلة بحديث الباب على أن النهي مقصور على الطعام لأن النبي ﷺ نص فيه الطعام (أرج ۳۵۱) حنابلہ کہتے ہیں کہ نبی کے باب میں جواحدیت وارد ہیں وہ نبی طعام کے ذکر کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا الطعام ہی پر مختص رہیں گی۔

### قبضہ کے سلسلے میں دیگر ائمہ کی رائے:

ماقبل میں قبضہ کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کے مسلک کا بیان تھا، اب ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر حضرات کے اقوال کا ذکر:

قبضہ کے سلسلے میں امام بخاری کے یہاں بہت وسعت ہے۔ وہ بیع و شراء میں قبضہ کی کسی نوعیت خاص کے قال نہیں ہیں۔ تحقیق قبضہ کے سلسلے میں ان کے یہاں بہت وسعت ہے۔ فیض الباری شرح بخاری میں علامہ انور شاہ کشیری نور اللہ مرقدہ امام بخاری کا مسلک لکھتے ہیں:

وَأَمَا عِنْدَ الْبَخَارِيِّ فَلَا يُشْرِطُ عِنْدَهُ هَذَا وَلَا ذَاكَ بِلِ القِبْضِ عِنْدَهُ أَعْمَمُ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْأَرَادَهُ لَمْ يَمْنَعْ عَنِ الْبَاعِنِ وَإِنْ بَقِيَ الْمَبْعَثُ مُشْغُلاً بِقِبْضِهِ فِي الْحَالَةِ الْرَّاهِنَةِ فَكَانَ القِبْضُ يَحْصُلُ عِنْدَهُ بِمُجْرِدِ الْإِيْجَابِ وَالْقَبْولِ وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ يَسْمِي قِبْضًا... إِذَا عَلِمَتْ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ ترَاجِمِ الْبَخَارِيِّ أَنَّ الْقِبْضَ عِنْدَهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّخْلِيَةِ وَلَا إِلَى النَّقلِ... وَإِنْ تَصْرُفَ الْمُشْتَرِيَ يَصْحُحُ عِنْدَهُ قَبْضُ الْمَبْعَثِ بِمَعْنَى النَّقلِ...

عبارت مذکورہ سے بالکل صاف واضح اور عیاں ہے کہ امام بخاری کے نزدیک مشتری کے تصرف کرنے کے لئے صرف ایجاد و قبول کا ہو جانا کافی ہے، قبضہ کی قسم کا پایا جانا ضروری نہیں۔ لہذا قبضہ سے پہلے مشتری کسی قسم کا بھی تصرف کرے تو جائز ہے۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ قبضہ کے مفہوم میں امام بخاری کے یہاں بہت توسعہ اور عمومیت ہے۔ اس کے برخلاف حضرات شوافع کے یہاں کہ ہر شے میں قبضہ ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ کشیری لکھتے ہیں:

فَأَضْيقُ الْمَذَاهِبِ فِي مَذَهِبِ الشَّافِعِيِّ وَأَوْسَعُهَا مَذَهِبَ الْبَخَارِيِّ. حضرات شوافع کا مذهب اس بارے میں تنگ ہے، امام بخاری کا بہت وسیع۔ عثمان للہی کے نزدیک توسعہ میں قبضہ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تمام

تصوفات قبل القبض جائز قرار دیتے ہیں بع میں بھی۔ اسی طرح تکملہ فتح المکہم میں ہے: قال عثمان البشی بجوز بع کل شی قبیل قبضہ (اہن ۲۵۰) ابن عبدالبر ماکی نے اس قول کو سنت و اجماع کے خلاف قرار دیا ہے۔ چنانچہ تکملہ فتح المکہم میں ہے: هذا قول مردود بالسنة والحجۃ المجمعۃ علی الطعام (اہن ۲۵۰) عثمان البشی کا قول سنت اور اجماع سے مردود ہے کہ وہ طعام کی بع قبل القبض جائز قرار دیتے ہیں۔ حسن بصری، حکم، سعید بن میتب، احمد، اوزاعی، امام احمد اور الحنفی را ہو یہ اس امر کے قائل ہیں کہ مکملی اور موزوں اشیاء کا تو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں، البتہ اس کے علاوہ تمام اشیاء کا فروخت کرنا درست ہے (اعلاء السنن ۱۳/۲۲)۔

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مسئلے میں چار مشہور مسلک ہیں۔ صاحب او جز المالک نے اس سے زائد اقوال ذکر کئے ہیں۔

۶۔ اگر ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا ہے بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار نمبر ۲ یعنی مشتری دوم کو روانہ کر دیتا ہے۔ اور ان کے درمیان یہ معاملہ طے پاتا ہے کہ مال روانہ ہونے کے بعد مشتری ثانی کے پاس ہوئے بچنے سے قبل مال بلاک ہو جائے تو اس کی ذمہ داری نہ باع (فیکٹری) پر مشتری ثانی پر، بلکہ مشتری اول پر ہائے ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ مال مشتری ثانی کے پاس ہوئے بچنے سے قبل مشتری اول کے خاتم میں رہا۔ جب خاتم میں رہا تو ربع مالم یضم من میں داخل نہ ہوا۔ گواں مشتری کا قبضہ حصی نہ ہوا۔ مگر قبضہ معنوی اور حکمی کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا فروخت کرنا درست ہوا کرنیں۔ ذیل میں اس مسئلہ کو فتحی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ اولاً خاتم کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے، پھر قبضہ حصی اور حکمی کے احکام ذکر کئے جاتے ہیں۔

### خاتم کا مفہوم اور خاتم کے پائے جانے کی شکل:

کسی شے کے خاتم میں آنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کی تحویل اور اس کی قدرت انداز میں آجائے، چنانچہ خاتم کی تعریف کرتے ہوئے علامہ وہب زحلی نے الفقہ الاسلامی و ادلة میں لکھا ہے: هو ما كان فيه القابض مسؤولا عن المقبوض تجاه الغير فيصيّه إذا هلك عنده (۲۲۱/۳) مطلب یہ کہ قابض کی مقبوض کے متعلق ذمہ داری عائد آ جائے۔ اور مقبوض کے متعلق وہ جواب اسی پر عائد ہو۔ مثلاً نیکس خرچ وغیرہ۔

خیال رہے کہ عرف کے اعتبار سے اور مردجہ قانون اور عمل کے اعتبار سے جب مشتری نے ایجاد و قبول کر لیا، ختم کی تیسین، میمع کا افراز ہو گیا تو اب ساری ذمہ داری مشتری پر عائد ہوگی۔ کرایہ، محصول، میمع کا نیکس، راستہ کا نیکس سب اس پر عائد ہو گا۔ عرفانی بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں مشتری کا مال ہے، باع کا مال نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ مشتری کے خاتم میں آ گیا۔ اور اب اس کا بلا قبضہ حصی کے فروخت کرنا ربع مالم یضم من میں داخل نہ ہو گا۔ مگر تم جب خاتم کے شرعی مفہوم پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خاتم میں داخل ہوتے کا کیا مفہوم ہے اور میمع کا خاتم میں شمار کب ہوتا ہے، تو احادیث اور آثار صحابہ سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بغیر قبضہ کے خاتم میں داخل نہیں ہوتا ہے۔

چنانچہ العلام اشن میں ہے: باب یہ حل المبیع فی ضمان المشتری بالقبض ولا یدخل فی ضمانہ قبل القبض... اس کے بعد حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان پیش آمدہ واقعہ سے استنباط کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وفي دلالة على اتفاق الصحابة على أن المبیع لا یدخل في ضمان المشتری قبل قبضه... سواء كان مکيلا أو موزونا أو غيرهما (۲۵۳/۱۲) مطابق یہ کہ مشتری کا ضمان میں داخل ہونا بقسط کرتا ہے۔ بقسط میں ضمان کا مفہوم ہے۔ اسی طرح حسن بصری کے ایک اثر سے استدلال کیا گیا ہے۔ عن الحسن انه مثل عن رجل ابی اسحاق من رجل طعاما والطعم فی بیت فامر به ان یعلق و یدفع المفتاح إلیه حتى یستوفیه فاحرق البيت مما فيه من مال قال هو من صاحب الطعام من أجل أنه لم یستوفیه.

ویکھنے اس واقعہ میں باع نے تخلیہ اور تملکین کر دیا، کنجی دے دی کہ وہ اپنا مال لے لے، تملکین اور تحویل کی صفت پائی گئی مگر اس نے اپنی تحویل میں دو تامیں لیا تھا کہ وہ جل گیا، اس پر حسن بصری نے باع کا مال بلاک قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استینفای اور بقسطہ ہی سے ضمان میں داخل ہوتا ہے۔ پاں اگر بقسطہ سے مراد بقسطہ حکمی لیا جائے تو پھر ضمان میں آجائے گا۔ اور یہاں حسن بصری کے سوال میں جو صورت مذکور ہے اس میں افراز یعنی میمع غیر میمع سے ممتاز ہو کر تحویل اور تملکین میں جانا ش پایا گیا۔ اس نے اس سے بقسطہ حکمی کا ثبوت نہ ہونا ہمارے لئے کوئی حرج نہ پیدا کرے گا۔ بقسطہ حکمی پائے جانے کی صورت میں ضمان میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کا خریدار نمبر ۲ سے فروخت کرنا جائز ہو گا۔

### بقبضہ حکمی اور اس سے بقبضہ کا ثبوت:

ماقبل بقسطہ کی شرمنی صورتوں میں یہ بحث مکمل طور پر آچکی ہے کہ بقبضہ حکمی کو بھی شریعت نے بقبضہ مانا ہے۔ اور بقسط صرف حسی میں مختصر نہیں۔ چنانچہ علامہ اتوشاہ کشمیری نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں: وبالجملة أن القبض في المبیع والهبة والرهن يتحقق عندنا بالتحلية والسكنة على القبض ولا يحتاج الى القبض الحسی والنقل. پھر اس کی توضیح ایک جزئی سے بھی بخوبی ہو جاتی ہے: قالوا إنه باع فرسا فی الصحراء فإن كان المشتری يستطيع أن يقضم بدون إعانة غيره تحقق القبض فكانهم نظروا فيه إلى المكمة فقط. ورأواها كالقبض. وقالوا إنه لو باع دارا أو صندوقا أو سلم مفاتيحه فهو قبض (۲۰۶/۳)۔

اولاً توشاہ صاحب نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ قدرت اور تملکین کا پایا جانا بقبضہ ہے۔ حساں سے اپنے بقبضہ اور یہ میں کرنا ضروری نہیں۔ اور اس کو فقہاء کے کلام سے ثابت کیا کہ ویکھنے اگر جنگل میں موجود گھوڑے کو بیچا اور مشتری بغیر کسی دوسرے کی اعانت کے اسے حاصل کر لے تو گویا بقبضہ ہو گیا، اسی طرح کوئی بڑا بکس فروخت کیا اور اس کی کنجی حوالہ کر دی تو بقبضہ ہو گیا۔ ظاہر ہے یہاں صرف قدرت اور تملکین ہی تو پائی گئی پھر بھی فقہاء نے اسے بقبضہ تسلیم کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بقبضہ حکمی بھی مؤثر ہے۔

فقہاء کرام کی بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بقبضہ حکمی کے شرعاً معتبر ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں۔

چنانچہ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

قال أبو حنفیۃ التخلیۃ بین المبیع والمشتري تكون قبضا بشرط ثلاثة احدها أن يقول  
الائع خلیت بيک و بین المبیع فاقبضه ويقول المشتری قد فضت.. والثانی ان يكون المبیع  
بحضرة المشتری بحیث يصل إلی أحده من غير مانع، الثالث أن يكون المبیع مفرزاً غير  
مشغول بحق الغیر (خانیہ علی هامش الہندیہ ۲۵۸، ۲) مطلب یہ ہے کہ ادائیگی اور تسلیم دے دے،  
مشتری قبول کر لے، علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ لفظ خلیت کوئی ضروری نہیں بلکہ اذن و اجازت مراد ہے۔ ثانیاً کسی  
رکاوٹ کے بغیر مشتری اس پر قبضہ کر سکے۔ ثالثاً مبیع غیر مانع سے ممتاز اور الگ کروی جائے۔ اس عبارت کی روشنی میں  
موجود وزمانہ کے طریقہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالع کیش میمو، رسید اشتراہ حوالہ کر دے، مشتری یا اس کا  
وکیل اسے قبول کر کے قبضہ کر لے۔ مال مبیع موجود ہو کہ مشتری اگر فوراً اپنے اندر میں کرنا چاہے تو کر لے یا کسی کو  
حوالہ مثلاً اڑاپورٹ وغیرہ کر رہا چاہے تو کر لے۔ اور خریدا ہوا مال بالکل الگ ہو مشترک نہ ہو، یعنی اسے چھانٹ دیا ہو۔  
اس کامال الگ کر دیا گیا ہوا یہ طور پر کہ اگر اشارہ کیا جائے تو اشارہ صحیح واقع ہو جائے۔ اور کہنے والا کہ سکے یہ مال  
فلاں کا ہے۔ تو اس صورت میں یہ مال قبضہ حکمی میں داخل ہو کر فروخت کرنا جائز ہو جائے گا۔

لہذا اگر یہ شکلیں پائی جا رہی ہیں تو خریدار نمبر (۱) کے ہمان اور قبضہ شرعی ہی پائے جانے کی وجہ سے  
فروخت کرنا اور لفظ لینا جائز ہو گا، اور ربع مالم یضم من میں داخل نہ ہو گا۔ خیال رہے کہ عرف اور ماحول میں بھی یہ مال  
مشتری کا مثل مقبول کے سمجھا جاتا ہے، چونکہ کرایہ، تسلیم، قانونی سوال و جواب یہ سب اسی مشتری سے متعلق ہوتا ہے۔  
لہذا الفقد النہ کے مولف کے مطابق عرف اور قبضہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا فروخت کرنا شرعاً درست ہو گا۔

میں الاقوامی تجارت کی صورت میں جس میں مال مشتری تک پہنچنے سے قبل ضائع ہو جائے تو بالع  
ضامن نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس وقت درست ہے جبکہ مشتری کے ضامن میں وہ خریدار ہوا مال قبضہ کے ذریعہ سے آ جائے،  
خواہ قبضہ حق نہ ہو حکمی ہی سکی، ماقبل میں قبضہ حکمی اور اس کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں اگر اس کے مطابق ہو تو بالع کا  
ضامن نہ ہونا درست ہے۔

پھر اس شخص کے مال کی وصولیابی سے قبل کسی تیرے کے ہاتھ فروخت کر دینا قبضہ شرعی سے قبل فروخت  
کر دینا ہے جو درست نہیں۔ پھر مال کی ہلاکت اور ضائع ہونے کی صورت میں مشتری اول کا ضامن نہ ہو کہ مشتری ثانی  
جو تیرا خریدار ہے ضامن ہونا بلا قبضہ شرعی کے ضامن بنانا ہے جو درست نہیں۔ یہ صورت شرعاً جائز نہیں۔ مشتری ثانی  
کا فروخت کرنا جبکہ مال سمندر میں ہے جو حالت غرر ہے، قبضہ شرعی اور ربع کے درست نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں  
کہ ربع مالم یضم من ہے، جو تیرے خریدار سے خریدنا اور بلا قبضہ شرعی کے ضامن ہونا، بیع کیا قرار کی گویا صورت ہے  
جو شرعاً جائز نہ ہو گی۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا عبدالرشید قاسمی

۱۔ شریعت اسلامیہ اور حضرات فقہاء، وائمه کی تشریحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بیع قبل القبض ناجائز ہے اور شریعت نے اس کا شمار بیع فاسد میں کیا ہے۔

صح بیع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ولا يصح بیع قبل قبضه بیع منقول أفسد بیع  
المنقول قبل قبضه (در مختار ۱۲۲/۳-۱۲۳)۔

۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ کی بنیاد عرف اور عادت پر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے قبضہ کی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی ہے بلکہ اسے لوگوں کے عرف اور عادت پر چھوڑ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استیلا، اور عمل خل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانجاۓ گا کیونکہ قبضہ کا مقصود کسی چیز کا ضمان میں آنا اور ضمان سے نکلا ہے یعنی کسی شی پر مشتری کا قبضہ ہو جائے تو باع کے ضمان سے وہ چیز نکل جائے اور مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائے، بہر حال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین نہیں کی ہے بلکہ لوگوں کے تعامل پر چھوڑ دیا ہے، اسی لئے حضرات علماء، فقہاء اور وائمه میں قبضہ کی حقیقت کے سلسلہ میں اختلاف ہوا ہے ورنہ اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔

۳۔ بالاتفاق جمہور علماء کے نزدیک اشیاء غیر منقولہ میں صرف تخلیہ قبضہ ہے اور حضرات علماء کے نزدیک اشیاء منقولہ میں قبضہ کی حقیقت کے سلسلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، حضرات حنفیہ کے نزدیک بالاتفاق کل چیزوں میں صرف تخلیہ قبضہ ہے یعنی باع مشتری اور بیع کے درمیان سے اپنا کنشروں ختم کر دے اور بیع پر مشتری کا کنشروں ہو جائے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں ارتقاء موائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، البتہ حضرات حنفیہ اشیاء مثیلیہ مشتری بالکلیں والوزن میں صرف تخلیہ کو قبضہ ناقص مانتے ہیں، اور حضرات شوافع کے یہاں قبضہ کیلئے قبضہ بالیہ کی شرط ہے جس کی تفصیل مع بالکل بیان ہو چکی ہے، حنفیہ اشیاء مثیلیہ مشتری بالکلیں والوزن اور عدد یہ متقاربہ مختلف فیہا کے علاوہ تمام منقولات اور غیر منقولات میں تخلیہ کو قبضہ مانتے ہیں، البتہ عدد یہاں متقاربہ میں صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔

۴۔ بیع قبل القبض کی نبی سے متعلق احادیث معلوم یعنی ہیں، یہ اور بات ہے کہ حضرات وائمه نے الگ الگ علائم نکالی ہیں، حضرات شیخین فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض کی علت نبی غرائب انساخ عقد ثانی ہے، عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ قال نبھی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر (مسلم شریف حکملہ فتح المکہم ۳۵۰/۱)۔

یہی حدیث حضرات شیخین کے نزدیک علت نبی ہے، اور حضرت امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ علت


نہی ربح مالم یضممن ہے، نہی رسول اللہ ﷺ عن ربح مالم یضممن والبیع ما لیس عندک، ان ائمہ کے نزدیک یہی حدیث علت نہی ہے۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت حضرات شیخین کے نزدیک منقولات کے ساتھ خاص ہے اور ان مجتہدین کے نزدیک غیر منقولات اس سے مستثنی ہیں۔

بیع قبل القبض کی علت نہی دونوں ہو سکتی ہیں: ایک ربح مالم یضممن، دوسرا غرر انفصال عقد۔ اور دونوں علتیں حدیث سے مستنبط ہیں، یہ اور بات ہے کہ حضرات ائمہ نے دونوں حدیثوں کی ترجیح میں اختلاف کیا ہے، حضرات شیخین نے نہی عن بیع الغرر والی روایت سے ربح مالم یضممن میں تخصیص پیدا کی ہے، اور غرر انفصال عقد والی حدیث کو مخصوص نہ ہونے کی بنا پر ترجیح دی ہے، چونکہ ربح مالم یضممن والی روایت میں تخصیص بالاتفاق جائز ہے، مثلاً اخذ شفعہ قبل قبض لامبیع اور تصرف فی المهر وبدل الحلق وغیرہ سے، اور حضرت امام محمد اور امام شافعی نے علت نہی حدیث ربح مالم یضممن صرف منقولات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا بلکہ غیر منقولات کو بھی لفظاً شامل ہونے کی بنا پر اسی معنی میں داخل کر لیا، اور ان ائمہ کے نزدیک منقولات اور غیر منقولات دونوں میں بیع قبل القبض ناجائز ہے۔

۶۔ واضح رہے کہ قبضہ کی اسلامی شریعت میں کوئی خاص حقیقت متعین نہیں ہے بلکہ قبضہ لوگوں کے عرف اور تعامل پر محمول کیا جائے گا اور قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ باع کے ضمان سے نکل کر بیع مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائے، لہذا جب مشتری کا ضمان پالیا جاتا ہے اس کی بیع کرنا جائز ہے اور اس سے حاصل شدہ منافع حلال ہے۔

۷۔ یہ بات واضح ہے کہ مشتری کے ضمان میں بیع داخل ہی نہیں ہوتی ہے، اس لئے بغیر قبضہ کے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بیع فاسد ہو گی، اسی لئے اس کا فتح واجب ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کا صدقہ کرنا واجب ہے "وقال مشائخنا لا يطيب له بكل حال وهو المختار وإطلاق الجواب يدل على ذلك" (ابحر الرائق ۱۱۲۸)۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

محمد ثناء الہدی قادری

### قبضہ کی حقیقت:

قبضہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع مبیع کو اس طرح الگ کر کے رکھ دے اور موانع کو اخدادے کہ مشتری جب چاہے اس میں تصرف کر سکے۔ بائع میں ہے: "فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو ان يخلی البائع بين المبيع وبين المشتری من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتری قابضاله (بدائع ۲۲۲/۵) تخلی اور تمام موانع کے ارتقائے کے باوجود اگر مشتری مبیع نہیں لے گی تو بھی اسی کا قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ قبضہ کے لئے حصی طور پر ہاتھ میں لینا اور بائع کے یہاں سے اسے منتقل کر لینا لازم نہیں ہے، بائع میں ہے:

"ثُمَّ لَا خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَصْلَ القِبْضِ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ" (بدائع ۲۲۲/۵)۔

اسی طرح ہر چیز میں قبضہ کے لئے جو تخلی اور ارتقائے موانع مطلوب ہے، اس کا مدار شریعت نے عرف و عادت پر چھوڑ دیا ہے، چنانچہ جس درجہ کا استیلا، اور عمل دخل لوگوں کے عرف و عادت میں قبضہ مانا جاتا ہے، اسی درجہ کا استیلا، اور عمل دخل ضروری ہو گا، بائع میں ہے:

"وَلَا يَشْرُطُ الْقِبْضُ بِالْبَرَاجِمِ لَأَنَّ مَعْنَى الْقِبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيُّ وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عِرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً" (بدائع ۱۲۸/۵)۔

### قبضہ سے پہلے خرید و فروخت میں ائمہ کے مذاہب:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلے میں ائمہ کی آراء مختلف ہیں، امام ابوحنیفہ کے نزدیک غیر منقول اشیاء کے علاوہ تمام چیزوں میں تصرف کیلئے قبضہ شرط ہے، امام مالک کے یہاں طعام ربوبی کے علاوہ میں قبضہ شرط نہیں ہے، جب کہ امام شافعی تمام مبیع میں قبضہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہی رائے صاحبین، عبداللہ بن عباس اور ثوری کی ہے، ایک رائے ابو عبید اور ائمۃ کی بھی ہے کہ جو اشیاء کیلئی اور وزنی نہیں ہیں، ان کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست ہے، ابن حبیب عبدالعزیز بن ابو سلمہ اور ربیعہ، کیلئی اور وزنی کے ساتھ عددی کا بھی اضافہ کرتے ہیں، امام احمد، ابو شور اور امام مالک کی مشہور روایت یہ ہے کہ طعام ربوبی ہوں، یا غیر ربوبی، دونوں میں قبضہ شرط ہے، ابن رشد نے لکھا ہے:

"وَأَمَّا بَيْعُ مَا سُوِيَ الطَّعَامَ قَبْلَ الْقِبْضِ فَلَا خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ، وَأَمَّا الطَّعَامُ الْرَّبُوبِيُّ فَلَا خِلَافٌ فِي مَذْهَبِهِ أَنَّ الْقِبْضَ شَرْطٌ فِي بَيْعِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الرَّبُوبِيِّ مِنَ الطَّعَامِ

فعنه في ذلك روايتان: أحدهما لامنوع وهي الأشهر وبه قال أحمد وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن، والرواية الأخرى الجواز وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عد المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار، وأما الشافعى فإن القبض عنده شرط في كل مبيع وبه قال الثورى، وهو مروى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقال أبو عبيدة وإسحاق: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا يأس ببيعه قبل قبضه وشرط هؤلاء القبض في المكيل والمسورون وبه قال ابن حبيب وعبد العزير بن أبي سلمة وربيعة، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن والمعدود (بداية المجتهد ۱۰۸/۲).

### قبضه سے پہلے خرید و فروخت کا حکم:

قبضه سے پہلے خرید و فروخت شرعاً منوع ہے، اور یہ ممانعت معلول بعالت ہے، علامہ گاسانی نے لکھا ہے: "لأنه بيع فيه غرر الإنفاسخ بخلاف المعقود عليه" (بدائع ۱۸۰/۵) اور جو بعث غرر کی وجہ سے منوع ہو، وہ بعث فاسد ہوتی ہے باطل نہیں، موطا امام محمد میں ہے: "قال محمد: وبهذا كله نأخذ بيع الغرر كله فاسد وهو قول أبي حنيفة والعامية" (موطا الإمام محمد باب بعث الغرر).

### غیر منقولہ اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت:

ممانت کے معلول بعالت ہونے کی وجہ سے ہی غیر منقولہ اشیاء میں قبضہ سے پہلے تصرف درست ہے، کیونکہ اس میں معقود علیہ کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہوتا۔ الفقه على المذاهب الأربعة" میں ہے:

"واما بيع الأعيان غير المسقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الثابتة التي لا يخشى هلاكها فإنه يصح (الفقه على المذاهب الأربعة ۲۳۲/۲)۔ البتة جابر بن عبد الله، ابن عباس، امام محمد، امام زفر اور امام شافعی ممانعت کو معلول بعالت نہیں قرار دیتے، اس لئے ان کے نزدیک اشیاء منقول ہوں، یا غیر منقول، قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام ہے اور سب کو شامل ہے، لہذا ان حضرات کے نزدیک غیر منقول اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔

### ضمان - قبضہ کی ایک شکل:

قبضہ کی ایک شکل ضمان بھی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے مال فیکشہی سے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فیکشہی نے خریدار اول کے کہنے پر اس پر قبضہ کئے بغیر خریدار نہیں کو کے پاس روانہ کر دیا، اور خریدار اول نے یہ ذمہ داری لی کہ اگر مال درمیان میں ہلاک ہو جائے اور خریدار نہیں دوست کہ ہوئے تو وہ اس کا ضمن ہے، اس صورت میں جو نقصان ہوا وہ مشتری اول کا ہوگا، تو منقول اشیاء ہونے کے باوجود اس طرح کی قبضے سے پہلے خرید و فروخت درست ہوگی، اور ضمان قبضہ حسی کے قائم مقام ہوگا۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جن حضرات نے کیلی اور وزنی چیزوں میں قبضہ کو ضروری قرار دیا ہے، انکے یہاں کیلی وزن کرنے سے ہی میمع مشتری کے

ضمان میں چلی جاتی ہے، بدایہ الحجتہد میں ہے:

”وَأَمَّا مِنْ اعْتِبَرُ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ ، فَلَا تَفَاقِهُمْ أَنَّ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ لَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانٍ

البائع إلَى ضَمَانِ الْمُشْتَرِي إِلَّا بِالْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنَ (بدایہ الحجتہد ۱۰۹/۲)۔

لہذا جس وقت باع نے مشتری کے لئے اس کو الگ کیا، ہبھی مشتری کے ضمان میں چلی گئی اور اس نے جو فروختگی کا معاملہ کیا، وہ رسک لے کے کیا، اس لئے اسے ”بیع المضمون“، قرار نہیں دیا جا سکتا، رہ گیا فیکٹری کا ذارک مشتری ثانی کو مال رو انہ کرنا تو یہ مشتری اول کے وکیل کی حیثیت سے ہے، جو شرعاً درست ہے۔

اس کے بر عکس جب مال جہاز پر چڑھا دیا گیا، اور مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ہلاکت کا ذمہ باع نے نہیں لیا، نیز مشتری نے بھی کوئی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ مشتری ثانی کے سردار ارسک ڈال دیا، ایسے میں مشتری اول کا قبضہ سے پہلے فروخت کرنا درست نہیں ہوگا۔ بلکہ ”بیع المضمون“ کی ممانعت کی وجہ سے ایسی بیع ممنوع اور فاسد ہو گی۔



## قبضہ سے پہلے کسی چیز کا فروخت کرنا

مولانا احمد حسن، نویک

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے میع پر قبضہ کئے بغیر فروخت کرنے سے روکا اور منع فرمایا ہے:  
 ☆ کنا نشتري الطعام من الركبان جزا فا فنهانا رسول الله ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَقْلِهَ مِنْ مَكَانٍ (أَيْ نَقْبَضُهُ) (ابن ماجہ ۱۶۲)۔

تابع قبل أن تستوفيه  
 بعث علينا (رسول الله ﷺ) من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي نباعه فيه إلى مكان  
 سواه قبل أن نبيعه (مؤطا) مؤطا امام محمد ۳۳۲)۔  
 لا تبع ما ليس عندك (ترمذی ۲۱۰)۔

نهاظ عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه (ابوداود ونقلاً عن مشكوة ۲۳۷)۔  
 بيع منقول قبل القبض باطل بيع هي، بعض فقهاء نے اسی کیلئے فاسد بیع کے الفاظ لکھے ہیں، "بحلاف بيعه  
 قبله (أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ)" فإنَّه باطل مطلقاً (جوهرة) "قلت: وفي المواجب وفسد بيع المنقول قبل  
 قبضه انتهي، ونفي الصحة في قوله لم يصح بحتملها فتبه، ترمذی میں "باب ما جاء في كراهة بيع  
 ما ليس عندك" کے الفاظ سے "ترجمة الباب" لکھ کر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مکروہ ہونے کو بتایا ہے۔  
 ۲۔ اسلام نے جب کسی چیز کی حقیقت واضح اور متعین فرمادی ہوتا سے لوگوں کے عرف و عادت پر نہیں چھوڑا  
 جا سکتا، رسول علیہ السلام کے الفاظ گرامی "حتی نقلہ من مکانه" سے حسی و حقیقی قبضہ ہی متعین ہوتا ہے۔

۳۔ اشیاء منقول کا فہد آؤ دن سے جو سہیث رسول علیہ السلام سے واضح ہوتا ہے، لیکن اشیاء غیر منقولہ (مکان  
 وغیرہ) کا قبضہ صحیح کے مشتری کی تحویل میں آجائے، یا وثیقہ و تحریر، یا تکمیل شہادت بیع سے تسلیم کیا جائے گا۔

۴۔ منع قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی علت بلاست و تلف میع کا خطرہ اور غررو خدعا ہے (در مختار ۲۷۹)۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت سے اشیاء غیر منقولہ (بقول مفتی به) مستثنی ہیں۔  
 حق عبد و امه، مدحیر، ہبہ، تصدق، رہنم، عاریت کو بھی قبل القبض جائز لکھا ہے (الابواب والترجم لاشیخ  
 زکریا ۲۳۶، ۳)۔

اممہ مجتہدین اور فقهاء احناف کی آراء گرامی  
 قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے متعلق:  
 - امام مالک نے غیر طعام میں ہر چیز کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی اجازت دی ہے۔

- امام احمد بن حنبل نے کمیل، موزون اور معدود شی کے علاوہ ہر چیز کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز فرمایا ہے۔

- امام شافعی نے طعام ہو، یا غیر طعام کسی بھی شی کے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز قرار نہیں دیا ہے

- امام اعظم ابوحنیفہ نے غیر منقول اشیاء کی بیع "من غیر قبض" کے جواز کا فتوی صادر فرمایا ہے، اور منقولات کی بیع کو قبضہ سے پہلے منع کیا ہے، امام ابو یوسف نے بھی یہی فتوی دیا ہے، اور امام احمد بن حنبل کا ظاہر نہ ہب بھی یہی ہے (بنایہ تعلیق مجدد ر ۳۳۱)۔

احناف کے ملک میں امام صاحب کا ارشاد ہی مفتی ہے: صح بیع عقار لا يخشى هلاکہ قبل قبضہ فلا يصح اتفاقا کكتابۃ واجارة وبيع قبل قبضہ (شرح تنویر الابصار ملقطا ۲۵۰/۳)

لا يصح بیع منقول قبل قبضہ (فتاویٰ حامدیہ ۲۳۶)

- امام مالک کے ملک کی دلیل رسول علیہ السلام کا غیر طعام میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو جائز فرمادینا ہے، لفظ طعام کا خصوصی طور پر منع میں ذکر غیر طعام کی اجازت کو واضح کرتا ہے۔

- امام شافعی کی دلیل ارشاد رسول علیہ السلام میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے منع فرمادینا ہے۔


- امام اعظم کے فتوی کی دلیل غیر منقول اشیاء کے تلف و بلاک ہونے کا امکان، بلکہ ضائع ہونے کا موقع ہے اور غیر منقولہ جائیداد میں باعوم ایسا نہیں ہوتا ہے (تعليق مجدد ر ۳۳۱)

بیع کا معاملہ اس شخص کی جانب سے ہو رہا ہے جسے بیع کی شرعاً اجازت ہے (المعات بر حاشیہ مشکوہ ر ۲۳۷)

- جب منقولہ اشیاء میں قول مفتی ہے کہ پیش نظر "من غیر قبض" فروختگی جائز ہی نہیں ہے، تو درمیان کے یہ معاملات اور رحمان کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے۔

- منقولہ اشیاء میں کیا جانے والا یہ معاملہ (بیع من غیر قبض) بھی جائز نہیں، تیرے خریدار کا صامن و ذمہ دار ہونا بھی صحیح نہیں۔

(نوت) ان ہر دو سوال کے دلائل اوپر کے نمبرات میں درج ہیں۔



## قبضہ سے پہلے خرید فروخت

شریعت کی روشنی میں

مولانا وحید الدین، سورت

بعض قبل القبض کی ممانعت کے بارے میں مختلف احادیث صحاح اور دوسری کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں:-

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے غلہ خرید تو اس کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے، اس حدیث کو امام بخاریؓ اور امام مسلمؓ نے روایت کیا ہے۔

وعن ابن عباسؓ قال : أَمَا الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبْاعَ حَتَّىٰ يَقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحَسِبَ كُلَّ شَيْءٍ مُثْلَهُ (رواه البخاری و مسلم)۔  
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بہر حال وہ چیز جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا سو وہ غلہ ہے کہ اس کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کیا جائے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اور ہر چیز کو میں اسی کے مثل گمان کرتا ہوں، بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔

وعن جابرؓ قال ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَعَتْ طَعَاماً فَلَا تَبْعَهُ حَتَّىٰ تَسْتَوْفِيهِ (رواه مسلم)۔

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ سرکار دواعا ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم غلہ خرید تو اس کو قبضہ سے پہلے فروخت مت کرو، امام مسلمؓ نے اس کو نقل کیا ہے۔

وفي حديث زيد بن ثابتؓ قال: إن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم (رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه)۔  
حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سامان جس وقت خریدے جاتے ہیں وہ فروخت کئے جائیں، یہاں تک کہ تاجر ان کو اپنے گھروں میں منتقل کر لیں، اپنی صحیح میں اور حاکم نے متدرک میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی صحیح فرمائی ہے۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے متدرک میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی صحیح فرمائی ہے۔  
روی عن حکیم بن حرام أنه قال: قلت يا رسول الله ﷺ إنِّي رجل أَبْتَاعَ هَذِهِ الْبَيْعَ وَأَبْعَهَا فَمَا يَحْلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قال لا تَبْيَعْ شَيْئًا حَتَّىٰ تَقْبَضَهُ (آخر جه النساء) فی سنہ

الكبرى ورواه أحمد في مستنده وابن حبان في صحيحه)۔

حکیم ابن حزام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ، میں خرید و فروخت کرنے والا (تاجر) ہوں تو میرے لئے کیا حال ہے اور کیا حرام ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ، کسی چیز کو قبضہ سے پہلے فروخت نہ کرو، امام نسائی نے اپنی سنن کبری میں اس کی تخریج کی ہے اور امام احمدؓ نے اپنی منہ میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد احادیث ہیں جن میں فی الجملہ بعْدَ الْقِبْضَ کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ان تمام روایات اور احادیث سے ”بَعْدَ الْقِبْضَ“ کا عدم جواز واضح ہے اور فی الجملہ ”بَعْدَ الْقِبْضَ“ کے عدم جواز پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔

ہاں یہ حکم عام اور مطلق ہے کہ کسی بھی چیز کی بعْدَ الْقِبْضَ جائز نہیں، یا خاص اور مقید ہے کہ بعض چیزوں کی بعْدَ الْقِبْضَ بھی جائز ہے، اس میں ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، غالباً اس اختلاف کی بنیاد یہی ہے کہ اس باب میں روایات مختلف ہیں بعض مطلق اور بعض مقید ہیں، ہر امام نے اپنے اصول کے مطابق روایتوں کو اختیار کیا ہے۔

### ”بَعْدَ الْقِبْضَ“، بَعْدَ فاسد ہے:

اختلاف کے نزدیک بعْدَ منہ کی تین قسمیں ہیں، باطل، فاسد، اور مکروہ۔

وذكر في البحر أن البيع المنهي عنه ثلاثة، باطل، وفاسد، ومكروه تحريمًا (شامی ۱۰۰/۲)۔

البحر الرائق میں مذکور ہے کہ بعْدَ منہ کی تین قسمیں ہیں، باطل، فاسد، اور مکروہ تحريمی۔

لہذا اب سوال یہ ہے کہ اختلاف کے نزدیک ”بَعْدَ الْقِبْضَ“ ان اقسام ثلثہ میں سے کس قسم میں داخل ہے، یہاں ان اقسام ثلثہ کی تفصیل میں جائے بغیر صرف یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ فقهاء کرامؓ نے اس بعْدَ الْقِبْضَ کو کس قسم میں شمار کیا ہے۔

در مختار میں ہے:

وفسد بعْدَ المنقول قبل قبضہ انتہی، ونفي الصحة يحتملها مافتدر (شامی)۔

بعْدَ منقول قبل قبضہ فاسد ہے، اور صحت کی نفی بطلان اور فساد دونوں کا احتمال رکھتی ہے۔

اور علامہ شامیؓ نے ”نفي الصحة“ کے تحت ذکر کیا ہے:

(قوله في الصحة) أى الواقع في المتن يحتملهاما أى يحتمل البطلان والفساد

والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركنا البيع الخ (شامی ۱۶۳/۲)۔

یعنی ”نفي الصحة“ جو متن میں موجود ہے اس میں بطلان اور فساد دونوں کا احتمال ہے، اور ظاہر ثالثی

(فساد) ہے اس لئے کہ فساد کی علت غرر ہے، جیسا کہ گذر چکا، یا وجود کہ ارکان بیع موجود ہیں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں وصاحت کی ہے کہ "بیع قبل القبض" "بیع فاسد" ہے۔

صاحب بداع علماء کاسانی نے صحت بیع کی شرائط میں ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ منقول شی کو خریدنے والا جب اس منقول کو فروخت کرتا چاہے تو صحت بیع کیلئے اس منقول پر مشتری اول کا قبضہ شرط ہے، یعنی قبضہ سے پہلے اس منقول کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔

ومنها القبض فی بیع المشتری المنقول فلا یصح بیعه قبل القبض لماروی ان الشی  
محلیة نہی عن بیع ما لم یقبض والنہی بوجب فساد المنہی ولا یحکم بیع فیه غرر الانفصال بهلاک  
المعقود علیه (البداع ۵/۱۸۰)

منقول خریدی ہوئی چیز کی بیع کیلئے شرائط صحت میں سے قبضہ کا ہوتا ہے، لہذا اس کی بیع قبل القبض صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک ﷺ سے مردی ہے کہ آپ نے "بیع ما لم یقبض" سے منع فرمایا اور نبی فساد منہی کو ثابت کرتی ہے، اور اس لئے کہ یہ ایسی بیع ہے کہ اس میں محقود علیہ کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے عقد کے فتح ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

علامہ کاسانی کا اس قبضہ کو بیع کی صحت کیلئے شرط قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قبضہ سے پہلے فروخت کرنا غیر صحیح یعنی فاسد ہے تک باطل، یعنی ارکان بیع کے پائے جانے کی وجہ سے العقاد تو پایا جائے گا، لیکن غرر کی وجہ سے یہ العقاد صحیح نہیں ہو گا۔

ان دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ احتجاف کے نزدیک بیع قبل القبض بیع منہی عنہ کی دوسری قسم یعنی فاسد میں داخل ہے۔

۲۔ کتاب و سنت میں قبضہ کی کوئی خاص حقیقت معین نہیں کی گئی ہے، مطلق قبضہ کا ذکر ہے۔

جیسا کہ "صاحب مہدب" نے شی منقول میں نقل اور غیر منقول میں تخلیہ کو قبضہ قرار دینے کی علت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: شرع میں قبضہ کا ذکر ہے لیکن مطلق ہے (اس کی کوئی خاص حقیقت معین نہیں کی ہے) لہذا اس کو عرف پر محمول کیا جائے گا اور عرف منقول چیز میں نقل اور غیر منقول میں "تخلیہ" ہے۔

مالکیہ، شوافع اور حنابلہ نے قبضہ کے سلسلہ میں عرف کا اعتبار کیا ہے، غیر منقول میں عرف یہ ہے کہ تخلیہ۔ قبضہ شمار ہوتا ہے، لہذا غیر منقول میں تخلیہ قبضہ ہے اور منقول میں قبضہ نقل، یعنی دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، لہذا اسی منقول میں انتقال قبضہ شمار کیا جائے گا۔

وقال المالکیہ والشافعیہ ، قبض العقار کالارض والبناء و نحوهما يكون بالشخليۃ بين المبيع وبين المشتری وتمکنه من التصرف فیه بتسلیم المفاتیح ان وجدت ، وقبض المنقول كالامتعة والأنعام والدواب بحسب العرف الجاری بين الناس .

مالکیہ اور شوافع نے کہا کہ عقار، مثلاً زمین مکان وغیرہ کا قبضہ بیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ اور بیع میں

تصرف پر قدرت دینے سے ہو جاتا ہے، مثلاً چاہیاں موجود ہوں تو ان کے حوالہ کرنے سے، اور منقول میں بھی، مثلاً سامان چوپائے اور جانور اس عرف کے اعتبار سے ثمار ہو گا جو لوگوں کے درمیان رائج ہو۔

وقال الحابله قبض کل شی بحسبہ فان كان مکیلاً او موزونا فقبضہ بکله وزنه ای  
أله يجب الرجوع في القبض إلى العرف (الفقه الإسلامي ۳۱۹/۳)۔

اور حابله نے کہا: ہر چیز کا قبضہ اس کے لحاظ سے ہو گا، اگر مکیلی، یا موزونی ہے تو اس کا قبضہ کیل اور وزن سے ہو گا، یعنی قبضہ کے سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

علامہ نووی "مہدیب" کی مذکورہ عبارت کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:

وأما الأحكام فقال أصحابنا، الرجوع في القبض إلى العرف وهو ثلاثة أقسام، أحدها العقار والشمر على الشجرة فقبضه بالتخلية، والثانى ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان ولحوها، فقبضه بالنقل إلى مكان الخ، والثالث ما يتناول باليد كالدراجم والدناير والمنديل والثوب والإماء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتناول بلا خلاف الخ. (مجموع شرح المہدیب ۳۰۱/۹)۔

رہے عبارت مذکورہ میں بیان کردہ احکام تو ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ قبضہ کے سلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ تین قسم ہے، ایک یہ کہ عقار اور درخت کے اوپر بھل تو ان کا قبضہ "تخليہ" سے ہوتا ہے، دوسرا یہ وہ چیز جو عموماً منتقل کی جاتی ہیں، جیسے لکڑیاں، غلے اور محصلیاں وغیرہ، تو ان میں قبضہ دوسرے مکان کی طرف منتقل کرنے سے ہو گا، اور تیسرا یہ چیزیں جو ہاتھ سے لی جاتی ہیں، مثلاً دراجم، دناير (روپے پیسے) تو یہ، کپڑا، بلکہ برتن اور کتاب وغیرہ، تو ان چیزوں میں قبضہ بالاتفاق تناول سے ہو گا۔

الحاصل مالکی، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں قبضہ کے سلسلہ میں عرف کا لحاظ ہے، جن چیزوں میں تخلیہ کو قبضہ سمجھا جاتا ہے ان میں قبضہ کیلئے تخلیہ کافی ہے، اور جن چیزوں میں انتقال کو قبضہ شمار کرتے ہیں ان میں منتقل کرنے کو قبضہ کہا جائے گا، اور جن چیزوں میں قبضہ "تناول باليد" سے ہوتا ہے ان میں "تناول باليد" کو قبضہ گردانا جائے گا۔

احتلاف کے نزدیک قبضہ کی حقیقت کی تعریف کیلئے لفظ کی طرف رجوع کیا گیا ہے کہ لفظ میں تسلیم اور قبضہ کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ ہر اصطلاحی معنی میں لغوی معنی مخوذ ہوتا ہے۔

ملک العلماء علامہ کاسانی قبضہ کی تعریف ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں:

أما تفسير التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبیع والمشتري برفع الحال بینهما على وجه يمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبیع والمشتري قابضالله (البدائع الصنائع ۲۲۲/۵)۔

جبکہ تسلیم اور قبضہ کی تفسیر کا تعلق ہے تو ہمارے نزدیک تسلیم اور قبضہ یہ تخلیہ اور تخلیہ یہ ہے

کہ بالع میع اور مشتری کے درمیان سے ہٹ جائے، دونوں کے درمیان سے ماٹ کو اس طرح دور کر دے کہ مشتری اس میں اتصاف پر قادر ہو جائے تو بالع کو میع حوالہ کرنے والا اور مشتری کو اس پر قبضہ کرنے والا شمار کیا جائے گا۔

اس کے بعد علامہ کاسانی نے قبضہ اور تسلیم کی اس تفسیر کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ احتفاف کے بیان تسلیم اور قبضہ کی مذکورہ تفسیر کیوں ہے۔

ولنا ان التسلیم فی اللغة عبارۃ عن جعله سالما خالصا یقال سلم فلان لفلان أى خلص له و قال الله تعالى: "ورجلا سلما للرجل" أى سالما خالصا لا يشركه فيه أحد فتسلیم المیع الى المشتری هو جعل المیع سالما للمشتري أى خلص له بحيث لا ينزع عنه فيه غيره وهذا يحصل بالتخليبة فكانت التخلية تسلیما من البالع و التخلیة فیضا من المشتری (ایضا)۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تسلیم لغت میں شی کو سالم اور خالص بنادینے کا نام ہے، کہا جاتا ہے: "سلم فلان خلان" یعنی فلاں آدمی فلاں کے لئے خالص ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "ورجلا سلما للرجل" یعنی ایک آدمی جو خالص ایک ہی کے لئے ہو کوئی اس میں اس کا شریک نہ ہو، لہذا میع کو مشتری کے حوالہ کرنا یہ میع کو مشتری کے لئے سالم، یعنی اس طرح خالص کر دینا کہ اس میع کے سلسلہ میں اس سے کوئی منازعہ نہ گرے، اور یہ تخلیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا تخلیہ بالع کی جانب سے تسلیم اور تخلی مشتری کی طرف سے قبضہ ہو گا۔

علامہ کاسانی کی اس عبارت میں وضاحت ہے کہ احتفاف نے تسلیم اور قبضہ کے شرعی معنی کی تعین کے لئے لغوی معنی کا اعتبار کیا ہے، یعنی لغت میں تسلیم کے کیا معنی ہیں، اور اس معنی لغوی کے اعتبار سے "تسلیم المیع" کے کیا معنی ہوں گے، اور یہ مفہوم کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے، چونکہ تخلیہ سے وہ لغوی مفہوم حاصل ہو جاتا ہے اس لئے احتفاف نے تخلیہ کو تسلیم میع کا شرعی مفہوم قرار دیا اور اس تخلیہ کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے "تخلی" کو مشتری کی طرف سے قبضہ قرار دیا، لہذا احتفاف کے نزدیک تخلیہ سے قبضہ حاصل ہو جائے گا۔

علامہ کاسانی نے تخلیہ سے قبضہ کے حصول کی ایک وجہ بیان کی ہے:

لأن التسلیم واجب و من عليه الواجب لا بد أن يكون له سیل الخروج عن عهدة ما وجب عليه و الذي في وسعه هو التخلية ورفع العوانع فاما الإقاض فليس في وسعه لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقاض فلو تعلق و جوب التسلیم به يتعدى عليه الوفاء بالواجب و هذا لا يجوز (ایضا)۔

اس لئے کہ تسلیم واجب ہے اور جس پر واجب ہے اس کے لئے اس واجب سے اپنے ذمہ کو فارغ کرنے کے لئے کوئی راستہ ہونا ضروری ہے اور جو چیز اس کی قدرت میں ہے وہ تخلیہ اور موانع کو دور کر دینا ہے، اقباط (قبضہ کرنا) یہ اسکی قدرت میں نہیں ہے اس لئے کہ ہاتھوں سے لینا یہ قابض کا اختیاری فعل ہے، اگر و جوب تسلیم کا تعلق اس فعل اختیاری سے ہو تو (تسلیم کرنے والے پر) واجب کو پورا کرنا محدد رہو جائیگا اور یہ جائز نہیں ہے۔

یعنی تخلیہ کو حکما قبضہ قرار دیا گیا اس لئے کہ بائع یا ہر وہ شخص جس کے ذمہ تسلیم واجب ہے اسکی قدرت میں "اقباض" یعنی قبضہ کرنا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ "قبض بالیہ" قابض کا اختیاری فعل ہے، اس میں تسلیم جس پر واجب ہے اس کا کوئی اختیار نہیں تو اگر وہ جو پ تسلیم کو اس اقباض کے ساتھ متعلق کیا جائے، یعنی اس پر "اقباض" واجب کیا جائے تو یہ "تکلیف مالا بیطاق" یا "تکلیف بقدرة الغیر" ہو گا اور یہ جائز نہیں، لہذا وہ چیز جو اس کے بس اور قدرت میں ہے اور وہ تخلیہ ہے اس کو اسی کام مکلف بنایا گیا، تاکہ اس سے وہ اپنے ذمہ کو واجب سے فارغ کر سکے۔

### تخلیہ کی حقیقت:

جس تخلیہ کو حکما قبضہ قرار دیا گیا ہے اسکی حقیقت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور آیا ہر چیز کے اندر تخلیہ کی ایک ہی صورت ہو گی یا اشیاء کے اعتبار سے تخلیہ کی مختلف صورتیں ہوں گی؟

علام ابورشاہ شمسیری نے قبضہ کے تحقیق کو بیان کرتے ہوئے تخلیہ کی حقیقت ان الفاظ میں ذکر کی ہے:

فَاعْلَمُ أولاً أَنَّ الْقِبْضَ فِي الْمُنْقُولَاتِ لَا يَسْتَحْقِقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا بِالنَّقلِ وَ التَّحْوِيلِ ،  
وَعِنْدَنَا بِالْتَّخْلِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِيِّ أَمَا أَنَّ التَّخْلِيَّةَ مَاذَا هِي؟ فَهَذَا مَا لَا يَكُادُ يَنْصِبُطُ إِلَّا بَعْدَ  
النَّظَرِ إِلَى الْجُزْنِيَّاتِ شَيْئاً، وَمَعْنَاهَا عِنْدِنَا رفعُ عَلَاقَةِ مَلْكَهُ وَتَمْكِيَّهُ لِلْمُشْتَرِيِّ عَلَى أَنْ يَقْبِضَهُ،  
وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِالْفَعْلِ وَأَخْرَى بِالْقَوْلِ وَتَارَةٌ بِالْقُرْآنِ . (فیض الباری ۲۰۶/۳).

سب سے پہلے یہ جان لو کہ شوافعی کے نزدیک منقول چیزوں میں قبضہ نقل اور تحویل ہی کے ذریعہ پایا جائے گا، اور ہمارے احتساب کے نزدیک میں اور مشتری کے درمیان تخلیہ سے بھی قبضہ متحقق ہو جائے گا، ہاں تخلیہ کیا چیز ہے تو اس کا بیان کرنا مشکل ہے الیک کہ جزئیات میں کچھ نظر کی جائے، اور میرے نزدیک تخلیہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کے تمام تعلقات کو ختم کر کے مشتری کو قبضہ پر قدرت دے دینا، کبھی یہ فعل ہو گا، کبھی قول ہو گا اور کبھی قرآن سے۔

علامہ کاسانیؒ نے ایک دوسری جگہ قبضہ کا معنی ذکر کیا ہے جس سے اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے:

لأنَّ معنَى القبضِ هو التَّمْكِينُ والتَّخْلِيَّ وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عِرْفًا وَعَادَةً وَحَقْيقَةً (البدائع و الصنائع ۵/۱۳۸).

قبضہ کے معنی تمکین، تخلیہ اور عرف و عادت اور حقیقت کے اعتبار سے جتنے موافع ہوں سب کو درکرنا ہے۔

"درمختار" میں ہے کہ تسلیم تخلیہ سے اس وقت حاصل ہو گا جب مشتری قبضہ پر قادر ہو جائے، قبضہ سے کوئی مانع اور حائل نہ ہو:

ثُمَّ التَّسْلِيمُ يَكُونُ بِالْتَّخْلِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَبْضِ بِلَا مَانِعٍ وَلَا حَائلٍ وَشَرْطٍ فِي  
الْإِجْنَاسِ شَرْطًا ثالثًا وَهُوَ أَنْ يَقُولُ: خَلِيلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَيْعَ (الدر المختارہا مش علی روالمختار).

پھر تسلیم تخلیہ سے اس طرح حاصل ہو گا کہ مشتری قبضہ پر قادر ہو جائے بلا کسی مانع اور حائل کے اور اجتناس میں ایک تیری شرط یہ بھی ہے کہ بائع "خلیل بینک و بین المیع" کہے۔

"بلا مانع ولا حائل" کی وضاحت علامہ شامی "نے اس طرح فرمائی ہے:  
 (قوله بلا مانع) بآن یکون مفرزا غیر مشغول بحق غیرہ (و قوله ولا حائل) بآن یکون  
 فی حضرته (ایضاً).

مانع نہ ہو، یعنی میمع الگ ہو کسی غیر کے حق میں مشغول نہ ہو، اور حائل نہ ہو یعنی مشتری کے سامنے ہو۔  
 "اجناس" ناطقی نے جو تیری شرط تخلیہ کی ذکر کی ہے علامہ انور شاہ کشمیری اس شرط کے متعلق فرماتے ہیں:  
 و شرط فی اجناس الناطقی اُن يقول باللسان: "حلیت بیه و بیک" وغیر ذلك مما  
 یؤدی مُؤدَاه و لیس بضروری عدی و هذا الشرط لم ارہ عدد غیرہ (فیض الباری ۳/۲۰۶).

اور ناطقی کے اجناس میں تیری شرط ذکر کی گئی ہے کہ بالع زبان سے کہہ "حلیت بیه و بیک" یا  
 اسکے علاوہ کوئی دوسرا جملہ جو اس مفہوم کو ادا کر رہا ہو، اور یہ میرے نزدیک ضروری نہیں، اور یہ شرط میں نے ان کے علاوہ  
 کے یہاں نہیں دیکھی۔

صاحب "در مختار" نے تخلیہ کے قیود میں سے "لا حائل" پر تغیری کرتے ہوئے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر میمع  
 مشتری کے سامنے نہ ہو بعد ہو تو صحیح قول کے مطابق مشتری قابض نہیں ہو گا، علامہ شامی "نے اس صحیح قول کے مقابل جو  
 دوسرے قول ہے اس کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

(قوله على الصحيح) و هو ظاهر الرواية و مقابلة ما في المحيط و جامع شمس الأئمة  
 انه بالتلخالية يصح القبض وإن كان العقار بعيداً عنهما عند أبي حنيفة خلافاً لهما و هو  
 ضعيف كما في البحر ، وفي الخانية وال الصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريباً  
 يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فلتقيم التخلالية مقام القبض ، أما إذا كان بعيداً لا يتصور  
 القبض في الحال فلاتقيم التخلالية مقام القبض (شامی ۲۳/۲۳).

صحیح قول ظاهر الروایہ ہی ہے اور اس کے مقابلہ وہ قول ہے جو محيط اور شمس الانہ کے جامع میں ہے کہ تخلیہ  
 سے قبضہ ہو جائے گا، اگرچہ عقار بعید، عاقدین کی نظر وہ اوجھل ہو، امام ابوحنیفہ کے نزدیک، برخلاف صاحبین  
 کے قول کے، اور محيط وغیرہ کا یہ قول ضعیف ہے، جیسا کہ بحر میں ہے، اور خانیہ میں ہے کہ صحیح وہی قول ہے جو ظاهر الروایہ  
 میں مذکور ہے، اس لئے کہ جب عقار قریب ہو تو اس میں فی الحال حقیقی قبضہ کا تصور ہو سکتا ہے، لہذا تخلیہ کو قبضہ کے قائم  
 مقام گردانا جائے گا، لیکن جب دور ہو تو فی الحال اس میں قبضہ کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لئے تخلیہ اس صورت میں قبضہ کے  
 قائم مقام نہیں ہو گا۔

مطلوب یہ کہ صاحبین کا قول جو ظاهر الروایہ میں ہے وہی صحیح ہے، اور خانیہ کی عبارت سے اس صحبت کی وجہ  
 اور علت یہ معلوم ہوئی کہ تخلیہ کے قبضہ کے قائم مقام ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ عقد کے بعد فی الحال اس میں اگر قبضہ  
 حقیقی کا تصور ہو سکتا ہے تو تخلیہ قبضہ کے قائم مقام ہو گا، ورنہ اگر فی الحال قبضہ حقیقی کا تصور نہ ہو تو تخلیہ قبضہ کے قائم مقام

نہیں ہوگا، عقار کے قریب ہونے کی صورت میں چونکہ فی الحال قبضہ حقیقی ہو سکتا ہے، لہذا اس صورت میں تخلیہ قبضہ کے قائم مقام ہوگا اور دوسری صورت میں جب عقار دور ہوتا فی الحال قبضہ حقیقی کا تصور نہیں ہے اس لئے تخلیہ قبضہ کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

صاحب "فیض الباری" نے تخلیہ کی حقیقت کو چند جزئیات سے واضح کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے:

و بالجملة أن القبض في البيع والهبة والرهن يتحقق عندنا بالتخلية والمكنته على القبض ولا يحتاج إلى القبض الحسى أو النقل (فیض الباری ۲۰۶/۳)۔

خلاصہ یہ کہ قبضہ بیع، هبة اور رہن میں ہمارے نزدیک تخلیہ اور قبضہ پر قدرت سے متحقق ہو جائے گا، قبضہ حسی یا نقل کی ضرورت نہیں ہے۔

علامہ شامیؒ اس تخلیہ کی جس سے قبضہ پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے چند صورتیں ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

و حاصله أن التخلية قبض حکما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع (شامی ۲۳/۲۳).

حاصل یہ کہ تخلیہ حکما قبضہ ہے، اگر بلا مشقت قبضہ پر قدرت حاصل ہو، لیکن یہ قبضہ حکمی بیع کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔

### تخلیہ قبضہ تام ہے یا ناقص:

تخلیہ (جس سے بلا مشقت قبضہ پر قدرت حاصل ہو جائے) کے حکما قبضہ ثابت ہو جانے کے بعد دو مسئلے اور زیر بحث رہ جاتے ہیں: (۱) تخلیہ قبضہ تام ہے یا نہیں، (۲) جواز تصرف کے لئے قبضہ تام ضروری ہے یا مطلقاً قبضہ تصرف کے جائز ہونے کیلئے کافی ہے۔

اس بحث کو علامہ کاسانیؒ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، دوسرے حضرات نے بھی علامہ موصوف سے اس بحث کو نقل کیا ہے، مثلاً صاحب اعلاء السنن ہیں۔

اول الذکر مسئلہ سے متعلق علامہ کاسانیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمام اختلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام اموال میں تخلیہ سے اصل قبضہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ تخلیہ قبضہ تام ہے یا نہیں۔

تم لا خلاف بین أصحابنا فی أن أصل القبض يحصل بالتخلية فی سائر الأموال و اختلفوا فی أنها هل هي قبض تام أم لا (بدائع ۵/۲۲۲)۔

تمام اختلاف کے مابین اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ تمام احوال میں تخلیہ سے اصل قبضہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ تخلیہ قبضہ تام ہے یا نہیں۔

اس کے بعد اس اختلاف کا حاصل ذکر فرمایا ہے جس کو انہی کی عبارت میں ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا

و جملة الكلام فيه أن المبيع لا يخلو إما أن يكون له مثل و إما أن يكون مما لا مثل له فإن كان مما لا مثل له من المدروقات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض قام بلا خلاف وإن كان مما له مثل فإن باعه مجازفة فكذلك لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة، وإن باع مكافلة أو موازنة في السكيل والموزون وخلى فلا خلاف في أن المبيع يخرج من ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتري ولا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه والانسحاب به قبل الكيل والوزن لعدم القبض بانعدام الكيل أو الوزن أو شرعاً غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخلية (ملخص من البدائع ۲۲۲/۵).

حاصل يكفي جميع وسائل سهولة ثبات، مثل: هوكى وانجى مثل، أگر غیر مثل ندویات متساوية میں سے ہو تو بلا اختلاف تخلیہ اس میں قبضہ تام ہے (تخلیہ سے بیع بالغ کے ضمان سے نکل جائے گی اور مشتری کے لئے زرع اور شمار سے پہلے اس کو بینچنا اور لفظ انحصاراً جائز ہے) اور اگر بیع مثلی ہے اور اس کی بیع جزاً فائدی ہوئی ہے تو بھی بھی حکم ہے (تخلیہ سے بالاتفاق قبضہ حاصل ہو جائے گا) اس لئے کہ بیع جزاً فائدی مقدار کی معرفت معتبر ہیں ہوتی، لیکن اگر کیلی یا وزنی جیز کو کیل یا وزن کے شرط کے ساتھ فروخت کیا اور تخلیہ کردیا تو اس مسئلہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیع بالغ کے ضمان سے خارج ہو جائے گی اور مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائے گی، اور اسی طرح اس میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ مشتری کے لئے کیل یا وزن سے پہلے اسکا فروخت کرتا یا اس سے انتقال جائز نہیں ہے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ تصرف کی حرمت کیل یا وزن کے نہ پائے جانے کی وجہ سے قبضہ کے معدوم ہونے کی بنا پر ہے یا تخلیہ سے قبضہ تام حاصل ہو جانے کے باوجود تصرف کی حرمت شرعاً غير معقول المعنى ہے۔

اس کے بعد علامہ کاسانی شافعی اخناف کا یا اختلاف تحریر فرماتے ہیں:

قال بعض مشائخنا إنها تشت شرعاً غير معقول المعنى، وقال بعضهم الحرمة لمكان انعدام القبض على التمام بالكيل أو الوزن و كما لا يجوز التصرف في المبيع المنقول بدون قبضه أصلاً لا يجوز بدون قبضه بتمامه (ایضاً)

بعض مشائخ اخناف کا قول یہ ہے کہ تصرف کی حرمت کا ثبوت شرعاً غير معقول المعنى (امر تعبدی) ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ کیل یا وزن کے ذریعہ قبضہ تام کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہے اور جس طرح منقول بیع کے اندر اصل قبضہ کے بغیر تصرف ناجائز ہے، قبضہ تام کے بغیر بھی ناجائز ہے۔

پھر مشائخ کی دونوں جماعتوں کی ولیل ذکر فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

وجه قول الأولين ما ذكرنا أن معنى التسلم و التسليم يحصل بالتخلية لأن المشتري يصر سالماً حالصاً للمشتري على وجه يتهيأ له تقليه و التصرف فيه على حسب مشيته و ارادته

، ولهذا كانت التخلية تسلیماً و قبضاً فيما لا مثيل له و فيما له مثل إذا بيع مجازفة دل أن التخلية قبض إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبداً غير معقول المعنى والله عز وجل أعلم . وجه قول الآخرين تعليل محمد في هذه المسألة في كتاب البواع فاته قال ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل الكيل لأنها باعه قبل أن يقبضه ولم يرد به أصل القبض والدليل على أن الكيل والوزن في المكيل والموزون الذي بيع مكافلة وموازنة من تمام القبض أن القدر في المكيل والموزون معقود عليه الآتى أنه لا كيل فازداد لا تطيب له الزبادة بل تزداد يفرض لها ثمن ولو نقص يطرح بحصته شيء من الشمن ولا يعرف القدر فيهما إلا بالكيل والوزن لاحتمال الزبادة والنقصان فلا يتحقق قبض القدر المعقود عليه إلا بالكيل والوزن فكان الكيل و الوزن فيه من تمام القبض (ص ۲۲۵).

اول الذکر مشائخ کے قول کی دلیل وہی چیز جو ہم نے ذکر کی کہ تسلیم اور تسلیم کا معنی تخلیہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے کہ خریدی ہوئی چیز مشتری کے لئے اس طرح خالص ہو گئی کہ وہ اس میں اپنے ارادہ اور مٹا کے مطابق تصرف کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے تخلیہ غیر مثالی چیز اور اس مثالی میں جس کو جزا فایجا چا جائے قبضہ شمار ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ تخلیہ قبضہ ہے، مگر قبضہ تام کے پائیے جانے کے باوجود تصرف حرام ہے، اس لئے کہ حرمت کا ثبوت تعبدی ہے، یعنی غیر معقول المعنى ہے اسکی حرمت کی شرعاً کوئی علت نہیں بیان کی گئی ہے اور اللہ عز وجل اعلم۔ دوسرے حضرات کے قول کی دلیل کتاب البواع میں اس مسئلہ میں امام محمدؐ کی تعلیل ہے، کیونکہ امام محمدؐ نے فرمایا کہ مشتری کے لئے کیل سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس نے اس کو قبضہ سے پہلے فروخت کیا ہے، امام محمدؐ کی مراد اس سے اصل قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبضہ تام مراد لیا ہے اس لئے کہ اصل قبضہ تو موجود ہے، اور اس کی دلیل کہ مکملی اور موزوںی چیز میں مقدار معقود علیہ ہے، کیونکہ دیکھئے صورت مذکورہ ہی میں اگر مبعنی کو کیل کیا گیا اور مبيع زائد نکلی تو یہ زیادتی مشتری کے لئے طیب نہیں ہے، بلکہ یا تو واپس کر دے یا اسکے عوض شمن مقرر کرے، اور اگر مبعنی کم نکلی تو شمن سے اتنی مقدار وضع کر دی جائے گی (لہذا مقدار معقود علیہ ہے) اور ان دونوں زیادتی اور کمی کے احتمال کی وجہ سے مقدار کو کیل اور وزن ہی سے جانتا جا سکتا ہے، لہذا معتقد علیہ کی مقدار پر قبضہ کیل اور وزن کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا، لہذا اس میں کیل اور وزن قبضہ کے امکان اور اتمام میں سے ہو گا۔

اس اختلاف کا حاصل یہ ہوا کہ بعض مشائخ کے نزدیک تو تخلیہ سے قبضہ تام متحقق ہو جاتا ہے، خواہ مبعنی مثالی ہو یا غیر مثالی، اور مثالی ہونے کی صورت میں بیع مجاز فہمہ ہو یا کیل و وزن کی شرط کے ساتھ، لیکن جب مبعنی مثالی ہو اور بیع کیل اور وزن کی شرط کے ساتھ ہوئی ہو تو قبل الکیل والوزن اس بیع میں تصرف جائز نہیں، اس لئے کہ احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لہذا اشريعۃ کے اس حکم کی وجہ سے محض تعبد اس میں تصرف منوع ہو گا، ہاں مشتری کے ضمان میں وہ مبعنی آجائے گی۔

ووسرے بعض مشائخ کی رائے ہے کہ اگر بیع غیر مثلى مدد و دعات اور مدد و دعات متفاوت میں سے ہے یا مثلی ہے لیکن بیع کیل یا وزن کی شرط کے ساتھ نہیں ہوتی ہے تو تخلیہ سے قبضہ تام حاصل ہو جائے گا اور اس میں اس کے لئے ہر طرح تصرف کرنا اور انفاس جائز ہو گا، لیکن اگر بیع مثلى ہے اور بیع کیل اور وزن کی شرط کے ساتھ ہوتی ہے تو محض تخلیہ سے قبل الکیل والوزن قبضہ تام حاصل نہیں ہو گا، لہذا کیل اور وزن سے پہلے اس میں تصرف جائز نہیں ہو گا، علامہ کاسانی کے نزدیک یہ قول راجح ہے اسی لئے اول اللہ کر حضرات کی دلیل کا ان کی دلیل کے تحت جواب بھی دیا ہے۔

نیز ان عبارتوں سے دوسرا مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ مشائخ کی دونوں جماعتوں کے نزدیک قبضہ تام کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے جس طرح اصل قبضہ کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے، ہاں ایک جماعت نے تخلیہ کو مطلق قبضہ تام شمار کیا ہے اور دوسری جماعت نے ایک صورت میں تخلیہ کو قبضہ تام نہیں شمار کیا ہے، بلکہ تخلیہ سے محض قبضہ محقق ہو گا، اور کیل وزن سے قبضہ تام ہو جائے گا۔

### ۳۔ قبضہ کی نوعیت میں اختلاف:

تمام ائمہ کرام کے نزدیک اشیاء کے اعتبار سے قبضہ کی نوعیت میں اختلاف ہو گا، اختلاف کے نزدیک بھی اگرچہ تمام اموال میں تخلیہ سے قبضہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن جیسی کی حالت کے اعتبار سے تخلیہ کی نوعیت مختلف ہو گی، جیسا کہ شامی کے حوالہ سے ماقبل میں یہ بات گذر چکی ہے۔

و حاصله أَن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف  
بحسب حال المبيع

حاصل یہ کہ تخلیہ حداقت قبض ہے اگر بلا مشقت، کافیت قبضہ پر قدرت حاصل ہو جائے، لیکن یہ قبضہ حکمی جمع کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہو گا۔

اس کے بعد علامہ شامی نے کچھ امثلہ اور جزئیات اس اختلاف کی وضاحت کیلئے ذکر کی ہیں۔

ففی نحو حنطة فی بیت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض ، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أى بان تكون في البلد فيما يظهر وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحیث يرى و يشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحیث لم يده تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أحده منه بلا معین قبض (شامی ۲۳/۲)۔

لہذا گیوں یا اس طرح کی چیز جو گھر میں ہو کنجی کا دینا جب کہ اس سے بلا مشقت کھولنا ممکن ہو قبضہ ہے، اور دار کے مانند چیز میں اس کے بند کرنے پر قدرت کا ہونا قبضہ ہے، اس طرح کہ وہ اسی شہر میں ہو، اور گائے، نیل وغیرہ جو چڑاگاہ میں ہوں ان کا اس طرح ہونا کہ وہ نظر آرہے ہوں ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہو قبضہ ہے، اور کپڑے وغیرہ میں کپڑے کا اس طرح ہونا کہ اگر ہاتھ بڑھایا جائے تو ہاتھ پر ہو نجی جائے قبضہ ہے، اور گھوڑے یا پرندے وغیرہ میں جو گھر کے اندر ہوں بلکہ کسی مدھگار کے گھر سے ان کے کپڑے نے کاممکن ہونا قبضہ ہے۔

اور ائمہ تلاش کے نزدیک عرف کے اختلاف سے قبضہ کی نوعیت مختلف ہوگی، جیسا کہ ماقبل میں "المجموع" اور "الفقہ الاسلامی" وغیرہ کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔

نیز صاحب "بذل الجھود" نے خطابی کا قول ذکر کیا ہے:

قال الخطابی القبوض يختلف في الأشياء بحسب اختلافها في أنفسها ، فممنها ما يكون بآن بوضع المبيع في يد صاحبه ومنها ما يكون بآن يكتال وذلك فيما بيع من الكيل كيلاً فاما ما يباع منه جزافاً صبرة مصبوبة على الأرض فالقبض أن ينقل ويتحول من مكانه (بذل الجھود) ۲۸۲/۲

علامہ خطابی نے فرمایا کہ اشیاء کی ذات میں اختلاف کے اعتبار سے قبضہ بھی مختلف ہوتا ہے، قبضہ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بیع مالک کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، اور بیع مشتری کے درمیان تخلیہ سے بھی قبضہ ہو جاتا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بیع کو اس کی جگہ سے منتقل کر دیا جائے، اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ کیل کرنے سے قبضہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس صورت میں جب کہ کسی مکملی شی کو کیل کی شرط پر بیچا جائے، لیکن اس صورت میں جب جزا فاز میں پر لگے ہوئے ذہیر کے اعتبار سے فروخت کیا جائے تو پھر قبضہ منتقل کرنے سے ہو گا۔

### ۳۔ بیع قبل القبض کی ممانعت سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں:

حضرت ابن عباسؓ سے اس نبی کے سبب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ربا ہے

و سئل عن ابن عباس عن سبب هذا النهي فقال الدراهم بالدراهم والطعام ربا ، قال الشوكاني وذلك لأنه إذا اشتري طعاما بمائة دينار و دفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر فكانه اشتري منه بذهبه ذهبا أكثر (اعلاء السنن ۱۲/۲۲۵).

حضرت ابن عباسؓ سے اس نبی کے سبب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: دراهم دراهم کے بد لے ہوئے اور غلہ رہا ہے، شوکانی نے کہا اور وہ اس لئے کہ اس نے (مشتری) جب سو دینار میں غلہ خریدا اور سو دینار بائع کو دیدیا، اور غلہ پر قبضہ نہیں کیا پھر غلہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو گویا اس مشتری نے بائع سے اپنے سونے کے بد لے زیادہ سونا خریدا۔

علامہ شوکانی اس تعلیل کے بارے میں فرماتے ہیں:

وهذا التعليل أجود مما علل به النهي لأن الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ﷺ (إيضاً).

یہ تعلیل دوسری تمام تعلیلیوں سے عمدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دواع المحتالین کے مقاصد سے زیادہ واقف ہیں۔

مسلم شریف میں حضرت ابن عباسؓ کے اس قول "الدرارهم بالدرارهم والطعام ربا" کے بجائے "الاراهم انهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا" کے الفاظ ہیں، لیکن ان کا بھی وہی مطلب ہے کہ "بع الشی قبل القبض بع الذهب بالذهب متفاصل" کو مختصمن ہے جو ربا ہے یعنی "ربا بالتفاصل" ہے، جیسا کہ صاحب فتح الباری حافظ ابن حجرؓ نے ذکر کیا ہے (فتح الباری ۲۵۳/۵).

صاحب ہدایہ نے شیخینؓ کے قول "بع العقار قبل القبض" کے جواز کی دلیل بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے

والغرض المتهى عنه غرر انفاسخ العقد والحديث معلول به (قال ابن الهمام)  
والحديث الذى استدل به معلول به أى بغرض الانفاسخ (فتح القدر ۲۶۶/۵).

جس غرر سے منع کیا گیا ہے وہ عقد کے فتح ہونے کا غرر ہے، اور حدیث (بع قبل القبض عدم جواز کی) اسی غرر کے ساتھ معلول ہے، ابن همام نے کہا: وہ حدیث جس سے استدلال کیا گیا غرر انفاسخ کے ساتھ معلول ہے۔  
یعنی شیخینؓ کے نزدیک بع قبل القبض کی ثبیت سے متعلق احادیث معلول "بعثة غرر الانفاسخ" ہیں، لہذا عقار کی بع قبل القبض غرر انفاسخ کی علت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک جائز ہوگی، اور محمد عقار کی بع قبل القبض ناجائز قرار دیتے ہیں امام ابو یوسفؓ کا بھی یہی قول اول تھا، کیونکہ عدم جواز کا حکم منقول اور غیر منقول دونوں کو عام ہے اس وجہ سے کہ ثبیت کی علت "بع قبل القبض" کا "ربح مالم يضمن" کو مختصمن ہوتا ہے جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

صاحب اعلام اسنن تحریر فرماتے ہیں:

ثم أبو حنيفة قصر الحكم على المنقول وغير المنقول، واحتج أبو حنيفة بأن الحكم معلل بغرض انفاسخ العقد بهلاك المبيع والهلاك في غير المنقول نادر والنادر كالمعدوم وقال أصحابه، إنه إن لم يكن فيه غرر الانفاسخ ففي بيعه قبل القبض ربح مالم يضمن وهو منهى عنه.

پھر امام ابو حنیفؓ نے حکم کو منقول پر محصر کیا ہے اور صاحبینؓ منقول اور غیر منقول میں حکم کے عام ہونے کے قائل ہیں، امام ابو حنیفؓ نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ حکم (عدم جواز بع قبل القبض) معلل ہے بیع کی بلاکت کی وجہ سے عقد کے فتح ہو جانے کے غرر اور اندریش کے ساتھ، اور بلاکت غیر منقول میں نادر ہے اور نادر کا المعدوم ہے، اور صاحبینؓ نے فرمایا کہ اگرچہ اس میں غرر انفاسخ نہیں ہے لیکن عقار کے قبل القبض بع میں "ربح مالم يضمن" ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ امام ابو یوسفؓ کا یہ قول اول ہے، قول ثانی اور آخر میں امام صاحب کے ساتھ ہیں، جیسا کہ صاحب فتح القدر نے ذکر کیا ہے (فتح القدر ۲۶۵/۵).

بعض حضرات نے شیخین کے نزدیک بھی بیع قبل القبض کے عدم جواز کی بھی علت ذکر کی ہے کہ یہ "ربع ما لم یضم" کو مضمون ہے، پھر بیع العقار قبل القبض کے جواز کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے خان میں صرف وہ چیز آتی ہے جس میں ہلاکت کا اندر یا خارج ہو جس میں ہلاکت کا اندر یا خارج ہو جو مضمون نہیں ہوتی، اس میں بالائے اور مشتری دوں کا خمان برابر ہوتا ہے، اور عقار میں ہلاکت کا اندر یا خارج ہو جو مضمون نہیں ہوتی۔ اس میں بالائے بالاخانہ، تو اس کی بیع بھی قبل القبض جائز نہیں اس وجہ سے کہ ہلاکت کا اندر یا خارج ہے۔

"تملہ فتح الالمم" میں ہے:

وبعین هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى ، غير أنها  
يستثنى العقار من عموم النهي لأن علة النهي منافية فيه ، فإن الحديث الأخير ، حديث عبد الله بن  
عمرو ، دل على أن علة النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح ما لم یضم ، وإنما  
يضم الإنسان ما يخاف فيه ال�لاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لو كان العقار  
على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض (تملہ فتح الالمم ۲۵۳)۔

بعینہ ائمہ تینوں دلائل سے (جن سے امام شافعی اور امام محمد نے استدلال کیا ہے) امام ابوحنیفہ وابوسف  
نے بھی استدلال کیا ہے، مگر ان دونوں نے نبی کے عموم سے عقار کو مستثنی کیا ہے اس لئے کہ نبی کی علت اس میں موجود  
نہیں ہے، کیونکہ حدیث اخیر یعنی عبد اللہ بن عمر و کی حدیث اس بات پر وارد کرتی ہے کہ نبی کی علت بیع قبل القبض کا "ربح ما لم یضم" کو سکریم ہونا ہے، اور انسان صرف نہیں چیز والی کا خامن ہوتا ہے جس میں ہلاکت کا اندر یا خارج ہو،  
اور رہا عقار تو اس میں اس کا اندر یا خارج نہیں ہوتا الا شاذ و نادر، اگر عقار دریا کے کنارے ہے یا بیع اوپر کی منزل ہے تو اس کی  
بیع قبل القبض جائز نہیں (اس لئے کہ اس میں ہلاکت کا اندر یا خارج ہے، لہذا یہ مضمون بھی ہوگی)۔

صاحب "الفقہ الاسلامی و ادله" نے ائمہ کرام کے مذاہب اور ہر ایک کے نزدیک نبی کی جو علت ہے اس کو  
ذکر کیا ہے:

والخلاصة ، أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر والعلة  
في منع بيع الطعام قبل قبضه عند المالكية هي أنه قد يتخذ البيع ذريعة للتوصيل إلى ربا النسيمة  
 فهو شبيه بيع الطعام فالطعام نماء في حرم سدا للدرائع ..

فالعلة في منع هذا البيع عند الحنابلة هي الغرر كالحنفية.

فالعلة في منع البيع عند الشافعية هي الغرر كالحنفية (الفقہ الاسلامی و ادله ۲۷۲، ملخصا)۔  
خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بیع اشیٰ قبل القبض کے عدم جواز کی علت غرر ہے، اور بیع الطعام قبل  
القبض کے منوع ہونے کی علت مالکیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس بیع کو کبھی ریاضۃ النسیمة تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا جاتا  
ہے، لہذا یہ "بیع الطعام بالطعام نماء" کے مشابہ ہے، لہذا سعد اللہ راجح اس کو حرام قرار دیا گیا، اور حنابلہ کے

نہ دیکھ اس بیع کے منوع ہونے کی علت غرر ہے احتاف کی طرح، اور شوافع کے نہ دیکھ بھی احتاف کی طرح اس بیع کے منوع ہونے کی علت غرر تی ہے۔

ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نبی سے متعلق احادیث معلوم ہیں، لیکن علت نبی میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، اس لئے کہ نبی کی کوئی علت حدیث پاک میں منصوص نہیں ہے، بعض علماء نے "ربع مالم بضم" سے مستلزم ہونے کو علت منصوصہ قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ بیع قبل القبض کے عدم جواز کی علت کے طور پر اس کی تصریح نہیں ہے، ہال دوسری حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، لیکن دوسری حدیث میں اس کی ممانعت ہونے اور بیع قبل القبض کے اس کو مستلزم ہونے کی وجہ سے اس کو علت منصوصہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لئے کہ پھر تو "ربا بالنسیۃ او التفاضل" اور "غیر" اس کی بھی ممانعت ہے اور بیع قبل القبض اس کو مستلزم ہے، لہذا یہ بھی علت منصوصہ ہوئی چاہئے، لہذا یہ سب اجتہادی اور غیر منصوص علیتیں ہیں، اور ہر امام نے اپنی اختیار کردہ علت کے اعتبار سے اس نبی میں استثناء یا تخصیص کی ہے اور دوسروں کے مسلک کے لحاظ سے وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔

صاحب "الفقہ الاسلامی" اپنے رجحان کو ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض کی ممانعت کی علت فتحہاء نہادہب کی ذکر کردہ علتوں کا مجموعہ ہے۔

نحن نرجح أن الحكمة في النهي أصلًا عن بيع ما لم يقبض هي أن هذا البيع يشبه الربا إذ أن المشترى إذا دفع دراهمه إلى البائع في سلعة، ثم عمد إليها فباعها قبل أن يقبضها فكانها دفع دراهمه واستفاد بها ربحا بمجرد دفعها إلى البائع دون القيام بعمل ما، وهذا شبه الربا ثم إن في هذا البيع غرراً لاشتاً عن عدم القدرة على التسليم وبه تكون علة النهي عن بيع الشيء قبل قصبه هو مجموع ما ذكره فقهاء المذاهب (٢٤٦-٢٤٥).

ہم راجح سمجھتے ہیں کہ "بيع مالم يقبض" سے نبی کی حکمت یہ ہے کہ یہ بیع "ربا" کے مشابہ ہے، اس لئے کہ جب مشتری نے اپنے دراہم بائع کو دیئے کسی سامان کیلئے، پھر اس سامان کا قصد کیا اور قبضہ سے پہلے ہی اس کو فروخت کر دیا تو گویا مشتری نے اپنے دراہم بائع کو دیئے اور شخص دینے سے اس سے نفع کیا، جب کہ اس میں کچھ کیا نہیں، اور یہ "ربا" کے مشابہ ہے، پھر اس بیع میں تسلیم پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے غرر بھی پیدا ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے "بيع الشيء قبل القبض" کے عدم جواز کی علت فتحہاء نہادہب کی ذکر کردہ علتوں کا مجموعہ ہوگی۔

مذکورہ تمام عبارتوں سے گرچہ یہ معلوم ہوا کہ بیع قبل القبض کی ممانعت معلول بالعلة ہے، لیکن علماء ابن العربي مالکی، "عارضة" (أ) حوزی شرح ترمذی "میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حکم غیر معلل ہے۔

اصل هذه المسائل أن البيع قبل القبض هل هو معلل أم لا وقد تقدم من كلامنا أنه غير معلل وإنما هو تعبد وقال أبو حبيفة لم يجز مالم يقبض للغير لأنه يخشى الفساح العقد بهلاكه (عارضۃ الاچوزی ۲۹۲/۵)۔

ان مسائل کی اصل یہ ہے کہ بیع قبل القبض (کی ممانعت) کیا معلل بالعلة ہے یا نہیں اور ما قبل میں ہمارے کام کے اندر یہ گذر پکا کہ یہ غیر معلل ہے اور یہ حکم تعبدی ہے، اور امام ابوحنفی نے فرمایا کہ قبض سے پہلے بیع جائز نہیں غرر کی وجہ سے، اس لئے کہ بیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے عقد کے شیخ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔  
الحاصل حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور عام ائمہ کرام کی رائے یہی ہے کہ یہ حکم معلل بالعلة ہے، ہاں تعین ملت میں اختلاف ہے۔

### بیع قبل القبض کے سلسلہ میں ائمہ کرامؐ کے مذاہب:

۵۔ علامہ نوویؒ نے "مجموعہ شرح المبہذ" میں ابن المنذرؓ سے اور "صاحب بذل الجھود" نے خطابی سے بیع قبل القبض کے سلسلہ میں علماء کے مذاہب نقل کئے ہیں، یہاں بذل الجھود سے عبارت نقل کی جا رہی ہے:  
قال الخطابی اجمع اهل العلم علی أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض و اختلفوا فيما عداه من الأشياء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلا الدور والأراضي فإن بيعها قبل قبضها وغير الطعام من السلعة والدور والعقار سواء لا يجوز بيع شيء منها حتى يقبض وهو قول ابن عباسؓ وقال مالك ابن أنس ما عدا المأكل والمشرب جائز أن يباع قبل أن يقبض وقال الأوزاعي وأحمد بن الحنبل وإسحاق يجوز بيع كل شيء منها خلا المكيل والموزون روی ذلك عن ابن المسيب والحسن بصری والحكم وحماد، انتہی (بذل الجھود ۲۸۲/۲)۔

علامہ خطابیؒ نے کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ غلہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، غلہ کے علاوہ دوسری اشیاء میں اختلاف ہے، امام ابوحنفہ اور امام ابویوسفؓ نے فرمایا کہ دار اور اراضی کے سوا غلہ کے علاوہ تمام چیزیں غلہ ہی کے درجہ میں ہیں، دار اور اراضی کی بیع قبل القبض جائز ہے، امام شافعیؓ اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ غلہ اور غلہ کے علاوہ تمام چیزیں، خواہ سامان ہو یا دار ہو یا عقار ہو سب برابر ہیں کسی چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں، حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے، امام مالکؓ نے فرمایا کہ مأکول اور مشرب کے علاوہ ہر چیز کی بیع قبل القبض جائز ہے، امام اوزاعیؓ، امام احمد بن حنبلؓ اور اسحاقؓ نے فرمایا کہ مکملی اور موزونی چیز کے علاوہ ان میں سے ہر چیز کی بیع جائز ہے، حضرت ابن المسيب، حسن بصری، حکم اور حمادؓ سے یہی قول مردوی ہے۔

یعنی بیع قبل القبض کے سلسلہ میں علماء کے چار مذاہب ہیں:

- ۱۔ امام ابوحنفہ اور امام ابویوسفؓ کے نزدیک عقار کے علاوہ کسی چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں۔
- ۲۔ امام شافعیؓ اور امام محمدؓ کے نزدیک کسی چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں، حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔
- ۳۔ امام مالکؓ کے نزدیک مأکول اور مشرب کی بیع جائز نہیں، اس کے علاوہ تمام چیزوں کی جائز

ہے۔

۲۔ امام اوزاعی، امام احمد بن حبیل اور اسحاق کے نزدیک مکملی اور موزوں کے علاوہ ہر چیز کی بیع قبل القبض جائز ہے، صرف مکملی اور موزوں چیز کی بیع قبل القبض جائز نہیں، حضرت سعید بن المسیب، حسن بصری، حکیم اور حماد سے بھی یہی مروی ہے۔

دلائل:

حضرت امام شافعی اور امام محمد اپنے مسلک پر حضرت حکیم، بن حزام اور زید بن ثابت کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، علامہ نووی "شرح مہذب" میں تحریر فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب (شافعی) نے حضرت حکیم بن حزامؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: نہ فروخت کرو جب تک کہ اس پر بقہٹ کرلو، اور یہ حدیث حسن ہے، جیسا کہ شروع فصل میں بیان گذر چکا اور زید بن ثابتؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامانوں کو فروخت کرنے سے خریدنے کے وقت منع فرمایا، جب تک کہ تاجران کو اپنے گھروں میں منتقل نہ کر لیں، ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ تقلیل کیا ہے (شرح مہذب ۲۹۶/۹)۔

امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک یہ روایتیں عام ہیں، لہذا یہ حکم عام ہو گا، اس میں تخصیص نہیں کی جائے گی، امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف نے بھی انہیں روایتوں سے استدلال کیا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ حکم عام نہیں، بلکہ "عام لم يخص منه البعض" ہے، ملحت ہی (قبض سے پہلے بیع کے بلاک ہو جانے کی وجہ سے عقد کے فتح ہو جائے کا اندازہ) کی وجہ سے یہ حکم منقول کے ساتھ خاص ہو گا، غیر منقول کی بیع قبل القبض جائز ہو گی، شیخین پر یہاں اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ نص تعلیل کے مقابلہ میں ہے، کیونکہ یہ تو نص کے عموم کی تخصیص ہے، لہذا قیاس اور معنی کو نص پر ترجیح دینا لازم آئے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔

صاحب فتح القدر نے یہ سوال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ یہ نص "عام خص منه البعض" ہے، لہذا اعلت کی وجہ سے مزید اس میں تخصیص ہو سکتی ہے، ہاں اگر یہ "عام لم يخص منه البعض" ہوتا تو اس میں تخصیص اور تعلیل جائز ہوتی، لہذا اعلت کی وجہ سے تخصیص کی جا سکتی ہے۔

نیز عقار کی قبل القبض بیع کے جواز پر دلیل وہ روایت بھی ہے جس کو صاحب "اغراء السنن" نے "شرح مہذب" کے حوالہ سے ذکر کیا ہے، لہذا اختلاف اس روایت کی وجہ سے بھی اس حکم کو منقول کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ امام مالکؓ اور ان کے موالی حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس، نیز حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں طعام کی بیع قبل القبض سے ممانعت ہے، اس طرح کہ طعام کی تخصیص اور تصریع اس بات کی دلیل ہے کہ طعام کے علاوہ کا حکم یہیں ہے۔

قالوا فالتصصیص فی هذه الأحادیث بدل على أنه غيره بخلافه (شرح المہذب ۲۹۶/۹)۔

انہوں نے کہا کہ ان احادیث میں طعام کی تصریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غیر طعام اس کے برخلاف ہے۔

نیز و راشت یادیت کے ذریعہ ملکیت میں آنے والی چیز پر قیاس سے بھی استدلال کرتے ہیں، نیز میج کے قبل القبض اعتاق اور اجارہ پر دینے کے جواز پر بھی قیاس کرتے ہیں۔

امام مالک کے ان روایتوں سے استدلال کا مطلب یہ ہوگا کہ طعام ان احادیث میں ماکول اور مشروب کے معنی میں ہے۔

بعض علماء نے امام مالک کا مذهب نقل کیا ہے کہ مکملی، موزونی اور معدودی کے علاوہ دوسری چیزوں کی بیع قبل القبض جائز ہے، یعنی امام احمد بن حنبل کا جو مذهب نقل کیا گیا ہے وہی امام مالک کا بھی ہے جیسا کہ تکمیل فتح الہمین میں ہے:

قال مالک إنما يمتع البيع قبل القبض في المكيل والموزون من الطعام خاصة وقال سحنون وأبي حبيب من المالكية، أنه يمتع في كل مكيل أو موزون أو معدود الخ (٣٥١/١)۔

اس قول کے اعتبار سے امام مالک کا استدلال اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا اپنے مذهب پر استدلال انہیں روایتوں سے ہوگا جن میں طعام کی قبل القبض بیع سے منع کیا گیا ہے، اس طرح سے کہ طعام سے مکملی یا موزونی چیز لیں گے، اور طعام کی تخصیص یہ دلیل ہے کہ غیر طعام کی بیع قبل القبض جائز ہے، جیسا کہ "المغنى" میں ابن قدامہ نے ذکر کیا ہے:

والذى يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وذلك لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فيفهم من هذا أن بيع ما سواه قبل قبضه مباح، والطعام في ذلك الوقت كان مستعملا غالبا فيما يأكل ويوزن وفيه عليهما المعدود والمزروع لاحتياجها عن توفيه (بحوال حاشية حلية العلوماء ٢/٨٧)۔

وہ چیز جس کی بیع قبل القبض ناجائز ہے وہ طعام ہے اور یہ اس لئے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے طعام کی بیع قبل القبض سے منع فرمایا ہے، لہذا اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ طعام کے علاوہ کی بیع قبل القبض جائز ہے، اور طعام اس وقت عموماً کمپلی اور موزونی چیز کیلئے استعمال کیا جاتا تھا، اور مکملی و موزونی پر معدود اور مزروع کو بھی قیاس کر لیا گیا، اس لئے کہ حق کی ادائیگی کیلئے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔

۶۔ کیا ضمان میں آجانا تصرف کے جواز کیلئے کافی ہے:

قبضہ کی حقیقت کی بحث میں (سوال کے جواب میں) یہ بات گذر چکی ہے کہ قبضہ کیلئے حصی یا نقل کی ضرورت نہیں ہے۔

ولا يحتاج إلى القبض الحسي أو النقل (فيض الباري ٢/٢٠٦)۔

یعنی تخلیہ سے قبضہ متحقق ہو جائے گا، جسی قبضہ یا نقل کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن محض ضمان میں آجائے کی وجہ سے انتفاع اور تصرف جائز ہوا یا بھی نہیں ہے، اس لئے کہ ما قبل میں قبضہ ہی کی بحث میں تخلیہ کے قبضہ تام یا ناقص ہونے کی تفصیل میں یہ بات گذرا چکی ہے کہ جس صورت میں تخلیہ سے قبضہ تام حاصل نہ ہو، بلکہ قبضہ ناقص ہی رہے تو ممیع مشتری کے ضمان میں تو آجائے گی، لیکن اس میں تصرف کرنا یا اس سے انتفاع قبضہ تام سے پہلے مشتری کیلئے جائز نہیں ہے۔

وَإِنْ بَاعَ مَكَايِلَةً أَوْ مُوزُونَةً فِي الْمَكِيلِ أَوْ الْمُوزُونِ وَخَلَى فَلَأَ خَلَافُ فِي أَنَّ الْمَبِيعَ يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَاعِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِيِّ وَلَا خَلَافُ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِيِّ بَعْدَهُ وَالانتِفَاعُ بَعْدَ الْكَبِيلِ وَالْوَزْنِ (المبداع الصنائع ۵/۲۲۲).

اگر مکلی یا موزوںی چیز کو کیل یا وزن کی شرط پر فروخت کیا اور تخلیہ پایا گیا تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ممیع باع کے ضمان سے نکل کر مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائے گی، اور اس بات میں بھی اختلاف نہیں کہ مشتری کیلے کیل یا وزن سے پہلے اس کا فروخت کرنا اور انتفاع جائز نہیں۔

لہذا محض ضمان میں آجائے کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت کو جائز نہیں کہا جا سکتا، نیز محض خریدنے کی وجہ سے شی ضمان میں آجائے گی یہ بھی محتاج دلیل ہے، جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ محض خریدنے سے احتفاف کے نزدیک شی مشتری کے ضمان میں داخل نہیں ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود یہ خرید و فروخت جائز ہے، اس لئے کہ خریدار نمبرا۔ کے حکم و اجازت سے فیکٹری جب وہ مال کسی ٹرانسپورٹ یا نقل و حمل والی کمپنی کے حوالہ کرے گی تو وہ ٹرانسپورٹ کمپنی یا نقل و حمل والی کمپنی اس خریدار نمبرا۔ کی اجیر یا اوکیل قرار پائے گی، اور اجیر یا اوکیل کا قبضہ مشتری کا قبضہ شمار ہوتا ہے، لہذا اجیر یا اوکیل کے قبضہ میں آتے ہی گویا مشتری کے قبضہ میں آجائے گی، اس طرح اس خریدار کی فروختگی دوسرے نمبر کے خریدار سے جائز ہوگی اور اس کے ضمان میں داخل ہونے کی وجہ سے خریدار نمبر ۲ کے پاس یہو شخص سے پہلے اگر بلاک ہو گئی تو ہلاکت اس خریدار نمبرا کے مال سے شمار ہوگی۔

”عامکیری“ میں اس طرح کا ایک مسئلہ مذکور ہے۔

إِذَا قَالَ الْمُشْتَرِيُّ لِلْبَاعِ ابْعَثْ إِلَى أَبْنَى وَاسْتَأْجِرْ الْبَاعِ رَجُلًا يَحْمِلُهُ إِلَى أَبْنَهُ فَهَذَا لِمَسْتَعْنَى وَالْأَجْرُ عَلَى الْبَاعِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اسْتَأْجِرْ عَلَى مَنْ تَحْمِلُهُ فَقَبْضُ الْأَجْرِ يَكُونُ قَبْضُ الْمُشْتَرِيِّ الْخَ (عامکیری ۳/۱۹)۔

جب مشتری نے باع سے کہا کہ (ممیع میرے میئے کے پاس بھیج دو، اور باع نے ایک آدمی کو اجرت پر لیا جو اس کو مشتری کے پاس یہو شخص دے تو یہ قبضہ نہیں ہے اور اجرت باع کے ذمہ ہوگی، ہاں اگر مشتری یہ کہے کہ میرے لئے اس شخص کو اجرت پر لے لو جو سامان یہو شخص دے تو اجیر کا قبضہ مشتری کا قبضہ ہو گا۔

اسی طرح ایک دوسری عبارت اور ہے

فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَايْعَ زَنَ لِي فِي هَذَا الْإِنَاءِ كَذَا وَكَذَا وَابْعَثْ بِهِ مَعَ غَلَامَهُ أَوْ قَالَ مَعَ غَلَامِي فَفَعَلَ فَانْكَسَرَ الْإِنَاءُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الْبَايْعِ حَتَّى يَقُولَ ادْفَعْهُ إِلَى غَلَامَهُ أَوْ إِلَى غَلَامِي فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ وَكِيلٌ فَإِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَكَانَهُ دَفَعَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ الْهَلاَكُ عَلَيْهِ كَذَا فِي السَّمْجِطِ (أيضاً)۔

جب مشتری باائع سے کہے کہ میرے لئے اس برتن میں اتنا اتنا تول دو اور اس کو اپنے غلام کے ساتھ بچھ جو دو، یا کہا میرے غلام کے ذریعہ، لہذا باائع نے ایسا ہی کیا پھر برتن راست میں نوٹ گیا تو یہ (نقسان) باائع کے مال سے ہو گا، یہاں تک کہ مشتری یہ کہے کہ وہ میمع میرے غلام یا اپنے غلام کو دیو، جب مشتری نے یہ کہا ہو تو وہ غلام دکیل ہے جب باائع نے اس کو دیدیا تو گویا مشتری کو دیدیا، لہذا اہلاکت مشتری کے ذمہ ہو گی جیسا کہ محیط میں ہے۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اگر باائع نے خود مشتری کے حکم کے بغیر کسی کو اجرت پر لے کر میمع مشتری یا اس کے دکیل وغیرہ کے پاس بھجوادیا تو یہ اجر باائع ہی کا ہو گا، ہاں اگر مشتری کے حکم سے کسی کو اجرت پر لیا ہے تو وہ مشتری کا اجر ہو گا اور اس کا قبضہ مشتری کا قبضہ ہو گا، یا مشتری نے کوئی ایسی بات کہی جس سے بھجوانے کی ذمہ داری باائع ہی کے ذمہ الدی تو باائع جس شخص کے ذریعہ بھجوائے گا، وہ مشتری کا دکیل نہیں ہو گا، لہذا اس سے اگر مال ہلاک ہو جائے گا تو باائع ہی کے مال سے ہلاک شمار کیا جائے گا، اور اگر باائع کے ذمہ نہیں ڈالا ہے تو جس کو دیدیے کا حکم دیا ہے اس کو دے کر باائع بری ہو جائے گا اور اس کا قبضہ مشتری کا قبضہ ہو گا، اگر ہلاک ہو جائے گی تو مشتری کے مال سے ہلاکت شمار ہو گی۔

فیکثری سے اس طرح خرید کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کو جب کہ میمع پر خود قبضہ نہیں کیا ہے، "ادارۃ المباحث الفقهیۃ" جمیعہ علماء ہند کے پانچویں فتحی اجتماع میں مفتیان کرام کی ایک بھاری تعداد نے جائز قرار دیا۔

اس اجتماع میں مفتیان کرام کی متفق رائے سے جو تجویز پاس ہوئی، اس کا متن درج ذیل ہے۔

### تجویز (۵) قبضہ سے میمع:

کسی دوکاندار کے پاس کوئی خریدار کسی مال کا آرڈر دیتا ہے، وہ دوکاندار کسی بڑی کمپنی سے بذریعہ ٹیلیفون یا نیکس اس کا مطلوب مال خریدار کے پاس بھجوادیتا ہے تو یہ معاملہ جائز ہے، اس طرح جو مال بازار میں آتا ہے اس کی خرید و فروخت عام مسلمانوں کیلئے درست ہے (بعض صورتوں میں دوکاندار کو کمپنی کا دکیل، بعض صورتوں میں کمپنی کو دوکاندار کا دکیل اور بعض صورتوں میں خود خریدار کو دوکاندار کی طرف سے دکیل بالتعیش مان کر یہ معاملہ حدود جواز میں رہے گا اور دوکاندار جو لفظ حاصل کرے گا وہ اصالۃ یا دکالت جائز قرار دیا جائے گا)، ماخوذ از تجویز پانچویں فتحی اجتماع متفقہ ۱۴۱۹/۱۸/۱۹۱۸ میں

رجب المرجب ۱۳۱۶ھ

سوال ۶ کے جواب سے اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ مشتری مال کے وصول سے پہلے جب کہ مال سمندر میں

ہے تیرے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن مال کے صائع ہونے کی صورت میں تیرے شخص کا صامن ہونا یا تیرے شخص کو صامن بنانا جائز ہے یا نہیں، یعنی تیرا شخص جبکہ اس کا قبضہ نہیں پایا گیا شخص یہ معاملہ کرنے سے صامن ہو جائے گا اور مشتری اول کے صامن سے وہ شی نکل جائے گی یا نہیں؟ یا تیرا شخص اس مشتری سے معاملہ کر لینے کی وجہ سے قبضہ کرنے والا شمار ہو گا یا نہیں؟

احناف کے نزدیک محض معاملہ کرنے سے بیع مشتری کے صامن میں نہیں آئے گی جب تک کہ مشتری یا اس کے وکیل وغیرہ کا قبضہ یا باائع کی طرف سے اس طرح کا تخلیہ جس سے مشتری بلا کلفت قبضہ پر قادر ہو جائے یا کوئی اور ایسا فعل جب تک مشتری کی طرف سے نہ پایا جائے جس کو قبضہ شمار کیا جاتا ہے۔

لہذا صورت مذکورہ میں مال کے صائع ہو جانے کی صورت میں تیرا شخص صامن نہیں ہو گا، علامہ ابن العربي مالکی صاحب "عارضة الاحوزی شرح ترمذی" کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مالکیہ کے نزدیک نفس عقد ہی سے صامن حاصل ہو جاتا ہے۔

و عندنا أن المبيع بنفس العقد دخل في قبضه و حصل في ضمانه .

اور ہمارے نزدیک نفس عقد سے بیع قبضہ میں داخل ہو جائے گی اور صامن میں آجائے گی۔

مالکیہ کے اس مذهب کے اعتبار سے ان کے نزدیک اس تیرے شخص سے معاملہ کرنا اور اس کا صامن ہونا درست ہے، لیکن احناف کے نزدیک محض عقد سے بیع صامن میں نہیں آئے گی۔

والله أعلم وعلمه اتم واحكم



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محمد ابراہیم جیا، سورت

سوال یہ ہے کہ شرع میں قبضہ کی حقیقت کیا ہے؟

اس سلسلہ میں ایضاح المسائل میں بداع کے حوالہ سے بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی گئی ہے، ایضاح کی عبارت ملاحظہ ہو: کسی شی پر قبضہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ سے قبضہ کر کے لایا جائے، بداع کے یہاں سے حقیقی طور پر منتقل کر دیا جائے، بلکہ قبضہ کے مفہوم میں داخل ہونے کیلئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ بائع میع کو اپنے مال سے اس طرح الگ کر کے رکھ دے کہ خریدار جب چاہے اپنی مرضی سے اپنی چیز انداز کر لیجاسکے، اور اس طرح انداز کر لیجانے میں اس پر کوئی رکاوٹ اور پابندی پیش نہ آئے، لہذا اگر بائع نے میع کو اپنے مال سے اس طرح الگ کر دیا ہے کہ خریدار جب چاہے لے جاسکتا ہے، اور اس درمیان اگر میع بائع کی طرف سے بغیر کسی تعدی کے ہلاک ہو جائے، یا ضائع ہو جائے تو بائع پر کوئی تاویں نہ ہوگا، بلکہ خریدار کی ملکیت میں سے اس کے گھر میں ہلاک ہو جانے کے حکم میں ہوگا۔

بداع کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

و لا يشترط القبض بالبرامج ، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلّي وارتفاع الموضع  
عرفاً وعادة وحقيقة الخ.

قبضہ حاصل ہونے کیلئے ہاتھ سے قبضہ کر کے لانا شرط نہیں ہے، اس لئے کہ قبضہ کا معنی صرف قبضہ کرنے پر قادر ہونا ہے، اور بائع کا مشتری کے سامنے سامان چھوڑ دینا ہے، اور لوگوں کے عرف میں قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنی میں قبضہ رکاوٹ دور ہو جانے کو کہتے ہیں۔

صاحب بداع نے آگے چل کر مزید وضاحت فرمائی ہے:

ثُمَّ لَا خلاف بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي سَائرِ الْأَمْوَالِ .  
حضرات فقہاء احتجاف کے مابین اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اصل قبضہ تمام اموال میں بائع کی طرف سے محض اختیار دینے اور سامنے رکھ دینے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

آگے صاحب بداع کی اور وضاحت ملاحظہ فرمائیں:

تَفْسِير التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ ، فَالْتَّسْلِيمُ وَالْقَبْضُ عِنْدَنَا هُو التَّخْلِيَةُ وَالتَّخْلِيُّ وَهُوَ أَنْ يَخْلُى

البائع بين المبيع وبين المشتري من التصرف فيه ، فيجعل البائع مسلماً للمبيع ، والمشتري قابضالله .

خریدار کو مال میج سونپنے اور اس کے قبضہ کرنے کی تفصیلی وضاحت ہمارے علماء احناف کے نزدیک یہ یہی ہے کہ خریدار کیلئے تخلیہ کر لیا جائے اور تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع میج کو خریدار کیلئے اس طرح پیش کردے کہ درمیان سے رکاوٹ اس طرح دور ہو جائے کہ مشتری کو اس پر تصرف کرنے کی پوری طرح قدرت حاصل ہو جائے تو کہا جائے گا بائع نے میج کو سونپ دیا اور مشتری نے قبضہ کر لیا۔

اشیاء منقولہ میں قبضہ کی حقیقت:

جو اشیاء منتقل کی جاسکتی ہیں اس کی کل چار قسمیں ہیں:

۱۔ کیلی اشیاء:

جیسے دودھ، تیل وغیرہ جو کہ اکثر مالک میں کیل کر کے فروخت کیا جاتا ہے، ایسی اشیاء کو کیل کر کے الگ کردینے سے مشتری کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے۔

۲۔ وزنی اشیاء:

جیسے دھات، سوتا، چاندی وغیرہ، اور اس زمانہ میں چاول وغیرہ بھی وزن کر کے فروخت کیا جاتا ہے، ایسی اشیاء کو وزن کر کے علاحدہ کردینے سے قبضہ ثابت ہو جاتا ہے۔

۳۔ ذرعی اور پیمائشی اشیاء:

جیسے کپڑے وغیرہ جو پیمائش سے فروخت کیا جاتا ہے، لہذا ایسی اشیاء کو پیمائش کر کے الگ کردینے سے قبضہ ثابت ہو جائے گا۔

۴۔ عددی اشیاء:

جس کو گنتی اور شمار سے فروخت کیا جاتا ہے، جیسے انڈے، جانور، گاڑی وغیرہ، تو ایسی اشیاء کو شمار کر کے الگ کردینے سے قبضہ ثابت ہو جاتا ہے۔

اور ان چاروں اقسام کی اشیاء کو الگ کردینے کے بعد ثبوت قبضہ کیلئے آزادانہ قدرت حاصل ہونا بھی شرط ہے، علماء کا سانی علیہ الرحمہ نے بائع میں ان مسائل کو اس طرح نقل فرمایا ہے۔

وإن باع مكايلاه أو موزونة في المكيل والموزون فلا خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتري.

اور اگر کیلی چیز کو کیل کر کے اور وزنی چیز کو وزن کر کے الگ کر دیا ہے تو اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ شی بائع کے قبضہ سے نکل کر خریدار کے ذمہ میں داخل ہو جاتی ہے۔

فیان کان مما لا مثل له من المدروعات والمعدودات المتقاربة فالتحلية فيها قبض تمام

بلا خلاف.

اگر اشیاء مثلی نہ ہوں، بلکہ ذریعی اور عدی ہوں تو انہیں الگ کر کے اختیار دینے سے بالاتفاق کامل قبضہ حاصل ہو جاتا ہے۔

**غیر منقولہ اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت:**

غیر منقولہ اشیاء، جیسے زمین، مکان، پلات وغیرہ جائداد کا صرف سودا اور معاملہ طے ہو جانے کے بعد خریدار کیلئے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دینا جائز اور درست ہے۔

صاحب مداری فرماتے ہیں:

ویجوز بیع العقار قبل القبض عند أبي حنیفة وأبی یوسف.

اور الفقہ علی المذاہب الاربعة میں ہے:

أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل القبض كبيع الأرض والنخيل والدور ونحو ذلك.

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہیں سے متعلق احادیث کا معلول بالعلة ہوتا:

شامی میں ہے:

(ولعدم الغرر) أى غرر انفساخ العقد على تقرير الها لاك، وعلمه بقوله لندرة هلاك

العقار حتى لو كان علوأ أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول فلا يصح اتفاقاً.

معلوم ہوا کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت والی حدیث کی نص کی علت "غرر انفساخ العقد على تقریر الها لاک" ہے۔

کیونکہ جب بیع قبضہ سے پہلے ہلاک ہو جائے گی تو بیع فتح ہو کر اصل مالک باائع کی طرف وعد کرے گی، اور گویا کہ مشتری باائع کی ملکیت کو فروخت کرنے والا شمار ہو گا۔

تخزیع زیلعنی علی احادیث الہدایۃ میں ہے:

عن حکیم بن حزام قال :

قلت: يا رسول الله إن رجلاً أبىع هذه البيع وأبىعها فما يحل لى منها وما يحرم ،

قال لا تبع شيئاً حتى تقبضه.

وأما تأيده بالمعقول كما في الہدایۃ غرر انفساخ العقد على اعتبار الها لاك لأنه إذا

هلاك قبل القبض يفسخ البيع وعاد إلى قديم ملك البائع، فيكون المشترى باائع ملك غيره

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی جو ممانعت ہے اس کے عام ہونے نہ ہونے میں ائمہ فقہ کے مختلف اقوال

ہیں، علامہ عبدالجعفی صاحب فرجی محلی علیہ الرحمہ نے اپنے مؤٹا امام محمد کے حاشیہ میں اس اختلاف کو تحریر فرمایا ہے، ملاحظہ

اختلفوا فی هذه المسئلة فقال مالک يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض، لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام وقال أحمد: إن كان المبيع مكيناً أو موزوناً أو معدوداً لم يحرر بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز، وقال زفر و محمد والشافعی لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره، لإطلاق الأحاديث وذهب أبو حنیفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بغير انفصال العقد بخوف ال�لاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير قادر كذا في البناية (التعليق الممجد).

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک احادیث میں طعام کی قید کی وجہ سے طعام کے علاوہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے گی، اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کے یہاں مکملات، موزونات اور معدودات میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، اور امام محمد، امام شافعی، امام زفر کے نزدیک طعام اور غیر طعام ہر ایک میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، کیونکہ احادیث میں نہ طعام کی قید ہے نہ غیر طعام کی۔

اور شیخین علیہما الرحمہ کے نزدیک عقار میں جائز ہے، کیونکہ عقار میں "غیر انفصال العقد" قادر ہے، اور منقولات میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، کیونکہ اس میں "غیر انفصال العقد" قادر نہیں ہے۔

۷: وہ صورت جس میں بین الاقوامی تجارت میں شینپنگ کے بعد اصل یا لع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو اس کا ذمہ ضامن نہیں ہوتا، اور پھر یہ مشتری مال کی وصولی سے پہلے جب کہ مال سمندر میں ہے تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کر دے، اور مال کے ضائع ہونے کی صورت میں دوسرا شخص اس کا ضامن نہیں ہو گا، بلکہ تیرے شخص ضامن ہو گا تو اس صورت کے جواز کی ایک شکل یہ ہے جس کو مفتی العصر صاحب "حسن الفتاوی" نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر مال پہنچانے کا کرایہ خریدار نمبر ایک ادا کرتا ہے تو اس کے اذن سے یا لع کا کسی بھی مال بردار کمپنی کی تحويل میں مال دیدینا مشتری کا قبضہ شمار ہو گا، اگرچہ مشتری نے کسی خاص کمپنی کی تعین نہ کی ہو، کمپنی کی تحويل میں آجائے کے بعد بیع جائز ہے۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا منظور احمد قاسمی

۱۔ قبضہ سے پہلے کسی چیز و فروخت کرنے کی ممانعت کے سلسلہ میں رسول ﷺ سے جو مختلف احادیث مروی ہیں، ان کے پیش نظر جمہور فقہاء کے نزدیک اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض ناجائز تو ضرور ہے، لیکن آیا اس کا شمار بیع باطل میں ہے یا بیع فاسد میں یا بیع مکروہ میں؟ اس سلسلہ میں بعض فقہی عبارات سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اشیاء منقولہ میں بیع قبل القبض باطل ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے: وقبل القبض في المتفق لا يتعقد أصلاً (۳۲/۶) کہ اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے بیع اصلاً منعقد ہوتی ہی نہیں۔ چنانچہ بیع باطل کی تعریف فقہاء بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بیع اصل و وصف کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ الباطل هو مالا يكون صححاً أصلاً ووصفاً (عنایہ علی الفتح ۳۲/۶) اور صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں: هو مالا يكون مشروعًا لا بأصله ولا بوصفه (۲۹/۶) اور کفایہ میں ہے: وقبل القبض لا يدرى أتم البيع فيصير بائعًا ملك نفسه أم بنسخ بائعًا ملك غيره فلا يصح فتمكן فيه غرر فکان باطلًا (کفایہ علی الفتح ۱۳۶/۶) کفایہ کی عبارت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض باطل ہے۔

نیز یہ تو مسلم بات ہے کہ جن کے نزدیک اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض درست نہیں ہے وہ الفساح عقد کے غرر کی وجہ سے ہے یعنی اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض میں یا اندیشہ ہے کہ بیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے اول عقد بیع لامخ ہو جائے، گویا بیع قبل القبض غرر ہے۔ اور جس طرح سے آپؐ سے بیع قبل القبض کے متعلق بھی دارد ہے، اسی طرح سے بیع غرر کے متعلق بھی نہیں دارد ہے اور التعریفات الفقہیہ میں بیع غرر کی تعریف کرتے ہوئے بہت سے فاعلے کو بیع غرر میں شمار کیا ہے، مثلاً آبن کی بیع، مجهول و معدوم کی بیع، غیر مقدر و راستیم کی بیع اور اس چیز کی بیع جس پر بھی بائع کی ملکیت تامن ہوئی ہو، پھر اس کے بعد صراحت ہے کہ فکل هذا بیعہ باطل (قواعد الفقة ۲۱۲/۶) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض بیع باطل میں شمار ہوتی ہے۔

رہی بات اشیاء غیر منقولہ میں بیع قبل القبض کی تو یہ ائمہ احتجاف میں سے امام صاحبؓ اور امام ابو یوسفؓ کے نزدیک جائز ہے، اور امام محمدؓ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ دراصل امام محمدؓ نبی مالم لقبض والی حدیث کو اپنے اطلاق پر رکھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ غیر مقبولہ کی بیع مطلق منوع ہے خواہ وہ اشیاء منقولہ میں ہو یا غیر منقولہ میں... اور تین بیع قبل القبض کی نبی سے متعلق احادیث کو معلوم بالعلاقة کہتے ہیں کہ اصل میں بیع قبل القبض کی ممانعت بیع کے

ہلاک ہو جانے سے عقد اول کے فتح ہو جانے کے اندر یہ اور غرر کی وجہ سے ہے اور اشیاء منقولہ کی بلا کت بہت ممکن ہے، اس لئے افساخ عقد اور غرر کی علائم کی وجہ سے اس میں بیع قبل القبض مشوی ہے۔ اور چونکہ غیر منقولہ کی بلا کت نادر ہے اور النادر کا المعدوم ہے، اس لئے اس میں افساخ عقد اور غرر کی علائم معدوم ہونے کی وجہ سے بیع قبل القبض درست ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں اس کی حصر احت ہے: وبحوز بيع العقار قبل القبض عدہ۔ ابی حنیفة و ابی یوسف (بدایہ ۵۸۳)۔

وصح بيع العقار لا يحشى هلاكه قبل قبضه من باعه لعدم الغرر ولندرة هلاك العقار (در مختار علی الشامی ۱۳۷/۵)۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت امام محمد اور امام شافعیؒ کے نزدیک عام ہے، اس ممانعت میں اشیاء منقولہ، غیر منقول سب داخل ہیں اس دلیل کی بنیاد پر جواہر پر مذکور ہوئی ہے یعنی اطلاق حدیث اور دو حدیث یہ ہے، جس کو صاحب فتح القدر یہ بیان کیا ہے: لا تبيع شيئاً حتى تقبضه اور شیخینؒ کے نزدیک بیع قبل القبض کی ممانعت میں صرف اشیاء منقولہ داخل ہیں، ان حضرات کی دلیل یہی کہ ذہن سنجھ پر مذکور ہو چکی ہے۔

اس باب میں امام مالک کا نہ بہب صاحب فتح القدر نے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک صرف کھانے کی اشیاء میں بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، ابی تمام اشیاء میں خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہر طرح کا تصرف قبل القبض درست ہے۔ اور امام مالک کی دلیل صاحب فتح القدر نے یہ ذکر کی ہے کہ: لَا هُنَّ مُكْتَبُهُ خص الطعام بالنهی فی حدیث رواه مالک عن نافع عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبْعَدْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ، اخْرُجْهُ الشَّيْخَانَ وَفِي لُفْظِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ (۱۳۶/۶)۔

شریعت اسلامی میں قبضہ کی کیا حقیقت ہے؟ اس سلسلہ میں کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین کی ہے یا نہیں؟ بندہ کو ایسی کوئی صراحت کتاب و سنت میں نہیں مل سکی ہے، البتہ فقہاء کی عبارات اس سلسلہ میں خصوصاً علامہ شامی کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبضہ کی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے، بلکہ مختلف چیزوں کے قبضہ کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہر چیز کے قبضہ کی حقیقت میں قدرے مشترک ہے کہ باعث بیع کو ایسے طور پر فارغ کر دے اور مدعی کو اسی پوزیشن میں کر دے کہ مشتری کو اس پر قبضہ کر رہا بغیر کسی الزام و تردد کے ممکن ہو اور وہ باعث باعث کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو، جیسا کہ در مختار علی الشامی (۵۶۱/۳) میں ہے: ثم التسلیم یکون بالتخلیة على وجه يتتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل۔ چنانچہ علامہ شامیؒ نے اس عبارت کی شرح میں کئی چیزوں پر قبضہ کے تحقیق کی مختلف صورتیں لکھی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبضہ کی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے اور نہ ہتی ہر چیز میں قبضہ حسی شرط ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درج کے استیلا، اور عمل دخل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً بھی قبضہ مانا جائے۔ البتہ اتنی

بات تو بہر حال ہر شی کے قبضہ کے سلسلہ میں ملحوظاً ہے گی کہ بیع کے بعد وہ ہی ایسی حالت میں ہو کہ مشتری اس پر قبضہ بغیر کسی تکلف کے کرے اور وہ مبیع بالع کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو، کیونکہ اگر قبضہ کی بابت اتنی بات بھی ملحوظہ ہو تو قبضہ و تسلیم کا معنی ہی متحقق نہ ہوگا۔

سینک سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خواہ اشیاء منقولہ دونوں میں ایک معنی مشترک ہو گا جو قبضہ و تسلیم کی تعریف ہے۔ اب اس قبضہ کا تحقیق اشیاء منقولہ میں کب ہو گا، اور اشیاء غیر منقولہ میں کب ہو گا؟ تو اس کا تعلق عرف سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا جس کے بارے میں عرف ہو گا اسی کو اس شی کے متعلق قبضہ شمار کریں گے، اتنی بات بدیہی ہے کہ ساری چیزوں میں قبضہ حسی شرط نہیں ہے۔

۶۔ مذکورہ صورت میں جبکہ خریدار (۱) فیکٹری سے مال خرید کر اس پر قبضہ حسی کرنے سے پہلے خریدار (۲) کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو اگر مبیع خریدار (۲) کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے خریدار (۱) کے ہمان میں آجائی ہے تو گویا اس نے مال مضمون کی بیع خریدار (۲) سے کی ہے، اور مال مضمون پر لفظ لیا ہے۔ اب یہاں پر گوکہ مال مبیع پر خریدار (۱) کا قبضہ حسی نہیں ہوا ہے لیکن آج کل تجارت کے درمیان یہ عرف ہے کہ یہ مبیع خریدار (۱) کے ہمان میں پر ہوئی چیز ہے، اس لئے ہمان کو قبضہ حسی سمجھ کر اس خرید و فروخت کو جائز قرار دینا چاہئے۔ چنانچہ خرید و فروخت کے سلسلہ میں تجارت کے درمیان کوئی عرف ہو تو اس کا اعتبار بھی ہوتا ہے، جیسا کہ عرف خاص کی مثال دیتے ہوئے صاحب المدخل نے لکھا ہے و ذلک گعرف الشجار فما بعد عیبا ینقص الشمن فی البضاعة المبیعة أولاً بعد عیبا (۸۳۹/۲)۔

تجارت کے درمیان کا عرف گوکہ عرف خاص ہے عرف عام نہیں ہے، پھر بھی آج کل مذکورہ صورت میں عرف خاص کا دائرہ بہت وسیع ہے اور دن بدن وسیع تر ہوتا چاہا ہے، اس لئے اس عرف خاص پر قیاس کرنا درست ہے، جیسا کہ آنھوں فتحی سمینار میں یہ بات علماء کے درمیان تجویز ہو چکی ہے کہ اگر عرف خاص کا دائرہ بہت وسیع ہے تو اس کی بنابری قیاس درست ہے۔ مزید یہ کہ اس صورت کو اگر جائز نہ قرار دیا جائے تو امت مسلمہ کو ضرر لاحق ہو گا کیونکہ آج کل خرید و فروخت کی کچھ صورت حال ایسی ہوتی چاہی ہے کہ اس میں قبضہ حسی کو لازم قرار دینا ضرر کے مراد فہم ہے، مثلاً آج کل بخاری اور بڑی تجارتیں اور متعاقدین کے درمیان بہت دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ اس لئے "الحضر بزال" اور "الضرورات تبع المحظورات" کے پیش نظر بھی یہ صورت جائز ہوئی چاہئے۔

۷۔ وہ صورت جس میں یعنی الاقوامی تجارت شپنگ (جہاں پر مال چڑھانے) کے بعد اصل بالع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے خالع ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہ مال مبیع بالع کے ہمان سے نکل کر مشتری کے ہمان میں آ جاتا ہے تجارت کے عرف میں، تو پھر اس مال مضمون کی فروخت مشتری کے لئے جائز ہوئی چاہئے، اس دلیل کی وجہ سے جو چھٹپتک کے سوال کے جواب میں لگدری۔ اور اگر اس مشتری نے جبکہ مال ابھی سمندر میں ہو تو میرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ فروخت کرنا تو درست ہے، لیکن چونکہ میرے شخص کے ہمان

میں اس مال کے پہوچنے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لئے اس مال کے صاحب ہو جانے پر تمیرے شخص کا ضامن ہونا درست نہیں معلوم ہوتا... البتہ اگر وہ مال بیع باع کے ضمان سے نکل کر مشتری کے ضمان میں نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں مشتری اول نے مشتری ثانی کو بیع دیا ہے تو یہ بیع درست نہیں ہے، اس لئے کہ اس نے گویا قبضہ سے پہلے بیع کو فروخت کر دیا ہے اور ایسی چیز سے نفع حاصل کیا ہے جس کا ضامن نہیں ہوا تھا، اور حدیث میں رنج مالم <sup>بضم الم</sup> کی ممانعت ہے۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

### متعلق مسائل

مولانا عبداللطیف پانپوری، گجرات

۱۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے اور یہ بیع فاسد ہوگی، ومن اشتراى شيئاً ما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبحه لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض (هدایۃ) والنهی یقتضی الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض (عنایہ علیہ بامش الفتح ۲۶۵/۵).

۲۔ قبضہ کی دو تسمیں ہیں (۱) حکمی، جسی قبضہ یہ ہے کہ بیع حقیقتہ مشتری کے قبضہ و تصرف میں آجائے، اور حکمی قبضہ کی صورت تخلیق ہے، اور ”تخلیق“ یہ ہے کہ باائع مشتری کو بیع اس طرح پرداز کرے کہ مشتری اس کے قبضہ پر بغیر کسی حائل و مانع کے قادر ہو، یعنی بیع سامنے حاضر ہو اور غیر کے حق کے ساتھ مشغول نہ ہو، اور باائع مشتری کو اس کے قبضہ کی اجازت دی دے، پس اگر مشتری کو قبضہ کی اجازت نہیں دی، یا اجازت دی لیکن وہ بیع دور تھی تو بھی قبضہ صحیح نہ ہوگا۔

ثم التسلیم یکون بالتخلیة علی وجه یتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل وشرط فی الأجناس شرط ثالثاً وهو أن یقول: خلیت بینک وبين المبیع فلو لم یقله أو كان بعيداً لم یصر قابضاً، والناس عنہ غافلون، فیا لهم یشترون قریبة و یقررون بالتسليم والقبض وهو لا یصح به القبض علی الصحيح (در مختار علی روا المخارج ۲۳).

شریعت میں قبضہ کی کوئی صورت متعین نہیں، بلکہ قبضہ کا مدار عرف پر ہے، لیکن یہ عرفی قبضہ اس وقت معتبر ہوگا جب کہ قبضہ حکمی، یا حکمی کے دائرے میں آتا ہو، بیع کا صرف مشتری کے خان میں آ جانا قبضہ کیلئے کافی نہیں ہے، الای کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں حکمی قبضہ ممکن نہ ہو تو خان میں آنے سے بھی قبضہ شمار کیا جائے گا۔

۳۔ اشیاء منقولہ و غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ ہوگا، دونوں میں حکمی قبضہ معتبر ہوگا۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث معلوم بالعلاۃ ہیں، اور نبی کی دو علائم ہیں، (۱) قبضہ سے پہلے بیع کا مقدور <sup>لتسلیم</sup> نہ ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ قبضہ سے پہلے بیع ہاک ہو جائے جس کی بناء پر باائع مشتری کو قبضہ نہ کر سکے اور یہ غرر ہے جس کی بناء پر بیع جائز نہیں ہے (۲) دوسری علت یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے بیع باائع کے خان میں نہیں آتی اور ”ربع مالم یضممن“ جائز نہیں، والغرر المنہی عنہ غرر انفساخ العقد، والحدیث

معلول به (هداية) فیان الحديث الأخیر حدیث عبد الله بن عمرو دل على أن العلة في النهي عن بيع البيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن (تملمذ فتح المهم ٣٥٣).

٥۔ قبض سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کے بارے میں انہ کے اقوال مختلف ہیں (۱) امام احمد کی ظاہر روایت یہ ہے کہ طعام (غذہ) کی قبض سے پہلے خرید و فروخت منوع ہے، اور اس کے علاوہ کی قبض سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے (۲) امام مالک فرماتے ہیں کہ طعام (غذہ) میں سے مکملی اور موزونی چیزوں کی قبض سے پہلے خرید و فروخت منوع ہے (۳) امام شافعی اور احناف میں سے امام محمد فرماتے ہیں کہ طعام اور غیر طعام، منقول اور غیر منقول ہر ایک کی قبض سے پہلے خرید و فروخت حرام ہے (۴) امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تمام منقولات کی قبض سے پہلے خرید و فروخت منوع ہے، اور وہ عقار جس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو اس کی قبض سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے، اور اگر عقار کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، مثلاً سمدر کے کنارے ہو تو اس کی بیع بھی قبل القبض جائز نہیں ہے (تملمذ فتح المهم ٣٥٠).

### دلائل:

امام احمد کی دلیل: عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يستوفيه" (تملمذ فتح المهم ٣٥٠).

امام مالک کی دلیل: ابن عباس "قال: قال رسول الله عليه وسلم من ابتاع طعاماً فلا يبعده حتى يكتاله" (تملمذ فتح المهم ٣٥٣).

امام شافعی اور امام محمد کی دلیل:

(۱) أخرج أبو داؤد "عن ابن عمر" قال ..... فیان رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "فقد عمم هذا الحديث الحكم في سائر السلع" (۲) عن حكيم بن حزام قال: "قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لى منها وما يحرم على؟" قال: يا ابن أخي لا تبيع شيئاً حتى تقبضه".

(۳) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ماليس عندك" "فنهى فيه رسول الله ﷺ عن ربح مالم يضمن، والبيع قبل القبض يتضمنه لأن المبيع لا يأتي في ضمان المشترى حتى تقبضه فیان باعه قبل ذلك بالربح كان ذلك ربحاً لمالم يضمنه (تملمذ فتح المهم ٣٥٢).

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل: وبعین هذه الدلائل الثلاثة يستدل أبو حنیفہ وأبو یوسف "غير أنهما يستثنان العقار من عموم النهي لأن علة النهي متنافية فيه فیان الحديث الأخیر، حدیث عبد الله بن عمرو ، دل على أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم

ربع مالم يضمن وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه ال�لاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادرًا حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علوًا لا يجوز بيعه قبل القبض كما في فتح القدير لأن ال�لاك فيه غير نادر (تكميله فتح المليم ٣٥٣).

٦- فيكرى سے خرید کردہ مال براہ راست دوسرے خریدار کے ہاتھ بچنا صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ مال پر حسی، یا حکمی قبضہ سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں ہے، جب حسی یا حکمی قبضہ ممکن ہو تو ضمان کو قبضہ کے قائم مقام نہیں سمجھا جائے گا، البتہ اس بیع کے جواز کی دو صورتیں ہیں (۱) مال پر ہوئے بیع سے پہلے بیع نہ کرے، بلکہ وعدہ بیع کرے اور بیع مال پر ہوئے کے بعد کرے، اس صورت میں جائزین میں سے کوئی انکار کر دے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہو گا، بیع پر اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں مال خریدا ہے وہاں کسی مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے، اسی طرح اگر مال پر ہوئے کا کرایہ خریدار ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت سے باائع کا کسی بھی مال بردار کمپنی کی تحويل میں مال دیدنہ مشتری کا قبضہ شمار ہو گا، اگرچہ کسی خاص کمپنی کی تعیین نہ کی ہو، کمپنی کی تحويل میں آجائے کے بعد بیع جائز ہے۔

قال في الهندية : إذا قال المشتري للبائع أبعث إلى ابني واستاجر البائع رجلاً يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استاجر من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشتري إن صدقه أنه استاجر ودفع إليه وإن انكر استيجاره والدفع إليه فالقول قوله كذا في التخارمية (عامليہ ١٩/٣) (حسن الفتاوى ٥٢٦/٦)۔

٧- اس صورت میں بھی چونکہ قبل القبض بیع کرنا پایا جاتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے، قال العبد الضعيف عفا الله عنه وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى لهذا الحكم وهي أن البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق وكثيراً ما يفعله تجار زماننا في التجارة الدولية فنشاهد اليوم أن الباخرة تجري بالبضائع من اليابان، مثلاً فيبيعه الذي يصدره إلى غيره ثم هو إلى ثان والثاني إلى ثالث وهكذا فتجري على البضاعة الواحدة بيعات ربما تجاوز عشرة وكل ذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء وينتظر ذلك أن البضاعة التي كانت قيمتها بعض ربيات في اليابان لا تصل إلى سوق بلادنا إلا بعد ما تصرير قيمتها مائة أو أكثر لأن كل تاجر يشتريها قبل الوصول بيعها بربح إلى غيره وتصير الأرباح كلها بأيدي تاجر معدودين ويصير الغلاء نصيب العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله (تكميله فتح المليم ٣٥٣).

فقط والله تعالى أعلم بالصواب .

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مسائل

ابوجندل قاسمی

دارالعلوم سعادت دارین، بھروس

۱۔ آج کل قبضہ سے پہلے بیع عالمی تجارت کا ایک اہم عصر بن گئی ہے، زیادہ تر تھوڑے کار و بار کا انحصار ٹیکی فون اور تحریری وثائق پر ہے، بلکہ بھی تو یہ ہوتا ہے کہ اصل جگہ سے روانہ ہو کر منزل مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی مال کی باقاعدہ بیع درج ہو جاتی ہے اور درمیان کا ہر بالع اپنا نفع و صول کر لیتا ہے، اس طرح قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے رواج نے علماء اور مفتیان کرام کے سامنے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے، اس لئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے صاف الفاظ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے ممانعت فرمائی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (بخاری ۱/۲۸۶، مسلم ۵/۲)۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شمار بیع باطل میں ہے یا فاسد میں، تو پہلے بیع فاسد و باطل کی تعریف جان لینا مناسب ہے، چنانچہ تقریباً تمام فقهاء متفق ہیں کہ عقد فاسد وہ عقد ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہو، لیکن وصف کی کسی نقص اور خرابی کی وجہ سے وہ مشرع نہ ہو، مثلاً بیع یا شمن ایسی چیز ہو جو غیر مقدر و انتسلیم ہو، یا کوئی ایسی شرط عقد میں عائد کردی جو عقد کے خلاف ہو، یا عقد میں کسی طرح کی جمالت ہو جو مفہومی الی المنازعۃ ہو، وغیرہ وغیرہ۔

اور اگر عقد اپنی ذات اور اصل ہی کے اعتبار سے مشرع نہ ہو بلکہ ذات میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہو تو یہ عقد باطل ہے، مثلاً: احد المتعاقدين مجنون ہو، یا ناسخ بچہ ہو، یا بیع مال تھی نہ ہو، یا مال تو ہو لیکن مقتوم نہ ہو، جیسے میتہ اور خمر۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی ہدایہ کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

الفاسد ما يصح أصلاً وصفاً، والباطل ما لا يصح أصلاً وصفاً..... فكل ما  
أورث خللاً في ركنته فهو باطل وكل مال ليس كذلك بل أورث خللاً في غيره كالتسليم  
والتسليم الواجبين بالعقد..... وغير ذلك فهو فاسد (بامش الہدایۃ ۳/۳۳ باختصار)۔

عقد فاسد وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے صحیح ہو، نہ کہ وصف کے اعتبار سے، اور عقد باطل وہ ہے جو نہ اصل صحیح ہو اور نہ وصفاً، پس (قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ) ہر وہ چیز جو عقد کے رکن میں خلل انداز ہو تو وہ عقد باطل ہے، اور ہر وہ

عقد کہ جس کے رکن میں کوئی خلل نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ (کسی اور چیز) میں خلل ہو، مثلاً مبیع کو سپرد کرنے اور بقشہ کرنے میں جو دونوں عقد سے واجب ہوتے ہیں، وغیرہ، تو یہ عقد فاسد ہے۔

اب رہی بات یہ کہ بقشہ سے پہلے خرید و فروخت فاسد ہے یا باطل، تو اس سلسلہ میں دونوں قول ملتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ باطل ہے اور بعض فساد کے قائل ہیں، چنانچہ مفتی ابوالسعود مصری فرماتے ہیں: (قوله ای لَا يَصْحَّ بِعُوْدَ الْمُنْقُولِ) نفی الصحة يتحمل ثبوت فساد العقد وبطلانه صرَح بالاول في المواهِب وبالثانِي في الجوهرة شربلا لیه ومثل ما في المواهِب في الزيلعی (فتح المعین على شرح الكنز ۵۹۲/۲).

نیز صاحب عنایہ فرماتے ہیں:

النهی يقتضى الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض (عنایہ مع افتتاح ۱۳۷/۴)۔

نیز ہدایہ کے مندرجہ بالا حاشیہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بقشہ سے پہلے خرید و فروخت تج فاسد ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے، اسلئے کہ یہاں رکن بیع میں کچھ خرابی نہیں بلکہ صرف وصف بیع میں خرابی ہے جو فساد ہتی کا مقتضی ہے، واللہ اعلم۔

۲۔ بقشہ کی حقیقت اور مفہوم صرف اتنا ہے کہ بالع شی مبیع کو اپنے مال سے اس طرح الگ کر دے کہ مشتری (خریدار) جب بھی چاہے اس شی مبیع کو اپنی مرضی سے انٹا کر لے جائے، اور اختیار سے انٹا کر لے جانے میں اس کو کوئی مانع پیش نہ آئے، علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

التسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بين المبيع وبين المشتري  
برفع الحال لبينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري  
فأبضا له (بدائع الصناع ۲۲۳/۵، ہندیہ ۱۶/۳)۔

خریدار کو مبیع سونپنے اور اس پر بقشہ کرنے کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ تخلیہ اور تخلی و تخلی کا مطلب یہ ہے کہ بالع مبیع کو مشتری کے لئے اس طرح پیش کر دے کہ درمیان سے رکاوٹ اس طرح دور ہو جائے کہ مشتری کو مبیع میں تصرف کرنے پر پوری طرح قدرت حاصل ہو جائے، پس کہا جائے گا کہ بالع نے مبیع سونپ دی اور مشتری نے بقشہ کر لیا۔

ایک موقع پر فرماتے ہیں:

و لا يشترط القبض بالراجح لأن معنى القبض هو التمكين والتخلی وارتفاع المreauع  
عريفاً وعادةً حقيقة (بدائع الصناع ۱۳۸/۵)۔

حصول بقشہ کیلئے ہاتھ سے بقشہ کرنا کوئی شرط نہیں ہے، اس لئے کہ بقشہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ مشتری بقشہ پر قادر ہو اور بالع مشتری کے سامان کو چھوڑ دے، اور یہ کہ عرف و عادت میں صحیح معنی میں موافع ختم ہو جائیں۔

علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں:

ان معنی التسلیم والتسليم يحصل بالتخلية، ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها بلا خلاف دل أن التخلية قبض (اعا، اسنن ۱۲، ۲۳۲، کراچی)۔

معلوم ہوا کہ قبضہ کی حقیقت صرف تخلیہ ہے ہمارے نزدیک، ہاتھ سے قبضہ کرنا یا انتقال و تحویل کی قبضہ کے اشیاء کیلئے ضرورت نہیں، اگرچہ تصرف کیلئے بعض صورتوں میں ضرورت ہے۔

۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک منقول و غیر منقول میں قبضہ کی ایک ہی صورت ہے یعنی تخلیہ۔

علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

لا خلاف بین أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتخلية في سائر الأموال (بدائع الصنائع ۲۳۲، ۵)۔

ہمارے اصحاب کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اصل قبضہ تخلیہ سے حاصل ہو جاتا ہے تمام اموال میں (خواہ وہ اموال منقولہ ہوں، جیسے مکملی و موژوفی وغیرہ اشیاء، یا غیر منقولہ ہوں جیسے زمین و جائداد) (بدائع الصنائع ۲۳۲، ۵)۔

علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں:

قال العبد الضعيف: وفي "شرح الوجيز" للرافعي مانصه في بيان أن القبض بم يحصل؟ فينظر إن كان المبيع مما لا ينتقل كالدور والأراضي فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكنه من اليد والتصرف، وإن كان المبيع من المنقولات... فقال مالك وأبو حنيفة: إنه يكفي فيه التخلية كما في العقار، وعن رواية حرملة قول مثله، وفي وجه آخر: أن التخلية كافية لنقل الصنوان إلى المشتري غير كافية للتسلط على التصرف (اعا، اسنن ۱۲، ۲۳۰)۔

ترجمہ: علامہ رافعی کی کتاب شرح الوجيز میں ہے کہ قبضہ کس طرح حاصل ہوگا؟ تو نزدیک ہائے گا آیا میں غیر منقول ہے یا منقول، اگر غیر منقول ہے جیسے گھر اور زمین و جائداد، تو اس پر قبضہ کیفیت اور مشتری کے درمیان صرف تخلیہ اور قبضہ و تصرف پر قدرت دینے سے ہو جائے گا، اور اگر جمیں منقول ہے، تو اس سلسلہ میں بھی امام مالک اور امام ابوحنیفہ کو قول یہ ہے کہ عقار کی طرح صرف تخلیہ قبضہ کیلئے کافی ہے، اور حرملہ سے بھی اسی طرح کا ایک قول ہے، اور ایک وہ سری بات یہ ہے کہ تخلیہ مشتری کی طرف صنان کے انتقال کیلئے تو کافی ہے، لیکن تصرف پر تسلط کیلئے کافی نہیں ہے۔

تفصیل بالا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نزدیک۔

قبضہ کی دو تسمیے:

اس موقع پر قبضہ کی قسموں کو بھی بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا، چنانچہ قبضہ کی دو تسمیے ہیں: (۱) قبضہ

کامل (۲) قبضہ ناقص۔ قبضہ کامل یہ ہے کہ باع جب شی مبیع کو الگ کر دے (تجزیہ کر دے) اور وہ شی مشتری کے خان میں داخل ہو جائے تو صرف اس قدر سے مشتری اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔

اور قبضہ ناقص یہ ہے کہ صرف باع کے تجزیہ اور مشتری کے خان میں داخل ہونے سے مشتری کیلئے اس میں تصرف کرنے کا کوئی جواز نہ ہو۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت سے متعلق احادیث معلوم بالعملت ہیں، اور ممانعت کی علت یہ ہے کہ قبل القبض اگر بیع کی جائے تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ بیع ہلاک ہو جائے اور بیع کی بلاکت عقد کو فتح کر دیتی ہے، تو بیع قبل القبض میں قبضہ سے پہلے بلاکت بیع کے ذریعہ عقد بیع کے ختم ہو جانے کا غرر ہے اور نبی کریم ﷺ نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی سند سے مردی ہے (بخاری ارج ۲۸۷ مسلم ۲۰۲)۔

علام ظفر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں:

وعلة النهي هو غرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض (اعلاء السنن ۲۳۲/۱۳)

مفتی ابوالسعود مصری فرماتے ہیں:

وماروه معلول بغرض انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض (فتح المعین ۵۹۳/۲، وہندانی الأوجز ۲۵/۶، فتح القدر ۱۳۸/۶)

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام نہیں بلکہ اس میں استثناءات و تخصیصات بھی ہیں، چنانچہ طعام (جس کا ممانعت والی حدیث میں صراحتہ ذکر آیا ہے) کے سلسلہ میں تمام فقهاء متفق ہیں کہ اس کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں، اور طعام کے علاوہ بقیہ اشیاء میں اختلاف ہے، اور اس سلسلہ میں چار مذاہب ہیں:

(۱) یہ ہے کہ مکانات اور زمین و جائداد کے علاوہ بقیہ تمام اشیاء کا حکم بھی وہی ہے جو طعام کا ہے یعنی ان کی بیع بھی قبل القبض جائز نہیں، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مذهب ہے۔

(۲) طعام وغیر طعام تمام مبیعات کا حکم یکساں ہے خواہ زمین و جائداد ہو یا مکان اور دکانیں وغیرہ، یعنی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی اجازت نہیں، یہ امام شافعی اور امام محمد بن الحسن شیعیانی کا مسلک ہے، حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔

(۳) مکولات و مشروبات کے علاوہ بقیہ تمام اشیاء کو قبل القبض فروخت کرنے کی اجازت ہے، یہ امام مالک کا مسلک ہے۔

(۴) مکلیلی اور موزونی اشیاء کے علاوہ تمام اشیاء قبل القبض فروخت کی جاسکتی ہیں، معدودی اشیاء کا حکم بھی مکلیلی و موزونی کی طرح ہے، یہ امام اوzaعی، امام احمد بن حنبل، ابی حیان، سعید بن المسیب، حسن بصری، حماد اور حکم کا مذهب ہے (بذل الحجہ و دہن ۲۸۲/۲، وہندانی الأوجز ۲۵/۶، وہندانی راجلہ السنن ۲۳۶/۱۲)۔

دلائل:

### حُقْنِيَّةِ كَيْ دَلِيل:

شیخین رحمہما اللہ تعالیٰ کے غیر منقول کے استثناء کرنے کے سلسلہ میں دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلکشی۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے ممانعت کی جو نظر ہے یعنی قبضہ سے پہلے ہلاکت میں کے ذریعہ عقد نفع کے فتح ہو جانے کا غرر، یہ ہلاکت غیر منقول میں متصور نہیں ہے، مگر شاذ و نادر، اور نادر معدوم کی طرح ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہو گا، لہذا اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ملات نہیں کے تھے پائے جانے کی وجہ سے جائز ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ زمین ایسی جگہ ہو جہاں اس کی ہلاکت کا خطرہ ہو، مثلاً دریا کے کنارے ہو اور تدی وغیرہ کے کنارے جہاں اس کی ہلاکت کا ہر وقت خطرہ ہے، یا ایسی جگہ ہو کہ ریت کے نلبہ کا خوف ہو تو پھر چونکہ ملات نہیں پائی گئی، یعنی "ہلاکت میں کے ذریعہ غرائب افساخ عقد" لہذا بالاتفاق اس کی بیع بھی قبل القبض جائز ہو گی۔

علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں:

واحتجأ أبو حنيفة بأن الحكم معمل بغير انساخ العقد بخلاف المبيع ، والخلاف في غير المعمول نادر ، والنادر كالمعدوم (إجماع السنن ۲۳۲/۱۲، بنداني أو جز المراك ۹/۵)۔  
نیز ویکھیے: (ابحر الرائق ۱۱۶/۶، بنداني فتح المعین ۵۹۳/۲، فتح القدر ۶/۱۳۸)۔

### نعلی دلیل:

نعلی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنیؓ نے حضرت طلحہؓ سے مدینہ میں ایک زمین خریدی اپنی ایک زمین کے بدله میں جو کوفہ میں تھی، تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں نے وہ زمین بغیر دیکھے تبیح دی ہے ("تبیح دی ہے" اس لئے فرمایا کہ بدله ہوا تھا، گویا دونوں نے تبیح بھی اور خریدی بھی، واللہ عالم) تو حضرت طلحہؓ نے فرمایا کہ دیکھنے کا خیار مجھے حاصل ہو گا، کیونکہ جس کو آپ نے خریدا (یعنی مدینہ والی زمین) اس کو آپ دیکھ چکے، اور جس کو میں نے خریدا (یعنی کوفہ والی زمین) وہ میں نے نہیں دیکھی، دونوں حضرات حضرت جبیر بن مطعمؓ کے پاس مقدمہ لے گئے، تو انہوں نے بیان سن کر حضرت عثمانؓ کے خلاف اور حضرت طلحہؓ کی موافقت میں فیصلہ صادر فرمادیا، اور دلیل وہی دی کہ انہوں نے (حضرت طلحہ نے) بغیر دیکھے خریدی ہے۔ اس حدیث اور واقعہ میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عقار کو قبل القبض فروخت کرنا جائز ہے، اس لئے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنی کوفہ کی زمین پاد دیکھے تبیح، اور یا اس سلسلہ میں ظاہر ہے کہ قبل القبض تبیح ہے، کیونکہ قبضہ روایت کوسترم ہے، اور اگر یہ اشکال کیا جائے کہ ممکن ہے وکیل کے واسطے سے قبضہ کیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کا دیکھنا موکل کا دیکھنا ہے، حالانکہ حضرت عثمانؓ نے فرمایا "بعتک عالم اڑہ" لہذا وکیل کے واسطے دیکھنے کا احتیال بھی باطل ہو گیا (رواہ ابن ابی ملکیہ، اجماع السنن کراچی ۲۳۸، ۱۲)۔

اس حدیث سے استدلال میں احرقر کو ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ ابھی پیچھے گدرا کہ تمام مالوں میں تخلیہ قبضہ ہے، لہذا یہ تو بہت ممکن ہے کہ اس زمین میں تخلیہ ہو چکا ہو، لہذا قبل القبض بیع نہ رہی، البتہ قبل الروایت ہے۔

## شافعی کی دلیل:

امام شافعی اور امام محمد قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کے عموم سے متعلق تین دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تالی دلیل اور ایک قیاس، پہلی تالی دلیل یہ ہے کہ ممانعت والی حدیث میں اطلاق ہے، چنانچہ حضرت حکیم بن حزامؓ سے مردی کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا تبعن شيئاً حتى تفقصها (رواہ التسانی، حوالہ اعلاء السنن ۱۲، ۲۳۲) نیز ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں حضرت حکیم بن حزامؓ کی یہ حدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے: "إذا ابتعدت بيعاً فلا تبعه حتى تفقصه" (حوالہ بالا) نیز حضرت ابن عباسؓ سے بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے کہ رسول ﷺ نے قبضہ سے پہلے طعام کی بیع سے منع فرمایا ہے، اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ "واحدب كل شيء مثله" (بخاری ۲۸۶، مسلم ۲۵۵، والفقہاء).

دوسری تالی دلیل یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز مشتری کے خان میں نہ داخل ہو اس وقت تک نبی کریم ﷺ نے اس سے نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا عقار کو قبل القبض یعنی کی صورت میں ربح مالم یضم من لازم آتا ہے لہذا اس کو بھی قبل القبض یعنی کی اجازت نہیں ہو سکتی، چنانچہ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاصؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم یضم من (ترمذی ۱۳۸، أبو داؤد مع البذل ۲۸۷)۔

تیسرا قیاسی دلیل یہ ہے کہ کسی شی کو قبل القبض اجارہ پر دینا جائز نہیں، لہذا اسی طرح یعنی بھی جائز نہیں۔

چنانچہ علام ابن الہمام فرماتے ہیں:

(قوله يجوز بيع العقار،.... وقال محمد لا بجور وهو قول الشافعی (رجوعا الى اطلاق الحديث) يعني عمومه وهو ما في حدیث حکیم بن حزامؓ من قوله ﷺ "لا تبعن شيئاً حتى تفقصه" و للنهي عن ربح ما لم یضم من ، ولو باع العقار بربح يلزم ربح ما لم یضم من ، وصار بيع العقار كاجارته وإجارته قبل قبضه لا تجوز فكذا بيعه (فتح القدیر ۹، ۱۳، بکہ افی الا وجز ۲، ۱۱۶)۔

## مالکیہ کی دلیل:

امام مالک قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت کو طعام کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کیونکہ ممانعت والی حدیثوں میں صرف طعام کا لفظ آیا ہے، لہذا ممانعت حکم طعام ہی کے ساتھ خاص ہوگا، چنانچہ حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبْاعَ حَتَّى يَقْبَضَ (حوالہ بالا) ایسے ہی حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: "إذا ابتعدت بيعاً فلا تبعه حتى تستوفيه" (رواہ مسلم ۲۰۲)۔

ذکورہ بالا تمام حدیثوں میں ممانعت کا حکم طعام کے ساتھ خاص آیا ہے، معلوم ہوا کہ طعام کے علاوہ بقیہ

تمام اشیاء کا حکم اس کے برخلاف ہے، یعنی ان کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہے۔

چنانچہ ظفر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں:

قالوا : التصريح في هذه الأحاديث بدل على أن غيره بخلافه (اعلاء السنن ۲۳۷)۔

شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں:

وفي التعليق الممجد : قال مالك "يجوز جمیع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التحصیص في الأحاديث بالطعام (أو جز الممالک ۲۵۷)۔

حنابلہ کی دلیل:

طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے ساتھ امام او زانی اور امام احمد وغیرہ نے مکملی اور موزوںی اشیاء کو بھی جوڑا ہے، اس لئے کہ پورا قبضہ اور استیقا، جو حدیث میں آیا ہے وہ مکملی اور موزوںی اشیاء ہی میں ہوتا ہے، چنانچہ امام احمد نے مرفوعاً حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "من اشتراى طعاماً اشتراه بکيل او وزن فلا يبعده حتى يقبضه". ایسے ہی امام ابو داؤد ونسائی نے بھی حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث ان الفاظ سے نقل کی ہے: "نهی ان یبيع أحد طعاماً اشتراه بکيل او وزن حتى یستوفيه" (اعلاء السنن ۲۳۳) ان مدرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مکملی اشیاء، میں کیل سے اور موزوںی میں وزن سے قبضہ شرط ہے (لہذا مکملی اور موزوںی اشیاء، کو بھی طعام کی طرح قبل القبض فروخت کرنا جائز ہوگا) (اعلاء السنن ۲۳۳)۔

۶۔ اس سے قبل کہ اس سوال کا جواب لکھا جائے بطور تمہید اشیاء مبیعہ منقولہ کی فرمیں اور احکام لکھے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے اس صورت کا حکم نکل آئے۔

اشیاء منقولہ کی اولاً و فرمیں ہیں: (۱) مبیع مثلی، (۲) غیر مثلی۔

علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

وجملة الكلام فيه أن المبیع لا يخلو إما أن يكون مما له مثل ، وإما أن يكون مما لا

مثل له (بدائع ۲۳۲/۵)۔

چنانچہ اگر مبیع مثلی ہے جیسے مکملی اور موزوںی اشیاء، تو ان اشیاء میں صرف تخلیہ سے مبیع بالع کے خمان سے نکل کر مشتری کے خمان میں داخل تو ہو جائے گی لیکن مشتری کیلئے اس میں تصرف کرنا اور اتفاق بغيره وبارہ کیل و وزن کے جائز نہیں، کیونکہ تخلیہ سے مکملی اور موزوںی اشیاء میں قبضہ تام حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قبضہ ناقص حاصل ہوتا ہے اور قبضہ ناقص میں تصرف کی اجازت نہیں۔

الایہ کہ بالع بیع کرنے کے بعد مشتری کی موجودگی میں کیل و وزن کر دے، یا کیل و وزن سے نہ بچے بلکہ اندازے اور انکل سے فروخت کرے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں "مجازفہ" کہتے ہیں۔

چنانچہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

وإن كان (المبيع) مماليه مثل ..... فإن باع مكایلة أو موازنة في المکیل والموزون وخلی فلا خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتری ..... وكذا لا خلاف في أن لا يجوز للمشتري بيعه والانتفاع به قبل الكيل والوزن (بدائع ٢٢٢/٣).

ایک جگہ فرماتے ہیں:

فاما جواز التصرف فيه فيستدعي قبضاً كاملاً لورود النهي عن بيع ما لم يقبض والقبض المطلق هو القبض الكامل (بدائع ٢٣٥/٥)

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں:

وإن كاله أو وزنه بعد العقد بحضور المشترى مرة ، فيه اختلاف المشائخ ، قال عامتهم : كفاه ذلك حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا قبضه وعند البعض لابد من الكيل أو الوزن مرتين احتجاجاً بظاهر الحديث وال الصحيح قول العامة لأن الغرض من الكيل والوزن صرورة المبيع معلوماً وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض (فتح القدر ١٣١/٦، بدائع ١٣١/٦، بدائع ٢٣٥/٥).

ایک جگہ ابن الہمام فرماتے ہیں:

أما إذا اشراه مجازفة مبيع صبرة فله أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن ، لأن كل المشار إليه له فلا يتصور اختلاط الملكين (فتح القدر ١٣٠/٦، بدائع ٢٢٢/٥).

دوسری قسم یہ ہے کہ بیع غیر مثلى ہو، جیسے مذروعات و معدودات متفاوتہ، ایسی اشیاء میں صرف تخلیہ سے بالاتفاق قبضہ تام حاصل ہو جائے گا اور بغیر شمار اور پیمائش کئے ہی مشتری کیلئے ہر قسم کا تصرف جائز ہو جائے گا۔

علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

فإن كان مما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة فالتخلية فيها قبض تام بلا خلاف ، حتى لو اشتري مذروعات مذارعة أو معدوداً معاددة ووجدت التخلية يخرج عن ضمان البائع ويجوز له بيعه والانتفاع به قبل الذرع والعدد بلا خلاف (بدائع الصنائع ٢٢٢/٥).

اب رہنمی بات معدودات متقاربہ کی تو اس میں ہمارے ائمہ کرام مختلف ہیں، حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان کا حکم بیع مثلى جیسا ہے، لہذا وبار شمار کئے بغیر مشتری کیلئے ان کی بیع جائز نہ ہوگی، لیکن حضرات صاحبین کے نزدیک معدودات متقاربہ کا حکم بیع غیر مثلى جیسا ہے، یعنی صرف تخلیہ سے قبضہ تام حاصل ہو جائے گا، اور مشتری کیلئے ہر قسم کا تصرف جائز ہوگا۔

علامہ علاء الدین کاسانی فرماتے ہیں:

وأما المعدودات المتقاربة إذا بيعت عددا لا جزأا فحكمها حكم المكيلات والموزونات عند أبي حنفية حتى لا يجوز بيعها إلا بعد العد، وعند أبي يوسف ومحمد حكمها حكم المذروعات فيجوز بيعها قبل العد (بائع الصنائع ۲۲۵/۵).

مندرج بالتفصيل كا حاصل یہ ہوا کہ مکملی اور موزولی اشیاء میں اور امام صاحبؒ کے نزدیک معدودات متقارب میں بھی تخلیہ سے قبضہ تام حاصل نہ ہوگا، جبکہ جواز تصرف کیلئے قبضہ تام ضروری ہے، اور ندر و عات و معدودات متقارب میں نیز صاحبین کے نزدیک معدودات متقارب میں بھی تخلیہ قبضہ تام ہے، اور تصرف جائز ہوگا۔

### صورت مسؤولہ:

مندرج بالتفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اشیاء مبعید غیر مثلى ہیں تو فیکثری کے تخلیہ سے ان اشیاء پر مشتری نمبر (۱) کو قبضہ تام حاصل ہو جائے گا، اور قبل الذرع والعدہ ہر قسم کا تصرف مشتری نمبر (۱) کیلئے جائز ہوگا اگرچہ قبضہ حسی نہیں ہوابے، اس لئے کہ تخلیہ ہی قبضہ تام ہے جو جواز تصرف کیلئے شرط ہے۔

ہاں البتہ اگر میع مثلى ہے تو فیکثری کے تخلیہ سے مشتری نمبر (۱) کو قبضہ تام حاصل نہیں ہوا بلکہ قبضہ ناقص ہے جو جواز تصرف کیلئے کافی نہیں، لہذا قبل الکلیل والوزن تصرف درست نہ ہوگا۔

الا یہ کہ درمیان کا آدمی کمپنی کا ایجنت ہو، تو پھر یہ شخص فیکثری کیلئے بحیثیت وکیل ہوگا، اور اس کے نفع کو اجرت و کالت قرار دی جائے گی۔

البتہ جواز کی دو صورتیں اور ممکن ہیں (میع مثلى میں): (۱) کمپنی اور فیکثری ہی کو مشتری اول کی طرف سے وکیل باقیض مان کر (۲) یا مشتری ثانی کو ہی مشتری اول کا وکیل باقیض مان کر یہ معاملہ دائرہ جواز میں لا یا جاسکتا ہے۔ علامہ شاہی لکھتے ہیں:

فلو تصرف فيه البائع قبل قبضه إما بأمر المشتري أو لا ، فلو بأمره وكان أمره أن يهبه من فلان أو يوجره فعل وسلم صاح وصار المشتري قابضا (ردا المختار ۱۲۹/۵، كراچی)۔

اس صورت میں چونکہ مشتری ایسی چیز سے نفع حاصل کر رہا ہے جس کا وہ ابھی ضامن نہیں ہوا، یعنی "رنج مالم یضممن" لازم آتا ہے، جس کا حدیث میں صراحت انکار ہے، چنانچہ ترمذی و ابو داؤد کی حدیث جس میں "رنج مالم یضممن" کی ممانعت ہے، مذهب شافعی کی دلیل کے ذیل میں گذر چکی ہے، اس لئے یہ صورت دائرہ جواز میں آتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی۔

والله أعلم وعلمه أتم وأحكم

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا ابراہیم بن محمد بڑودوی

۱۔ شرع اسلامی کے اعتبار سے بیع قبل القبض ناجائز ہے، اس ناجائز بیع کا شمار بیع فاسد میں ہے۔

ماروی أن النبی ﷺ نہی عن بیع مالم یقبض والنهی یوجب فساد المنهی عنہ (احکام المعاملات الماليہ ۲۹۱)۔

اشتری داراً او عبیداً او عرضاً و ترکها فى يد البائع فباعها و ربح فالبيع باطل فإن أجازه المشترى ففاسد أيضاً لأن بيع المبيع قبل القبض ويجب فسخه (البحر الرائق ۱۱۷/۸)۔

۲۔ قبض کی حقیقت تخلیہ ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ اصل قبضہ تمام قسم کے اموال میں تخلیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو تخلیہ تصور کیا جائے گا وہی قبضہ ہو گا۔

لا خلاف ان اصل القبض بحصل بالتخلية فيسائر الأموال.

کون سی چیز پر کیے قبضہ متھور کیا جائے گا اس کی بہترین صورتیں (التویر والدرر و الدکتار ۳/۳۸، اور بدائع الصنائع ۵/۲۲۲) میں مذکور ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں۔

۳۔ احناف کے نزدیک اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالماً خالصاً يقال : سلم فلان لفلان اي خلص له، قال الله تعالى : (ورجل سلماً لرجل ) اي سالماً خالصاً لا يشركه فيه أحد ، فتسليم المبيع إلى المشترى هو جعل المبيع سالماً للمشتري اي خالصاً له بحيث لا ينافيه فيه غيره وهذا يحصل بالتخلية فكانت التخلية تسليمها من البائع والتخلي قبضاً من المشترى (احکام المعاملات الماليہ ۲۹۱)۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نبی سے متعلق احادیث معلوم بالعلة ہیں، اور علت نبی ہلاکت کا اعتبار کرتے ہوئے عقد کے فتح ہونے کا غرر ہے، لا یصح بیع المتفق لنهیه ﷺ عن بیع مالم یقبض ولأن فیه غرر الفساح العقد على اعتبار الہلاک " (البحر الرائق ۸/۱۱۸)۔

۵۔ قبضہ سے پہلے اشیاء منقولہ کی بیع بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، لیکن اشیاء غیر منقولہ، یعنی زمین کی بیع قبضہ سے پہلے جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام محمد، امام زفر، امام مالک کے نزدیک

جائز نہیں، کیونکہ حدیث نبھی مطلق ہے، جس میں منقول وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں، شیخینؒ کے نزدیک جائز ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں نبھی کی علت یہ ہے کہ ہلاکت بیع کی صورت میں انفاسخ بیع کا احتمال ہے، اور زمین کی ہلاکت نادر الوجود ہے، اور نادر کا اعتبار نہیں ہوتا، پس جب بیع عقار میں علت مذکورہ نہ پائی جائے تو بیع جائز ہوگی، اور علت مذکورہ پائی جائے، مثلاً زمین دریا کے کنارہ پر واقع ہو اور اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو شیخینؒ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے (البحر الرائق ۱۱۸/۸، معدن الحقائق ۲۹/۲)۔

۶۔ فیکٹری سے مال خرید کر اس کو دوسرے آدمی کے ہاتھ قبضہ سے پہلے فروخت کرنا اور خریدار (۱) کامال کی ہلاکت کی صورت میں ضامن بنانا اگرچہ "ریح المضمون" کی صورت میں داخل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی قبضہ تام کے مفقود ہونے کی وجہ سے یہ صورت معاملہ ناجائز رہے گی، لہذا ضامن قبضہ حسی کا قائم مقام نہیں سمجھا جائے گا، قبضہ تام کا معنی یہ ہے کہ باائع کے ضمان سے نکلنے کا مترتب ہو۔

۷۔ بین الاقوامی تجارت میں جہاز پر مال چڑھانے کے بعد اصل باائع کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اگر مشتری تک مال پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا۔

"وَمِنْ أَشْتُرَى شَيْئًا مَا يَنْقُلُ وَيَحْوَلُ لِمَا يَجْزُلُهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ"۔ خریدار اول اگر منقولہ اور محولہ چیز کو خریدنے کے بعد قبضہ سے پہلے بیع تو جائز نہیں، کیونکہ جب قبضہ سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بیع فتح ہو جائے گی، اس صورت میں مشتری غیر کی ملک کو بیچنے والا شمار کیا جائے گا، البتہ قبضہ کر لیا تو اپنی ملکیت کا بیچنے والا سمجھا جائے گا، قبضہ سے پہلے معلوم نہ ہوگا کہ بیع تام ہو گئی یا نہیں، اس میں غرر کا امکان ہے، لہذا باطل ہوگی (شرح فتح القدر ۱۳۸/۸)۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَعَلِمَهُ أَتَمْ وَأَحْكَمْ



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

### اور اس کے احکام

مفتی عزیز الرحمن بجنوری

۱۔ یوں عات فاسدہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت بھی ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے، اور جو مجر الرائق کی عبارت کے مطابق "العجز عن التسلیم الا بضرر" اور "عدم القدرة على التسلیم" میں داخل ہے، اس لئے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت بیع مکروہ میں داخل ہے، اور بیع مکروہ کو بھی بیع فاسد میں شمار کیا ہے۔

۲۔ قبضہ کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے:

تم التسلیم یکون بالتخلیة علی وجہ یتمکن من القبض بلا مانع ولا حائل الخ (در مختار (۲۷/۲) و قال الشامی و حاصلہ ان التخلیة قبض حکماً لو مع القدرة بلا کلفة لکن ذلک يختلف بحسب حال المیع (۲۷/۲)).

علامہ شامی نے حال میع کی قید سے حنفی مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمارے ائمہ قبضہ کی تشریح صرف اشیائے منقولہ کے لئے خاص کرتے ہیں، لیکن اشیائے غیر منقولہ مثلاً زمین، مکانات وغیرہ کے بارے میں یہ شرط نہیں ہے۔

وذهب أبو حنيفة و أبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض لأن النهي معلول بغير انفسا خ العقد لخوف الها لاك ، وهو في العقار نادر وفي غيره غير نادر (او جز ۷۶/۷)۔

قبضہ کی تعریف میں حال میع کی قید سے یہ دلالت ہے کہ عرف اور حالات کے اعتبار سے قبضہ کی نوعیت بدلتی ہے جس کو قبضہ حکمی کہنا چاہئے، لمذکون کی شرائط چونکہ واضح ہوتی ہیں کہ مال کو ٹرانسپورٹ کے پرداز کرنے کے بعد اور سامان کا انشوئنس ہونے کے بعد کمپنی کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے اور مشتری کا قبضہ ثابت ہو جاتا ہے جبکہ ٹرانسپورٹ بیع میں انشوئنس کی وجہ سے ضامن ہوتا ہے، اس لئے مشتری اول کا مشتری ثانی کو مال فروخت کرنا جائز ہے، البتہ مشتری ثانی ثالث کو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ مال ابھی مشتری اول کے قبضہ اور اسی کی خنان میں ہے بتوسط ٹرانسپورٹ، واللہ اعلم بالصواب۔

۳۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت والی حدیث معلول بیعات انفسا خ العقد لخوف الها لاک ہے جیسا

کے اوپر گذر اجس کا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ الامکان بعث قبل القبض نہیں ہونا چاہئے، بعض خصوصی حالات ضرر اور منازعت کی وجہ سے جائز ہے، واللہ عالم۔

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو حضرت ابن عباسؓ کے قول کی بناء پر امام شافعی، امام مالک اور امام احمد نے عام رکھا ہے، صرف احتفاف نے علت انداخ لخوف البلاک کی وجہ سے جو مفسحی الی المنازعت ہے زمین اور مکانات کو مستثنی کیا ہے۔

۶۔ جواب نمبر (۲) میں آپ کا ہے۔

واللہ تعالیٰ عالم بالصواب



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

### اور اس کے چند اہم پہلو

مولانا اخلاق الرحمن قاسمی، گجرات

۱۔ بیع پر قبضہ ہونے سے قبل دوسرے کے ہاتھ اس کی فروختگی شریعت میں جائز نہیں ہے، ”بیع قبل القبض“ کے بارے میں فرمایا کہ:

و منها بیع ما هو مملوک له ، لكن قبل القبض . اور بیع فاسد کے مختلف انواع و اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ بیع جو مشتری کی ملک ہے قبل القبض فروخت کیا جائے (تحفۃ الفقہاء ۳۸/۳) اور بیع فاسد کے عدم جواز کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ علامہ سرفرازی (۵۳۹ھ) رقم طراز ہیں کہ:

و منها أن البيع إذا كان لا يقدر على تسليمه وقت العقد ، مثل الطير الذى طار عن يده ... يكون البيع فاسدا ، ولو قدر على التسليم فى المجلس ، لا يعود إلى الجواز ، لأنه وقع فاسدا (تحفۃ الفقہاء ۳۸/۳)۔

من جملہ بیع فاسد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیع کے عقد کے وقت قبضہ کرنے پر قدرت نہ ہو، مثلاً ایک پرندہ جو بالع کے ہاتھ سے فرار ہو چکا اس کی فروختگی، تو بیع فاسد ہو گی، اور اگر مجلس عقد ہی میں بالع تسلیم پر قادر بھی ہو جائے تو جائز نہ ہو گا، کیونکہ عقد کا وقوع فساد پر منی ہے۔

۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ صاحب مال یعنی مشتری وغیرہ اس پر قابض ہو جائے اور اس پر ہر طرح سے تصرف کر سکتا ہو، چنانچہ حدیث شریف میں اس کی عدمہ وضاحت پائی جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعِدُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَفِي رِوَايَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ ، وَفِي رِوَايَةِ التَّفْصِيلِ هَكَذَا ، عَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ كَنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مِنْ يَأْمُرُنَا بِإِنْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبْيَعَهُ ، وَعَنْهُ هَكَذَا: وَكَنَا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّكَابَانِ جَزَافَا فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبْيَعَهُ حَتَّى نَنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (مسلم شریف ۵۱۲)۔

والمعروف أن القبض والاستيفاء بمعنى واحد، والقبض فهو أن يأتي الشيء بحرزه وضمائه (تتملص فتح المفهم ۳۵۱، قواعد الفقه ۲۲۲)۔

جس نے کھانے کی اشیاء خریدا تو تاوقتیکہ اس پر قابض نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی فروختگی کی اجازت

نہیں ہے، ایک روایت میں "بِقَضَى" کے بجائے "بِسْتُوْفِه" کا لفظ آیا ہے، اور تفصیلی روایت اس طرح ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں ہم نہ خریدتے (اور بیچتے تھے) پناپ آنحضرتؐ ہمارے پاس اپنا قاصد صحیح جو آنحضرتؐ کی طرف سے یہ حکم ہمیں سناتے کہ جس غلہ کو ہم نے جہاں خریدا ہے وہاں سے دوسرا جگہ منتقل کرنے کے بعد ہی ہم اس کی فروختگی کریں، اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی سے اس طرح بھی مروی ہے: ہم سواروں سے غلہ جزا فا (کیل وزن کے بغیر) خریدا کرتے تھے، پھر آنحضرتؐ نے ہمیں اس سے منع فرمادیا کہ جب تک ہم بیع کو مقام بیع سے منتقل نہ کریں، نہ فروخت کریں (مسلم ۲/۵) اور حدیث شریف میں جو قبض و استیفاء کے دو فن آئے ہیں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی کسی شی کا اپنی حرزوں مان اور ملکیت میں کر لینا۔

متذکرہ عبارت سے دو باقیں ثابت ہوئیں:

۱۔ قبض کے معنی، یہ حدیث شریف کے لفظ "یَا مَنْ نَا بِالنَّفَالَةِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعَدَ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سَوَاهُ فَإِلَّا أَنْ نَبِعَهُ" میں موجود ہے، کیونکہ انسان مملوک شی ہی کے فروخت کرنے یا دینے کا حق رکھتا ہے، اور بیع پر آدمی کا مکمل قبض اسی وقت سمجھا جاتا ہے جب بیع بالغ کی ملکیت سے نکل کر مشتری کے پاتھ میں اور مکان میں پہنچ جائے، معلوم ہوا کہ قبض اسی وقت سمجھا جائے جب کہ انسان پر اس کے تصرف میں کوئی مانع پیش نہیں آئے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اس کے پاتھ اور مکان میں پہنچ جائے، اور تو ملک کے باوجود "قبض ضعیف" کی وجہ سے آدمی تصرف سے بہرہ مند نہیں ہوتا ہے اور یہی "قبض ضعیف" فساوی وجہ ہے جو بیع قبل القبض کے بیع کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، غرض کہ "قبض" کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا فلاں کی ملکیت اور تصرف میں ہونا، قواعد الفقه میں ہے کہ "فِصْ الشَّيْءِ أَخْدَهُ وَهَذَا الشَّيْءُ فِي قَبْضَةٍ فَلَا يَأْتِي فِي مَلْكَهُ وَتَصْرِيفَهُ" شکی کے قبض کے معنی یہی کہیں کا لیتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کے قبض میں ہے، ایمن اس کی ملکیت میں اور تصرف میں ہے۔

۲۔ دوسرا چیز جو حدیث نہ کوہہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ قبض کی شریعت نے ایک خاص حد مقرر کر دی ہے جو نہ کوہہ حدیث میں مذکور ہے، نہ را ایک کے تحت بھی اس قبضہ شرعی کی پوری پوری وضاحت موجود ہے، اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے عرف و عادات پر قبض کی حد کو باقی رکھنا شریعت کے پیش نظر ہوتا تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ جو اپنے زمانہ کا عمل بتا رہے ہیں کہ "اَنَّمَا خَرَدَ اَكْرَتَ تَحْتَهُ" تو آنحضرتؐ نے اس پر قبض سے قبل فروخت کرنے سے منع فرمادیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں التجار اس طرح کا عمل رائج تھا، جس سے آنحضرتؐ نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا، معلوم ہوا کہ قبض کے باب اور حد میں عرف و عادات کو دخل دا شریں، باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ حدیث شریف ہر قسم کی بیع سے متعلق ہے یا اس سے کوئی خاص بھی ہے کہ جس میں قبل القبض تصرف جائز ہو، اس بارے میں پوری تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

۳۔ اشیا، منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں فرق ہے، چنانچہ منقولی اشیاء میں بیع قبل القبض باطل ہے،

اور غیر منقولی اشیاء میں احتفاف میں سے حضرات شیخین کے یہاں اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ عقار کے بلاک ہونے کا خوف نہ ہو، تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حضرت امام شافعی اور حضرات احتفاف میں سے حضرت امام محمد کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ جملہ اشیاء کی بیچ قبل القبض جائز نہیں ہے، خواہ طعام ہو یا غیر طعام، منقولی ہو کہ غیر منقولی، ان کے قول کا متدل حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، جو بظاہر ان کے قول کی دلیل بن رہا ہے، روایت یہ ہے کہ: عن ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اِتَّاعِ طَعَامًا فَلَا يَبْعُدُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيهِ، قَالَ أَبْنَ عَبَّاسٍ: وَأَحَسِبَ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهِ (تکملة فتح الالمیم ۲۵۰/۱)۔

"حضرت عبداللہ بن عباس" سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی غلہ خریدے تو قبل القبض اس کی بیچ نہ کرے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جملہ اشیاء میں ہے، یہی وہ بات ہے جس سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ استدلال کرتے ہیں، مزید تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

۲۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے یہاں منقولی اشیاء میں بیچ قبل القبض جائز نہیں، لیکن غیر منقولی اشیاء میں جس کے بلاک ہونے کا خوف نہ ہو اسی اشیاء کی بیچ قبل القبض جائز ہے (تکملہ فتح الالمیم ۳۵۱/۱، بحوالہ فتح القدر ۵۵/۲۲۶) مزید تفصیل اولہ کے تحت آرہی ہے۔

۳۔ حضرت امام مالک کے نزدیک سوائے طعام کے دوسری جملہ اشیاء خواہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ قبل القبض بیچ کی بیچ جائز ہے (تکملہ فتح الالمیم ۳۵۱/۱، کتاب الفقد ۲۳۵/۲) مزید تفصیل اولہ کے ضمن میں آرہی ہے۔

۴۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی سب سے زیادہ ظاہر روایت یہ ہے کہ بیچ قبل القبض کی ممانعت صرف طعام سے متعلق ہے، باقی اس کے سوا جملہ اشیاء منقولہ ہو کہ غیر منقولہ ہر ایک کی قبل القبض بیچ جائز ہے، جیسا کہ مذہب حنبلی کے سب سے بڑے ترجمان ابن قدامہ نے مخفی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے (تکملہ فتح الالمیم ۳۵۰/۱)۔

#### ادله مذاہب اربعہ:

حضرت امام شافعی کی دلیل ذیل کی تین روایتیں ہیں:

۱۔ عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبه لقيني رجل فاعطا نبي به ربحاً حسناً، فاردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (فقد عمم هذا الحديث الحكم فيسائر السلع).

۱. عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله إليني أتباع هذه ال碧ع ، فما يحل لى منها وما يحرم على ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيع شيئاً حتى تقبضه ، وفي رواية ابىان : إذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه .

۲. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ، أخرجه الترمذى في باب كراهة بيع ما ليس عندك ، وقال هذا حديث حسن .

(۱) حضرت عبد الله بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے بازار میں زیست خریدی اور جب مکمل طور پر میں اس کا مستحق ہو گیا تو ایک شخص سے ہماری ملاقات ہو گئی جو مجھ سے زیادتی منافع کے ساتھ اس کی قیمت دے کر لے چاہا، اور میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس کے ہاتھ ہی فروخت کر دوں، اسی اثناء میں جانب خلف سے ایک شخص نے میرے بازو پکڑ لئے، میں نے جو دیکھا تو وہ حضرت زید بن ثابت تھے، انہوں نے فرمایا جس چیز کی تم نے جہاں خریدی ہے وہاں فروخت نہ کروتا آئنکہ وہ تحری ملکیت میں نہ آجائے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ جہاں تم سامان خریدو وہ ہیں پیچو، مگر یہ کہ وہ تحری ملکیت میں آجائے۔

اس حدیث شریف سے استدلال اس طور پر ہے کہ یہ حدیث شریف تمام اشیاء و سامان کو عام اور شامل ہے، طعام پر انحصار نہیں، لہذا تمام اشیاء کی بیع قبل القبض جائز نہ ہوگی، خواہ وہ شی عقار اور غیر عقار اور منقولی ہو یا غیر عقار اور منقولی ہو۔

(۲) حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ میں اس طرح سے خرید و فروخت کرتا ہوں، سواس میں کوئی صورت حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، اوپرے سمجھتے ہیں کسی بھی شی کی بیع قبل القبض نہ کیا کرو، اور حضرت ابیان کی روایت میں ہے کہ جب تو کسی چیز کو خریدے تو قبل القبض اس کی بیع نہ کرو۔

اس حدیث شریف میں بھی قبل القبض کی مماثلت تمام ہی اشیاء کو شامل ہے، جیسا کہ حدیث کاظم برکسی سے مخفی نہیں ہے۔

(۳) حضرت عبد الله بن عمر سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بیع اور سلف حلال نہیں، اور شہری بیع میں دو شرطیں، اور نہ ہی ایسا منافع جائز ہے جس کا نہمان نہ ہوا ہو، اور نہ ہی اسکی شی کی بیع جو تحری سے پاس نہ ہو، ترمذی کی روایت میں بیع کی کراہت کے باب میں یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی بیع درست نہیں جو اس کے پاس نہ ہو۔

اس حدیث شریف سے استدلال اس طور پر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے "ربح مالم يضمن" سے منع فرمایا ہے، اور بیع قبل القبض "ربح مالم يضمن" کو شامل ہے، کیونکہ بیع مشربی کے صنان میں بعد القبض ہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر منافع کے ساتھ قبض القبض فروخت کر دیا تو یہ "ربح مالم يضمن" ہو جائے گا لیعنی ایسی چیز سے افع حاصل کرنا جس کا

ضامن نہ ہوا ہو، اور یہ علت قبل القبض کی صورت میں ہر ایک کو عامم ہے خواہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، اپنہ منقولی اشیاء ہو یا غیر منقولی اشیاء، بیچ قبل القبض کسی حال میں درست نہیں ( تتملہ فتح الہم : ۲۵۲، ۲۵۳ )۔

### حفیہ کے دلائل:

حضرات احناف کے دلائل بعینہ وہی ہیں جو حضرات شوافع کے ہیں، الایہ کہ حضرات احناف نے عقار کو نبی کے نعم سے مستثنی کیا ہے، کیونکہ نبی کی علت عقار میں مشتملی ہے، کیونکہ متذکرہ تین حدیثوں میں اخیر حدیث جو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مردی ہے وہ اس بات پر والی ہے کہ مجمع کے یعنی کی ممانعت قبل القبض "ربع مالم بضم" (یعنی ایسی چیز سے لفظ حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) کو سکریم ہے (جو علت نبی ہے) اور انسان پر بلاکت کی صورت میں ضمان اسکی چیزوں تک میں تو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بلاکت کا خطرہ ہو، اور عقار اور اراضی وغیرہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عقار کی قسم ایسی نکل گئی جو خطرہ کے دہانے پر ہے، جسے سند رکے کنارے جس کے کٹ کر سند ر میں مل جائے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر یہ عقار جو اس صفت مذکورہ کے ساتھ ہو قبل القبض جائز نہیں ہے ( تتملہ فتح الہم : ۲۵۳، ۲۵۴ بحوالہ فتح القدری : ۲۶۹، ۵ )۔

### مالکیہ کی دلیل:

حضرت امام مالک کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جس میں بیع ناپنے سے قبل کی ممانعت ہے، اور وہ حدیث شریف یہ ہے: من اشتري طعاما فلا يبعه حتى يكتله ( تتملہ فتح الہم : ۲۵۴، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ : ۳۳۵ )۔

### حنابلہ کی دلیل:

حضرات حنابلہ نے اپنی دلیل میں حدیث باب کو پیش کیا ہے جو اولاد مذکور ہوئی اس طور پر کہ اس میں نبی مقصود علی الطعام ہے، آنحضرت کا طعام کی صراحت خود اس بات پر واضح دلیل ہے کہ غیر طعام خواہ منقولی ہو یا غیر منقولی بیع قبل القبض ہے۔

( تتملہ فتح الہم : ۲۵۴، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ : ۲۳۶ )

۳۔ ۵۔ ان دونوں سوالوں کے جوابات نمبر ۳ کے تحت تفصیل مذکور ہو چکے ہیں اس لئے اعتماد کی حاجت نہیں۔

۶۔ مذکورہ بیع کا طریقہ درست نہیں ہے، اور اگرچہ باائع بعد وائے مشتملی کیلئے بصورت بلاکت اشیاء، ووران راہ اپنی ضمانت کے بموجب اس کا بدل پیش کرتا ہے، لیکن ضمانت کو قبضہ حسی کے قائم مقام بوجہ قبضہ کی تعریف کے جو مذکورہ ہوئی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ راہ چلتے اشیاء، یعنی بیع کے ساتھ حاویہ کا پیش آ جانا یا ایک اتفاقی امر ہے، جس کو قبضہ کے قائم مقام کی صورت نہیں کیا جا سکتا، اپنہ ایکثری سے خریداری کرنے والے کی طرف سے قبضہ حسی نہ پائے جانے کی وجہ سے ضمان کو قبضہ حسی نہیں قرار دیا جائے گا ( بعض لوگوں نے اس کو قبضہ حکمی قرار دے کر جائز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، سورا تم کا اس سے اتفاق نہیں ہے، جب کہ قبضہ حسی پایا جاتا بہت حد تک ممکن ہے، باں اگر دشواری کی صورت ہے تو

گنجائش ہے) اور دوسرے شخص کے ہاتھ اس کی فروختگی کو ناجائز قرار دیا جائے گا، لیکن یہ بات حضرات شوافع اور احناف کے یہاں ہے، دوسرے مذاہب میں اس کی گنجائش ہے اور معاملات میں ناگوارشی کو بھی گوارا کر لیا جاتا ہے اس لئے حضرات احناف کے یہاں بھی اس کی گنجائش ملتی ہے، لہذا اس وقت جب کہ اس کا خاصار و اوج ہو چکا ہے، جائز قرار دینا چاہئے۔

ظاہر ہے کہ بحث منقولی اشیاء سے ہے، لہذا اگر طعام کے قبل سے ہے تو بالاتفاق انہمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں جائز نہیں ہے طعام کے علاوہ ہے لیکن منقولی ہی ہے، حضرات احناف و حضرات شوافع کے یہاں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ علت نہیں "ربح مالم يضمن" پائی جا رہی ہے، باقی دوسرے مذاہب میں اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ پوری پوری وضاحت نمبر ۳ کے تحت آچکی ہے، اب جہاں تک موجودہ دور میں اس کا سلسلہ پچھے زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ بیع کے بازار میں پہنچنے سے قبل ہی متعدد مشتریوں کے درمیان میں آجائے کی وجہ سے اشیاء میں گرانی حساب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

باوجود اس کے معاملات کے باپ میں ناگوارشی کو بھی گوار کر لیا جاتا ہے، اس لئے فتوی جائز کا ہونا چاہئے۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا اقبال قاسمی، درجمنگر

### ا۔ بیع قبل القبض کی نبی سے متعلق احادیث:

اس سے متعلق احادیث دو تسمیں ہیں: ۱۔ مقید، ۲۔ مطلق

۱۔ مقید یہ وہ احادیث ہیں جن میں غلہ کی بیع کا قبضہ سے پہلے عدم جواز مذکور ہے، اور اس قسم کی احادیث کے راوی چھ صحابہ ہیں، حضرت عمرؓ، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ اور حکیم بن حزام، اور اتحاد مفہوم کے ساتھ سب راویوں کے الفاظ حدیث معمولی اختلاف کے ساتھ تقریباً یکساں ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جو شخص غلہ خریدے اور اس کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے، اور جو اس قسم کی خرید و فروخت عہد نبوی میں کرتے تھے ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب تک غلہ کو خرید کر کسی دوسری جگہ اپنے مکان، یا خیمہ میں یا مارکیٹ سے باہر منتقل نہ کر لیں کسی دوسرے کو نہ بیچیں، وہ روایات یہ ہیں:

"من ابتاع او اشتري طعاماً فلَا يبعه حتى يقبضه حتى يستوفيه، حتى يكتاله، حتى يستوفيه ويقبضه، أنهم كانوا يضربون على عهده رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاماً جزاً أن يبعوه في مكانه حتى يحولوه، حتى يرثونه إلى رجالهم، وفي رواية كنا في زمان رسول الله ﷺ نَبَاعُ الطَّعَامَ فِي بَعْثٍ عَلَيْنَا مِنْ يَأْمُرُنَا بِانتِقالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعَنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سُواهُ قَبْلَ أَنْ نَبْعَدَهُ" (مسلم شریف: ۵/۲)۔

۲۔ مطلق: یہ وہ احادیث ہیں جن میں طعام (غلہ) کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ مطابقاً سامان اور اشیاء کو قبضہ سے پہلے بیچنے کی ممانعت ہے اور اسی فہرست میں ان صحابہ کے اقوال بھی ہیں جو طعام والی روایت کے راوی ہونے کے باوجود نبی کو تمام اشیاء کیلئے عام خیال کرتے ہیں، اور طعام اور غیر طعام میں کوئی فرق نہیں تصور کرتے ہیں، وہ احادیث یہ ہیں:

۱. يقول زيد بن ثابت إن رسول الله ﷺ نهانا أن نبيع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رجالهم"۔

"زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں اس جگہ سامان کو فروخت کرنے سے منع فرمایا جہاں اس کو خریدا گیا ہے، جب تک تاجر اس کو اپنے مکان میں منتقل نہ کرے"۔

۲. "أن حكيم بن حزام قال أخذ النبي ﷺ بيدي فقال إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى

۱۔ حکیم بن حرام نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے میرا تھوڑا کہ جب تو کسی چیز کو خریدے تو قبضہ سے پہلے اس کو مت فروخت کر۔

۲۔ ”عن علی بن حکیم بن حرام أَن أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي أَشْتَرِيتْ بِبَعْدَ عَافِيَا  
بِحَلِّ لِي مِنْهَا قَالَ: إِذَا أَشْتَرِيتْ بِبَعْدَ فَلَا تَبْعَثُهُ حَتَّى تَقْبَضَهُ“۔

۳۔ یعلیٰ حضرت حرام سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے اللہ کے رسول ﷺ سے دریافت کیا کہ میں چند چیزوں خریدتا ہوں تو میرے لئے اس کو کس طرح بیچنا جائز ہے، تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب تو کسی چیز کو خریدے تو اس کو قبضہ سے پہلے مت بیچ۔

۴۔ ”عن ابن عباس قَالَ: أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ يَسْتَوْفِي  
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِرَأْيِهِ وَاحْسَبَ كُلَّ شَيْءٍ مُمْلِكًا“ (شرح معانی الآثار: ۲۰۲-۲۰۳)۔

”حضرت ابن عباس“ نے رسول کے اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ غلہ کو قبضہ سے پہلے بیچنا ہے اور خود میراثیاں یہ ہے کہ ہر چیز غلہ ہی کی طرح ہے۔

یہ وہ روایتیں ہیں جن میں طعام کی قید مذکور نہیں ہے، اور طعام غیر طعام میں کوئی فرق بیان نہیں کیا ہے۔

انہم کے مذاہب اور ان کے دلائل:

بیع قبل القبض کی بابت بنیادی طور پر انہم کے تین اقوال ہیں۔

۱۔ کھانے پینے والی چیزوں میں قبضہ سے پہلے بیع جائز نہیں اور بقیہ چیزوں میں بیع جائز ہے، یہ حضرت امام مالک اور اسحاق بن راہو یہ کا مذہب ہے۔

۲۔ مطلقًا تاجائز ہے، چاہے منقولی اشیاء ہو، یا غیر منقولی، مثلاً کیلی، وزنی چیزوں، یا جائد ادمکان وغیرہ، یہ امام شافعی، محمد اور زفر کا مذہب ہے۔

۳۔ منقولی اشیاء، مثلاً غلہ، لوبہ، پیتیل، سونا، چاندی، کپڑا، خواہ مطعومات ہوں، یا غیر مطعومات ان میں ناجائز اور غیر منقولی اشیاء، مثلاً از میں جائید ادمکان وغیرہ میں جائز، یہ حضرت امام ابو حییہ اور امام ابو یوسف کا مختار مسلک ہے۔

ان میں سے ہر ایک کے دلائل بالترتیب یہ ہیں:

پہلی دلیل:

حضرت امام مالک کی دلیل پہلی قسم کی احادیث ہیں، جن میں طعام کی قید لگی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر طعام کی بیع قبضہ سے پہلے ناجائز ہوتی تو پھر اللہ کے رسول ﷺ طعام کی تخصیص نہ فرماتے گویا ان کے نزدیک یہ احادیث معلوم بالعلائق نہیں ہیں اور بیع کے ناجائز ہونے کا حکم امر تعبدی ہے جس پر دوسری چیز کو قیاس کرنا درست نہیں، یا معلوم بالعلائق اقصار ہیں، جو امر تعبدی کے حکم میں ہوتا ہے۔

## دوسری دلیل:

حضرت امام شافعی، امام محمد اور امام زفر کی پہلی دلیل دوسری قسم کی احادیث ہے جس میں طعام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور وہ طعام اور غیر طعام سب کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں سے ہو جن کو متقل کیا جاسکے، یا ان کیا جاسکے، جیسے زین، جائداد، وغیرہ، دوسری دلیل یہ کہ حضرت ابن عباس<sup>ؓ</sup> اور حضرت ابن جابر<sup>ؓ</sup> طعام والی روایتوں کے راوی ہیں اس کے باوجود ان کے نزدیک طعام اور غیر طعام دونوں کا حکم ایک ہے اور صحابہ حدیث کے منشاء اور مفهموم کو زیادہ سمجھتے ہیں، "نیل الا وطار"<sup>ؓ</sup> میں یہ عبارت ہے:

الصحابۃ أعرف بمقاصد الرسول (نیل الا وطار: ۱۶۰/۵).

"صحابۃ منشأه نبی کو زیادہ پہچانتے ہیں۔"

باقی احادیث میں طعام کی قید تمثیلاً ہے تخصیص نہیں، اور انصوص میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ مقید ذکر کیا جاتا ہے اور مراد مطلق ہوتا ہے، قرآن پاک میں "سورہ مائدہ" میں اللہ نے محرم کو حالت احرام میں عملان شکار کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور جو آدمی عمداء ایسا کرے اس کی سزا یہ بیان کی ہے کہ اسی جیسا جانور، یا پرندہ لا کر دینا ہے، ارشاد پاری ہے۔ "وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مَتَعْمِدًا جَزَاءٌ مُّثُلٌ مَا قُتِلَ الْغَيْرُ، حَالَّا نَكَهَ بِحَالٍ اِذْرَامٍ حَطَّالٍ كَرَنَّ كَبْحًا بِالْاِتْفَاقِ" یہی حکم ہے اور عمدہ کا ذکر خطا کے منافی نہیں ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں:

"أَنْ ذِكْرُهُ الْعَمَدُ لَا يَنْفَعُ الْخَطَا فَكَذَلِكَ ذِكْرُهُ الطَّعَامَ فِي النَّهَى عَنْ بَيعِهِ قَبْلَ الْقِبْضِ لَا يَنْفَعُ غَيْرُ الطَّعَامَ (شرح معانی الآثار: ۲۰۲/۲)."

## تیسرا دلیل:

شیءربا کا تحقیق ہے، کونکہ جب مشتری نے خریدی ہوئی چیز کو بخت سے پہلے بچ دیا تو یہ بالکل روپے کو روپے کے بدلتے بیچنے کے مشابہ ہو گیا، مثلاً زید نے ایک سامان کو ایک سو دینار میں خرید کر روپے بالائے کے حوالہ کر دیا اور ابھی تک زید نے اس سامان پر بخت سہی نہیں کیا تھا کہ اتنے میں وہ سامان ایک سو بیس میں کسی دوسرے شخص کو بچ ذالتویہ بالکل ایک سو دینار کو ایک سو بیس دینار کے بدلتے بیچنے کے مشابہ ہے، اور یہ علت طعام اور غیر طعام سب میں جاری ہوتی ہے، لہذا حکم بھی عام ہو گا، اور یہ علت خود حضرت ابن عباس نے حضرت طاؤس سے بیان کی تھی، اور صاحب "نیل الا وطار"<sup>ؓ</sup> نے اس علت کو بہت تھی عمدہ کہا ہے۔

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَاؤِسًا سَأَلَهُ عَنْ سَبِّ النَّهَى فَاجْهَبَهُ بِأَنَّهَا إِذَا بَاعَ الْمُشْتَرَى الْمُبَيعَ قَبْلَ قِبْضِهِ وَنَاحِرَ الْمُبَيعَ فِي يَدِ الْبَاعِنِ صَارَ كَانَهُ بَاعِهِ دِرَاهِمٌ بِدرَاهِمٍ فَإِذَا اشْتَرَى طَعَامًا بِمَائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا دَفَعَهَا إِلَى الْبَاعِنِ وَلَمْ يَقْبِضْ وَمِنْهُ الطَّعَامُ ثُمَّ بَاعَ الطَّعَامَ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ بِمَائَةِ وَعَشْرِينَ مَثَلًا صَارَ كَانَهُ اشْتَرَى بِذَهَبٍ ذَهَبًا أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ اشْتَرَاهُ بِمَائَةِ وَعَشْرِينَ... وَهُوَ التَّعْلِيلُ أَجْوَدُ مَا عُلِّلَ بِالنَّهَى لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَعْرَفُ بِمَقَاصِدِ الرَّسُولِ" (نیل الا وطار: ۱۶۰/۵).

## چوتھی دلیل:

وہ ہے جس کو امام طحاویؒ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ طعام کی بقسط سے پہلے تاجائز ہونے کی علت "رُجْمَ الْمَلْمَضِمَنْ" ہے اور جب قبضہ کر لیا تو اس کے خمان میں آگئیا، لہذا اب نفع حاصل کرنا درست ہو گا اور اس کی خرید و فروخت کا مکمل اختیار ہو گا اور یہ علت بعینہ دوسری چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی خریدی ہوئی چیز کو قبضہ سے پہلے بیع کرنے کا نفع حاصل کرنا مال غیر مضمون سے نفع حاصل کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے "رُجْمَ الْمَلْمَضِمَنْ" (ایسی چیز سے نفع حاصل کرنا جس کا ضامن نہ ہوا ہو) سے منع کیا ہے اور اس میں طعام اور غیر طعام سب داخل ہیں اور ضامن بنے سے پہلے کسی بھی شخص کیلئے نفع اٹھانا درست نہیں، لہذا اور تمام خریدی ہوئی چیزوں جس کا نفع خریدار کیلئے مہاج ہواں کو بیچنا بھی مہاج ہو گا اور جن کا نفع جائز نہ ہوان کو بیچنا بھی خریدار کیلئے جائز نہ ہو گا، امام طحاویؒ کے الفاظ یہ ہیں۔

"وَفِي ذَلِكَ حِجَةُ أَخْرَى وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حَرَمَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي الطَّعَامَ بَعْدِ قَبْضِهِ هُوَ أَنْ لَا يُطِيبَ لِهِ رِبْعٌ مَا فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ صَارَ فِي ضَمَانِهِ فَطَابَ لِهِ رِبْحُهُ فِي جَازَ أَنْ يَبْعَدَ مِنْ أَحَبِّ وَالْعَرْوَضِ الْبَيْعَةَ هَذَا الْمَعْنَى بَعْدَهُ مَوْجُودٌ مِنْهَا" (شرح معانی الآثار ۲۰۲۲: ۴۰۲)۔

حضرت امام ابوحنیفہ، امام یوسفؓ کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ اولیٰ دلیل آیت باری تعالیٰ: "أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ" جو مطلقًا بغیر قبضہ کی قید کے جواز بیع پر دلالت کرتا ہے لیکن خبر آحادیت کی بناء پر منتقلی اشیاء میں تخصیص کر لی گئی ہے، اور غیر منتقلی اشیاء میں آیت کے عموم کے تحت بیع قبل القبض جائز رہی۔

۲۔ دوسری دلیل: دوسری قسم کی احادیث ہیں جن میں طعام کی قید نہیں ہے، اور اس ممانعت کی علت صرف "رُجْمَ الْمَلْمَضِمَنْ" نہیں بلکہ "رُجْمَ الْمَلْمَضِمَنْ" اور "غَرْرٌ" کا مجموعہ ہے، "رُجْمَ الْمَلْمَضِمَنْ" کی تفصیل گذر چکی ہے اور "غَرْرٌ" کی شرعی تعریف یہ ہے کہ "غَرْرٌ" وہ چیز ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہ بتایا جاسکتا ہو کہ وہ چیزوں جو دوں کا اندیشه ہو مو لانا عبد الحمی صاحب لکھتے ہیں:

"الغَرْرُ مَا طَوَى عَنْكَ عِلْمٌ، وَفِي الْمُبَوْطِ الْغَرْرُ مَا يَكُونُ مَسْتَوِ الرَّاعِقَةِ وَفِي

الْمُغْرِبِ الْخَطَرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ أَمْ لَا" (حاشیہ بدایہ: ۳۲۳)۔

اور قبل القبض بیع کرنے میں غرر یہ ہے کہ باع اول نے تو بیچنی طور پر اپنے سامان کو بیچا ہے، چاہے خریدار کے قبضہ کے بعد بیع تام ہو جائے، یا قبضہ سے پہلے بیع بلاک ہو کر بیع فتح ہو جائے اور باع کی ملکیت لوٹ آئے، لیکن خریدار اگر قبضہ سے پہلے کسی دوسرے شخص کو بیچتا ہے تو یہ اندیشه اور خطرہ ہے کہ وہ اپنی مملوک چیز کو بیع رہا ہے، یا دوسرے کی مملوک چیز کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باع اول کے پاس وہ چیز بلاک ہو جائے اور اس کا قبضہ نہ ہو سکے، اس صورت میں بیع فتح ہونے کی وجہ سے وہ باع کے سامان کو بیچنے والا ہو جائے گا، اور دوسرے کے مملوک چیز کو بلا کالت اور بلا اصلاح بیچنا جائز نہیں، اور

جس بیع میں ایسا اخطرہ اور اندریشہ لگا ہوا جو اس کی بیع جائز نہیں اور قبضہ کرنے کے بعد یہ اندریشہ نہیں ہے، حدیث میں ہے:  
نَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ (ترمذی شریف: ۲۳۲)۔

صاحب بدایہ تحریر فرماتے ہیں:

وَمَنْ أَشْتَرَى شَيْئًا مَا يَنْقُلُ وَيَحْوِلُ لَمْ يَجْزِ بَعْدَهُ حَتَّى يَقْبَضَهُ لَأَنَّهُ لَهُ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ  
يَقْبَضْ وَلَأَنَّ فِيهِ غَرِيرُ الْفَسَاجِ الْعَقْدِ عَلَى اعْتِيَارِ الْهَلاَكِ "بدایہ: ۵۸/۳"۔

یعنی کہ ملت مذکورہ ان ہی چیزوں میں متحققاً ہو گی جن کا بلاک ہونا کشیر الوقوع ہے، جیسے منقولی اشیاء، لہذا اس میں قبضہ سے پہلے بیع ناجائز ہو گی اور جن چیزوں کی بلاکت نادراً الوقوع ہے، جیسے غیر منقولی اشیاء زمین، جاندار وغیرہ، تو ملت مذکورہ کے پائے جائے کی وجہ سے اس کی بیع جائز ہو گی، جیسے زمین، یا مکان دریا سے قریب ہو اور اندریشہ کو کہیں وہ زمین دریا بن جائے، یا ریت نہ پھر جائے جس کی وجہ سے قابل اتفاق نہ رہے، بدایہ میں ہے:

"وَيَحْرُزُ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ . . . . وَلَا غَرِيرُ فِيهِ لَأَنَّ  
الْهَلاَكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ بِحَلَافِ الْمَنْقُولِ وَالْغَرِيرِ الْمُنْهَى عَنْهُ غَرِيرُ الْفَسَاجِ الْعَقْدِ وَالْحَدِيثِ  
مَعْلُولٌ بِهِ عَمَلاً بَدْلًا لِلْجَوَازِ، وَفِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ نَادِرٌ حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي مَوْضِعٍ لَا  
يُؤْمِنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ كَلَّا فِي الْمَنْقُولِ (بدایہ: ۵۸/۳)"۔

اور جب ملت نبی غرائفساً عقد ہے تو جیساں کہیں یہ ملت پائی جائے گی وہاں قبضہ سے پہلے تصرف ناجائز ہو گا، جیسے بیع میں بیع اور اجارہ میں اجرت اگر میں ہو تو اجرت میں تصرف کرنا قبضہ سے پہلے ناجائز ہے، اسی طرح اگر دین کی جانب سے عین پرصلح ہوا ہو تو بدل صلح میں قبضہ سے پہلے تصرف ناجائز ہو گا، کیونکہ بیع، اجرت، اور بدل صلح پر قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں عقد کے شیخ ہونے کا اندریشہ ہے اور اگر عوض کے بلاک ہونے کی صورت میں عقد علی حالہ باقی رہتا ہے تو پھر اس میں تصرف کرنا قبضہ سے پہلے اس کو بیننا، بیہ کرنا، اجارہ پر دینا اور اس کے علاوہ ہر قسم کا تصرف جائز ہے، یہاں تک کہ امام محمدؐ نے تصریح کی ہے کہ جو تصرف قبضہ کے بغیر حامث میں ہو گا، جیسے بہب، صدق، رہن، اور قرض وہ بھی جائز ہے اور مس کو بہب، صدقہ کیا گیا ہے اس کا قبضہ اولاداً و اہب اور مفترض کا نائب بن کر ہو گا، پھر ثانیاً وہ اپنے لئے قبضہ کرے گا، اسی کو علامہ شاہی "فتح القدر" کے حوالہ سے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

وقال في الفتح: الأصل أن كل عقد ينفع بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة إذا كانت عينا في الإجارة وبديل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيع شيء من ذلك ولا أن يشرك فيه غيره، وأما لا ينفع بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبديل الخلع والعتق على مال وبديل الصلح عن دم العمدة كل ذلك إذا كان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه وسائل التصرفات" (ردا المختار: ۱۸۱/۳)۔

### ۳۔ بیع قبل القبض کی احادیث معلول بالعلة ہیں:

فقہاء اصولیین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ نصوص شرعیہ عملیہ میں اصل تعلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہی احکام شرعیہ فرعیہ کی بنیاد ملت کی پر رکھی ہے، کسی بھی حکم کو بغیر علت کے پیکار مشرع نہیں کیا ہے، عبد الداود اب خلاف لکھتے ہیں۔

"أَنَ الْأَحْكَامُ الشَّرِيعَةُ الْعُلْمِيَّةُ جَمِيعُهَا إِنَّمَا شَرِعَتْ لِمُصَالَحِ النَّاسِ وَلِعَلَلِ بَنَىٰ عَلَيْهَا وَمَا شَرِعَ حُكْمٌ مِنْهَا عَبَّا لِغَيْرِ عَلَلٍ" (اصول الفقہ للخلاف: ۴۲)۔

اب علت نہی کیا ہے؟ تو حضرت امام شافعی، امام محمدؓ کے نزدیک مال غیر مضمون سے نفع حاصل کرنا ہے، اور امام اعظم ابو حیینؓ اور امام ابو يوسفؓ کے نزدیک مال غیر مضمون پر نفع اور غر الفساد عقد کا مجموعہ ہے، جب کہ حضرت امام مالکؓ کے نزدیک طعام کی بیع کا حکم امر تعبدی ہے جس پر دوسری چیز وں کو قیاس کر کے عدم جواز بیع کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، علامہ انور شاہ کشیبیری تحریر کرتے ہیں:

"وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَفِيهِ ذِكْرُ الطَّعَامِ فَنَفْعُهُ فِي الْشِّيَخَانِ الْمَنَاطِقِ وَفِي الرَّمَادِ الْمَنَاطِقِ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَنْقُولًا وَقُصْرُ الْحِجَازِ يُونَ الْحُكْمُ عَلَىِ الطَّعَامِ" (العرف الشذی علی الترمذی: ۲۲۳)۔

اور ہم صاحب بدایہ اور امام طحاویؓ کے حوالہ سے نص کا معلول بالعلة ہونا ثابت کر چکے ہیں، لہذا اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

### ۴۔ بیع قبل القبض باطل ہے یا فاسد؟

قبل اس کے کہ ہم قبضے سے پہلے بیع کو باطل، یا فاسد ثابت کریں، ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دونوں کی شرعی تعریف اور حکم بیان کریں تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو کر سامنے آجائے اور فاسد، یا باطل کا حکم لگا ہے ہمارے لئے ہل ہو جائے، چنانچہ مولانا عبدالحی صاحب تکھنوی "ہدایہ" کے حاشیہ میں بہت جامع اور مختصر انداز میں تحریر فرماتے ہیں کہ بیع باطل وہ بیع ہے جو اصل اور وصف دونوں اعتبار سے ناجائز ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ ارکان عقد اور حلب عقد میں کوئی نقص اور خلل ہو، مثلاً ایجاد و قبول میں عدم موافقت، ثمن اور مبلغ کا مال نہ ہوتا، یا بیع کے بعد خریدار کے مالک نہ ہونے کی شرط وغیرہ، اس کا حکم یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت خریدی ہوئی چیز پر ثابت نہیں ہوگی، خواہ وہ قبضہ کرے، یا نہ کرے، لہذا اگر مردار کے عوض غلام کو خرید کر آزاد کر دیا تو آزاد نہ ہوگا، اور بیع فاسد وہ بیع ہے جو اصل کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع اس کی علامت یہ ہے کہ نقص اور خلل ارکان بیع میں نہ ہو، مثلاً ایسے شرائط لگانا جو متفضائے عقد کے خلاف ہوں، اور ان سے بیع کی افادت پر زور پڑتی ہو، یا عوسمیں کے لیے، یعنی میں بجا شرط لگانا، اس کا حکم یہ ہے کہ بیع پر جب مشتری قبضہ کر لے گا تو وہ مالک ہو جائے گا، اگرچہ اس قسم کے عقد کو فسخ کرنا بائن اور مشتری کے اختیار میں ہے اور فاسد میں بیع پر قبضہ کر لینے سے چونکہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اس لئے اگر غلام کو شراب کے بدلے خرید کر آزاد کرو یا تو آزاد ہو جائے گا، مولانا عبدالحی صاحب تکھنے ہیں:

”والباطل فلا يصح أصلاً ووصفاً ولا يفيد الملك بوجهه... وال fasid ما يصح أصلاً ووصفاً وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به... فكل ما أورث خللاً في ركبه فهو باطل وكل ما ليس كذلك بل أورث خللاً في غيره... فهو fasid“ (حاشية بدایہ: ۳۳/۳)۔

اس تفصیل کے بعد ہم اصل بحث کو شروع کرتے ہیں کہ قبضے سے پہلے بیع fasid ہے، یا باطل؟ ہم جواب دیں گے کہ اس بارے میں کتب فقہیہ میں دونوں طرح کی عبارتیں ملتی ہیں، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ باطل ہے، جیسا صاحب درمختار نے جوہرہ کے حوالہ سے لکھا ہے۔

”بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقاً، جواهرة“ (درمختار: ۱۸۲/۳)۔

جبکہ زیادہ تر عبارتوں سے اس کے fasid ہونے کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ خود صاحب ”درمختار“ نے گذشتہ عبارتوں سے متصل ”مواہب“ کے حوالہ سے بیان کیا ہے:

”وفي الموهاب وفسد بيع المنقول قبل قبضه (ايضاً)“.

علامہ نووی شرح مسلم میں ” كانوا يضربون إذا باعوه“ کے تحت لکھتے ہیں:

”هذا دليل على أن ولی الأمر يغرس من تعاطى بيعاً fasida“ (شرح للنحوی على المسلم: ۵/۳)۔

”عہد نبوی میں بیع قبل القبض پر پٹائی ہونا دلیل ہے اس پر کہ حکومت کے ذمہ دار ان بیع fasid کرنے والوں کی تعریر کر سکتے ہیں“۔

صاحب فتاویٰ ہندیہ بیع کی شرائط صحیح کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فيباع الدين قبل قبضه fasid

كالمسلم فيه“ (ہندیہ: ۳/۳۔ در المختار: ۱۸۲/۳)۔

”خریدار کیلئے منقولی اشیاء اور دین کو بیچنے کی ایک شرط قبضہ کرنا ہے، لہذا دین کو قبضے سے پہلے بیچنا fasid ہے، جیسا کہ مسلم فيه کو بیچنا“۔

اور جن فقہاء نے لاتیح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اگرچہ فساد اور بطلان دونوں کو جامع ہے لیکن فساد کا معنی مراد لینا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ فساد کی علت ”غرض“ ہے، جو خارجی شی ہے اور صلب عقد میں داخل نہیں ہے، اور بیع کے تمام اركان، ایجاد و قبول متعاقديں کی اہلیت اور عوضیں کی مالیت اس میں پائے جا رہے ہیں، صرف ایک خارجی چیز قبضہ مغفود ہے اور جس بیع میں تمام اركان موجود ہوں اور ان کے حلوب میں کوئی نقص اور خلل نہ ہو، بلکہ نقص اگر کسی خارجی چیز میں ہو تو وہ بیع fasid ہوتی ہے، باطل نہیں، لہذا اس کو باطل قرار دینا اورست معلوم نہیں ہوتا، علامہ ابن عابدین شامی صاحب ”درمختار“ کے قول ”ونفي الصحة يتحمله“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”قوله ونفي الصحة... أي الواقع في المتن يتحملهما أي يتحمل البطلان والفساد والظاهر الثاني لأن العلة الفساد الغرر مع وجود ركبة البيع (در المختار: ۱۸۲/۳)۔

باقی جن لوگوں نے باطل کہا ہے تو ان کے کلام کو فاسد پر محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فساد اور بطلان ایک دوسرے کی جگہ پر بہت کثرت سے مستعمل ہوتے ہیں، صاحب ہدایہ نے فاسد کی تفسیر باطل سے کی ہے۔

"وبع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد معناه باطل" (ہدایہ: ۳۲/۳)۔

اور "ردا مختار" میں اس کی تصریح ہے:

"وَكَثِيرًا مَا يُطْلَقُ الْبَاطِلُ عَلَى الْفَاسِدِ" (ردا مختار: ۱۸۲/۳)۔

### ۵۔ قبضہ کی حقیقت:

کسی چیز پر قبضہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ سے قبضہ کر کے باائع کے یہاں سے منتقل کر لیا جائے، بلکہ قبضہ کی حقیقت تخلیہ اور تسلیم ہے کہ باائع میمع کو اپنے مال سے اس طرح خالی کر کے الگ کر دے کہ خریدار جب چاہے اپنی مرضی سے بلا روک نوک اس پر تصرف کرنے پر قادر ہو جائے، نیز میمع کے ساتھ کسی دوسرے کا حق وابستہ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ روک نوک کر سکے اور ہر چیز پر قبضہ اور قدرت تسلیم اس کے مناسب حال ہوا کرتی ہے اور اس کی کوئی ایسی تحدید نہیں کی جاسکتی ہے جو تمام چیزوں میں یکساں صادق آئے، چنانچہ مثلی، غیر مثلی، منقولی اور غیر منقولی ان سب پر قبضہ کی الگ الگ شکلیں ہیں، مثلاً بھلی کا کرنٹ اور میشر، وغیرہ جو خریدار کے گھر میں لگایا جاتا ہے، یہ اس کے مناسب قبضہ اور تسلیم ہے اور مشتری کا زمین میں نجح ڈالنا، سینچائی کرنا، جو نا، رجسٹری کرنا، یہ زمین کے مناسب قبضہ ہے، منقولی اشیاء کو اپنے برتن میں ڈالنا، باائع کے مکان سے منتقل کر لینا، اپنے وکیل کو سامان اٹھائیں کا حکم دینا وغیرہ، یہ منقولی اشیاء پر قبضہ ہے، بدائع میں ہے:

"وَلَا يُشْرِطُ الْقِبْضُ بِالْبَرَاجِمِ لَاَنَّ مَعْنَى الْقِبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيُّ وَارْتِفَاعُ الْمَوَاعِعِ

عرفاً و عادةً حقيقةً" (بدائع: ۱۲۸/۵)۔

"انگلی کے پوروں سے قبضہ کرنا شرط نہیں ہے، اس لئے کہ قبضہ کی حقیقت قدرت دینا، سامان کو خریدار کے سامنے چھوڑ دینا اور عرفاً، عادۃً حقيقةً رکاوٹ اور مواعع کا دور ہو جانا ہے۔"

ردا مختار میں ہے:

"وَحَاصِلَهُ أَنَّ التَّخْلِيَةَ قِبْضٌ حَكْمًا لَوْ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كُلْفَةٍ إِذْنَكَ بِحَسْبِ

حال المبيع" (ردا مختار: ۲۷/۳)۔

"خلاصہ یہ ہے کہ تخلیہ حکماً قبضہ ہے اگر وہ اس پر بغیر مشقت کے قادر ہو لیکن وہ ہر خریدی ہوئی چیز کے مناسب حال تلف ہوتا رہے گا"۔

### قبضہ سے متعلق بعض اہم مسائل:

۱۔ اگر کسی دوکاندار سے کہا کہ یہ تیل کی شیشی میرے گھر بھیج دینا اس نے بھیج دیا، وہ شیشی راستہ میں گر کر نٹ گئی تو یہ نقصان کس کا شمار ہو گا؟ اس بارے میں شیخ ابو بکر محمد بن فضل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا

ہے کہ اگر خریدار نے کہا تھا کہ میرے غلام کے ہاتھ سے بھیج دینا اس نے ایسا ہی کیا تو یہ مشتری کا نقصان ہوا، اور اگر کہا تھا کہ اپنے غلام کے ہاتھ سے بھیج دینا اور اس نے اپنے غلام کے ہاتھ ہی سے بھیجا تو یہ نقصان دوکاندار کا ہوگا، کیونکہ مشتری کا غلام مشتری کے درجہ میں ہے اور بالع کا غلام بالع کے درجہ میں ہے (ہندیہ)۔

۲۔ خریدار نے دوکاندار سے ایک برتن دے کر کہا کہ اس میں اتنا تیل وزن کر کے اپنے غلام کے ہاتھ، یا میرے غلام کے ہاتھ سے بھیج دینا اس نے حکم کے مطابق تیل بھیج دیا، راستے میں گر کر برتن ٹوٹ گیا تو یہ نقصان دوکاندار کا ہوا، ہاں اگر مشتری نے یہ کہا کہ میرے غلام کو، یا اپنے غلام کو دیدیں اور اس نے دیدیا تو ٹوٹ جانے کی صورت میں نقصان خریدار کا ہوا، کیونکہ یہ الفاظ و کالات کے ہم معنی ہیں، اور وکیل کو دیدیں ماؤکل (خریدار) کو دینے کی طرح ہے (ہندیہ)۔

۳۔ خریدار نے بیچنے والے سے کہا یہ سامان میرے لڑکے کے پاس بھیج دینا بالع نے ایک آدمی کو مزدور رکھ کر اس کے لڑکے کے پاس بھیج دیا تو یہ قبضہ نہیں ہوا اور مزدور کی مزدوری بالع پر لازم ہو گی ہاں اگر یہ کہے کہ میرے لئے ایسے شخص کو مزدوری پر رکھ لینا جو اس کو لے جائے تو مزدور کا قبضہ خود خریدار کا قبضہ شمار ہوگا اگر خریدار تائید و تصدیق کر دے کہ ہاں میں نے اس کو کرایہ پر رکھ کر سامان حوالہ کیا ہے اور اس صورت میں مزدوری خریدار کے ذمہ ہو گی (ہندیہ)۔

۴۔ ایک شخص نے گائے یا کبری خرید کر بیچنے والے سے کہا کہ اس جانور کو لے کر اپنے گھر پلے جانا میں بعد میں آ کر اس کو اپنے گھر لے آؤں گا، بیچنے والا اس کو اپنے گھر لایا اور اس کی موت ہو گئی تو یہ نقصان بیچنے والے کا ہوا اور ایسی صورت میں اگر وہ جانور کو پسرو د کر دینے کا دعویٰ دار ہو اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو خریدار کی بات معتبر ہو گی اور اس سے قسم لیا جائے گا (ہندیہ)۔

۵۔ ایک شخص نے بیچنے والے کے مکان پر یا کار جانور خرید کر کہا کہ رات بھر نہیں رہے گا اور تم مطمئن رہو کہ اس کو بیچ کر اگر جانور کی موت واقع ہو گئی تو میرا جانور مرے گا اس کے بعد وہ جانور مر گیا تو شرعی اعتبار سے بالع کا جانور مر ہے مشتری کا نہیں (ہندیہ)۔

۶۔ ایک شخص نے کپڑا خریدا لیکن نہ قبضہ اور نہ روپئے دیا اور کہا کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں کہیں آپ دوسرے کو نہ بیچ دیں اس لئے وہ کپڑا افلان کو دیدیجئے میں آ کر روپئے دے دوں گا، بالع نے وہ کپڑا افلان کو دیدیا اس کے پاس سے کپڑا اضافہ ہو گیا تو وہ کپڑا بالع کا اضافہ ہوا، کیونکہ جس شخص کو کپڑا دیا گیا ہے، وہ بالع کی خاطر مثمن کو وصول کرنے کیلئے کپڑے کو روکے ہوئے ہے اس لئے اس کا قبضہ خود بالع کا قبضہ شمار ہوگا (ہندیہ)۔

۷۔ بالع نے خریدی ہوئی چیز مشتری کے اہل و عیال کو دے دیا تو ان کا قبضہ مشتری کا قبضہ شمار نہ ہوگا اور ہلاک

ہونے کی صورت میں بیع فتح ہو جائے گی (اور تم مشریق پر لازم نہ ہوگا) (ہندیہ)۔

۸۔ مشریق نے باائع کو بیع پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا تو باائع کا قبضہ مشریق کا قبضہ شمارہ ہوگا اسی طرح اگر خرید کر باائع ہی کو ودیعت، عاریت، اجارہ پر دے دیا تو اس کو مشریق کا قبضہ شمارہ نہیں کریں گے اور اجرت واجب نہیں ہوگی، یہ سب اہم مسائل عالمگیری میں ہیں (فتاویٰ ہندیہ ۱۹/۳-۲۰)۔

۹۔ ایک چیز کو خرید ایکن قبضہ نہیں کیا، یہاں تک کہ باائع نے کسی اور شخص کو زیادہ روپے میں بیع دیا اور مشریق نے اس کی اجازت دے دی تو یہ جائز نہیں، اس لئے کہ یہ قبضہ سے پہلے یہاں ہے (شامی ۱۸۲/۳)۔

#### ۶۔ منتقلی اور غیر منتقلی اشیاء پر قبضہ کی نوعیت:

احناف کے نزدیک منتقلی اور غیر منتقلی اشیاء، میں قبضہ کے اعتبار سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے جس کو حد فاصل قرار دیا جائے، بنیادی چیز تھی۔ اور تسلیم ہے اور اس کی حقیقت کو بیان کرنا متعذر اور مشکل ہے اور ہر چیز کا قبضہ اس کے مناسب حال ہوگا اگر زمین ہو تو اس کا قبضہ زمین کو خالی کر دینا جوتنا، سینچائی کرنا شیخ ڈالدینا، اس کے علاوہ ہر وہ تصور جس سے باائع کا قبضہ ختم ہو جائے اور اس زمانے میں رجسٹری کو اصل قبضہ کو تصور کیا جاتا ہے، اور رجسٹری کے بعد اگرچہ مشریق نے کسی بھی قسم کا اصرف نہ کیا ہو اس کے قبضہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ شریعت اسلام میں رجسٹری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عصر حاضر میں احتیاطاً رجسٹری ضرور کروالی چاہئے، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کا باائع دعویدار نہ ہو سکے اور مغایسہ کا سد باب ہو سکے، اور دوکان کا قبضہ یہ ہے کہ باائع اپنے سامان کو خالی کر دے اور چابی مشریق کے حوالہ کر دے، یا گھر روم خالی کر دے اور چابی مشریق کے حوالہ کر دے، یا وہ اپنا کوئی سامان رکھ دے، یا اس کی مرمت قلعی وغیرہ کر دے یا اس کے مناسب قبضہ ہے، اور کیلی یا وزنی چیزوں کو کیل کر کے، یا وزن کر کے مشریق کے برتن میں ڈال دے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا وہاں سے منتقل کر ا لے، یہ کیلی ووزنی چیزوں کا قبضہ ہے، ایک غلام کو خرید کر کہا کہ میرے ساتھ چل وہ اس کے ساتھ چلا قبضہ ہو گیا، اسی طرح دوکاندار نے کپڑا پھاڑ کر دے دیا تو قبضہ ہو گیا ان سب مسائل میں بنیادی چیز باائع کا مشریق کو مکمل قدرت دے دینا ہے۔

البتہ حنابلہ کے نزدیک اگر بیع دنائیر یا دراہم ہوں تو اس کا قبضہ ہاتھ سے لے لینے سے ہوگا اور کپڑے کو منتقل کرنے اور حیوان کو اپنی جگہ سے ہٹانا یعنی اور چلا دینے سے ہو جائے گا اور زمین و جاندار کا قبضہ ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کر دینے سے ہوگا۔

#### ۷۔ بیع قبل القبض کی بعض مروجہ شکلیں:

عصر حاضر میں قبضہ سے پہلے بیع عالمی تجارت کا ایک اہم عنصر بن گئی ہے، بلکہ بھی تو یہ ہوتا ہے کہ اصل جگہ سے روانہ ہو کر منزل مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی مال کی باقاعدہ بیع در بیع ہو جاتی ہے اور درمیان کا ہر باائع اپنا فرع وصول کر لیتا ہے، اس بیع قبل القبض سے ممانعت فرمائی ہے، بیع قبل القبض کی مروجہ شکلوں میں وہ دو شکلیں بھی بہت عام اور کثیر الوقوع ہیں جو مرسلہ سوالوں میں درج ہیں اور ان کے جواب یہ ہیں: ۱۔ اگر ایک شخص کسی فیکٹری سے مال

خرید کر اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دے اور معاملہ یہ طے پائے کہ فیکٹری سے مال روانہ ہونے کے بعد خریدار نمبر ۲۔ کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر درمیان میں بلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری خریدار نمبر ۱۔ پر آئے گی، تو اس صورت کے جواز کی شرعاً کوئی عجیب نظر نہیں آتی ہے، اور یہ بیع فاسد ہو گی، لیکن جب خریدار نمبر ۲۔ کے قبضہ میں آجائے گی تو شرعاً اس کی ملکیت متحقق ہو جائے گی، کیونکہ یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ فاسد کا ہے جس میں قبضہ کرنے کے بعد ملکیت آ جاتی ہے، لیکن اگر خریدار نمبر ۱۔ فیکٹری کے مالک سے یہ کہے کہ وہ مال کسی کو مزدور رکھ کر، یا مال بردار کمپنی کے ذریعہ ہمارے پاس بھیج دینا، چنانچہ مالک فیکٹری نے وہ مال کسی شخص کو مزدور رکھ کر اس کی، یا مال بردار کمپنی کی تحویل میں دیدیا اس کے بعد خریدار نمبر ۲۔ کو بیع دیتا ہے تو یہ درست ہے، اور اس صورت میں مزدوری، یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض قرار دیں گے۔

"إذا قال المشتري للبائع أبعث إلى ابنتي واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنته فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استأجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشتري (ہندیہ: ۱۹/۳)۔

۲۔ اگر مشتری نے مال خریدنے کے بعد باعث سے یہ کہا کہ میرا مال مال بردار جہاز کے ذریعہ بھیج دینا، اور کسی خاص جہاز کی تعین بھی نہ کی اور جہاز خرچ اپنے ذمہ لیا اور باعث نے حکم کے مطابق جہاز پر مال چڑھا دیا تو اسی صورت میں مال کی وصولی سے قبل اور مال بردار جہاز کمپنی کی تحویل میں آجائے کے بعد کسی تیرے شخص کے ہاتھ مال فروخت کرنا اور اس کو ضامن ہانا شرعاً جائز اور درست ہے اور مال بردار جہاز کمپنی وکیل بالقبض ہو گی، جیسا کہ فتاویٰ ہندیہ کے حوالہ سے ابھی گذر رہے۔

#### ۸۔ بیع قبل القبض کی جائز شکلیں:

مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں، لہذا وہ منافع بھی حال نہیں، اس کی صحیح کی دو صورتیں ہیں:  
۱۔ جہاں مال خریدا ہے وہاں کسی کو، یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے، اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے، جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

۲۔ مال پہنچنے سے قبل بیع نہ کرے بلکہ وعدہ بیع کر لے بیع مال پہنچنے کے بعد کرے اس صورت میں جائز نہیں سے کوئی انکار کر دے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہو گا، بیع پر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔

اممہ اربعہ میں سے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ مطعومات کے علاوہ باقی سمجھی منقولات، غیر منقولات میں بیع قبل القبض جائز ہے اور اگر مطعومات کو بھی تول اور وزن کے بجائے اندازے سے بیجا جائے تو ان کی بیع بھی قبل القبض جائز ہے۔

"الْمَالَكِيَّةُ قَالُوا: يَصْحَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَبْيَعِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالْبَيْعِ سَوَاءَ كَانَ الْمَبْيَعُ أَعْيَانًا مَنْقُولَةً أَوْ عِنْا ثَابَةً كَالْأَرْضِ وَالنَّحْيَلِ وَنَحْوِهِمَا إِلَّا الطَّعَامُ كَالْقَمْحِ وَالْفَاكِهَةِ فَإِنَّهُ لَا

يَصْحُ بِعِهِ قَبْلَ قِبْضَهِ إِلَّا إِذَا شَرَاهُ جَرَافًا بَدْوَنَ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدًّا" (الْفَقْهُ عَلَى الْمَذَاهِبِ  
الْأَرْبَعَةِ: ۲۳۵، ۲).

امام مالکؓ کے اس قول پر عمل کرنے سے بھی کافی حد تک معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور حضرت امام بخاریؓ  
کے نزدیک یعنی قبل القبض جائز ہے اور اس میں تخلیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفس ایجاد و قبول ہی کو وہ قبضہ کے درجہ  
میں رکھتے ہیں، چنانچہ فیض الباری میں ہے:

"إِذَا عَلِمَتْ هَذَا فَاعْلَمْ مِنْ تَرَاجِمِ الْبَخَارِيِّ أَنَّ الْقِبْضَ عِنْدَهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى  
السَّلْحَلَيَّةِ وَلَا إِلَى النَّقْلِ وَإِنْ تَصْرَفَ الْمُشْتَرِيُّ يَصْحُّ عِنْدَهُ قَبْلَ قِبْضِ الْمَبْيَعِ" (فیض الباری  
۲۰۶، ۳).

فیصلہ کے وقت آج کے حالات کو سامنے رکھ کر حضرت امام مالکؓ اور امام بخاریؓ کے مذهب کی طرف بھی  
نگاہ رہنی چاہئے، نیز یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یعنی قبل القبض چونکہ فاسد ہے اور فاسد پر قبضہ کرنے سے ملکیت متحقق  
ہو جاتی ہے، اس لئے خریدار نمبر ۲۔ قبضہ کے بعد مالک ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کیلئے ہر قسم کا تصرف درست رہے  
گا۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا نویر احمد قاسمی

۱۔ شرعاً بقبضہ سے پہلے خرید و فروخت اگر اشیائے مملوک میں ہے تو یہ بیع غیر مقدر التسلیم ہونے کی وجہ سے ”بیع فاسد“ میں داخل ہے۔ ہو کل بیع فاته شرط من شرائط الصحة (بدائع ۲۹۹، ۵/۲۹۹، مطبع رشید یہ پاکستان) لیکن اگر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اشیائے مملوک میں نہیں ہے تو اس وقت بیع مال متocom کے علاوہ مباح الاصل ہے، تو ایسی شکل میں شرائط انعقاد میں سے ”شرط محلیة“ مفقولہ ہونے کی وجہ سے بیع باطل ہوگی، وأما البيع الباطل فهو کل بیع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرها (بدائع ۳۰۵، ۳/۳۰۵)۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: (قوله بطلان بیع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجوداً مالاً متocomاً مملوکاً في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما بيعه لنفسه (شامی ۲۰۵، ۲/۲۰۵) (مطبوعہ بیروت)۔

### ۲۔ قبضہ کی حقیقت:

قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ بائع مشتری کو بیع پر قابو دیدے اور بیع پر قابو پانے کیلئے جو موافع من جانب البائع ہو سکتے ہوں اسے دور کر دیا جائے، گرفتاری کے سلسلہ میں یہ رفع موافع عرف اور عادة جس طریقہ سے متصور ہوں سمجھی صورتوں میں قبضہ شرعی تحقیق ہوگا، قبضہ کی حقیقت صرف قبضہ حصی ہی نہیں ہے، بلکہ بیع اس طرح ہو کہ دوسرے کے حق میں مشغول نہ ہو، بلکہ وہ بیع مفرز (یعنی علاحدہ اور جدا ہو)۔

ولا یشترط القبض بالبراجم لأن معنی القبض هو التمكين والتخلی ، وارتفاع الموانع عرفًا وعادةً (بدائع ۱۳۸، ۵) وقوله بلا مانع، بآن یکون مفرزاً غير مشغول بحق غيره وفي الملتفظ ولو باع داراً وسلمها إلى المشترى وله فيها متعاق قليل أو كثير لا یکون تسليماً حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضاً وفيها زرع (شامی ۲۲، ۲)

۳۔ بیع دو طرح کے ہوتے ہیں: اشیاء منقولہ، اور غیر منقولہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ کی نوعیت اشیاء منقولہ وغیر منقولہ میں جدا جادا ہے یا ایک ہی ہے، اس سلسلہ میں باوجود تنوع و تلاش کے کوئی صریح نص فقہی پروا فیت اور کامیابی نہیں مل سکی، تاہم علامہ شامی نے درختار کی عبارت ”ثم التسلیم یکون بالتخلیة على وجه یتمکن من القبض بلا مانع وحائل“ کے تحت قبضہ کی حقیقت و ماهیت کیوضاحت و صراحت میں اشیاء منقولہ وغیر منقولہ دونوں طرح کی مثال تحریر فرمائی ہیں، جس سے بطریقہ نظر غالب کہا جاسکتا ہے کہ قبضہ کی نوعیت منقولہ وغیر منقولہ دونوں میں یکساں ہیں، مثلاً:

میج پر قبضہ شرعی اس وقت ہو گا جبکہ وہ میج جدا اور علاحدہ اس طور پر ہو کہ دوسرے کا حق مشغول نہ ہو، بلکہ وہ میج دوسرے کے حق سے خالی و عاری ہو، لہذا اشیاء غیر منقول میں صاحب مکان، یا صاحب ارض میج دار یا میج ارض کو مشتری کے حوالہ اس طور پر کیا کہ اس مکان میں باعث کایا کسی اور کا، کسی قسم کا بھی سامان (خواہ وہ قلیل ہو، یا کثیر) موجود اور رکھا ہوا ہے، یا اس زمین میں باعث کی فصل آباد اور گلی ہوئی ہے، تو اس طرح کی بیع غیر کے حق سے جدائے ہونے اور غیر کے حق میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے تسلیم میج اور قبضہ علی المیج نہیں کہہ سکتے۔

(قوله بلا مانع) بآن یکون مفرز غیر مشغول بحق غیرہ، وفي الملتقط ولو باع دارا و  
یسلمها إلى المشترى وله فيها متعاق قليل أو كثیر لا يکون تسلیما حتى یسلمها فارغة وكذا لو  
باع أرضا وفيها زرع (شامی ۲۳/۲).

ایسا ہی اشیاء منقول میں پرندہ یا گھوڑا اور غیرہ، باع نے اس طرح فروخت کیا کہ وہ میج بندروازہ میں ہے، مشتری نے باع کی طرف سے قبضہ کی اجازت مل جانے پر دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد بغیر دوسرے کی معونت کے اور بغیر کلفت و تکلیف، یعنی حیلہ کے مشتری بذات خود بیع کو پکڑ سکتا ہے تو اس اجازت کو شرعی حیثیت سے قبضہ شرعی قرار دیا جائے گا، لیکن اگر دروازہ کھولنے کے بعد بآسانی خود نہیں پکڑ سکتے، بلکہ حیلہ تبدیر یا دوسرے شخص کی معونت پر گرفتگی موقوف ہو تو اس طرح کی اجازت کو قبضہ شرعی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ولو اشتري طيرا او فرسا في بيته وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه  
أخذه بلا عون كان قبضا وتمامه في البحر وحاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا  
كلفة (شامی ۲۳/۲).

۲۔ قبض سے پہلے خرید و فروخت کی ثبیت سے متعلق جو احادیث و آثار صحابہ ہیں وہ معلوم بالعلت ہیں، وہ علت "غراور خطر" ہے، کیونکہ مشتری کا قبل القبض فروختگی میں ممکن ہے کہ معتقد علیہ کے تلف و اتلاف کے موجب عقد اول فتح ہو جائے اور وہ میج پر قبضہ لانے سے عاجز رہ جائے، تو پھر مشتری کا یہ تصرف "غراور خطر" کے علاوہ چہ معنی دارد۔

صاحب "فتح القدر" نے ہدایت کی عبارت "قوله ولا يجوز بيع السمك في الماء" کے سلسلہ میں مختلف شکل یعنی ہرکے مملوک اور غیر مملوک قبل القبض اور اس کا حکم تحریر فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اور عبد اللہ بن مسعود کا قول اقتل کر کے علت "غراور خطر" ہی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وقال أبو يوسف في كتاب الخراج رخص في بيع السمك في الأجام أقوام في  
الصواب عندنا في قول من كره، حدثنا العلاء ابن المسيب بن رافع عن الحيث العكلي عن  
عمر بن الخطاب قال: لا تباعوا السمك في الماء فإنه غرر، وأخرج مثله عن ابن مسعود،  
ومعلوم أن الأجمة قد يؤخذ منها السمك باليد، والغرر الخطر، وغير المملوک على حظر  
ثبوت الملك وعده فلذا جعل من بيع الخطر (فتح القدر ۱۹/۶، مکتبہ رشیدیہ پاکستان)۔

چنانچہ عالمہ کاسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

(ومنها) القبض فی بیع المشتری المنقول فلا یصح بیعه قبل القبض كما روى ان النبی علیه السلام نھی عن بیع مالم یقبض ، والنھی یوجب فساد المنهی ، ولأنه بیع فيه غرر الانفصال بهلاک المعقود عليه لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض یطل البیع الأول فیفسخ الثاني لأنه بناء على الأول وقد نھی رسول الله ﷺ عن بیع فيه غرر ، وسواء باعه من غير بائعه أو من بائعه ، لأن النھی مطلق لا یوجب الفصل بين البیع من غير بائعه وبين بیع من بائعه وكذا معنی الغرر لا یفصل بينهما فلا یصح البیع الثاني (بدائع ۱۸۰/۵).

۵۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت عام نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ استثناءات اور تخصیصات بھی ہیں جس میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی صرف "صحیح" کام ہوا، نہ کہ نفاذ بیع اور لزوم بیع کا۔  
وہ اشیاء، ممتنع یہ ہیں: عقار یعنی اشیاء غیر منقولہ، میر، بدال، خلع، بدال حق، بدال صلح عن دم العمد، میراث، حق، مذہب، استحیاء، وصیت۔

مشتری کا قبل القبض عقار فروخت کرنا امام شیخینؒ کے نزدیک جائز اور صحیح ہے، جبکہ امام محمد، زقر اور امام شافعی علیہم الرحمۃ کے نزدیک ناجائز ہے، ائمہ ثلاثہ کی دلیل: "روی أن النبی علیه الصلوۃ والسلام نھی عن بیع مالم یقبض، وقد نھی رسول الله ﷺ عن بیع فيه غرر" اور اس جیسی روایتیں ہیں۔

امام شیخین علیہما الرحمۃ کی دلیل: "أحل الله البیع" اور "إذا قضیت الصلوۃ فانتشروا في الأرض" وغیرہ جیسی آیتوں کی تعمیم ہے، جس تعمیم کو خبر واحد کے ذریعہ تخصیص و تقيید نہیں کر سکتے، یا خبر واحد اور آیتوں کے درمیان یوں تطبیق دی جائے کہ خرید و فروخت کی نبی کو اشیاء منقولہ پر، اور آیتوں کی تعمیم کو اشیاء غیر منقولہ پر حمل کر کے دفع تعارض کر لیا جائے۔

ان تمام باتوں کے باوجود امام شیخین علیہما الرحمۃ بھی مشتری کا قبل القبض عقار فروخت کرنا استحساناً یعنی قیاس ختنی کی بنیاد پر جائز فرماتے ہیں، ورنہ قیاس جلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی بیع کو یہ دونوں حضرات بھی ائمہ ثلاثہ کی طرح ناجائز کہتے ہیں، وجہ احسان یہ ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت بر بنائے "غرر" ہے، وہ غرر یہ ہے کہ معقود علیہ کی بلا کرت کی وجہ سے انفصال عقد کا احتمال ہے، اور یہ اشیاء منقولہ ہی میں متصور ہے، اسلئے اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، اور جبکہ اشیاء غیر منقولہ میں اس قسم کا احتمال غرر متصور ہے ہی نہیں، فثبت ان بیع المشتری العقار قبل القبض جائز (بدائع ۱۸۱/۵)۔

ایسا عقد جو احتمال لغتش و فساد رکھتا ہے یعنی اگر بائع لغتش بیع کرے تو وہ معاملہ و عقد دوٹ سکتا ہے، خواہ یہ لغتش و فساد اس وقت ہو جبکہ مشتری قبل القبض مجیع میں تصرف وغیرہ کرے، پا بعد القبض تصرف کرے، لیکن یہ قبضہ بدون اذن البائع ہو، تو اس قسم کے عقود میں مشتری کے تصرفات کے سلسلہ میں امام شیخین اور محمد و زقر وغیرہ کا باہم اختلاف ہوا ہے۔

لیکن وہ عقود اگر اس طرح کے ہیں کہ مشتری کی طرف سے کئے گئے تصرفات احتمال نقض رکھتے ہی نہیں، جیسے تصرف حق، تدبیر، استیلا، وغیرہ، تو ایسی صورت میں بالاتفاق مشتری کے یہ تصرفات صحیح اور درست قرار پائیں گے، خواہ یہ تصرف قبل القبض ہو، یا بعد القبض بدون اذن البائع ہو، ہمارے اس دعویٰ کی دلیل علامہ شامیؒ کی یہ عبارت ہے:

(قوله صح بيع عقار) ای عندهما و قال محمد لا يجوز ... الخ إلى أن قال . وكذا

کل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشترى قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع فللباائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعقد والتدبير والاستيلا ، بحر (شامی ۱۶۲/۲، مطبوعہ بیروت)۔

ہر وہ عقد جو عرض کی بلا کرت کے سبب عقد نوٹ سکتا ہے، تو اس قسم کے عرض میں مالک کو قبضہ سے پہلے کسی قسم کے تصرف کا حق و جواز نہیں، لیکن تمام وہ عقود جو عرض کی بلا کرت سے افس عقد باطل اور زائل نہیں ہو پاتا، تو اس قسم کے عرض میں قبل القبض مالک کو تصرف کا حق جواز حاصل ہے، بشرطیکہ ان عقود کا عرض متعین فی الخارج ہو، جیسے مہر، بدال خلع حق علی مال، بدال صلح عن دم العمد۔

ان دونوں شکلوں (بلا کرت عرض سے فتح عقد اور عدم فتح عقد) میں سے پہلی شکل میں قبضہ سے پہلے تصرف کی ممانعت اور دوسرا شکل میں تصرف کی اجازت، ان سمجھی امور میں امام ابو یوسف اور امام محمد علیہما الرحمۃ متفق اور متعدد ہیں، لیکن امام محمد پہلی شکل میں صرف صدقہ، رہن، قرض، ان تصرفات کے جواز کے قائل ہیں جو تصرفات قبضہ کے بعد ہی تام اور تکملہ ہوتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف پہلی شکل میں مطلقاً بثول تمام تصرفات کو حتیٰ کے ہے کوئی تاجراز ہی قرار دیتے ہیں، معلوم نہیں اس مقام پر یہ گرام کا کیا مسلک و مذهب ہے، ملاحظہ ہو شامیؒ کی پوری تفصیلی عبارت:

قال في الفتح الأصل أن كل عقد يفسخ بهلاك العرض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العرض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر وإذا كان عيناً يجوز بيعه و هبة و إجارة قبل قبضه وسائر التصرفات في قول أبي يوسف ثم قال محمد كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائز قلت: وحيث مثني المصنف على قول محمد كان يتبعى للشارح ذكر الأصل الثاني أيضاً لأنَّه يظهر مما ذكرنا أنَّ الأصل الأول غير حاصل بقول أبي يوسف إلا أنَّ الشق الأول منه وهو ما يفسخ بهلاك العرض قبل القبض كالبيع والإجارة لا يجوز التصرف قبل القبض في عرضه المعين عند أبي يوسف مطلقاً وأجاز محمد فيه كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة ونحوها لأنَّه لما كانت لا تتم إلا بالقبض صار الموهوب له نائباً عن الواهب (شامی ۱۶۲/۲)۔

قبضہ سے پہلے ملک موروث میں وارث اور مال موصیٰ پر موصیٰ لہ تصرفات کا مکمل اختیار رکھتا ہے اور اس کے تصرفات صحیح ہوں گے، بداع میں ہے:

وكذلك الميراث يجوز التصرف فيه قبل القبض لأنَّ معنى الغرر لا يتقرر فيه ولأنَّ

الوارث خلف الميت في ملك الموروث وكذلك الموصى به بان أو صى إلى انسان بشى ثم مات الموصى فلللموصى له أن يتصرف قبل القبض لأن الوصية أخت الميراث ويجوز التصرف في الميراث قبل القبض فكذا في الموصى به (بدائع ۱۸۱، مطبوعہ پاکستان)

۶۔ ایک شخص کسی فیکٹری سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، لیکن فیکٹری سے خریدا ہوا مال اپنے قبضہ میں نہیں لیتا، بلکہ براہ راست فیکٹری سے خریدار نمبر (۲) کو روائہ کر دیتا ہے، اور معاملہ یہ ٹے پاتا ہے کہ فیکٹری سے مال روائے ہونے کے بعد خریدار نمبر (۲) کے پاس پھر ختنے سے پہلے اگر درمیان میں مال ہلاک ہو جائے تو اس نقصان کی ذمہ داری اسی شخص (خریدار) نمبر (۱) کا نقصان قرار پاتا ہے، یہ صورت معاملہ اگرچہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے شخص کا اس مال پر حقیقی قبضہ نہیں ہوا، لیکن وہ مال خریدار نمبر (۲) تک پھر ختنے سے پہلے اس کی ضمانت میں رہا، سوال یہ ہے کہ فیکٹری سے خریداری کرنے والے کی طرف سے قبضہ کسی نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسرے شخص کے ہاتھ اس فروختگی کو ناجائز قرار دیا جائے، یا اہمان کو قبضہ کسی کا قائم مقام سمجھ کر اس خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا؟

سوال مذکور میں جب باعث نے مشتری سے مال فروخت کر دیا، اور باعث نے یا وکیل باعث نے براہ راست خرید شدہ مال کو مشتری آخر کے پاس بھیج دیا، یہ پتہ دے رہا ہے کہ باعث نے تمام موافع اور رکاوٹ کو دور کر دیا ہے، جس کے نتیجہ میں مشتری خرید کردہ مال کو مشتری ثانی کے پاس بھیج رہا ہے، جو عین قبضہ پر دال ہے، مشتری اول کا مشتری ثانی کے پاس مال بھیج کر بیع میں تصرف کرنا بعد القبض ہے نہ کہ قبل القبض، جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر مال راستہ ہی میں ہلاک ہو جائے تو اس مال کا اہمان مشتری اول پر عائد ہوتا ہے، خرید و فروخت کے باب میں حصہ قبضہ لازم نہیں ہے، بلکہ دراصل وہی قبضہ معتبر ہے جسے عرف عام میں قبضہ کہا جاتا ہو، جس کی تشریع پیچھے گذر چکی ہے۔

۷۔ میں الاقوامی تجارت میں جب یہی عرف و شرط ہو کہ جہاڑ پر مال چڑھانے کے بعد، وہ مال باعث کے قبضہ سے نکل کر مشتری کے قبضہ و احراز میں چلا آتا ہے، اگر وہ مال دریا میں غرق ہو جائے تو مال کا خسارہ صرف مشتری کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود جبکہ وہ مال سندر میں ہے، مشتری اول اس مال کو مشتری ثانی کی معرفت فروخت کر دیتا ہے، اور یہ بھی ٹے ہو جاتا ہے کہ اگر مال ہلاک ہو جائے تو اہمان مشتری ثانی کو برداشت کرنا پڑے گا، تو یہ معاملہ مشتری اول کا مشتری ثانی سے کرنا فی نفسہ جائز ہے، کیونکہ مشتری اول کیلئے بیع مقبول ہے، لیکن ابھی اس مال پر مشتری ثانی کا قبضہ محتشق نہیں ہے، اسلئے ہلاکت کی صورت میں مال مذکور کا اہمان مشتری ثانی پر ہرگز عائد نہیں ہو گا۔

والله اعلم: تحقیقتہ الحال

☆☆☆☆☆

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا شرعی حکم

مولانا خلیل احمد قاسمی

جوہپور، راجستان

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے متعلق موصول شدہ سوانحہ میں سات سوالات ہیں، ان کے جوابات اختصار کے ساتھ پیش کرنے سے پہلے چند اصولی تعبیدی سطور عرض ہیں، جن کی روشنی میں تمام سوالات کے جوابات انشاء اللہ آسان ہوں گے، فقہاء کرام کے یہاں کچھ اصول ایسے مسلمہ ہوتے ہیں، کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، اسی لئے تعریفات کے لئے جو الفاظ ذکر کئے جاتے ہیں وہ بہت محدود ہوتے ہیں، یعنی نہ ان میں ایسی وسعت ہوتی ہے کہ غیر معرف بھی داخل ہو جاتے اور نہ ایسا اختصار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے معرف کے کچھ افراد تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، البتہ کچھ جزئیات ایسے ہوتے ہیں جن میں حکم بیان کرتے وقت مسلمہ اصول کے الفاظ جو مقتدر ہوتے ہیں ان کی تشرع میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کچھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لیکن انہیں اختلاف میں ایک بات غور طلب ہے کہ کسی قید کی جب کہیں تشرع موجود ہوئی ہے تو وہ اکثر تشرح عبارت، یا مسئلہ کے مقابلہ میں اصول اور دوسرے قواعد کی معنی وہ اختلاف جس میں استدلال قید مشرح سے کیا جائے وہ راجح ہوگا، اس قول پر جس میں استدلال قید غیر مشرح سے کیا جائے ہو، یہ بات اس لئے تحریر کی گئی ہے کہ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے مسئلہ پر قبضہ کی جو مسلمہ تعریف ہے، اس میں جو قیود لگائی گئی ہیں ان سے زیر بحث مسئلہ پر حکم کے اعتبار سے ضرور و روشنی پڑے گی۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فس بیع کے انعقاد میں قبضہ کی کیا حیثیت ہے، کیا قبضہ اگر نہ ہو تو بیع بھی منعقد نہ ہوگی، یا باقی تو منعقد ہوگی لیکن مشتری کو فس کا اختیار ہوگا؟

بدائع الصنائع کی عبارت سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ بیع مطلق کے صحیح ہونے کیلئے قبضہ ضروری نہیں ہے، "لأن التفاصير في البيع المطلق ليس بشرط لصحة العقد" (۲۱۶/۵)۔

لیکن یہ مسئلہ الگ ہے کہ کسی شی کے بیع و شراء کا معاملہ ہوا، ابھی مشتری نے بیع پر قبضہ نہیں کیا لیکن مشتری مجیع غیر مقبول میں تصرف کرے یعنی کسی اور کے ہاتھ فروخت کرے تو کیا اس کیلئے یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کی وضاحت سے پہلے قبضہ کی تعریف جو مسلم ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس میں جو قیود لگائی گئی ہیں ان سے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں کافی مدد ملے گی، صاحب بدائع الصنائع اُنہیں قبضہ کی تعریف یہی ہے: ولا يشترط القبض بالبراجم لأن معنى القبض هو التمكين والتخلص وارتفاع المواقع عرفاً وعادةً حقيقةً۔

یعنی حصول قبضہ کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ "بیدا بیدا" یا مکمل طور پر حسی گرفت ہو، بلیسا کہ لفظ بر اجم سے سمجھا جا رہا ہے، بلکہ مشہوم یہ ہے کہ باعث کا مشتری کے سامنے رکھ دینا یا، اپنی حفاظتی گرفت سے خارج کرنا کہ جس پر مشتری اپنا تصرف کر سکے، یعنی مشتری کی گرفت اس مبنی پر جس حیثیت سے ہوا ہی حیثیت سے ان کا قبضہ عرف آمانا جاتا ہو، اور عادۃ لوگوں میں مشتری کا قبضہ متصور ہو، البتہ یہ تصور حقیقت ہونے کے مجاز ا، یعنی لوگوں میں مثلاً عادۃ جس حیثیت سے قبضہ ماننا جاتا ہو اسی حیثیت سے ہونا ضروری ہے، نتا و نتا، یا ارادہ وغیرہ، اور مشتری اس پر تصرف کرنے پر قادر ہو، نیز مشتری کے تصرفات میں کسی طرح کی باعث کی طرف سے رکاوٹ ہو، اور مکمل تخلیہ ہو، مراد اس سے یہ ہے کہ باعث کا حق تصرف اس سے ختم ہو گیا ہو اور مشتری کی اس پر تملکیں ہو چاہے یہ تملکیں "من حيث الأخذ باليد" ہو، یا رفع حاصل و موافع سے ہو، جو بھی عرف میں معتبر مانا جاتا ہو یہ حقیقت ہو، یا حکما، درحقیقت بات یہ ہے کہ ایسے تخلیہ کو شرعاً قبضہ کا حکم دیا گیا ہے، اس لئے کہ علامہ شامی نے شرائط التخلیہ کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی ہے، البتہ یہ مبنی کی حالت کے اعتبار سے مختلف بھی ہوتا ہے، عبارت یہ ہے:

وحاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع (۵۶۲/۳).

مگر تخلیہ کے اندر یہ بات محوظ ہوئی چاہئے کہ مبنی اتنی قریب ہو کہ اس پر اگر قبضہ حقیقی کرنا چاہے تو کوئی دشواری پیش نہ آئے اور اگر فی الحال مبنی اتنی دوری پر ہو کہ اگر اس پر قبضہ حقیقی کرنا چاہے تو بہت مشکل ہو، یعنی قبضہ حقیقی دوری کی وجہ سے غیر متصور ہو، تو ایسی صورت میں تخلیہ قبضہ کے قائم مقام نہ ہو گا، چونکہ خانیہ کے حوالہ سے علامہ شامی نے یہ ذکر کیا ہے جس کا بھی ترجمہ ہوا عبارت یہ ہے:

وفي الخانية والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان فريباً يتصرّف فيه القبض الحقيقي في الحال فتفاقم التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيداً لا يتصرّف القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض (۵۶۳/۳)

لیکن علامہ شامی نے اس مذکورہ عبارت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

قلت: لكن نقل ابن المصنف في زواهر الجوادر عن بیوع فتاوى فاری الهدایۃ أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضاً وإنما فلانة.

یعنی اوپر کی عبارت میں یہ کہا گیا ہے کہ دوری اگر ایسی ہے کہ وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، اس پر قدرت تخلیہ قبضہ کے قائم مقام نہ ہو گا، اس کی تشریع یہ کی ہے کہ دوری اگر ایسی ہے کہ وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، اس پر قدرت ممکن ہے تو ایسی دوری بھی تخلیہ کو قبضہ حقیقی کے قائم مقام ہونے سے نہیں روکے گی، اور قبضہ کا حاصل ہونا تخلیہ کے ذریعہ یہ تمام اموال کے اندر ہے، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے:

ثم لا خلاف بين أصحابنا في أن أصل القبض يحصل بالتلبية فيسائر الأموال (بدائع

اور قبضہ کی جو تعریف کی گئی ہے اور تفصیل گذرچکی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے حکم کو بیان فرمایا گیا ہے کہ قبضہ و تخلیہ ہی ہے، لہذا باائع اگر مال میٹ کو خلی کر دے تو اسے مسلم یعنی سونپ دینے والا کہا جائے گا، اور مشتری کو قابض، یعنی قبضہ کرنے والا کہا جائے گا۔

فالتسليم والقبض عندنا سوا التخلية والتخلى وهو أن يخلى البائع بين المبيع وبين المشترى من التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشترى قابضاً له (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵)

اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ کے اعتبار سے قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست ہے، یعنی فرق ہے، یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں بات یہ ہے کہ اشیاء غیر منقولہ کے اندر قبضہ سے پہلے خرید و فروخت درست ہے، یعنی زمین، جامدات، مکان، دوکان وغیرہ کی بیع ہونے کے بعد ہی بغیر کسی طرح کے قبضہ کے اس میں تصرف چاہے بیعا ہو، یا ہبہ ہو وغیرہ، درست ہے، اور یہ قول طرفین رحمہما اللہ کا ہے، اگرچہ اس میں امام محمدؐ کا اختلاف ہے لیکن فتوی طرفین کے قول پر ہے طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بیع کا صدور اہل بیع، یعنی عاقل، بالغ ہونا اور محل یعنی مال مملوک میں ہوا ہے، اور اس میں کوئی غرب بھی نہیں ہے، اس لئے کہ زمین وغیرہ کی بلا کت بہت نادر ہوتی ہے، البتہ اشیاء منقولہ کا حکم اس سے جدا گا ہے،

اور قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت والی حدیث معلوم بالغة ہے، یعنی غرر کی وجہ سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے، لہذا اجہاں غرر کا امکان ہے وہاں یہ ممانعت ہوگی، اور جہاں غرر نہیں ہے وہاں سے مستثنی ہے، اور زمین میں غرر نہیں ہے اگر یہ بھی تو نادر ہے، اور نوادر عام حکم کامدار نہیں ہوتے ہیں۔

و يجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز رجوعاً إلى إطلاق الحديث واعتباراً بالمنقول ، ولهمما أن ركناً البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول والغرر المنهي عنه غرر إنفصال العقد والحديث معلوم به عملاً بدلائل الجواز (بدایہ ۵۹/۳)۔

البته اشیاء منقولہ کے اندر بیع پر قبضہ کا ہونا جواز بیع کیلئے ضروری ہے، اور یہ حکم بالاجماع ہے۔

ولا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بالإجماع (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵)۔

لہذا قبضہ کی جو تفصیل اور گذری ہے اگر اس کے مطابق قبضہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بیع کرنا جائز نہیں ہے اور یہ عدم جواز کا تعلق نہ بیع باطل سے ہے اور نہ فاسد سے، البتہ اس کا تعلق کراہت سے ہے، چونکہ احتمال غرر کا ہے اور ایسا احتمال جہاں ہوتا ہے وہاں کراہت کا اطلاق ہو گا نہ کہ فساد کا، اس لئے کہ فساد کا تعلق عموماً قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن احتمال ناشی عن دلیل ہے تو اس کا بھی شمار فساد میں ہوتا ہے۔

## خلاصہ:

مذکورہ بالتحریرات و عبارات کی روشنی میں نمبر وار سوالات کے اختصار کے ساتھ جوابات عرض ہیں:

۱۔ اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں اور اس کا شمار نجع مکروہ میں ہے۔

۲۔ جس عرف میں قبضہ کا جو بھی تصور متصور ہے وہی قبضہ شرعاً بھی معتبر ہے۔

۳۔ فرق ہے مختصر ایک اشیاء منقولہ میں تخلیہ عرفی کا اعتبار ہے۔

۴۔ احادیث ائمہ عن القبضہ سے پہلے خرید و فروخت معلول بالعلاۃ ہیں اور علت نہیں احتمال

غیر ہے۔


۵۔ تخصیصات ہیں، آراء ائمہ مذکورہ بالتحریر میں ہیں۔

۶۔ جائز قرار دیا جائے گا، اس لئے کہ دلیل ضمان علامت قبضہ ہے۔

۷۔ مشتری جب فروخت کرنے سے پہلے ضامن تھا بعد میں البتہ نہیں رہا تو یہ صورت شرعاً

جاز ہے۔

واللہ اعلم بالصواب



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محمد اختر قاسمی

۱۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے، حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے، لقوله علیہ السلام : نہی عن بیع ما لم یقبض ، خرید شدہ مال پر قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس کا سودا کرنا بحیثیت مالکانہ بیع فاسد ہے، اصول فقہ کے مشہور ضابطہ کے تحت اس کا شمار بیع فاسد میں ہونا چاہئے، ضابطہ یہ ہے کہ نہی افعال شرعیہ میں فتح لغيره و صفائی پر محمول ہوتی ہے، اور تمام بیوع فاسدہ اور اموال ربویہ وغیرہ پر یہی حکم لگتا ہے۔

۲۔ اسلامی شریعت میں قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، قبضہ ہر شی کا اس کے مناسب حال ہوتا ہے، قبضہ کبھی قانوناً ہوتا ہے، کبھی حصی معتبر ہوتا ہے اور کبھی حکمی، یعنی جب وہ چیز خمان میں آجائے تو اس کو آگے فروخت کرنا جائز ہو جائے گا۔

۳۔ منقولات میں سے جو چیز خریدے، جب تک وہ اپنے قبضہ میں نہ آجائے (یعنی اپنے تصرف میں) مالکانہ تصرف جائز نہیں، ہاں جب خمان و تصرف میں آجائے تو اب مالکانہ تصرف کا حق حاصل ہو گیا، جیسے چاہے کرے، اور اشیاء غیر منقولہ میں کاغذی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد ہی حق تصرف حاصل ہوتا ہے، پس حصی قبضہ کرنے سے پہلے بھی تصرف کرنا جائز ہے۔

۴۔ قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی نہی سے متعلق احادیث معلوم بالعلت ہیں "لقوله علیہ السلام: نہی عن بیع الغرر البحار" لأن فيه غرر الفساح العقد" غرر اور ہلاکت میجع کے اندیشه پر ممانعت ہے۔

۵۔ کل عوض ملک یعقد ینفسخ بھلاکہ قبل قبضہ فالتصرف فيه غير جائز فما لا فجالز... (البحر الرائق ۱۲۷/۶) امام مالک کے نزدیک بیع اور غیر بیع میں تصرف کرنا قبضہ سے پہلے جائز ہے، امام مالک کے نزدیک طعام کا استثناء ہے، اور امام محمدؐ کے نزدیک ہبہ اور حمد و شکر میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے اور انہی حقوق کے نزدیک منقولات میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں، شیخین کے نزدیک زمین کی بیع حصی قبضہ سے پہلے بھی جائز ہے، کیونکہ زمین کی ہلاکت نادر ہے۔

۶۔ خمان کو قبضہ حصی کا قائم مقام تجویز کر اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا۔

۷۔ باائع کی ذمہ داری عرف میں جہاں تک ہے، ہاں تک میجع باائع کے خمان میں متصور ہو گی، اور وہی ہلاکت پر خامن ہو گا، اور جب اس کے عرفی خمان و ذمہ داری سے نکل جائے گی تو مشتری کا خمان شروع ہو گا، اب اگر وہ سامان شائع و ہلاک ہوتا ہے تو مشتری خامن ہو گا، یہی حال مشتری میانی و ثالث وغیرہ کا ہو گا۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت اور چند جدید مسائل

مولانا احمد نادر القاسمی

### بیع قبل القبض جائز ہے یا ناجائز؟

بیع و شراء کی صحت اور عدم صحت کا مدار اصل میں قبضہ پر ہے، اسی لئے اسلامی شریعت نے قبضہ کو غیر معمولی نگاہ سے دیکھا ہے، ظاہری بات ہے کہ جو چیز انسان کے قبضہ و قدرت میں نہیں اسے فروخت کرنا کیونکہ درست ہو سکتا ہے، خواہ اشیاء منقولہ ہوں، یا غیر منقولہ، فرق اتنا ہے کہ اشیاء منقولہ میں قبضہ حسی ضروری ہے اور غیر منقولہ میں قبضہ حسی ضروری نہیں ہے، بلکہ عام لوگ جس کو قبضہ تصور کرتے ہیں وہ اس کا قبضہ شمار ہوتا ہے، اس لئے یہ بات پوری طرح بے غبار اور عیاں ہے کہ بیع قبل القبض نبی پاکؐ کے اس ارشاد "نهی عن بیع مالم یقبض" کی وجہ سے ناجائز اور باطل ہے، رہا اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں علماء کا اختلاف، تو یہ اختلاف بھی احقر کے خیال کے مطابق حقیقتاً جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں بلکہ قبضہ کے تعین کا اختلاف ہے جو ائمہ مذاہب سے منقولات اور غیر منقولات، مطعومات اور غیر مطعومات کی تفصیلات کے ساتھ فتنہ کی کتابوں میں مذکور ہے، حکیم ابن حرام کی روایت جسے تیکی نے لفظ کیا ہے اس طرح ہے:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبْتَاعَ هَذِهِ الْبَيْعَ فَمَا يَحْلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَىٰ فَالْمَوْلَىٰ قَالَ: يَا ابْنَ أَخْمَىٰ لَا تَبِعْنَ شَيْئًا حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ هَذَا إِسَادٌ حَسَنٌ مَتَّصِلاً۔

حکیم ابن حرام سے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپؐ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں مختلف چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں ان میں سے کوئی چیز میرے لئے حال ہے اور کون حرام؟ فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز اس طرح نہیں تیکی جائے گی جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے، امام تیکی کہتے ہیں: حدیث کی یہ سنہ حسن اور متصل ہے۔ (السنن الکبری للبیہقی ۳۱۲۵، نیز تفصیل کے لئے دیکھئے: بدائع ۱۸۰۵، کتاب الام محمد بن اوریس الشافعی ۶۹۰/۳، المغفی لابن قدامة ۹۱۰/۳، فتح القدیر ۶/۵۱۱، الجموع شرح المبدب ۲۶۳/۹، شرح زرقانی ۲۸۹/۳، مختصر طحاوی ص ۸۲)۔

ابتدئی کے اندر جب معاملہ بالع اور مشتری کے درمیان طے پا جاتا ہے تو گویا بع متحقق ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جب تک سپردگی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا التزام نہیں ہوتا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمن ادا کرتے ہی مشتری کا بیع پر معنوی قبضہ ہو جاتا ہے، جسی قبضہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیع پوری طرح قضاء بھی ثابت ہو جائے؟ لہذا اس نوعیت سے جبکہ معنوی قبضہ اور معنوی ملکیت ثابت ہو چکی ہے، جسی نہیں ہوتی ہے، اگر مشتری اس مرحلہ میں بیع کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو ظاہر ہے عدم قدرت علی التسلیم فی الغور کی وجہ سے بیع فاسد ہو گی، باطل نہیں ہو گی،

کیونکہ معاملہ بیع فوری مبیع کی پر دگی کا تقاضہ کرتا ہے، جو بظاہر موبہوم ہے، اس لئے کہ بیع قبل القبض اصل میں بیع غرہی سے عبارت ہے، جس میں باعث اول کی طرف سے پر دگی اور عدم پر دگی بیع دونوں کے امکانات رہتے ہیں، جو معاملہ بیع کے منافی ہے، چنانچہ صاحب عنایہ ابن محمود با بر تی لکھتے ہیں:

وتفیرره فی البيع قبل القبض غرر الفساح العقد الأول على تقدیر هلاك المبيع في  
يد البائع والغرر غير جائز۔

اور بیع میں غرر کا تحقیق اس طرح ہے کہ عقد اول کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، مبیع کی بلاکت باع کے قبضہ میں متحقق ہونے کی صورت میں، اور غرر جائز نہیں (شرح العناية من العفت ۱۲۶/۵)۔

نیز علامہ عبدالرحمٰن جزیری لکھتے ہیں:

قالوا: من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقوله قبل قبضها سواء باعها لمن اشتراها منه او  
لغيره فإذا اشتري حيواناً أو قطبيعاً أو ثياباً أو نحو ذلك ثم باعها لمن اشتراها منه أو لغيره كان  
البيع الثاني فاسداً۔

فقہاء کہتے ہیں کہ بیع فاسد میں سے ایک، منتقلہ اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت بھی ہے، خواہ مشتری خود بیچنے والے شخص سے اس کو بیچے، یا اس کے علاوہ کسی اور سے، لہذا جب کسی نے جائز خریدا، یا جانوروں کا ریوڑ، یا کپڑا اور اس قسم کی کوئی اور چیز، پھر اس کو اسی سے بیع دیا جس سے خریدا تھا، یا کسی اور سے فروخت کر دیا تو دوسری بیع فاسد ہوگی (الفقہ على المذاہب الاربعة ۲۱۱/۳)۔

علامہ ابن عابدین نے باطل اور فاسد کے احتمال کو ختم کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:  
يتحمل البطلان والفساد والظاهر الثاني لأن علمة الفساد الغرر (رداختار ۸۲/۳، المعني لابن  
قدامہ ۵۱۲/۶)۔

علامہ شامی کہتے ہیں کہ: مصنف کی پیش کردہ عبارت میں بیع کے بطلان اور فساد دونوں کا احتمال ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد ثانی یعنی (فساد) ہے اس لئے کہ یہاں فساد کی عملت غرر ہے۔  
قبضہ کی حقیقت:

بلیغ اور شمشن پر قبضہ کے سلسلہ میں ایسی کوئی روایت یا نص موجود نہیں ہے جس سے کہ قبضہ کی کوئی خاص نوعیت معلوم کی جاسکے اور اس کو یعنی قبضہ کا مدارقرار دیا جائے، ایک روایت ہے بھی تو اس سے قبضہ کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی، کتب احادیث اور فقہ کے عمومی جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ زمان اور حالات کی رفتار اور عادات و محاورات کا تغیر ہر دور میں جدا گانہ طور پر وقوع پذیر رہا ہے، اس لئے شریعت نے قبضہ کو لوگوں کے روانج اور تعامل پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ حقیقتاً قبضہ کا مدار ارتقاء موائع ہے کہ بیع و شراء کے بعد نہ مشتری کو بیع پر قبضہ کرنے میں رکاوٹ اور وقت ہو، اور نہ باع کو شمن پر، چونکہ ارتقاء موائع امور اضافی میں سے ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ اس کا مدار

عرف ورواج ہی پر ہوگا، مگر اس میں اشیاء کی حقائق کے اخبار سے انہی کے یہاں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، وہی کہ مالکیہ نے صرف اشیاء منقولہ کے قبض کو عرف ورواج پر تھوڑا ابے، چنانچہ مشہور مالکی عالم احمد وردی رفیعی از جس وقبض العقار بالتحلیة وقبض غیره ای غیر العقار میں عروض و انعام و دواب بالعرف الجاری بین الناس۔

زمینوں کا قبضہ تخلیہ کے ذریعہ مانا جائے گا اور اس کے علاوہ سامان، جانور، چوبایہ وغیرہ کے قبضہ کی نوعیت وہ ہو گی جو عرف لوگوں کے درمیان رائج ہو (الشرح الكبير مع دسوی لاحمد الدر دیر ۱۲۵۳)۔  
تاہم حنفی اور حنبلہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قبضہ کا مدار مطلقًا عرف کو قرار دیا ہے، منقولات کے قبلہ کی چیز ہو یا غیر منقولات کے، چنانچہ ملک العلما علامہ کاسانی لکھتے ہیں  
لأن معنى القبض هو التمكين والتحلى وارتفاع الموضع عرفاً وعادةً حقيقة۔  
اسلئے کہ قبضہ کا معنی مشتری کو بیع پر قدرت دینا، تخلیہ اور عرفی و حقیقی طریقہ سے حاکل رکاؤں کو دہر کرنا ہے (بدائع الصنائع ۱۲۸۵)۔

نیز ابن قدامہ نے اسی حقیقت کی اضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالاحوال والفرق۔

اس لئے کہ قبضہ شریعت میں مطلقًا بیان کیا گیا ہے، لہذا اس مسلمہ میں عرف کی طرف مراجعت ضروری ہو گی، جیسے کسی چیز کی حفاظت اور علاحدگی کا تصور عرف پر مبنی ہوتا ہے (امغنى لابن قدامہ ۹۰۲)۔

**منقولی اور غیر منقولی اشیاء کے قبضہ کی نوعیت:**

قبضہ کی نوعیت کے اخبار سے منقولی اور غیر منقولی اشیاء میں احادیث اور انہی کی تشریحات کے مطابق خاصا فرق نظر آتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں میں بیناہی فرق ہے، وہ اس طرح کہ اشیاء غیر منقولہ میں بعد المعاملہ بالع اور بیع کے درمیان اس طرح تخلیہ اور بیع کی جواہی ہو جائے کہ مشتری بیع پر پوری طرح شرعی اور عرفی اخبار سے بغیر کسی موافع اور وقت کے تصرف پر قادر ہو جائے۔ چنانچہ علامہ کاسانی نے تخلیہ کی حقیقت ان الفاظ میں واضح کی ہے  
وأما تفسير التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلیة والتحلی و هو أن  
يحلی البائع بين المبیع وبين المشتری برفع الحالی بينهما على وجه يتمكن المشتری من  
التصرف فيجعل البائع مسلماً للمبیع والمشتری قابضاً له۔

رہی پر دگی اور قبضہ کی تفسیر، تو پر دگی اور قبضہ کی نوعیت ہمارے یہاں تخلیہ ہے، اور تخلیہ کہتے ہیں جیسے اور بالع کے درمیان حاکل رکاؤں کے اس طرح ختم ہو جانے کو کہ مشتری پوری طرح بیع میں تصرف کرنے پر قادر ہو جائے، تو بالع پر دکرنے والا اور مشتری قابض سمجھا جائے گا (بدائع ۲۳۲/۵)۔

نیز ابن قدامہ حبیلی نے غیر منقولی اشیاء عقار وغیرہ میں قبضہ کی نوعیت تخلیہ قرار دیتے ہوئے اس بات کی

وضاحت کی ہے کہ تخلیہ کے ذریعہ قبضہ اس وقت متصور ہو گا جب عرف میں لوگ اس کو قبضہ مان لیں، چنانچہ لکھتے ہیں:

وَإِنْ كَانَ مَمْا لَا يَنْتَلِ وَيَحْوُلُ فِي قَبْضَهِ التَّخْلِيَهُ بَيْنَهُ وَمُشْتَريهِ لَا حَالَ دُونَهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ  
مُطْلَقٌ فِي الشَّرْعِ فِي جَبِ الرِّجُوعِ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ كَالْاحْرَازِ وَالتَّفْرِقِ وَالْعَادَهُ فِي قَبْضِ هَذِهِ  
الْأَشْيَاءِ۔

اور اگر اسی چیز ہو جو اپنی جگہ سے منتقل نہیں ہوتی تو اس کا قبضہ مبيع اور بائع کے درمیان اس طرح کا تخلیہ ہے کہ مبيع اور مشتری کے مابین کوئی چیز حاصل اور رکاوٹ نہ ہو، اس لئے کہ شریعت نے قبضہ کو مطلق بیان کیا ہے اس کی کوئی خاص نوعیت ذکر نہیں کی ہے، بلکہ اس میں عرف و رواج ہی کی طرف ضروری ہو گا، جس طرح کسی چیز کی حفاظت اور اس سے علاحدگی کا تصور عرف پر منسوب اور ان اشیاء کے قبضہ کا رواج ہے (المغنى لابن قدامة ۹۰۲).

نیز امام شافعی کے یہاں بھی قبضہ کی نوعیت میں غیر منقولی اشیاء میں تخلیہ کو کافی قرار دیا گیا ہے، علامہ نووی قبضہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنا مذہب نقل فرماتے ہیں:

فَدَذَكَرَنَا أَنَّ مَذَهِبَنَا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ بِالْتَّخْلِيَةِ وَفِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَفِي  
السَّاُولِ بِالْيَدِ السَّاُولِ۔

ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ عقار اور اس قسم کی دیگر اشیاء میں قبضہ کا مدار تخلیہ ہے اور منقولی چیزوں میں انتقال اور ہاتھ سے لی جانے والی چیزوں میں دست بدست پر دگی ہے (اجموع شرح المہدی ب ۳۸۳/۹)۔

اور منقولی اشیاء کے قبضہ کی حقیقت یہ ہے کہ اگر عددی چیز ہے تو اس کی گنتی کر دے اور کیلی چیز ہے تو اس کی کیل کر دے، اس کے بعد مشتری کو اس میں تصرف پر بغیر کسی رکاوٹ اور موائع کے قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو قبضہ تصور کیا جائے گا، البتہ بعض روایات میں انتقال کا تذکرہ بھی آیا ہے لیکن وہ جملہ اور مطلق ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ عرف پر بنی ہے اگر صرف کیل اور وزن نیز گنتی کو عرف میں قبضہ تصور کیا جاتا ہو تو اسے ہی قبضہ قرار دیا جائے گا اور انتقال ہی قبضہ متصور ہو تو اسی کو قبضہ مانا جائے گا، جیسا کہ روایات اور ان کی تشریفات سے معلوم ہوتا ہے، تاہم حنفی نے اشیاء منقول اور غیر منقولہ دونوں کو قبضہ کی نوعیت کے اعتبار سے یہاں گردانے ہوئے مجھن تخلیہ کو قبضہ کے لئے کافی شمار کیا ہے اور دست بدست اور انتقال کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، جیسا کہ بداع ہی عبارت سے معلوم ہوا، نیز علامہ ابن حام نے ہر ای تفصیل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا ہے، وہ رقمطر از ہیں:

لَا يَدُ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسْلِيمُ الْمُوجَبُ لِلْبَرَاءَةِ فِي التَّجْرِيدِ، لِتَسْلِيمِ الْمَبْيَعِ أَنْ  
يَخْلُى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْيَعِ عَلَى وَجْهِ يُتَمْكَنُ مِنْ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ حَالَ لِوَفِي الْأَجْنَاسِ يَعْتَبِرُ صَحَّةُ  
الْتَّسْلِيمِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ: أَنْ يَقُولَ خَلِيلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمَبْيَعِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَبْيَعُ بِحُضُورِ الْمُشْتَرِي  
عَلَى صَفَّةِ يَتَائِي فِيهِ الْفَعْلُ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَأَنْ يَكُونَ مَفْرُزاً غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ۔

کسی چیز کے پرداز کرنے اور پرداز ہونے میں جو بری الذمہ ہونے کا سبب ہے اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے، چنانچہ تحرید میں ہے کہ مبیع کی پردازی یہ ہے کہ مبیع کا بالع اور مشتری کے درمیان اس طرح تخلیہ ہو جائے کہ مشتری بغیر کسی رکاوٹ کے مبیع کے قبضہ کرنے پر قادر ہو، اور اجناس میں پردازی کی صحت کا اعتبار تین طرح سے ہوتا ہے: پہلی صورت یہ ہے کہ بالع مشتری سے کہے کہ مبیع اور تمہارے درمیان ملکیت کی بندش سے دستبردار ہوتا ہوں، اور دوسرے مبیع مشتری کے سامنے اس ہیئت اور مرحلہ میں ہو کہ مشتری کو بغیر کسی کلفت کے تصرف کا اختیار ہو جائے، تیسرا یہ کہ مبیع غیر کے کسی بھی حق سے آزاد ہو (فتح القدیر ۲۹۷)۔

مگر رقم الحروف کے خیال کے مطابق قطعی اور صحیح بات یہی ہے کہ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ کے قبضہ کی نوعیت میں خاص افرق ہے، جیسا کہ مذکورہ تشریفات سے معلوم ہوا، نیز روایات و شواہد بھی اسی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، چنانچہ عبد اللہ بن عمر کی روایت جس کو یہیقی نے بھی روایت کیا ہے موطا امام مالک میں ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مِنْ يَأْمُرُنَا بِإِنْتَقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَبْتَعَنَا إِلَى مَكَانٍ سَوَاهُ قَبْلَ أَنْ تَبْيَعَهُ۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوی میں غلے خریدتے اور بیچتے تھے تو آپ نے ہمارے یہاں قاصد بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا منتقل کرنے کا دوسرا جگہ اس جگہ سے جہاں ہم نے اس کو خریدا ہے، ان غلوں کو بیچنے سے پہلے (موطا امام مالک ۲۶۲، صحیح مسلم ۵۰۵)۔

دوسری روایت جو بخاری میں ہے:

قَالَ رَأْيُ النَّاسِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا طَعَاماً جَزَافَا يَضْرِبُونَ أَنْ يَبْعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يَرْوُوهُ إِلَى رَحْالِهِمْ۔

اہن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عہد نبوی میں دیکھا کہ جب غلے تجار انگل سے خریدتے تو ان کی اس بات پر پشائی اور سرزنش ہوتی کہ وہ اسے اس کی جگہ فروخت کریں جہاں انہوں نے خریدا ہے یا لای کہ اسے اپنی سواریوں اور کجاوے تک منتقل کر لیں (بخاری ارج ۸-۲۸۶)۔

كَيْأَبْعَثْ قَبْلَ الْقِبْضَ مَتَعْلِقَ احَادِيثَ مَعْلُلَ بِهِ ہیں؟

بعض قبل القبض کی روایتوں اور اس بارے میں پیش کردہ علماء کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کی تمام روایتیں کسی نہ کسی علت پر ضروری ہیں، مثلاً غرائب افساخ عقد، ربح مالم شخص، شبہ ربا، ملکیت غیر کی فروختگی وغیرہ، مگر ان میں غرائب افساخ عقد زیادہ ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ بالع اول اس کو فتح بھی کر سکتا ہے، یا مبیع بلاک بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بیع باطل ہو جائے، ظاہر ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس سلسلے کی نصوص علت غرر یا خدشہ ہلاکت مبیع پر مبنی ہیں تو جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی بیع کی حرمت بھی ثابت ہو گی اور جہاں نہیں پائی جائے گی حلت ثابت ہو گی۔

حدیث کے معمل بالعلة ہونے تھی کی وجہ سے احناف نے منقولات کی بیع قبل القبض کو ناجائز اور غیر منقولات کی بیع کو جائز قرار دیا ہے، اسی طرح حنابلہ نے مطعومات اور دیگر مکملات اور مواد و نبات کے قبیل کی اشیاء کی بیع کو ناجائز اور مالکیہ نے مطعومات کے علاوہ تمام کی بیع کو جائز کر دیا ہے، البشائر شافعی اس باب کی تمام احادیث کو غیر معمل پر مان کر تمام بیع اشیاء میں قبل القبض بیع کو ناجائز قرار دیتے ہیں، چنانچہ مشہور حنفی عالم علامہ شہاب الدین احمد جنینی، والیات تھی کے شخص اور معمل بیع کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

إِنَّ الْقِيَاسَ أَن يَحُورَ بِيعَ الْمَسْقُولِ قَبْلَ الْقُضَى أَبْصَالَ الدَّلَائِلِ جَوازُ الْبَيعِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالسَّنَةِ وَالْأَحْمَاعِ إِلَّا أَنْ تُرْكَ الْقِيَاسُ بِالْحَدِيثِ فَلِمْ يَحْزُرْ بِيعَهُ قَبْلَ الْقُبْضِ وَعَلَلُ الْحَدِيثِ بَعْرَرَ  
الْخَسَاحَ الْعَقْدَ بِهِلَاكَ الْمَبِيعَ لِأَنَّ الْعَامَ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِجْرَاءً هُوَ عَلَى الْعُمُومِ حَمْلٌ عَلَى أَخْصِ  
الْخَصْوصِ -

قياس کا تقاضا تو یہ ہے کہ قبل القبض منقولات کی بیع تھی کتاب و سنت اور اجماع سے منقول و لائل جواز بیع کی وجہ سے جائز ہے مگر احادیث رسول کی وجہ سے قیاس ترک کر دیا گیا ہے، لہذا منقولات کی بیع قبل القبض جائز نہیں، رہی حدیث میں مخالفت تو احادیث عقد بیع کے فساد کے خدش سے معمل ہے جو کہ بیع کی بلاکت سے متعلق ہے، اس لئے کہ عام جب اپنی عمومیت پر باقی نہ رہے تو اس کو خاص پر محظوظ کیا جاتا ہے (حاشیہ جنینی مع الجمین لعثمان الزبلعی ہر ۸۰، فتح القدير ۱۲۵، المغني ۸۸۷۲، المدویۃ الکبری)۔

اور ماضی قریب کے جلیل القدر فقیہ اور حنفی عالم مولانا ظفر احمد تھانوی حنفی کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

الا أبا حنيفة وأبا يوسف خصا المصوّص بالمنقول لعلة النهي وهو غرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القضى واحتاج ابو حنيفة بان الحكم معمل بغرض انفساخ العقد بهلاك المبيع والهلاك في غير المنقول نادر و النادر كالمعدوم -

مگر یہ کہ امام ابوحنینی اور امام ابویوسف نے تصویص کو منقولات کے ساتھ ممانعت کی ملت کی وجہ سے خاص کیا ہے، اور وہ قبل القبض بیع کی بلاکت کی وجہ سے عقد کے ختم ہونے کا خدش ہے، اور امام ابوحنینی نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ (ممانعت) کا حکم بیع کی بلاکت سے بیع کے ختم ہونے کا خطرہ سے معمل ہے، اور غیر منقول اشیاء میں یہ اندیشہ نا در ہے جو کا عدم ہے (ابن العلاء السنن ۲۲۵، ۱۲۵)۔

البیت دور حاضر کے مشہور فقیہ وہبیہ زحلی نے بیع قبل القبض سے متعلق احادیث کو معمل پر قرار نہ دے کر انہیں نے تھی کی ملت "ربا" کا شہر قرار دیا ہے، جو اصل میں غرر ہی کا لازمی نتیجہ ہے (الفقہ الاسلامی و ادلة  
۱۲۶/۲)۔

غرض یہ حدیثیں معمل پر ہیں اور ملت غرر انفساخ عقد (بیع اول کے دوران معاملہ ختم ہو جانے کا خدش) ہے۔

## بیع قبل القبض کی ممانعت اور اختلاف ائمہ:

کتب فقہ اور ائمہ کے اقوال، نیز مذاہب ار بعہ کی آراء سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع قبل القبض کی ممانعت علی الاطلاق اور عام نہیں ہے، بلکہ ان میں تخصیصات و استثناءات بھی ہیں، بعض ائمہ کے یہاں تو صرف اشیاء خوردانی اور بعض کے یہاں منقولی اور بعض کے یہاں خورد و نوش کی اشیاء میں بھی مکملی اور موزونی، نیز دوسرے بعض حضرات کے یہاں منقولی اور غیر منقولی دونوں کی ممانعت کی صراحت ملتی ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ سے متعلق ائمہ کی آراء ان کے دلائل اور نقاط انظر علاحدہ علاحدہ ذکر کردیئے جائیں۔

### حُقْنِي نقطہ نظر:

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے منقولی اشیاء کے اندر بیع قبل القبض کو ناجائز اور غیر منقولی میں جائز قرار دیا ہے، اور حنفیہ کے یہاں مختار قول یہی ہے، البتہ امام محمد نے اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو ناجائز قرار دیا ہے، چنانچہ ابو جعفر طحاوی مسلم الحنفی کی ترجمانی کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُبَيْعَاتِ إِلَّا الْعَقَارُ فَإِنْ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَحِيزُ بَعْدَهُ  
بَيْعَ قَبْضِهِ وَأَمَّا أَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدٌ فَكَانَا لَا يَحِيزُانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا حَتَّى يَقْبِضَ وَبَهْ نَاخْذُ ثُمَّ  
رَجْعَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا كِيلًا وَإِنْ قَبْضَهُ أَنْ  
يَبْعَدَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَكَذَلِكَ حَتَّى يَعْدُهُ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ عَدْدًا۔

خریدی اور پیچی جانے والی چیزوں میں سے کسی کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں سوانئے زمین کے، امام ابو حنفیہ نے عقار کی بیع قبضہ سے پہلے جائز قرار دی ہے، امام ابو یوسف و محمد نے منقولی اشیاء کی بیع قبل القبض نادرست قرار دی ہے، اور میں اسی کو اختیار کرتا ہوں، پھر امام ابو یوسف نے امام صاحب کی طرف رجوع کر لیا، لہذا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ کیلی چیز خرید کر لے اور اس کی کیل سے پہلے اس کو فروخت کرے اگرچہ اس پر قابض ہو جائے، اسی طرح عددی چیز گنتی سے قبل فروخت کرے (مخصر طحاوی ۸۳، ۲۳۲/۵، فتح القدر ۶/۵۱۰)۔

### دلائل:

حنفیہ نے غیر منقولی اشیاء کی قبل القبض بیع کی ممانعت اور عقارات کے قبیل کی چیزوں کے جواز پر مندرجہ ذیل روایات سے استدلال کیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ منقولی اشیاء میں چونکہ فتح عقد کا احتمال رہتا ہے، اور غیر منقولی اشیاء میں یہ احتمال نہیں رہتا، اس لئے ان کی خرید و فروخت جائز ہے، البتہ اگر غیر منقولی چیزوں میں بھی یہ احتمالات پیدا ہو جائیں تو ان کی بیع بھی قبل القبض جائز نہ ہوگی۔

فَإِنْ هَلَّ أَكَ العَقَارُ نَادِرٌ وَلَا يَبْنِي الْفَقِهُ بِاعْتِبَارِهِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَوازُ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ  
هَلَّا كَهُ إِلَّا صَارَ بِحَرَا أَوْ نَحْوَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْمُشَائِخِ إِنْ جَوَابَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَخْشِي  
عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ بِحَرَا أَوْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الرِّمَالَ فَأَمَّا فِي مَوْضِعٍ لَا يَؤْمِنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي

المسقول ذكره المحبوبى حتى لو كان على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض -

کیونکہ عقار کا بلاک ہوتا شاؤ و نادر ہوتا ہے اور شندو و پرفتک کی بنیاد نہیں ہوتی، لہذا یہ جواز بیع کے لئے بھی مانع نہیں ہوگا، اور یہ اس لئے ہے کہ اس کا بلاک ہونا متحور نہیں ہوتا الای کہ وہ زمین بحر یا تہر بن جائے، یہاں تک کہ بعض مشائخ احناف نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا جواب ان جلہوں کے بارے میں ہے جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ بحر میں تبدیل ہو جائے گی یا اس پر ریت غالب آجائے گی، مگر وہ مقام جہاں اس سے ما مون نہ ہو تو اس کا فروخت کرنا بھی قبضہ سے قبل منقولی اشیاء کی طرح جائز نہیں، اسی کو محبوبی نے ذکر کیا ہے کہ اگر بیع بحر کے کنارے ہو یا مکان وغیرہ کا اوپری حصہ ہو تو اس کا قبل القبض یقیناً جائز نہیں (فتح القدير ۵۱۳/۶)۔

مزید چند روایات جو حنفیہ کے نقطہ نظر کی موذیہ ہیں، زیرِ قرطاس کی جاتی ہیں

عن حکیم بن حرام قال قلت يا رسول الله انى ابتاع هذه البيوع فما يحل لى منها وما يحرم على قال يا ابن اخي لا تبيع شيئاً حتى تقبضه، هذا استاد حسن متصل -

حکیم بن حرام سے مردی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں مختلف قسم کی چیزوں کی بیع کرتا ہوں اس میں سے میرے لئے کیا حرام اور کیا حلال ہے؟ فرمایا: اے سمجھتے ہی چیزیں اس طرح نہیں پہنچی جائیں گی، جب تک اس پر قبضہ ہو جائے، حدیث کی یہ سند صحیح اور متصل ہے (الشن الكبير للبيهقي ۳۱۳/۵)۔

دوسری روایت جو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی ہے جو مسلم اور دیگر صحابی میں ہے۔

عن ابن عباس اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبْعَدْهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيهِ قَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ وَاحْسَبْ كُلَّ شَيْءٍ مَثْلَهُ -

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص غل خریدے اس کو ہرگز نہ یچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس قسم کی تمام اشیاء کے بارے میں حکما میں یہی گمان کرتا ہوں (مسلم شریف ۴/۲، موطا امام محمد ۳۲۲/۵)۔

احناف کے یہاں تخصیص منقولات کی وجہ:

اس سے پہلے تفصیل سے یہ بات گذر چکی ہے کہ احناف نے روایات "نهی بیع قبل القبض" کو معلل پر قرار دیا ہے اور وہ معلت بیع کی بلاکت یا دیگر کسی اور وجہ سے الفسخ عقد کا خدشہ ہے اور جہاں تک غیر منقولی اشیاء کے جواز کی بات ہے تو اس بنا پر جائز قرار دیا ہے تاکہ کتاب اللہ میں جو بیع کی حالت آئی ہے اس کی عمومیت باقی رہے، اس لئے کہ قرآن کریم کی آیت کا تناقض اتوی تھا کہ منقولی اور غیر منقولی دونوں اشیاء کی بیع قبل القبض جائز ہو، مگر چونکہ احادیث میں بعض اشیاء کی بابت ممانعت آئی ہے اس لئے اس کو معلل ہے مان لیا تاکہ احادیث پر بھی عمل ہو

جائے، اور آیت کی تمویت بھی باقی رہے، کیونکہ غیر منقولی اشیاء میں وہ اندر یہ نہیں ہے جو منقولی میں ہے۔ هذا تطبیق جید للا حناف۔

چنانچہ ملک العلاماء علامہ کاسائی شخین کی رائے کی توجیہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ولهمما عمومات الیاعات من الكتاب العزیز من غير تخصیص ولا یجوز تخصیص عموم الكتاب بخبر الواحد عندنا أو نحمله على المنقول تو فيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض ولأن الأصل في رکن البيع إذا صدر من الأهل في المحل هو الصحة والامتناع لعارض الغرر وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه ولا یتوهم هلاك العقار فلا یتقرر الغرر فبقي بيعه على حكم الأصل۔

امام ابوحنیفہ وابو یوسفؓ کی دلیل بغیر تخصیص کے خرید و فروخت کی اجازت کا عام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اصولی طور پر کتاب اللہ کے عموم کو خبر واحد سے مقید کرتا جائز نہیں ہے، یا یہ کہ اس ممانعت کو ہر منقول چیز پر محدود کریں گے، تاکہ دونوں دلائل میں تطہیق ہو جائے اور تناقض نہ ہو اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی رکن اہل بیع و شراء سے صحیح محل میں صادر ہو تو اصل اس کی صحیح ہے اور اس کی ممانعت خارجی علت کی بنابر ہے اور وہ مبیع کی بلاکت کی وجہ سے عقد بیع کے قبضہ کا امکان ہے، اور یہ امکان عقارات میں متصور نہیں، لہذا اس میں غرر بھی ثابت نہیں ہوگا، اور بیع اپنے حکم اصلی (جواز) پر باقی رہے گی (بدائع الصنائع ۱۸۱/۵)۔

### شافعی نقطہ نظر:

بیع قبل القبض کے سلسلہ میں شافعیہ کا نقطہ نظر منقولات اور غیر منقولات دونوں میں عدم جواز کا ہے، البتہ ایسے حقوق جن میں بغیر عوض ملکیت ثابت ہوتی ہے، مثلاً وصیت، میراث، غلام کی آزادی، علی اختلاف الأقوال، تو ان میں قبل القبض تصرف دیگر ائمہ کی طرح شوافع نے بھی جائز قرار دیا ہے، چنانچہ ساتویں صدی ہجری کے مشہور شافعی عالم مجتہد ابن شرف نووی تحریر فرماتے ہیں:

مذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أو منقولاً لا باذن البائع ولا بغیر إذنه لا قبل أداء الشمن ولا بعده۔

اس بارے میں ہمارا نہ ہب یہ ہے کہ خواہ عقار کے قبیل کی چیز ہو یا منقولات کے قبیل کی، قبضے سے پہلے اس کی بیع جائز نہیں ہے، نہ تو بائیع کی اجازت سے اور نہ بغیر اس کی اجازت کے، اسی طرح نہ ادائے شمن سے قبل اور نہ بعد (اجموع شرح المهدب ۹/۲۶۳)۔

### دلائل:

شافعیہ نے بھی قریب قریب انہیں روایتوں سے استدلال کیا ہے، جن سے دیگر ائمہ مجتہدین نے کیا ہے اور انہوں نے منقولات پر غیر منقولات کو قیاس کیا ہے، وہ اس طرح کہ جب اللہ کے نبیؐ نے اشیاء مطعومات جس کی کہ

انسان ہر وقت ضرورت محسوس کرتا ہے، کی بعث قبل القبض کو ناجائز قرار دیا تو غیر منقولات کی بعث قبضہ سے قبل بدرجہ اولی ناجائز اور باطل ہوگی، نیز اس لئے بھی باطل ہے کہ کسی چیز کی فروختگی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی پرتوگی پر انسان قادر ہو، اور قبل القبض کی صورت میں مشتری اس سے قاصر ہوگا، نیز شافعیہ کے یہاں بھی علت ہی وہی ہے جو حنفیہ کے یہاں ہے، یعنی غرر انفاسخ عقد، چنانچہ امام نووی لکھتے ہیں:

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن النبيَّ قال لا تبع ماله تقبضه و ب الحديث  
زيد بن ثابت أن النبيَّ نهى أن تبع الملح حيث تبتاع حتى يجوز لها التجار إلى رحالهم رواه أبو  
دؤد ياسناد صحيح۔

ہمارے اصحاب نے حکیم بن حزام کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ مت تپوتم کسی چیز کو جب تک اس پر قابض نہ ہو جاؤ، اور دوسری روایت زید بن ثابت کی ہے کہ آپؐ نے اس سے منع فرمایا کہ سامان کو اسی جگہ فروخت کیا جائے جہاں سے اسے خریدا جائے، جب تک اس کو تجارت اپنے کجاوے اور سواری تک منتقل نہ کر دیں (شرح المہذب ۲۱۹)۔

### صلبی نقطہ نظر:

امام احمد کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی بعث قبل القبض عقار کے علاوہ تمام مطعومات غیر مطعومات، مکیلات و موزوںات میں ناجائز ہے، اور امام ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اشیاء خوردنی کے علاوہ جو کیلی اور وزنی نہ ہوان تم میں جائز ہے، اور ایک دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اشیاء خوردنی اور مشروبات میں ناجائز، باقی تمام چیزوں میں قبل القبض بعث جائز ہے، ابن عبد البر نے اسی تیسری روایت کو صحیح قرار دیا ہے، چنانچہ محقق ابن قدامہ صلبی (متوفی ۲۴۰ھ) نقل فرماتے ہیں:

ونقل عن أحمد أن المطعم لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن وهذا يقتضي أن الطعام خاصة لا يدخل في ضمان المشترى حتى يقبضه فإن الترمذى روى عن أحمد أنه رخص في بيع ما لا يأكل ولا يوزن مما لا يوكل ولا يشرب قبل قبضه... وما أشبه من ما كول و مشروب فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عبد البر الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام۔

امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اشیاء خوردنی کی بعث قبل القبض جائز نہیں خواہ مکیلی یا موزوںی ہو یا نہ ہو، اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ اشیاء خوردنی خاص کر مشتری کے خان میں داخل نہ ہو گئی جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے، امام ترمذی نے امام احمد سے نقل کیا ہے کہ امام موصوف نے غیر مکیلی اور موزوںی جواشیاء خوردنوں نہیں ان کی بعث قبل القبض کے جواز میں رخصت دی ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام احمد کی صحیح روایت صرف طعام میں قبل القبض عدم جواز کی ہے (المغنى لابن قدامہ ۸۸/۲)۔

## دلائل:

حنابلہ کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ حنابلہ نے بھی اس باب کی ذکر کردہ روایتوں سے استدلال کیا ہے تاہم مطعومات کی چونکہ احادیث میں صراحةست ہے، اس لئے مفہوم مخالف جس کا کہ حنابلہ کے یہاں کلام شارع میں اعتبار ہے۔ اس سے مطعومات کے علاوہ قبل القبض بیع کے جواز پر استدلال کیا ہے، چنانچہ ابن قدامہ کی ایک روایت پیش کر کے اس کے مفہوم مخالف کی تشریع کرتے ہیں:

لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه۔  
اسلئے کہ قبضہ سے پہلے غلہ کی بیع جائز نہیں ہے، لہذا اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اس کے علاوہ چیزوں کی بیع قبل القبض جائز ہے (المغني ۸۸/۳)۔

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من اشتري طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نقله من مكانه۔

حضرت ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص غلہ خریدے، اس کو نہ بیچے جب تک اس کو وصول اور اس پر قبضہ نہ کر لے، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سواری سے انکل سے غلہ خریدتے تھے، آپ ﷺ نے منع فرمایا اس کے فروخت کرنے سے جب تک اس کو دوسرا جگہ منتقل نہ کر دیا جائے (صحیح مسلم ۵/۲۵)۔

### مالکی نقطہ نظر:

بیع قبل القبض میں مالکیہ نے صرف اشیاء خوردنی خواہربوی ہوں یا غیرربوی، کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کے علاوہ تمام منقولات وغیر منقولات، مکملات و موزوںات کی تمام اجناس کو اس نہیں سے مستحبی گردانا ہے، چنانچہ مشہور مالکی علامہ الحنفی بن سعید تنوی لکھتے ہیں:

قللت و ما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا يلا ياس أن أبيعه قبل أن أقبضه من الذي باعني أو من غيره قال مالك، لا يأس أن تبيع مما سلفت فيه إذا كان من غيره ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر۔

میں نے پوچھا اشیاء خوردنوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو کیلی اور وزنی ہوں ان میں کوئی حرج ہے؟ کہ اس کی بیع قبضہ سے پہلے کی جائے اس شخص سے کہ جس کے ہاتھ سے میں نے خریدا ہے، یا اس کے علاوہ سے، تو امام مالک نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو فروخت کرو جس میں ادھار بیع کی جاتی ہے، جیکہ وہ اشیاء خوردنوں کے ہوں اس شخص سے جس سے کہ ادھار خریدا ہے خواہ کم میں خریدا ہو یا زیادہ میں (المدونۃ الکبری ۱۶۵/۳، بدایۃ الجتہد ۱۳۲/۲)۔

## دلائل:

مالکیہ نے مطعومات اور غیر مطعومات میں، نیز عقارات کے درمیان قبل القبض بیع کی ممانعت میں جو عقلی

طور پر فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مطعومات قبل القبض ربا کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور غیر مطعومات میں چونکہ یہ اندیشہ نہیں ہے اس لئے سُدَّ اللہِ رَبِيعَ غالباً اشیاء خوردنی میں قبضہ سے پہلے بیع ناجائز اور اس کے علاوہ میں جائز قرار دیا ہے، چنانچہ ڈاکٹروں پر رحلی مالکیہ کی طرف سے اسی ملت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والعلة في منع بيع الطعام قبل القبض عند المالكية هي أنه قد يتحدد البيع ذريعة

التوصل إلى ربا النسيمة فهو يشبه بيع الطعام بالطعام نساء يعني سد الذرائع۔

مالكیہ کے یہاں قبل القبض اشیاء خوردنی کی بیع و شراء کی ممانعت کی ملت یہ ہے کہ وہ ربا نسیمه تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہے، جو نسیمه اشیاء خوردنی کی بیع کے مشابہ ہے یعنی مالکیہ نے سُدَّ اللہِ رَبِيعَ اس سے روکا ہے (الفقہ الاسلامی واؤسیز ۲۷۳)۔

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال من اشتري طعاماً فلا يبعده حتى يستوفيه

ويقضيه۔

حضرت عبد الله بن عمرؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص طعام خریدے اس کو نہ بیچے جب تک قبضہ نہ کرے (صحیح مسلم ۵۰۲)۔

**فیکثری سے مال خرید کر بغیر قبضہ فروخت کرنا:**

نکو رہ بالابیع و شراء سے متعلق تمام تفصیلات، قیود و شرائط کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ فیکثری سے مال خرید کر

کوئی شخص بغیر اس پر قبضہ کے کسی دوسرے کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے تو چونکہ کمپنی سے مال خرید نے اور عقد معاملہ کرنے کی وجہ سے معنوی قبضہ ہو گیا تھا، اگر چہ ظاہری نہیں ہوا اور فیکثری سے خرید کردہ بیع پر قبضہ آئندہ جب چاہے یعنی ہے، اس لئے شخص صہان کو کسی درجہ میں قبضہ مان کر تعامل ناس کی وجہ سے اس کو فروخت کرنا اور اس سے نفع کمانا جائز ہونا چاہئے، یا شرطیکہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اس لئے کشوریت نے جو بیع قبل القبض کو ناجائز قرار دیا ہے وہ دولتوں کی بنا پر، ایک ملت غرر ہے، اور دوسری "رجح المضمون" ہے، یہ دونوں صورتیں زیر بحث مسئلہ میں نہیں پائی جاتیں، اس بنا پر کہ تعامل ناس کی وجہ سے غریبی غریبی کے حکم میں ہے، اور باقی اول چونکہ صہان قبول کر رہا ہے اس لئے رجح المضمون بھی نہیں ہو گا، اس لئے اس صورت کے جواز میں کوئی خاص قیاحت معلوم نہیں ہوتی۔

**شینگ:**

اور شینگ کی صورت میں چونکہ بالع اس کا خامن نہیں ہوتا، اس لئے اس طرح کا معاملہ "رجح المضمون" کی وجہ سے شرعاً ناورست ہو گا۔

## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت سے متعلق مسائل

مولانا محمد ارشد قادری

- ۱۔ شرع اسلامی میں جہاں بہت ساری چیزیں منوع اور ناجائز ہیں وہیں ایک بیع قبل القبض بھی ہے، چنانچہ بیع قبل القبض کے ناجائز ہونے پر بہت ساری احادیث ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:
  ۱. عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۲. عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۳. عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۴. عن ابن عباس قال قال رسول الله: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم ، فقال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجاً ولم يقل أبو كریب مرجاً (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۵. عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله في المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۶. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نقله من مكانه (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۷. عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه (مسلم شریف ۵/۲)۔
  ۸. عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ومن رواية أبي بکر من ابتاع (مسلم شریف ۵/۲)۔

جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى يستوفيه (مسلم شريف ۶۲)۔

١۔ عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاماً جزاً فما أربعه في مكانه حتى يحولوه (مسلم شريف ۵۲)۔

جب بیع قبل القبض ناجائز ہے تو کیا اس کا شاریع باطل میں، یا بیع فاسد میں، یا بیع مکروہ میں ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ بیع قبل القبض ایک وصف ہے نہ کہ اصل، اور بیع فاسد وہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کے وصف کے اعتبار سے، لہذا بیع قبل القبض کا شاریع فاسد میں ہو گانہ کہ بیع باطل و مکروہ میں، نیز احادیث میں جو بیع قبل القبض کی ممانعت ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ بیع قبل القبض کا شاریع فاسد میں ہونے کے بیع باطل و مکروہ میں، کیونکہ احادیث میں جو بیع قبل القبض کی مخالفت آتی ہے اس کی وجہ نہیں ہے کہ بیع قبل القبض اصل ناجائز ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مشتری کو غرر ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ ہو سکتا ہے جیع باعث اول کے پاس بلاک ہو جائے، چنانچہ بیع بلاک ہونے کی وجہ سے بیع ثانی فتح ہو جائے گی نہ کہ باطل، چنانچہ امام اکمل الدین محمد بن محمود بابری "عنایہ" میں لکھتے ہیں:

والنهی يقتضى الفساد فيكون البيع فاسداً قبل القبض لأنَّه لم يدخل في ضمانه كما في الإجارة (عنایہ مع فتح القدیر ۵۱۲/۶)۔

اور نہی فساد کا تقاضا کرتا ہے، پس بیع قبض سے پہلے فاسد ہوگی، اس لئے کہ بیع قبض سے پہلے مشتری کے خان میں داخل نہیں ہوتی، جیسا کہ اجرہ میں ہے۔  
وہیہ زحلی فرماتے ہیں:

والنهی يوجب فساد المنهي عنه ولأنَّه بيع فيه عرض لعراضه إلى الانفصال بهلاك المعقود عليه فيبطل البيع الأول ويفسخ الثاني (الفقه الإسلامي وأولاته ۳۱۱/۳)۔

نہی منی عنہ کے فساد کو ثابت کرتی ہے، اور اس لئے کہ بیع کے بلاک ہونے کی وجہ سے اس بیع کا فتح ہونا ممکن ہے جو باعث غرر ہے، تو بیع اول باطل اور دوسرا بیع فتح ہو جائے گی۔

۲۔ اسلامی شریعت میں کتاب و سنت نے قبضہ کی کوئی خاص حقیقت متعین نہیں کی ہے، بلکہ اسے لوگوں کے عرف و عادات پر چھوڑ دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جس درجہ کے استحلاط اور عمل خل کو لوگوں کے عرف میں قبضہ تصور کیا جائے وہی اس کے حق میں شرعاً قبضہ مانا جائے گا، چنانچہ ابن قدامة تحریر کرتے ہیں:

لأنَّ القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف (المغني ۹۰۷)۔

اس لئے کہ قبضہ شریعت میں مطلق ہے، لیکن اس میں رجوع واجب ہو گا عرف کی طرف۔

## اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت:

اسلامی شریعت میں قبضہ کی حقیقت تخلیٰ ہے، اور تخلیٰ کہتے ہیں کہ بیع اور مشتری کے درمیان کوئی ایسی چیز حاصل نہ ہو جو بیع کیلئے مانع ہو اس طور پر کہ مشتری بیع میں تصرف کرنے پر قادر ہو جائے، گویا باع بیع کو پرداز کرنے والا اور مشتری اس کو لینے والا ہو جائے، چنانچہ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

واما تفسیر التسلیم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية والتخلی و هو أن يخلی البائع بیس المبيع وبين المشتری برفع الحالی بينهما على وجه يتمکن المشتری على التصرف فيه فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتری قابضًا له وكذا تسلیم الشمن من المشتری إلى البائع (بدائع الصنائع ۲۲۲/۵).

پسروگی اور قبضہ کی تفسیر ہمارے یہاں (حنفی) پسروگی اور قبضہ تخلیٰ ہے، اور تخلیٰ یہ ہے کہ باع بیع اور مشتری کے درمیان حاصل کو ختم کر دے اس طریقے پر کہ مشتری بیع میں تصرف کرنے پر قادر ہو جائے، گویا باع بیع کو پرداز کرنے والا اور مشتری اس کو بخند کرنے والا ہو جائے، اور ایسے ہی شمن کی پسروگی ہے مشتری سے باع کی طرف۔

### ۳۔ اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت میں فرق:

اس سلسلہ میں انہے اربعہ کے مذاہب مندرجہ ذیل ہیں:

#### احناف کا مسلک:

احناف اور مالکیہ کے یہاں تمام چیزوں میں تخلیٰ حکماً قبضہ ہے جبکہ مشتری اس پر بغیر مشقت کے قادر ہو، لیکن قبضہ کی نوعیت بیع کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔

اشیاء غیر منقولہ میں تخلیٰ قبضہ ہے اگر قریب ہو، لیکن اگر وہ دور ہے تو اس میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک اسکے احتجاج ہے کہ اگر قریب ہو، صاحبین کا مذہب اس کے ہر خلاف ہے، لیکن امام صاحب کے مذہب کو البحر الراائق میں ضعیف کہا گیا ہے۔

اشیاء منقولہ میں قبضہ کی نوعیت ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہے، اگر یہ ہوں کو گھر میں فروخت کیا گیا تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ باع مشتری کو چاہبی دیدے اس طور پر کہ مشتری گھر کھولنے پر بغیر کسی مشقت کے قادر ہو جائے، اور اگر گھر کو فروخت کیا گیا ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری گھر بند کرنے پر قادر ہو جائے، اگر جانور کو چڑا گاہ میں فروخت کیا گیا ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس کو دیکھ لے، یا اس کی طرف اشارہ کر دے، اگر بیع کپڑا ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس سے متصل ہو، اگر گھوڑا یا جیڑ یا کو گھر میں فروخت کیا گیا تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی مددگار کے لینا ممکن ہو، تیل میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری باع کو شیشی دے اور باع مشتری کی موجودگی میں اس میں تیل وزن کر دے، اور اگر بیع مکملی یا موزونی ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری باع کو برتنا دیدے اور باع اس میں مشتری کے حکم سے کیل یا وزن کر دے، چنانچہ ابن عابدین شافعی "روالمختار" میں تحریر کرتے ہیں:

إِن التخلية قبض حَكْمًا لِوَعْدِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا كُلْفَةٍ لِكُنْ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ حَالِ الْمُبَيْعِ فَفِي نَحْوِ حَجْلَةٍ فِي بَيْتِ مَثَلًا فَدْفَعَ الْمَفْتَاحَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْفَتْحُ بِلَا كُلْفَةَ قبض، وَفِي نَحْوِ دَارِ الْقُدْرَةِ عَلَى إِغْلَافِهَا قبض اِنْ يَأْنَ تَكُونُ فِي الْبَلدِ فِيمَا يُظَهِّرُ وَفِي نَحْوِ بَقْرٍ فِي صَرْعَى فَكُونَهُ سَبَبَتْ سَرَى وَيُشَارِ إِلَيْهِ قبض وَفِي نَحْوِ ثَوْبٍ فَكُونَهُ بِحِيثِ لَوْ مَدِيدَهُ تَصْلِي إِلَيْهِ قبض وَفِي نَحْوِ فَرْسٍ أَوْ طَيْرٍ فِي بَيْتِ إِمْكَانٍ أَخْدَهُ مِنْهُ بِلَا مَعْنَى قبض (روابط حمار ٥٩٢).

پہ شک تخلیہ حکما قبض ہے اگر اس پر بغیر مشقت کے قادر ہو، لیکن یہ بمعنی کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے، پس گیہوں یا اس جیسی چیز اگر گھر میں فروخت کی گئی تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ باائع مشتری کو چاہبھی دیدے جبکہ گھر کا بغیر کسی مشقت کے کھولنا ممکن ہو، اور گھر میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس کو بتدرکرنے پر قادر ہو جائے، یا اس طور کہ وہ شہر میں ہو جس میں وہ ظاہر ہوتا ہو، اور اگر گھارے یا اس جیسی چیز چراگاہ میں فروخت کی گئی تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس کو دیکھتا ہو، یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہو، اور کیڑا اور اس جیسی چیز میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس سے متصل ہو اور اگر کھوڑا یا چیز یا اس جیسی چیز گھر میں فروخت کی گئی تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ مشتری اس کو گھر سے بغیر مشقت کے لینے پر قادر ہو۔

لَوْ اشْتَرَى دَهْنًا وَدَفْعَ قَارُورَةً يَرْتَهِ فِيهَا بِحْضُورِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ قبض، وَكَذَا بِغَيْرِهِ فِي الْأَصْحَاحِ، وَكَذَا كُلُّ مَكْيَلٍ أَوْ مَوْذُونٍ إِذَا دَفَعَ لِهِ الْوَعَاءَ فِي كَالَّهِ أَوْ وَزْنَهُ فِي هِيَامِرَةٍ، وَمِنْهُ مَا لَوْ غَصَبَ شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَارَ قَابِضًا (روابط حمار ٥٩١).

اگر کسی نے تخلیہ خریدا اور شیشی باائع کو دیا اور باائع اس میں تخلی مشتری کی موجودگی میں وزن کرتا ہے تو یہ قبضہ ہے اور ایسے ہی مشتری کی غیر موجودگی میں اصح قول کے مطابق قبضہ سمجھا جائے گا، اور ایسے ہی ہر مکملی یا موزولی چیز کہ جب مشتری باائع کو ہر تن دیدے اور باائع اس میں مشتری کے حکم سے کیل یا وزن کر دے تو قبضہ سمجھا جائے گا، اسی میں سے یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز غصب کیا پھر اس کو خریدا تو وہ قبضہ کرنے والا ہو جائے گا۔

وَجَامِعُ شَمْسِ الْأَنْوَةِ أَنَّهُ بِالْتَّخْلِيَةِ يَصْحَّ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا بَعِيدًا غَائِبًا عَنْهُمَا عَدْ أَبِي حِيْفَةَ حَلَافًا لَهُمَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَفِي الْخَانِيَةِ وَالصَّحِيفَةِ مَا ذُكْرَنَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَرِيبًا يَتَصَوَّرُ فِيهِ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْحَالِ فَتَقَامُ التَّخْلِيَةُ مَقَامَ الْقَبْضِ أَمَا إِذَا كَانَ بَعِيدًا لَا يَتَصَوَّرُ الْقَبْضُ فِي الْحَالِ فَلَا تَقَامُ التَّخْلِيَةُ مَقَامَ الْقَبْضِ (روابط حمار ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤).

اور شمس الانواع کی جامیع میں یہ ہے کہ تخلیہ سے قبضہ درست ہو جاتا ہے، اگرچہ زمین دور عائد ہو باائع مشتری سے، امام اعظمؑ کے نزدیک، اس میں صائبین کا اختلاف ہے، اور امام صاحبؑ کا قول ضعیف ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں ہے، اور خانیہ میں ہے کہ صحیح قول وہ ہے جس کو ہم نے ظاہر الروایہ میں ذکر کیا ہے کہ جب زمین قریب ہو جس میں قبضہ حقیقی فی الحال تصور کیا جائے تو تخلیہ قبضہ کے قائم مقام ہو گا، اور اگر زمین دور ہو تو فی الحال قبضہ تصور نہیں کیا

جائے گا، چنانچہ تخلیہ قبضہ کے قائم مقام شہ ہو گا۔  
حنابلہ کا مسلک:

حنابلہ کے یہاں اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ کی نوعیت تخلیہ ہے، باقی اشیاء منقولہ میں قبضہ کی نوعیت مختلف ہے، اگر اشیاء منقولہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو کیل یا وزن کیا جاتا ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے لیا جائے، اگر کپڑا ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے منتقل کر دیا جائے، اور اگر حیوان ہے تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے چلا دیا جائے، گویا ہر چیز کا قبضہ اس کی جنس کے ساتھ ہو گا، چنانچہ ابن القاسم تحریر کرتے ہیں وقبض کل شی بحسبہ فان کان مکیلاً او موزونابع کیلاً او موزوناً فقضہ بکیله وزنه ..... وان کان الجمیع دراهم او دنانیر فقضہا بالید، وان کان ثیاباً فقضہا نقلها، وان کان حیواناً فقضہ تمثیة من مکانه، وان کان مما لا ينقل ويحول فقضہ التخلیة بینه وبين مشتریه لا حائل دونه۔

ہر چیز کا قبضہ اس کی جنس کے ساتھ ہے، پس اگر کوئی چیز مکملی یا موزونی ہو، اور وہ کیل یا وزن کر کے فروخت کی جائے تو اس کا قبضہ اس کے کیل یا وزن کے ساتھ ہے، اور اگر جمیع دراهم و دنانیر ہے تو اس کا قبضہ ہاتھ سے ہے، اور اگر کپڑا ہے تو اس کا قبضہ یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے منتقل کر دیا جائے، اور اگر حیوان ہے تو اس کا قبضہ اس کی جگہ سے چلا دینا ہے، اور اگر جمیع ایسی چیز ہے جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کا قبضہ تخلیہ ہے، اور تخلیہ نام ہے کہ جمیع اور مشتری کے درمیان کوئی چیز حاصل نہ ہو۔

### شوافع کا مسلک:

شوافع کے یہاں اشیاء غیر منقولہ اور منقولہ میں قبضہ کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ اشیاء غیر منقولہ میں تخلیہ ہے۔ ۲۔ اگر اشیاء ان چیزوں میں سے ہے جس کو عادۃ منتقل کیا جاتا ہے، مثلاً لکڑی، دانہ اور مچھلی وغیرہ، تو اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے منتقل کر دیا جائے۔ ۳۔ اور اگر اشیاء منقولہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو ہاتھ سے لیا جاتا ہے، مثلاً دراهم و دنانیر، کپڑا اور برتن وغیرہ، اس میں قبضہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں لیا جائے، چنانچہ امام نووی شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ہمارے اصحاب نے کہا کہ قبضہ کے مسلسلہ میں عرف کی طرف رجوع کرنا ہو گا، احکام کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک زمین اور درخت پر پھل ہے اس کا قبضہ تخلیہ ہے، دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جو عادۃ منتقل کی جاتی ہیں، جیسے لکڑی، دانہ اور مچھلی اور اس جیسی دوسری چیزیں، اس کا قبضہ یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے منتقل کر دیا جائے، اس سلسلہ میں بالغ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، برابر ہے کہ وہ مشتری کی طرف منتقل کی جائے، یا غیر آباد زمین کی طرف، یا سڑک کی طرف، یا مسجد کی طرف، یا اس کے علاوہ کی طرف، تیسرا قسم وہ ہے جس کو ہاتھ سے لیا جاتا ہے، جیسے دراهم و دنانیر، رومال، کپڑا، وہ برتن جو بلکا ہوا اور کتاب اور اس جیسی دوسری چیزیں، پس اس کا قبضہ ہاتھ سے لینے سے ہے

(شرح المهدب ۹/۲۵۷-۲۶۰)۔

۴۔ بیع قبل القبض کی نبی سے متعلق احادیث معلول بالعلت ہیں، اور علت نبی غر ہے، چنانچہ علامہ ابن ہمام "فتح القدر" میں تحریر کرتے ہیں:

ان رسول اللہ ﷺ نبی عن بیع ما لم یقیض.

والحدیث الذی استدل به معلول به أى بغير الانفساخ والدلیل عليه أن التصرف الذی لا یمتنع بالغیر نافذ فی المیع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه (فتح القدر ۲/۵۱۲)۔

اس سلسلہ کی مت Dell حدیث معلول ہے جس کی علت عقد کے فتح ہونے کا عذر و اندر یشہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تصرف جس میں غرمان غنیمہ ہے، تو وہ بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے نافذ ہو جاتا ہے، مثلاً آزادی، تزوج وغیرہ۔

۵۔ بیع قبل القبض کی ممانعت عام نہیں ہے، بلکہ اس میں استثناءات و تخصیصات ہیں، اس بابت ائمہ کے نماہب مع دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

### اختلاف کا مسلک:

اختلاف کے یہاں اشیاء منقولہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، جائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں غرر کا اندر یشہ ہے، وہ اس طرح کو ممکن ہے کہ بیع بالغ کے پاس ہلاک ہو جائے جس کی وجہ سے عقد فتح ہو جائے، بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ نے قبل القبض خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اشیاء غیر منقولہ کے سلسلہ میں خود اختلف میں اختلاف ہے، امام محمد کا کہنا یہ ہے کہ اشیاء غیر منقولہ کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، جس طرح اشیاء منقولہ کی بیع جائز نہیں ہے، نیز ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث میں جو بیع قبل القبض کی ممانعت آئی ہے وہ مطلق ہے، اس میں اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لئے دونوں کی بیع قبل القبض جائز ہوگی۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسفؓ کا کہنا یہ ہے کہ اشیاء غیر منقولہ کی بیع قبل القبض جائز ہے، ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں بیع قبل القبض کی جو ممانعت آئی ہے وہ غرر کی وجہ سے ہے، اور غرر اشیاء منقولہ ہی میں ممکن ہے۔

اشیاء غیر منقولہ میں ممکن نہیں ہے، اور اگر کبھی خدا خواستہ غرر ہو سمجھی جائے تو اس کا اعتبار نہ ہو گا، کیونکہ یہ نادر ہے، اور نادر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔

مشائخ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اشیاء غیر منقولہ کی بیع کو قبل القبض جائز اس صورت میں قرار دیا ہے، جبکہ اس کے ہلاک ہونے کا اندر یشہ نہ ہو، لیکن اس کے ہلاک ہونے کا اندر یشہ ہو، مثلاً زیمن، دریا، یا نہر کے کنارہ ہے، اور امکان اس بات کا ہے کہ وہ دریا کی نذر ہو جائے، تو پھر اس کو قبل القبض فروخت کرنے کو جائز قرار نہیں دیتے۔

جس۔

کسی شخص نے کوئی ایسی چیز خریدی جو محتل کی جاتی ہے، تو اس کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی

کریمہ اللہ نے بیع قبل القبض سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں عقد کے فتح ہونے کا غرر ہے، اس طور پر کہ جیج ہلاک ہو جائے، اور زمین کی بیع قبض سے پہلے شخین کے نزدیک جائز ہے، اور امام محمدؐ کے نزدیک جائز نہیں ہے حدیث کے مطلق ہونے کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور منقول پر قیاس کرتے ہوئے، گویا یہ اجارہ کی طرح ہو گیا، شخین کی ولیل یہ ہے کہ بیع کا رکن اس کے اہل (یعنی عاقل بالغ) سے صادر ہوا ہے، اس کے محل میں، اور اس میں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ زمین کی ہلاکت شاذ و نادر ہوتی ہے۔ اور نادر کا کوئی احتیار نہیں ہے، اور نہ فقہ کی بنیاد ایسی باتوں پر ہوتی ہے، اس لئے یہ جواز کے منافی نہیں ہے، ہاں اس کا ہلاک ہونا اس وقت متصور ہوتا ہے جب کہ خوف ہو کر سمندر وغیرہ ہو جائے، اسی وجہ سے بعض مشائخ نے کہا کہ امام ابوحنیفہؐ کا قول ایسی ہی جگہوں کے بارے میں ہے جو دریا یا نہر، یا ریت کے بھر جانے سے مامون ہو، لبذا ایسی جگہ جو نہ کورہ باتوں سے مامون نہ ہو تو اس کا حکم شی منقول کی طرح ہے، اس کو محبوی نے ذکر کیا ہے، اور اختیار میں ہے کہ اگر زمین دریا کے کنارہ ہو، یا بیع اونچائی پر ہو تو اس کی بیع قبض سے پہلے جائز نہیں ہے (ہدایہ مع فتح القدر ۲/۵۱۰-۵۱۳)۔

### شوافع کا مسلک:

شوافع کے یہاں اشیاء منقول اور غیر منقول میں سے کسی کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، ناجائز ہونے کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ اشیاء منقول میں سے طعام جس کی ضرورت اکثر پیش آتی ہے، اس کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جس کی ضرورت اکثر پیش نہیں آتی ہے، خواہ وہ منقولات میں سے ہو، یا غیر منقولات میں سے، اس کی بیع قبل القبض یدرجہ اولیٰ جائز ہوگی، اور ولیل میں ابن عباسؓ کی یہ روایت پیش کرتے ہیں:

۱. عن ابن عباسؓ أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال

ابن عباسؓ: وأحب كل شيء مثله (مسلم شریف ۵/۲)۔

۲. عن ابن عباسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقضيه، قال

ابن عباسؓ: وأحب كل شيء بمثله الطعام (مسلم شریف ۵/۲)۔

قبل القبض کسی چیز کی بیع جائز نہیں ہے، اس سلسلہ میں امام نوویؓ اپنی کتاب شرح مہذب میں تحریر کرتے ہیں:

لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعى ومحمد بن الحسن (شرح المہذب ۹/۲۷۰) فبان، إذا النهى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره أولى (شرح المہذب ۹/۲۷۱)۔

کسی بھی چیز کی بیع قبض سے پہلے جائز نہیں ہے، یہ (حکم) ان تمام چیزوں کو عام ہے جو نیچی اور خریدی جاتی ہے، جیسا کہ طعام کا حکم ہے، یہی قول امام شافعی اور محمد بن حسن کا ہے، نیز طعام میں حاجتوں کی کثرت کے باوجود اس کی بیع کو (قبل القبض) ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا۔

## حنابلہ کا مسلک:

حنابلہ کے یہاں صرف مطعومات کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں، خواہ وہ منقولات میں سے ہوں، یا غیر منقولات میں سے، اس کی بیع قبل القبض جائز ہے، مطعومات کی بیع کے ناجائز ہونے پر مندرجہ ذیل روایات پیش کرتے ہیں:

۱. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (مسلم شریف ۵۲)۔

۲. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من اشتري طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه (مسلم شریف ۵۲)۔

غیر مطعومات کے جائز ہونے پر اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جابرؓ سے ان کے اونٹ کو خریدا، پھر اس کو قبضہ کرنے سے پہلے حضرت جابرؓ کو ہد کرو دیا۔

واشتري من جابر جمله ونقده ثمنه، ثم وله إياه قبل قبضه ولا أنه أحد نوعي المعقود عليه فجاز التصرف فيه قبل قبضه (المغني ۹۱/۲)۔

رسول پاک ﷺ نے حضرت جابر سے ان کے اونٹ کو نقدِ ثمن کے عوض خریدا، پھر اونٹ کو قبضہ کرنے سے پہلے ہد کرو دیا، اور اس لئے کہ یہ معمود علیہ کے دو قسموں میں سے ایک ہے، پس اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔

ابن عبد البر امام احمدؓ سے مطعومات کے ناجائز اور غیر مطعومات کے جائز ہونے کے سلسلہ میں روایت کرتے ہیں:

قال ابن عبد البر: الأصح عن أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ أَنَّ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْ بَيعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ هُوَ الطَّعَامُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَمَفْهُومُهُ إِبَاحةُ بَيعِ مَا سُواهُ قَبْلَ قَبْضِهِ (المغني ۸۸/۲)۔

ابن عبد البرؓ نے کہا کہ احمد بن حنبل سے صحیح قول طعام کی بیع کا قبضہ سے پہلے ناجائز ہوتا ہے، اور یہ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے قبل القبض طعام کی بیع سے منع فرمایا ہے، پس اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ طعام کے علاوہ کی بیع قبضہ سے پہلے جائز ہے۔

## مالکیہ کا مسلک:

مالکیہ کے یہاں مطعومات کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں، خواہ وہ اغیان منقولہ میں سے ہو، یا اعیان ثابتہ میں سے، مثلاً زمین، درخت وغیرہ، اس کی بیع قبل القبض جائز ہے، امام مالکؓ کے نزدیک مطعوماتِ ربوبی کی بیع کے قبل القبض ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، البتہ مطعوماتِ غیر ربوبی کے سلسلہ میں دور روایت ہے، ایک جواز کی

دوسرے عدم جواز کی، لیکن عدم جواز کی روایت ان سے زیادہ مشہور ہے، مطعومات کے ناجائز ہونے پر وہی روایت پیش کرتے ہیں، جس کو امام احمدؓ نے پیش کیا ہے، قبل القبض مطعومات کے ناجائز ہونے اور غیر مطعومات کے جائز ہونے کے سلسلہ میں ابن رشد القرضی تحریر کرتے ہیں:

وَمَا بَيْعَ مَا سُوِيَ الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا خَلَافٌ فِي مَذَهَبِ مَالِكٍ فِي إِجَازَتِهِ وَأَمَّا  
الطَّعَامُ الرَّبُوِيُّ فَلَا خَلَافٌ فِي مَذَهَبِهِ أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي بِيعِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الرَّبُوِيِّ مِنَ الطَّعَامِ فَعِنْهُ  
فِي ذَلِكَ رِوَايَاتُ أَحَدِهِمَا الْمَنْعُ وَهِيَ الْأَشْهَرُ . . . . الْرِوَايَةُ الْأُخْرَى الْجَوازُ (بداية الجہید ۱۳۲/۲)۔  
طعام کے علاوہ قبضہ سے پہلے جس چیز کو فروخت کیا جائے، امام مالک کے مذہب میں اس کے جائز قرار  
دینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور بہر حال طعام ربوبی تو اس میں قبضہ شرط ہے، فروخت کرنے سے قبل امام مالک  
کے مذہب میں اور طعام غیر ربوبی کے سلسلہ میں دو روایت ہے، ایک جواز کی، دوسرے عدم جواز کی، لیکن عدم جواز کی  
روایت زیادہ مشہور ہے۔

#### خلاصہ:

ائمہ اور بعد کے مذاہب پر نظر دوڑانے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طعام  
کی بیع قبل القبض جائز نہیں ہے، البتہ غیر طعام کے سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے، جیسا کہ معلوم ہوا، بالکل یہی بات  
ابن منذر نے مغنی کے اندر نقل کی ہے:

وَقَالَ ابْنُ الْمَنْذِرَ أَجْمَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ اشْتِرَى طَعَاماً فَلِيسَ لَهُ أَنْ يَبْيَعَهُ حَتَّى يَسْتَوِيهِ  
(المغنی ۸۸/۳)۔

اور ابن منذر نے کہا کہ تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ جس نے طعام کو خرید اس کے لئے اس کو قبضہ  
سے پہلے فروخت کرنا درست نہ ہوگا۔

۶۔ سوال نمبر چھٹے کے تحت جو صورت بیان کی گئی ہے، اس میں ضمان کو قبضہ حسی کا قائم مقام سمجھ کر اس خرید  
و فروخت کو جائز قرار دیا جائے گا، جیسا کہ ”مغنی“ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مشتری کے خسان میں  
آجائے تو اس کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا اور اس میں تصرف کرنا جائز ہے، جس طرح قبضہ کے بعد فروخت کرنا  
اور تصرف کرنا جائز ہے، چنانچہ ابن قدامہ تحریر کرتے ہیں:


وَلَوْ دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِيِّ جَازَ لَهُ بَعْدُ وَالتَّصْرِيفُ فِيهِ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ (المغنی  
(۸۸/۳)۔

اگر کوئی چیز مشتری کے خسان میں داخل ہو جائے تو اس کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنا اور اس میں تصرف کرنا  
جاز ہے، جیسا کہ قبضہ کرنے کے بعد جائز ہے۔

نیز حدیث میں ”رَبَّ الْمَلَمَّاْنِ“ سے منع کیا گیا ہے، اور مذکورہ صورت میں ”رَبَّ الْمَلَمَّاْنِ“ نہیں ہے،

بلکہ ”رَبْخَ مَا يَضْمِنْ“ ہے، اس لئے مذکورہ صورت کو جائز قرار دیا جائے گا۔

سوال نمبر سات کے تحت جو صورت بیان کی گئی ہے کہ سامان ابھی جہاز ہی میں رہتا ہے کہ مشتری اول کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فردخت کر دیتا ہے، نیز بیع ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری اول ضامن بھی نہیں ہوتا ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی چار وجوہیں ہیں: ۱۔ ”رَبْخَ مَا لَمْ يَضْمِنْ“ اور حدیث میں ”رَبْخَ مَا لَمْ يَضْمِنْ“ سے منع کیا گیا ہے، ۲۔ ”بَيْعُ قَبْلِ الْقَبْضَ“ اور حدیث میں ”بَيْعُ قَبْلِ الْقَبْضَ“ سے منع کیا گیا ہے، ۳۔ غیر مقدور اتفاقیہ، ۴۔ جہالت، اگر کسی چیز کی بیع میں ان چار وجوہوں میں سے کوئی ایک بھی وجہ پائی جائے تو اس کی بیع درست نہیں ہوتی ہے، اور صورت مسأولہ میں مذکورہ چاروں وجہیں پائی جاتی ہیں، اس لئے اس کی بیع بدرجہ اولی درست نہ ہوگی۔



## قبضہ سے پہلے خرید و فروخت

مولانا محمد شاہد قادری

### ۲۔ قبضہ کی حقیقت:

احادیث کے ذخیرے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے قبضہ کی حقیقت واضح ہو جائے، اس لئے اس سلسلہ میں انہرے اربعہ کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں:

### سلک خفی:

احناف کے یہاں تمام اشیاء میں، چاہے منقولہ ہوں، یا غیر منقولہ، تخلیہ کو حکماً قبضہ سمجھا گیا ہے، لیکن ہر تخلیہ قبضہ کے حکم میں نہیں ہے، تخلیہ وہ معتبر ہے جس میں مبیع پر قبضہ بلا مشقت ہو سکے، اور باعث مبیع کو اس طرح مشتری کے حوالہ کرے کہ اس میں کسی کی شرکت نہ ہو اور مشتری بلا کلفت و مشقت تصرف کر سکے، تو تخلیہ کی نوعیت مبیع کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

إِن التخلية قبض حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبیع ففی نحو حنطة فی بیت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض (رداً على المحتار: ۵۶۲/۳).

تخلیہ حکماً قبض ہے، اگر اس پر قدرت بلا مشقت ہو، لیکن یہ مبیع کے حال کے اعتبار سے مختلف ہوگا، تو گھر میں رکھنے گیہوں کی بیع میں کنجی دے دینا قبضہ سمجھا جائے گا جب کہ اس کا کھونا بلا مشقت ممکن ہو، اور گھر جیسی چیز میں، تو اس کے بند کرنے پر قدرت قبضہ ہے۔

اسی طرح کی بات علامہ کاسانیؒ نے فرمائی ہے (دیکھئے: بدائع الصنائع ۲۲۳/۵)۔

### سلک شافعی:

شوافع کے یہاں بھی قبضہ کی نوعیت مبیع کے احوال کے اعتبار سے ہے، چنانچہ علامہ نووی فرماتے ہیں:

إِن القبض فی العقار و نحوه بالتخلیة و فی المنقول بالنقل و فی المتناول باليد بالتناول

(شرح مہذب: ۲۸۳/۹)

زمین اور ان جیسی چیزوں میں قبضہ کا تحقیق تخلیہ سے، منقول میں نقل کر کے اور جو ہاتھ سے لیا دیا جاتا ہو، ہاتھ میں لے کر ہوگا۔

## سلک حنبلی:

حنابلہ کے یہاں بھی قبضہ کی نوعیت تقریباً شائع کی طرح ہے، چنانچہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

ان کان المبيع دراهم او دنانير فقبضها باليد وإن کان ثياباً فقبضها نقلها فإن کان حيواناً فقبضه تمثيله من مكانه وإن کان مما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه ... ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف (المغنى: ۹۰/۳)۔

اگر مبیع دراہم، یادنامیں تو اس میں قبضہ با تھی میں لے کر ہے، اگر مبیع کپڑا ہو تو اس میں قبضہ اس کو منتقل کرنا ہے، اگر حیوان ہو تو اس کا قبضہ اس کو اپنی جگہ سے چلا دینا ہے اور اگر اشیاء غیر منقولہ میں سے ہو تو اس میں قبضہ مشتری اور اس شی کے درمیان تخلیہ ہے جو بلا واسطہ ہو..... اس لئے کہ قبضہ شریعت میں مطلق ہے تو اس سلسلہ میں عرف کی طرف لوٹنا واجب ہے۔

تینوں مالک میں حنابلہ کا سلک کچھ زیادہ ہی وسیع ہے، چونکہ ان کے یہاں قبضہ کی حقیقت عرف پر مبنی ہے۔

### قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کے سلسلہ میں احادیث:

۱۔ گن اشیاء کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ناجائز ہے اور کس کی جائز ہے، اس سلسلہ میں ائمہ اربعہ کی رائیں مختلف ہیں، پہلے اس سلسلہ کی احادیث نقل کرنے کے بعد فتحہ، کرام کے طریقہ استدلال کو پیش کرتے ہیں۔

۱. سمعت ابن عباس<sup>رض</sup> يقول أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس<sup>رض</sup> ولا أحسب كل شيء إلا مثلكه (بخاری شریف: ۲۸۶، مسلم شریف: ۵۲)۔

ابن عباس<sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اشیاء مطعمہ کو قبضہ کرنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا، ابن عباس<sup>رض</sup> فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو طعام ہی کے مثل سمجھتا ہوں۔

۲. من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفي (بخاری شریف: ۲۸۶، مسلم شریف: ۵۲، ابو داؤد: ۱۲۵/۲)۔

جو شی مطعمہ کو خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے۔

لفظ طعام کے ساتھ بہت سی احادیث مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہیں، جن میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت ہے، طوالت سے بچتے ہوئے اسے ترک کیا جاتا ہے۔

۳. إن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها مما يحرم قال: إذا اشتربت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه (نصب الرأي: ۳۲/۳، بحوالہ سنن کبری للنسائی و منhadم)۔

حکیم بن حزام نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں مختلف النوع اشیاء کی خرید و فروخت کرتا ہوں تو خرید

فروخت کا کون سا معاملہ میرے لئے حلال ہے اور کون حرام ہے، تو فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو خرید و تو اسے قبضہ کرنے سے پہلے مت ہے۔

اس قسم کی بھی کئی احادیث ہیں، جن میں طعام کی قید نہیں اور حدیث مطلق ہے، تو بعض ائمہ کرام نے حدیث کے عموم کو باقی رکھتے ہوئے تمام اشیاء میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا اور بعض ائمہ نے ممانعت کو مطعومات کے ساتھ مختص کر دیا، اس لئے اب ہم اس سلسلہ میں فقهاء کے مسلک و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔

### مسلسل حقیقی:

احناف کے یہاں اس سلسلہ میں احادیث معلوم بالعملہ ہیں، اور علت نبی غرائب الساخ عقد ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ بیع بالغ کے پاس رہتے ہوئے بلاک ہو جائے تو مشتری کا دوسرا سے یہ معاملہ (عقد کا) كالعدم ہو جائے گا، جو باعث غرر ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے غرر کی بیع سے منع فرمایا ہے (مسلم شریف: ۲۲) گویا حدیث میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی ممانعت مذکورہ غرر کی وجہ سے ہے، چونکہ اشیاء غیر منقولہ میں اس غرر کا اندر نہیں ہے، اس لئے احناف کے یہاں اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی اجازت ہے اور منقولہ میں ممانعت، چنانچہ صاحب بدایہ فرماتے ہیں:

من اشتري شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه لأنه عليه السلام "نهى عن بيع الغرر ما لم يقبض" ولأن فيه غرر إفساخ العقد على اعتبار الها لاك فيجوز بيع العقار قبل القبض عنه أبي حنيفة وأبي يوسف (بدایہ ۵۸/۳)۔

اگر کسی نے غیر منقول شی کو خریدا تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ نبی نے غیر مقبول شی کی بیع سے منع فرمایا ہے، اور اس میں ہلاکت کے ممکن ہونے کی وجہ سے عقد کے فتح ہونے کا غرر ہے، تو زمین کی بیع شخصین کے نزدیک قبضہ سے پہلے جائز ہوگی۔

نیز علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض بالإجماع وفي العقار اختلاف (بدائع الصنائع ۲۳۲/۵)۔

احناف کا اتفاق ہے کہ بیع منقول میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے، اور زمین میں اختلاف ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے بیع کی اجازت نہیں ہے، نیز بعض اشیاء ایسی ہیں جس میں تخلیہ، جو قبضہ کے حکم میں ہے، کو کافی نہیں سمجھا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کیلی، یا وزنی شی کو کیل، یا وزن کر کے خریدا گیا تو مشتری کو دوبارہ کیل و وزن کے بغیر بچنے کی گنجائش نہیں ہے، اگر چہ تخلیہ کے ذریعہ قبضہ ہو گیا ہو (دیکھئے: بدائع الصنائع ۲۳۲/۵) چونکہ حدیث شریف میں دوبارہ کیل و وزن کے بغیر بیع کے عدم جواز کی صراحت ہے۔

نبی رسول اللہ ﷺ عن بيع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان صاع البائع و صاع

المشتري (مجمع الزوائد ۹۹/۲)۔

نهی رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يكال (مجمع الزوائد ۹۸)۔  
بعض مشائخ نے اس صورت کو غیر مقبول امر یعنی تعبدی قرار دیا ہے اور بعض مشائخ نے تخلیہ کو صرف اس مسئلہ میں قبضہ ناقص قرار دیا ہے اور دوبارہ کیل دوزن کو قبضہ تام۔

اب رہی یہ بات کہ میمع مشتری کے خان میں کب آتی ہے، اگر مطاقت قبضہ کے بعد آتی ہے تو عقار کی بیع بھی قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہوئی چاہئے، اس لئے کہ ”ربيع المضمون“ میں داخل ہو کر منوع قرار پائے گی، تو اس سلسلہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ اشیاء منتقلہ میں سے ہے تو قبضہ سے پہلے وہ مشتری کے خان میں نہیں آئے گی، یہی وجہ ہے کہ قبضہ سے پہلے میمع بلاک ہو جائے تو عقد فتح ہو جاتا ہے اور مشتری اپنا شمن واپس لے گا اور اگر شمن ادا نہیں کیا تھا تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا ہے (رد المحتار ۲۵۶۰) اور اشیاء غیر منتقلہ میں قبضہ سے پہلے ہی وہ شی مشتری کے خان میں آجائی ہے، چونکہ میمع کا بلاک ہونا تقریباً حلال کے درجہ میں ہوتا ہے تو کسی قسم کا غرر ہونے کی وجہ سے قبضہ سے پہلے تمامیت عقد کے بعد اس کا مضمون ہونا سمجھا گیا۔

### مسک شوافع مع دلائل:

شوافع کے یہاں کسی بھی شی کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، چاہے منتقلہ ہو یا غیر منتقلہ، چونکہ ممانعت والی حدیث عام ہے اور اس کی علت حنفی کی طرح غرر انفصال عقد ہے، چنانچہ علامہ نووی فرماتے ہیں:  
جس چیز پر ملکیت مستقر نہ ہوئی ہو اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس کی دلیل حکیم بن حزام کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں مختلف اشیاء کی بیع کرتا ہوں، تو ان میں سے کون کی بیع میرے لئے حلال ہے اور کون حرام ہے، تو فرمایا کہ غیر مقوی شی کی بیع جائز نہیں ہے، اور اس لئے کہ اس کی ملکیت اس پر مستقر نہیں ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ میمع بلاک ہو جائے اور عقد فتح ہو جائے اور یہ غرر ہے جو بغیر حاجت کے پیش آئی، لہذا جائز نہیں ہے۔ رہے ادکام تو ہمارا نہ ہب یہ ہے کہ میمع کی بیع قبضہ سے پہلے جائز نہیں، ہے چاہے غیر منتقلہ ہو، یا منتقل۔ (شرح مہذب ۲۶۲۹)۔

### مسک حنابلہ مع دلائل:

حنابلہ کے نزدیک مطعومات کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، جب کہ وہ مملکی، موزوںی، یا معدودی ہو، اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی گنجائش ہے، چونکہ حدیث شریف مطعومات کے ساتھ خاص ہے، رہا مملکی، موزوںی اور معدودی کے ساتھ خاص کرنا تو چونکہ ان کے نزدیک یہ تین چیزیں مشتری کے خان میں نہیں آتی ہیں، جب تک کہ قبضہ نہ کر لیا جائے اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء قبضہ سے پہلے مشتری کے خان میں آجائی ہیں، نیز ان کے یہاں حدیث معلوم بالعلة ہے اور وہ حنفیہ کی طرح غرر ہے (الفقہ الاسلامی وادلة ۱۱۰، المغني ۲/۲۵۷)۔

## ملک مالکیہ:

قبضہ سے پہلے خرید و فروخت مطعومات میں ناجائز ہے، اس کے علاوہ میں جائز ہے، چونکہ حدیث شریف مطعومات کے ساتھ خاص ہے، نیز مطعومات میں بھی عدم جواز اس وقت ہے جب کہ کیل، یا وزن کر کے خریدا گیا ہو، اگر جزا فخریدی ہوئی ہو تو قبضہ سے پہلے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، چونکہ جزا فا کی صورت میں بیع مشتری کے خمان میں قبضہ سے پہلے ہی آجاتی ہے اور اگر خرید کیل و وزن کے ذریعہ ہوئی ہو تو بغیر قبضہ کئے ہوئے بیع خمان میں نہیں آتی ہے، لہذا قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کی صورت میں "رَحْمَةُ الْمَالِ يَضْمُنُ" لازم آئے گا، جس سے آپ نے منع فرمایا ہے، طعام کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ معاملہ ربانیہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے اس لئے سدالله رائع اسے ناجائز قرار دیا گیا (الفقہ الاسلامی و ادلة: ۲۷۳/۳)۔

### نیز الشر الدانی میں ہے:

غسل، چاہے ربوی ہو، یا غیر ربوی، کو خریدنے کے بعد اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور قبل القبض طعام کی بیع کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ مشتری نے وزن، یا کیل، یا شمار کر کے خریدا ہو، برخلاف جزا ف (کسی چیز کو کیل، یا وزن، یا شمار کئے بغیر فروخت کرنا) کے، چونکہ اس کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت مشہور قول کے مطابق جائز ہے، اس لئے کہ وہ اس کا مالک عقد کرنے ہی سے ہو گیا، اسی وجہ سے اگر بیع قبضہ سے پہلے تلف ہو جائے تو اس کا خمان مشتری کی جانب سے ہو گا۔ (الشر الدانی ر ۲۱۹)۔

### قبضہ سے پہلے خرید و فروخت کا حکم:

شافعی کے نزدیک مظلقا، احناف کے نزدیک اشیاء م McConnell، مالکیہ کے نزدیک مطعومات، جب کہ خرید کیل، یا وزن کر کے ہو، اور حنابلہ کے نزدیک مطعومات اگر معدودی، مکملی، یا موزونی ہو، کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت جائز نہیں ہے اور اس کا شمار احناف کے یہاں بیع فاسد میں ہو گا، اور انہوں مثلا شکے نزدیک بیع باطل میں۔

علام عبد الرحمن جزیری فرماتے ہیں:

**الحنفية قالوا: من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقوله قبل قبضها ، سواء باعها لمن**

**اشتراها منه أو لغيره (الفقہ علی المذاہب الاربعه: ۲۱۱/۳)۔**

حنفیہ کے نزدیک بیع فاسد ہی میں سے اعیان منقولہ کی قبضہ سے پہلے خرید و فروخت ہے، چاہے اس کو اس شخص کے ہاتھ فروخت کرے جس سے خریدا ہے، یا اس کے علاوہ کے ساتھ اور ذاکر وہبہ الز حلی فرماتے ہیں:

**وعند غير الحنفية: البيع إما صحيح أو باطل وغير الصحيح لا يفيد الملك أصلاً**

**(الفقہ الاسلامی و ادلة: ۲۵۲/۲)۔**

حنفیہ کے علاوہ کے نزدیک بیع، یا تو صحیح ہے، یا باطل ہے اور غیر صحیح ملک کا بالکل یہی فائدہ نہیں دیتا ہے۔

۶۔ بندوں کے علم میں فیکٹری سے بھیجا ہوا مال عموماً تین طریقے سے مشتری کے پاس جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مشتری اپنا آدمی گاڑی کے ساتھ خود بھیجے، یا گاڑی نہ ہو، لیکن سامان خریدنے کے بعد کسی کی گاڑی، خواہ بالع، ہی کی کیوں نہ ہو، اجرت پر لے ایسی صورت میں گاڑی پر سوار سامان مشتری کے قبضہ میں سمجھا جائے گا تو نفع وغیرہ سے تصرف کرنا درست ہوگا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مشتری کے آزاد رہیے کے بعد بالع ہی کی ذمہ داری ہے کہ سامان اپنی گاڑی سے مشتری تک پہنچائے، تو گاڑی پر سوار سامان بالع کے ہمان میں سمجھا جائے، اگرچہ مشتری اپنے آپ کو سامن سمجھتا ہو، لہذا اخنثیہ کے مذہب کے مطابق مشتری دوسرے کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتا (ردا الحکار مع الدر المختار: ۵۹۳/۳)، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فیکٹری والا سامان بک کر دے، جس میں بالع سامن نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکومت ہی اپنے ہمان میں لے لیتی ہے، اس صورت میں حکومت بالع کی دکیل ہوتی ہے، وکیل تو اس لئے ہے کہ وہ سامان کو مشتری تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتی ہے، اور بالع کی دکیل اس لئے ہے کہ اگر درمیان سفر میں کسی حکم کی گز بڑی پیدا ہو جائے، مثلاً بلاک ہو جائے تو بالع ہی کا حق ہوتا ہے کہ مقدمہ وائز کے حکومت سے ہمان لے، مشتری کو کوئی مطلب نہیں رہتا، رہایہ اشکال کر دکیل کے پاس سامان بطور امانت رہتا ہے، تو اس سے ہمان نہیں لینا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اس امانت کی حفاظت پر اجرت لیتی ہے اور جب مودع حفاظت پر اجرت لے تو بلاک ہونے پر سامن ہوتا ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین شافعی فرماتے ہیں:

واما من جرى العرف يأله يأخذ في مقابلة حفظه أجره يضمن لأنه وديع بأجرة لكن  
الفتوى على عدمه (ردا الحکار مع الدر ۵۹۳/۵).

بہر حال اس عرف کا جاری ہونا کہ سامان کی حفاظت کے مقابلہ میں مودع اجرت لے تو وہ سامن ہوگا، اس لئے کہ یہ دلیعت بالاجرة ہے، لیکن فتویٰ عدم ہمان پر ہے۔

اگرچہ فتویٰ عدم ہمان پر ہے، تاہم ایک قول یہ بھی ہے کہ مودع کو سامن پھرایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ حکومت بذات خود اپنے آپ کو سامن سمجھتی ہے تو اس کا سامن بنا درست ہوگا۔

اس صورت میں بھی مشتری سامن نہیں ہو سکتا، اگرچہ اپنے آپ کو سامن سمجھے، لہذا قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی تفصیلات احتاف کے مسئلک کے موافق کی گئیں۔

اگر مسئول صورت اس "ضرورت" کے تحت داخل ہوگئی ہو جو اتفاقاً علی مذہب الغیر کو جائز قرار دے تو مالکیہ کے مسئلک پر جواز کی گنجائش ہے، چونکہ ان کے بھاں اگر ملک غائب ہو تو ایک قول کے مطابق بالع سامن ہوتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق مشتری سامن ہوتا ہے، اور اگر بالع سامن کی مشتری پر شرط لگادے تو بہر صورت مشتری ہی سامن ہوگا، چنانچہ محمد بن رشد قرطیس مالکی فرماتے ہیں:

قال أبو حبيبة والشافعى : لا يضمن المشترى إلا بعد القضى ..... أما المبيع الغائب ، فمن  
مالك فى ذلك ثلاث روایات أن الصمام من المائع إلا أن يشترطه على المبتاع والثانية : أنه من المبتاع

إلا أن يشرطه على البائع (بداية الجعفرية ۱۸۵/۲)

امام ابوحنین اور امام شافعی نے فرمایا کہ مشتری قبضہ کرنے کے بعد ہی ضامن ہوتا ہے..... رہی بات  
میں غائب کی تو امام مالک سے اس کے متعلق تین روایات ہیں، پہلی روایت یہ ہے کہ ضمان بالغ کی جانب سے ہوگا،  
سوائے اس کے کہ مشتری پر ضمان کی شرط لگادے، دوسرا قول یہ ہے کہ ضمان مشتری کی جانب سے ہوگا، مگر یہ کہ بالغ پر  
ضمان کی شرط لگادے۔

جب میں مشتری کے ضمان میں آجائے تو قبل القبض بیع کی گنجائش ہے، خواہ وہ طعام ہی کے قبیل سے کیوں

نہ ہو۔


بخلاف الجراف وهو بيع الشى بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز  
على المشهور لأنه قد ملكه بالعقد ولذا لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشترى (الثغر الدانى  
(۳۱۹)۔

برخلاف جراف کے (اور وہ کیل، وزن اور عدو کے بغیر کسی چیز کو فروخت کرتا ہے) کہ اس کی قبضہ سے  
پہلے خرید و فروخت مشہور قول کے مطابق جائز ہے، اس لئے کہ وہ عقد کرنے سے اس کا مالک ہو گیا، اسی وجہ سے اگر میں  
قبضہ کرنے سے پہلے تلف ہو جائے تو اس کا ضمان مشتری کی جانب سے ہوتا ہے۔

ان عبارات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشتری اول کا ضامن بننا صحیح ہے اور ضامن بننے کی وجہ سے  
قبل القبض بیع کی گنجائش ہے (اگرچہ ضامن بننے کو قبضہ نہیں سمجھا جائے گا)۔

۔۔۔ خلق مسلم کے اعتبار سے مذکورہ صورت کی بیع کا عدم جواز ظاہر ہے، خواہ مشتری اول ضامن ہی کیوں نہ  
بن جائے، مالکی مسلم کے اعتبار سے اس کی تفصیل کی جاسکتی ہے کہ اگر مشتری اول سرے سے ضامن ہی نہ ہوا ہو یعنی  
میں بالغ کے ضمان سے نکلنے کے بعد مشتری اول مشتری ثالثی کو ضامن نہ رائے تو یہ صورت "ربح مالم يضمن" کے تحت  
داخل ہو کرنا جائز ہوگی، شاید کہ سوال کا مشاء یہی صورت ہے، اور اگر میں بالغ کے ضمان سے نکلنے کے بعد مشتری اول کے  
ضمان میں آجائے، لیکن میں ابھی راستے ہی میں تھی کہ کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو مسلم مالکی کے موافق درست  
ہے، جیسا کہ تفصیل سے چھٹے سوال کے جواب میں گذرتا ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب



## تجاویز بابت جدید تجارتی شکلیں

دور حاضر میں خرید و فروخت کی بہت سی ایسی صورتیں مروج ہیں جن میں فروخت شدہ شی پر قبضہ کے بغیر خریدار دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ رسول ﷺ نے بعث قبل القبض سے منع فرمایا ہے، اسی پس منظر میں ایسے مردجہ معاملات کی بابت اسلامک فقہاء کیڈمی کے نویں سمینار منعقدہ جامعۃ الہدایہ جس پور میں درج ذیل باتیں طے پائیں:

۱- اصولی طور پر قبضہ سے پہلے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تاہم اگر قبضہ سے پہلے بيع کردی جائے تو یہ بيع فاسد ہو گی نہ کہ باطل، اور قبضہ کے بعد مفید ملک ہو گی۔

۲- کتاب و سنت میں قبضہ کی حقیقت اور اس کی کوئی خاص صورت مقرر نہیں کی گئی ہے، گویا شریعت نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے عرف کو اصل قرار دیا ہے، لہذا ہر عہد کے مردجہ طریقوں اور اشیاء کی مختلف انواع کے اعتبار سے قبضہ کی نوعیت متعین ہو گی۔

۳- فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ اصل میں بیع پر خریدار کے ایسے استیلاء کا نام ہے کہ بیع پر اس کے تصرف میں کوئی مانع باقی نہ رہے، اسی کو فقہ کی کتابوں میں "تخیلہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔

۴- بعث قبل القبض کی ممانعت "غرا نفخ" کی علت پرمنی ہے، یعنی جب تک بیع خریدار اول کے ہاتھ نہ آجائے اس بات کا اندریشہ موجود ہے کہ بیع اس کے قبضہ میں آہی نہ پانے، اور وہ خریدار دوم کو بیع کی حوالگی پر قادر نہ رہے۔

۵- بعث قبل القبض کی ممانعت کا تعلق اموال منقولہ سے ہے، اموال غیر منقولہ میں بعث قبل القبض جائز ہے، بشرطیکہ خریدار کے لئے اتفاقی سے کوئی قومی مانع نہ پایا جاتا ہو۔

۶- اگر ایک شخص کسی بائع (فیکشری وغیرہ) سے مال خرید کر کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اور ابھی خریدا ہوا مال فیکشری نے رواثت بھی نہ کیا ہو تو یہ صورت بعث قبل القبض میں داخل ہے اور جائز نہیں ہے۔

۷- اگر ایک شخص کسی فیکشری وغیرہ سے خرید کر اس کو کسی خاص ذریعہ (جہاز، ٹرانسپورٹ، پرمٹ وغیرہ) سے سامان کی ترسیل کا آڑ دے اور مطلوب سامان فیکشری سے رواثت بھی کر دیا جائے اور نقصان کی صورت میں خریدار اس کا ضامن ہوتا ہو، نیز ترسیل کی اجرت خریدار کے ذمہ ہے، تو جس ذریعہ سے مال رواثت کیا جائے اس کا قبضہ خریدار کی طرف سے وکالتہ قبضہ متصور ہو گا، لہذا اس صورت میں مال ہو چکنے سے پہلے خریدار کو فروخت کرنا جائز ہے، اور یہ بعث قبل القبض میں داخل نہیں، البتہ جس شخص نے اس خریدار سے مال خریدا ہے اس خریدار دوم کے لئے مال ہو چکنے سے پہلے دوبارہ بیع جائز نہیں اور اگر بیع کرے تو یہ بعث قبل القبض کے زمرة میں داخل ہو گی۔